

عظمتِ باری تعالیٰ کے حوالے سے عظیم علمی شاہکار

شانِ خدا بزرگِ مصطفیٰ

صلی اللہ
علیہ وسلم



تصنیف لطیف

احافظ القاری مولانا غلام حسن قادری

منشی دارالعلوم حزب الخائف، لاہور

اکبر پبلشرز لاہور

عظمت باری تعالیٰ
کے حوالے سے عظیم علمی شاہ کار

شانِ خدا مصطفیٰ زبانِ می

جلد دوم

تصنیف لطیف

احافظ القاری مولانا غلام حسن قادری

مفتی دارالعلوم حزرک جناب
شیخ الحدیث جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن، لاہور

ناشر
اکبر پبلشرز

زبیدی سنٹر ۴۰ اردو بازار لاہور Ph: 37352022

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله
وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

.....	نام کتاب	شانِ خدا (جل و علا) بزبانِ مصطفیٰ (ﷺ) جلد دوم
.....	مؤلف	الحافظ القاری مفتی غلام حسن قادری مفتی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور
.....	پروف ریڈنگ	پیر طریقت الحاج قاری محمد اصغر نورانی
.....	صفحات	712
.....	تعداد	1100
.....	بفرمائش	بنت لیاقت نور فاطمہ عطاری 'بنت حسن ثار فاطمہ
.....	خصوصی دعا	پیر سید انوار الحسن کاشف گیلانی (وژ چھ شریف خوشاب)
.....	کیوزنگ	عبدالسلام قمر الزمان
.....	اشاعت	اکتوبر 2012ء
.....	ناشر	محمد اکبر قادری
.....	قیمت	800 روپے (جلد دوم)

ناشر
محمد اکبر قادری
لاہور

فہرست (جلد دوم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۵	ذکر کا معنی کیا ہے؟	۱۵	باب نمبر ۴
۳۶	موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہِ خداوندی میں عرض		ذکرِ خدا (جلاد علا) بزبانِ مصطفیٰ (علیہ السلام و اہل بیتہ)
۳۷	دس لاکھ نیکیاں، دس لاکھ گناہ معاف دس لاکھ درجے بلند	۱۵	شبِ معراج مسجدِ اقصیٰ میں انبیاء کرام حمد الہی بجالاتے ہیں
۳۸	کاغذ کا ایک پرزہ ننانوے رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گا	۱۶	کون آقا: شبِ اسرئی کے دو لہا یہ دائم درود
۴۰	فضائلِ ذکر الہی اور فرمانِ نبوی	۱۸	نوشتہ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام
۴۲	میرے بندے نے سچ کہا	۱۹	آدم بر سر حمد باری تعالیٰ عزاسمہ
۴۳	فرشتوں کو مجالسِ ذکر کی تلاش	۲۲	حمد بے حد مر خدائے پاک را
۴۴	یاد اور مایہ ایماں بود	۲۳	اصل تعریف اللہ ہی کی ہے
۴۵	حمد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود جزا دے گا	۲۴	آیت کا نزول ہوا اور تین سو ساٹھ بت گر گئے
۴۵	شیطانی حملوں سے کیسے بچا جائے؟	۲۵	کلمہ توحید پر ایک حدیث بے مثلِ سند کے ساتھ
۴۷	کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے کی فضیلت	۲۶	کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پاس رب کا عہد ہے
۴۸	ذاکرین کے فضائل	۲۷	ایک نیکی کے ملیں ڈھیروں ثواب
۴۹	دل کی صفائی ذکر اللہ سے	۲۸	یہ الفاظ پڑھنے والوں پہ قبر و حشر میں وحشت نہ ہوگی
۵۰	ذاکر کو معیت باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے	۲۹	لا الہ الا اللہ کی برکت
۵۱	تحمید و تسبیح میزان کو بھر دیتے ہیں	۳۰	چابی کے دندانوں کا ہونا بھی ضروری ہے
۵۳	کم خرچ بالائشیں	۳۰	جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ آئے گا
۵۵	بیٹھتے اُٹھتے ذکر خدا میں مشغول رہو	۳۱	اگر چہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو
۵۶	گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں پہ مہر	۳۲	قبر و حشر کی وحشت کا علاج
۵۷	کلام الامام امام الکلام	۳۲	دروازہ بند کر کے عطا کیا جانے والا وظیفہ
۵۹	تسبیح و تہلیل و تحمید و تکبیر	۳۳	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۶۰	جو یہ کلمات کہے اسے آگ نہ جلانے گی	۳۴	قلب کی اقسام
۶۱	مجالسِ ذکر کی فضیلت	۳۴	قلب قاس
۶۲	قوت و طاقت کا خزانہ	۳۴	قلب ناس
۶۳	مجلسِ ذکر پر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات	۳۴	قلب مشتاق
۶۴	ذکر کر نیوالوں پر رحمت کے فرشتوں کا ہجوم	۳۵	قلب وجدانی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۴	ذکر سے تمام خطرے دور ہو جاتے ہیں	۶۵	یاد او کن یاد او کن یاد او
۹۵	ذکر کرنے والے مقابلہ جیت گئے	۶۷	کثرت سے ذکر کرنے والے
۹۶	اھتر وا کی لفظی تحقیق	۶۸	ذکر سے محروم لوگ
۹۷	ذکر انسان اور دوزخ کے درمیان دیوار بن جائے گا	۶۹	حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام
۹۷	ذکر پر دشت و جبل کا فخر و مباہات	۷۰	غازی و مجاہد سے بھی افضل کون؟
۹۸	ذکر الہی کی لذت تمام لذات سے بہتر ہے	۷۳	ذکر خدا کے فوائد کثیرہ
۹۹	ذکر الہی کے شغل سے زبان فضول کلامی سے بند ہو جاتی ہے	۷۴	ذکر الہی سے انابت حاصل ہوتی ہے
۱۰۰	ذکر کے بے شمار فوائد پہ مشتمل حدیث	۷۵	ذکر کے کلمات خود ذکر کا ذکر کرنے لگتے ہیں
۱۰۱	ذکر اللہ کی حفاظت میں ہے	۷۶	ذکر تمام بیہودگیوں سے بچا لیتا ہے
۱۰۳	شیطان پہ قابو کیسے پایا جائے؟	۷۷	ذکر خدا تمام عبادات سے افضل بھی ہے اور آسان بھی
۱۰۴	ہر چیز سے حفاظت کا ذکر	۷۸	ذکر الہی سے ہمیشہ خدا یاد رہتا ہے
۱۰۵	ذکر الہی کی وجہ سے شیطان بے بس ہو جاتا ہے	۸۰	بیدار مغز سویا ہو اذاکر غافل تہجد گزار سے بہتر ہے
۱۰۶	ان کلمات سے شیطان چیخ اٹھا		ذکر الہی سے قلب میں حیات اور آخرت کی تمام منازل میں
۱۰۷	ذکر کی اقسام اور ان کے احکام	۸۱	روشنی ملتی ہے
۱۰۸	خدا بندے سے خود پوچھے.....	۸۲	نور خدا کی جلوہ گری
۱۰۹	ذکر الہی قیام عالم کا سبب ہے	۸۲	ذکر خدا سے فاقہ قلبی کا انسداد ہوتا ہے
۱۱۰	ذکر دعا سے بھی افضل ہے لہذا.....	۸۳	ذکر الہی کی چار خوبیاں
۱۱۱	حضور علیہ السلام اپنی دعا کا آغاز ذکر سے ہوتا	۸۴	ذکر خدا سے دل بیدار رہتا ہے
۱۱۲	ذکر قبولیت دعا کا باعث ہے	۸۴	ذکر سے قرب و معیت خداوندی نصیب ہوتی ہے
	دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں بھی حمد و ثنا سے شروع	۸۵	ایک ضروری وضاحت
۱۱۳	ہوتی ہیں	۸۶	ذکر خدا صدقہ و جہاد سے بھی افضل ہے
۱۱۴	ذکر الہی دعا سے اور تلاوت قرآن ذکر سے افضل ہے	۸۷	جو ذکر کو بھول گیا وہ خدا کے شکر کو بھول گیا
۱۱۵	حفظ مراتب کا خیال ضروری ہے	۸۷	ذکر تمام متقیوں سے معزز ہے
۱۱۵	تسبیح زیادہ مفید ہے یا استغفار؟	۸۷	ذکر سے قسوت قلبی کا علاج
۱۱۶	جماع و قضائے حاجت کے وقت ذکر کرنا	۸۸	ذکر الہی نبی الہی کی اصل ہے
۱۱۸	احادیث مبارکہ	۸۹	ذکر خدا اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دعاؤں کا موجب ہے
۱۱۹	نماز کی انتظار میں بیٹھنے والے	۹۰	تمام احکام اقامت ذکر کے لئے مشروع ہوئے
۱۲۰	(مولانا حسن رضا خان بریلوی)	۹۲	کثرت ذکر افضل الاعمال ہے
۱۲۰	اے فرشتو! دیکھو میرے بندوں کی طرف	۹۳	ذکر الہی تمام نفل عبادات کا کام بھی دیتا ہے
۱۲۱	سونا چاندی صدقہ کرنے سے ذکر خدا افضل ہے	۹۴	ذکر خدا اطاعت الہی کا سب سے بڑا معاون ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۵۰	بنام شاہد نازک خیالاں	۱۲۲	اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کا جلیس ہوتا ہے
۱۵۲	خدا ہے کہ نہیں ہے؟	۱۲۳	ذکر کرنے والوں کی دعا کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں
۱۵۳	پانی کی نعمت	۱۲۴	ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہو سکتا
۱۵۴	پانی کی اہمیت اور مصنوعی بارش	۱۲۵	ذاکرین کو قیامت کے دن رحمن کی دائیں جانب جگہ ملے گی
۱۵۵	روشنی کی نعمت	۱۲۷	بروز قیامت ذاکرین کے چہرے پر نور ہوں گے
۱۵۵	ہوا کی نعمت	۱۲۷	انبیاء جن پر رشک کریں گے
۱۵۷	تفسیری و سائنسی نکتہ توحید	۱۲۹	نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم
۱۵۸	اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور سائنسی نکتہ	۱۳۰	نور کے منبروں پہ جلوہ گری
۱۶۰	وجود باری تعالیٰ پر استدلال کا سلسلہ	۱۳۱	اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے
۱۶۰	استدلالات عقلیہ	۱۳۳	ذکر الہی علامت ایمان
۱۶۱	امام شافعی علیہ الرحمۃ کا عجیب استدلال	۱۳۳	حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی
۱۶۲	پیداوار کا سلسلہ	۱۳۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو
۱۶۳	تخلیق انسانی اور اسرارِ پنہانی	۱۳۶	اہل ذکر کے گھر جگمگا جاتے ہیں
۱۶۳	مقام غور ہے	۱۳۸	قابل فخر خطہ زمین
۱۶۶	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا حیران کن استدلال	۱۳۹	اللہ کا سب سے بڑا احسان
۱۶۶	شیر مادر سے استدلال	۱۳۹	ذکر کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے
۱۶۸	جو غذا ہم کھاتے ہیں	۱۴۰	ذکر کرنے والا رب کے سایہ رحمت میں ہوگا
۱۶۸	صحت و مرض، حیات و مرگ	۱۴۱	اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل
۱۶۹	جو پانی ہم پیتے ہیں	۱۴۲	فرائض کی حفاظت اور ذکر کی تلقین
۱۷۱	اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا	۱۴۳	اپنے مال سے اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنا
۱۷۲	امام جعفر صادق اور ایک دہریہ	۱۴۳	افضل ایمان کس کا ہے؟
۱۷۲	ایک عقلمند دیہاتی کا استدلال	۱۴۴	ذکر دلوں کی شفاء ہے
۱۷۳	حضرت امام ابوحنیفہ کا ایک مناظرانہ استدلال	۱۴۵	سو غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن.....
۱۷۴	ایک لطیفہ	۱۴۶	اے فرشتو! اس کو دوزخ سے نکال لو
۱۷۴	ایک حاضر جواب بڑھیا کا استدلال	۱۴۷	ذکر خدا، شیطان سے بچا لیتا ہے
۱۷۵	بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں نجات کون دیتا ہے؟	۱۴۸	شیطان کا رزق
۱۷۶	انسان کا وجود گواہی دے رہا ہے	۱۴۹	قبر میں نور کے جلوے
۱۷۷	دو متضاد چیزیں		ہمارے آقا علیہ السلام کی دعائیں، التجائیں، یادیں اور
۱۷۷	کشتیوں اور جہازوں سے استدلال	۱۴۹	قریادیں
۱۷۸	آسمانی بادلوں سے استدلال	۱۵۰	وضاحت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۳	تفسیر روح المعانی کا حوالہ	۱۷۹	حاصل کلام اور خلاصہ بیان
۲۰۴	بزرگانِ دین اور ذکر بالجہر	۱۸۰	وجودِ باری تعالیٰ پہ دلائل کا تجزیہ
۲۰۵	مخالفین اور ذکر بالجہر (بعد الصلوٰۃ)	۱۸۱	ذاتِ مصطفیٰ دلیلِ وجودِ باری تعالیٰ
۲۰۶	”حکیم الامت اور مجدد الملت“ کا فتویٰ		سائنس نے انسان کو کہاں پہنچایا اور خدا نے اسے کیا سے کیا بنایا
۲۰۸	گنگوہی صاحب کا فتویٰ	۱۸۲	لفظ اللہ میں توحید کا جلوہ
۲۰۹	مفتی محمد شفیع دیوبندی کا فتویٰ	۱۸۳	معمولی جانور اور چیونٹی سے ہاتھی تک کی مثال
۲۱۰	تبلیغی نصاب و صراطِ مستقیم	۱۸۳	ذکر الہی پر ایک تقریر
۲۱۱	علی سبیل التزلزل	۱۸۴	ذکر بالجہر کا جواز و استحباب
۲۱۲	مانعین کے لیے وعید شدید	۱۸۵	ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو
۲۱۳	ذکر بالجہر کے فوائد	۱۸۶	ذکر سے روکنا
۲۱۵	کلمہ طیبہ کے فضائل	۱۸۸	ذکر بالجہر کی فضیلت
۲۱۶	جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا	۱۸۹	ہر عضو کا جدا گانہ ذکر
۲۱۷	چابی کے دندانے	۱۸۹	ہر کوئی ہر حال میں ذکر الہی بجالاتا ہے
۲۱۸	اعترافِ حقیقت	۱۹۰	تم جس حال میں اسے یاد کرو گے اللہ اسی کے مطابق تمہیں یاد کرے گا
۲۱۹	تصویر کا دوسرا رخ (ایک جائزہ)		
۲۲۰	خدائی شان کے رنگ اور جلوے	۱۹۱	ذکر نہ کرنے کا نقصان
۲۲۱	نمازوں کے بعد کے اذکار	۱۹۱	جانور بھی ذکر الہی بجالاتے ہیں
۲۲۳	دعا و استغفار	۱۹۲	ایک حدیث سے چھ نکات
۲۲۴	دعاے نور	۱۹۳	ایک حدیث اور چار نکات
۲۲۴	حضور علیہ السلام کی دعا سے میں نے نور دیکھ لیا	۱۹۳	دور و نزدیک سے حلقہ ہائے ذکر میں آنا
۲۲۵	دعا میں تین مرتبہ یا رب کہا جائے	۱۹۶	اہل ذکر پہ حضور علیہ السلام کی نواشات
۲۲۷	اے فلاں فلاں کے معبود میری دعا قبول فرما	۱۹۶	حدیث سے ذکر بالجہر پہ خوبصورت استدلال
۲۲۸	ستر فرشتوں کا بندے کی دعا کے ساتھ آمین کہنا	۱۹۷	ذکر الہی کرنے سے پہاڑ آسمان اور زمین بھی خوش ہوتے ہیں
۲۲۹	سارے انسانوں کے قلوب کا حال	۱۹۸	ذکر بالجہر پہ مزید حوالہ جات
۲۳۰	استقامت، ہدایت اور عزیمت کا سوال	۱۹۹	عبارات فقہاء اور ذکر بالجہر
۲۳۲	ابن خطاب کو صحیح بات کہنے کی توفیق ملی	۲۰۰	صاحب فتاویٰ شامی کے استاد اور ذکر بالجہر
۲۳۳	ہم بھی تقریباً اس طرح کی دعا کرتے ہیں	۲۰۰	فتاویٰ بزازیہ اور ذکر بالجہر
۲۳۴	مولائے کائنات فرماتے ہیں	۲۰۱	مفسرین کرام اور ذکر بالجہر
۲۳۴	حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا	۲۰۱	تفسیر صاوی کا حوالہ
۲۳۵	ہلکی پھلکی نماز اور اس میں طویل دعا	۲۰۲	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۶۹	پانچ چیزوں سے خدا کی پناہ	۲۳۷	مغفرت و وسعت رزق اور علم نافع کی مقبول دعائیں
۲۷۰	دل پہ پردے سے کیا مراد ہے؟	۲۳۸	تعلیم اُمت کے لئے دعائیں
۲۷۰	میرے آقا و عالم کی خبر رکھتے ہیں	۲۳۹	اے اللہ اپنی ملاقات کا دن بہترین کر دے
۲۷۳	اگر تم گناہ نہ کرو.....	۲۴۰	ہر نیکی کے اجر اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال
۲۷۴	برے کاموں اور بری خواہشوں سے اللہ کی پناہ	۲۴۱	جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو
۲۷۶	بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے؟	۲۴۲	فرض نماز کے بعد اور دیگر اوقات میں کیے جانے والے اذکار
۲۷۶	چاند کے شرکفر اور قرض سے اللہ کی پناہ	۲۴۳	مال خرچ کرنے سے بڑھ کر ثواب
۲۷۷	اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے	۲۴۴	تسبیح فاطمہؑ کا ذکر احادیث میں
۲۷۸	اگر میں یہ وظیفہ نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے	۲۴۵	کون ہے جو دن میں پچیس سو گناہ کرتا ہے
۲۷۹	بھریا اس کا جانے جس کا توڑ چڑھے	۲۴۷	اے ام مالک یہ برکت ہے
۲۸۰	ما ایم پر گناہ تو دریائے رحمتی	۲۴۸	اپنی لخت جگر کو خدمت گزار دینے کی بجائے وظیفہ عطا فرما دیا
۲۸۱	جب دلوں پہ سیاہی چھا جاتی ہے	۲۴۹	باب مدیۃ العلم رضی اللہ عنہ
۲۸۲	مجھے اپنی عزت و جلالت اور بلندی درجات کی قسم	۲۵۱	دیگر اذکار و وظائف
۲۸۳	علم نبوت کے بارے میں ایک منطقی نکتہ	۲۵۲	اللہ بہت بڑا ہے
۲۸۵	ہجرت توبہ رحمت	۲۵۳	اے اللہ! غم و حزن دور کر دے
۲۸۷	گناہ گار بخشا گیا، نیکو کار پکڑا گیا	۲۵۴	تمام رسولوں پہ سلامتی ہو علیہم الصلوٰۃ والسلام
۲۸۷	کون ہے وہ جس کی لغزشیں نہ ہوں!	۲۵۵	حضور علیہ السلام کی شفاعت اس کے لئے حلال ہو گئی
۲۸۸	جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے بخش دوں گا	۲۵۶	ایک نہایت ہی اہم نکتہ
۲۸۹	میت کا قبر میں حال	۲۵۷	اجر و ثواب کے طالب اور قرب کے متلاشی
۲۹۰	ایک دن میں سو بار توبہ	۲۵۸	اللہ عزوجل اور موسیٰ علیہ السلام کا سوال و جواب
۲۹۱	خوف حق جن کے رگ و پے میں سما جاتا ہے	۲۵۹	ذکر کے بارے میں اہل ذکر کے اقوال
۲۹۲	اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے	۲۶۹	مردہ دلوں کی زندگی
۲۹۳	اخلاص کا ایمان پہلے گناہ ختم کر دیتا ہے	۲۶۱	اے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا
۲۹۴	برائی کے بعد نیکی کرنے کی مثال	۲۶۲	زباں اور دل کا ذکر
۲۹۶	ہمارے آقا علیہ السلام کی آہ و بکا	۲۶۳	غفلت و معصیت کی بجلی ڈاکر پر نہیں گرتی
۲۹۷	عرش پہ دھومیں مچیں وہ طیب و طاہر ملا	۲۶۵	مجلس ذکر کی برکات
۲۹۸	یہ سب جنتی ہیں	۲۶۶	باب نمبر ۵
۲۹۹	اللہ سبحانہ و تعالیٰ	شانِ خدا (جلد اول) باستغفار المصطفیٰ (علیہ السلام)	
۲۹۹	آثار المستغفرین بالاسحار در بارۃ استغفار	۲۶۷	مجلس کے گناہوں کا کفارہ
۳۰۱	داؤد علیہ السلام کی طرف وحی الہی	۲۶۸	میں دن میں سو بار سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۱	اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے	۳۰۲	وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے
۳۳۲	کون سی دعا افضل ہے؟	۳۰۳	حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمۃ؟
۳۳۳	لا تعداد گناہوں کی مغفرت	۳۰۴	ایک رقت انگیز دعا
۳۳۴	آیت الکرسی کی برکت	۳۰۶	باب نمبر ۶
۳۳۵	جس نے یہ پڑھا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا	عظمت کبریٰ (جلد اول) باورا دالمصطفیٰ (علیہ التحیۃ والسلام)	
۳۳۶	اے اللہ! میرے علم میں اضافہ فرما	۳۰۶	عند الصبح والمساء
۳۳۷	اے اللہ! تیرے لئے ہی میں نے اپنا پہلو رکھا	۳۰۷	جامع کلمات کی پناہ
۳۳۷	اللہ تعالیٰ کے مکمل واکمل کلمات طیبات	۳۰۸	ہدایت، شکر، قلب سلیم اور ثابت قدمی کی دعا
۳۳۳۳۹	جس اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا	۳۰۹	جو شخص دن کا آغاز نیکی سے کرتا ہے
۳۳۹	بے خوابی کا وظیفہ	۳۱۰	ہر خیر کا سوال اور ہر شر سے پناہ
۳۴۰	مصطفیٰ کا سلام آتا ہے۔ ﷺ	۳۱۱	شہادت کی موت اور فرشتوں کا درود
۳۴۱	میں چاہتا ہوں کہ سنت کی پیروی کروں	۳۱۳/۱۱	صحت ایمان اور اخلاق حسنہ کی دعا
۳۴۳	سارے دن کی سلامتی کی دعا	۳۱۴	حدیث کی صحت پہ یقین کامل
۳۴۳۳۳	ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں	مجھے ایسی حدیث سنا میں جو آپ نے بلا واسطہ آقا علیہ السلام سے سنی ہو	
۳۴۴	شیطان اسے کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا	۳۱۳	بوڑھوں اور کمزوروں کے لئے
۳۴۵	یہ زمیں آسمان باقی ہے	۳۱۴	حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت
۳۴۵	شدید غصے کے وقت کیا پڑھا جائے؟	۳۱۶	تمام معاملات میں احسن انجام کی دعا
۳۴۶	کھانے پینے کی دعائیں	۳۱۶	یا اللہ! ہمیں ہدایت والے بنادے
۳۴۷	حمد اس کے لئے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا	۳۱۸	ہم نے اور اللہ کے ملک نے صبح و شام کی
۳۴۸	تیری تعریف ہے اس پر جو تو نے ہمیں عطا فرمایا	۳۱۹	اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں
۳۵۰	تیری شان مولیٰ حمید اغنیا	۳۱۹	زندگی با اصول اچھی ہے
۳۵۱	شیطانی دوسوں کا علاج	۳۲۰	اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
۳۵۲	نماز کے شیطان سے نجات کا وظیفہ	۳۲۱	فطرت (اسلام) پہ موت نصیب ہو
۳۵۳	اللہ اکبر کبیرا	۳۲۲	حضور علیہ السلام یہ کلمات سکھایا کرتے تھے
۳۵۴	ہائے میرے دل کو کیا ہو گیا ہے	۳۲۳	صدیق اکبر رسول اعظم سے سوال کرتے ہیں
۳۵۵	سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود	۳۲۴	پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں
۳۵۶	علماء کا فرمان	۳۲۵	یہ ہے وہ جو حضور ﷺ نے اپنے رب سے مانگا
۳۵۸	سفر اور اس سے متعلقہ دعائیں	۳۲۷	اگر دن رات کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو.....
۳۵۹	برے انجام سے اللہ کی پناہ	۳۲۸	شیطان سے حفاظت کے لئے
۳۵۹	ہر بلندی پہ اللہ کی بڑائی	۳۲۹	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶۱	گھر میں آتے جاتے وقت حضور علیہ السلام کون سے کلمات ادا فرماتے	۳۶۱	جو تیرے نام کی تسبیح کیا کرتے ہیں
۳۹۵	شیطان کا اس پہ بس نہیں چل سکتا	۳۶۲	اعمال و ایمان پر مخلوق کو گواہ بنا لینا چاہیے
۳۹۶	بیت الخلاء میں آتے جاتے وقت کون سے کلمات پڑھے جائیں	۳۶۳	میں نے وہی کیا ہے جو حضور علیہ السلام کو کرتے دیکھا ہے
۳۹۸	نیالباس پہن کر اللہ کی شان بیان کرنا، بزبانِ مصطفیٰ ﷺ	۳۶۶	کسی بستی میں داخل ہونے کی دعا
۴۰۰	پہلے پچھلے گناہ معاف	۳۶۷	ہر شر سے بچاؤ کے لئے
۴۰۲	نیا چاند دیکھنے کی دعا	۳۶۸	اچھے بڑے خواب دیکھنے پر کیا پڑھا جائے
۴۰۴	تعریف اس خدا کی جو ایک مہینے کو لے گیا اور دوسرے کو لے آیا	۳۶۹	اپنے پیارے سے خواب بیان کیا جائے
۴۰۵	نئے مہینے کی خیر و فتح، نصرت و نور کا سوال	۳۶۹	بُرا خواب نقصان نہ پہنچائے
۴۰۶	امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور رضائے رحمن کا سوال	۳۷۰	خواب تین قسم کے ہیں
۴۰۸	اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لئے بابرکت بنا دے	۳۷۲	رنج و غم اور مصائب و آلام میں کیا پڑھا جائے؟
۴۰۸	اللہ تعالیٰ سے ہدایت، عافیت و رزق وغیرہ کا سوال	۳۷۳	اپنے اوپر لازم کر لو
۴۰۹	کلام الہی سے شفا کا حصول	۳۷۳	حضرت یونس علیہ السلام کی دعا
۴۱۱	مٹی اور لعاب سے شفا	۳۷۴	مصیبت کے وقت کی دعا
۴۱۲	درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر دم کرنا	۳۷۵	مشکل حل ہوگی، شہادت کا درجہ نصیب ہوگا
۴۱۲	بابرکت کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو دم کرنا	۳۷۷	اے اللہ! قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے
۴۱۳	جبریل علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کو دم کرنا	۳۷۸	تیرا غم دور ہوگا اور گناہ معاف
۴۱۴	حاسدوں کے حسد سے بچنے کا دم	۳۸۰	اللہ تعالیٰ تیرے دنیا و آخرت کے معاملات کے لئے کافی ہوگا
۴۱۵	عرشِ عظیم کے رب سے شفا کا سوال کرنا	۳۸۱	درد و شریف گناہوں کو اس سے زیادہ مٹاتا ہے جتنا پانی آگ کو بجھاتا ہے
۴۱۶	شفایابی یقینی ہے	۳۸۲	اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو
۴۱۷	التعوذات	۳۸۳	فرشتوں کے وسیلہ سے دعا
۴۱۷	اس کو تعویذ دو	۳۸۵	آزمائش سے بچنے کی دعا
۴۱۸	ایک تعویذ مبارک جو حضور علیہ السلام کو پہنایا گیا	۳۸۶	ادائیگی قرض کے لئے
۴۱۹	آشوب چشم کا دم	۳۸۶	قحط مال، تیز آندھی، آسمانی بجلی اور بارش برسنے کے وقت کے اذکار اور دعائیں
۴۲۰	بچھو پر خدا کی لعنت ہو.....	۳۸۷	اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر
۴۲۱	دم کرنے پہ معاوضہ لینا	۳۸۹	اے اللہ! اپنی رحمت کو پھیلا دے اور مردہ شہروں کو زندہ فرما
۴۲۲	اس میں کوئی حرج نہیں	۳۹۰	خیر کا سوال اور شر سے پناہ
۴۲۳	سانپ وغیرہ سے بچاؤ کا عمل	۳۹۲	یہ وعید شدید ہے
۴۲۴	حضور علیہ السلام کا حسین کریمین کو دم فرمانا	۳۹۳	تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تاکہ ہم بھی یہ دعا پڑھتے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۵۵	آگ سے نجات کا سوال	۴۲۵	حضور علیہ السلام نے دم فرمایا تو مریض بالکل تندرست ہو گیا
۴۵۶	اپنی دعا میں یوں کہا کرو.....	۴۲۷	بیمار کی تیمارداری کے وقت شانِ خدا کے کلمات بزبانِ مصطفیٰ ﷺ
۴۵۷	تمام موذی امراض سے خدا کی پناہ	۴۲۸	یا اللہ اس کو عافیت و شفا عطا فرما
۴۵۸	جس کے غم زیادہ ہو جائیں	۴۲۹	بندش بول کا دم
۴۵۸	اے عبد اللہ! مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا	۴۳۰	مر جائے تو شہید بنج جائے تو گناہ معاف
۴۵۹	اچھی آزمائش کا سوال	۴۳۱	میت کے لئے اور زیارت قبور کے وقت شانِ خدا بزبانِ مصطفیٰ
۴۵۹	مجلس کا آخری کلام یہ ہونا چاہئے	۴۳۲	کے کلمات
۴۶۰	پاک ہے وہ ذات	۴۳۳	نماز جنازہ کی دعا
۴۶۲	اے اللہ! ہماری دعا قبول فرما	۴۳۴	کاش یہ میت میں ہوتا!
۴۶۲	مختلف اور ادو وظائف مختلف کتب کے حوالوں سے	۴۳۵	اسے اپنے مردوں پہ پڑھا کرو
۴۷۲	عبادت کی برکات	۴۳۶	نماز جنازہ کی ایک اور دعا
۴۷۳	عظمت کبریا (جل و علا) بفرمانِ مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء	۴۳۷	قبرستان جانے کی دعا
۴۷۵	اسے بتادو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے	۴۳۸	جامع ماثورہ دعاؤں اور اذکار میں شانِ خدا بزبانِ مصطفیٰ ﷺ
۴۷۶	ایمان کس کا مکمل ہے	۴۳۹	نکاح کے وقت کہا پڑھا جائے
۴۷۷	میری یاد سے ان کی یاد اور ان کی یاد سے میری یاد آ جاتی ہے۔	۴۴۰	حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا
۴۷۸	اس کو دیکھو: اللہ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے	۴۴۱	جب زباں اعتراف کرتی ہے
۴۷۸	خالیہ تھے لہذا نوٹے دلوں میں رہتے ہیں	۴۴۲	اے اللہ مجھے اپنی محبت کا رزق عطا فرما
۴۷۹	حب الہی کے بارے میں اہل محبت کی باتیں	۴۴۳	دو نفع بخش کلمات
۴۸۰	محبت الہی کا حصول دس چیزوں سے ممکن ہے	۴۴۵	میرے لئے ہر چیز روشن ہو گئی
۴۸۱	اللہ کو دوست بنالے اور لوگوں سے کنارہ کش ہو جا	۴۴۶	میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا
۴۸۲	رائی برابر محبت الہی.....	۴۴۷	ہر حال میں اللہ کا شکر ہے
۴۸۲	جس نے اپنا قبلہ اپنے رب کو نہ بنایا	۴۴۸	اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنادے
۴۸۲	اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے	۴۴۸	اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے اسے شفا دیدی
۴۸۶	کیا تمہیں کچھ اور چاہئے؟	۴۴۹	اللہ کی پناہ اس علم سے جو نفع نہ دے
۴۸۷	جنت کا بازار	۴۵۰	اسے بخش دیا گیا
۴۸۸	اللہ کی محبت واجب ہو گئی	۴۵۱	جو مانگا وہ ضرور عطا ہوگا
۴۹۰	جن پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے	۴۵۲	کامل خیر کا سوال
۴۹۱	اللہ تعالیٰ محبت اور محبوب کو جمع کر دے گا	۴۵۳	بازار کے خسارے سے کیسے بچا جائے؟
۴۹۲	اللہ کے لئے محبت کرنے والوں کے اقوال زریں	۴۵۴	ذکر شکر اور حسن عبادت پہ استعانت کی دعا
۴۹۳	عارف باللہ کو اللہ کے علاوہ کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی	۴۵۴	اس حدیث کو یاد کر لو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۲۶	جس کام سے اللہ کی رضا مندی مقصود ہو	۴۹۴	دنیا و آخرت کا شرف حاصل کرنے والے
۵۲۷	حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم	۴۹۵	حمد ہے اس ذات کو.....
۵۲۸	مخلصین کے اقوال و آثار	۴۹۶	ایک رقت انگیز دعا
۵۲۹	صادق کون ہے؟	۴۹۷	ہائے افسوس ان پر
۵۳۱	مخلص اور مخلص میں فرق	۴۹۸	جلوے شانِ الہی کے زبانِ مصطفوی سے
۵۳۳	متوکلین پہ خدا کی شان بندہ نوازی کا بیان، بزبانِ مصطفیٰ ﷺ	۵۰۰	رحم مادر میں انسانی تخلیق کے ارتقائی مراحل میں شانِ خداوندی
۵۳۴	ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں	۵۰۱	تقدیر معلق و مبرم
۵۳۶	توکل کے ذریعے شرک کا خاتمہ	۵۰۲	کہاں ہیں معرفت و احسان والے؟
۵۳۷	قلم اٹھا دیئے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے	۵۰۳	کہاں ہیں جبارین و متکبرین؟
۵۳۸	متوکلین کا اپنا بیان	۵۰۴	تیرے یہاں کی نہیں اہل ایمان سے پہلا کلام اور حسن ظن
۵۳۹	یہ زمانہ جنہیں نظروں سے گرا دیتا ہے	۵۰۵	حسن ظن کے بارے میں احادیث
۵۴۰	توکل کے تین درجے	۵۰۶	حسن ظن کے بارے میں پاکانِ امت کی آراء
۵۴۲	توکل حضور علیہ السلام کا حال ہے	۵۰۷	جو یہ گمان کرے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا
۵۴۳	سلام ہو تم پر اے گروہ اولیاء اللہ و فقراء الی اللہ تعالیٰ	۵۰۸	تکبر صرف خدا ہی کو زیبا ہے
۵۴۵	تم میں محمدی کون ہے؟	۵۱۰	میرے افکار میں الفاظ میں اشعار میں تو
۵۴۵	حضرت بایزید سے باسٹھ (۶۲) سوالات	۵۱۱	فرشتوں پہ جلال باری تعالیٰ کا غلبہ
۵۴۷	۶۲ سوالات کے جوابات	۵۱۱	ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی (ﷺ)
۵۴۸	ایک تفسیری وضاحت	۵۱۳	حسنیٰ اور زیادہ کیا ہے؟
۵۴۹	دو تفسیری وضاحتیں	۵۱۴	اللہ کا سلام کیا ہوگا؟
۵۵۰	شانِ نزول	۵۱۵	اللہ تعالیٰ صبح فرماتا ہے
۵۵۰	عصائے کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام	۵۱۵	اللہ تعالیٰ تین کاموں سے خوش ہوتا ہے
۵۵۲	قرآن پاک میں پانچ نمازوں کا ذکر	۵۱۷	اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ سرگوشی
۵۵۲	جنت کی چابی	۵۱۸	ذاتِ مصطفیٰ کے لئے خدا تعالیٰ کی جلوہ گری - بزبانِ مصطفیٰ ﷺ
۵۵۳	حمد خدا جل و علا بحوالہ وصالِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء	۵۱۹	تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو ہر آواز کو سنتا ہے
۵۵۴	تو جو چاہے تو ہوتی ہے پوری غرض و مراد	۵۱۹	حضور علیہ السلام کے دل میں رب کی بات پہچاننے کا جذبہ
۵۵۶	مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ	۵۲۰	اللہ تعالیٰ کی پانچ شانیں
۵۵۷	وحدانیت خدا بزبانِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء	۵۲۱	ہر لمحہ اللہ کی نرالی شان
۵۵۹	زاہدوں پہ انعامات الہیہ کا بیان: بزبانِ مصطفیٰ ﷺ	۵۲۲	حضرت جابر کے باپ کے ساتھ رب کا معاملہ
۵۶۰	خدا بھی محبت کرے گا اور خدائی بھی	۵۲۳	پھر اس کے اوپر بڑی برکت و شان والا اللہ ہے
۵۶۱	یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی	۵۲۳	مخلصین پہ اللہ تعالیٰ کی عنایات - بزبانِ مصطفیٰ ﷺ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۰۱	تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم	۵۶۲	کس چیز کا حساب؟
۶۰۲	اعضائے حبیب ﷺ کا قرآن میں تذکرہ	۵۶۳	زہد فی الدنیا کے بارے میں زاہدوں کے بیانات
۶۰۳	ہست قرآنِ حالہائے مصطفیٰ ﷺ	۵۶۵	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حال
۶۰۴	عمر مبارک کا تذکرہ	۵۶۷	قریب ہے کہ چہرے کا گوشت گر جائے
۶۰۵	آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری	۵۶۸	قرآن والوں کے لئے
۶۰۶	قرآن پاک میں کمالاتِ مصطفیٰ ﷺ	۵۶۹	زہد کا مدعی کون ہو سکتا ہے؟
۶۰۷	حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے	۵۷۰	ولایت کی مہک کون پاسکتا ہے؟
۶۰۹	اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے	۵۷۱	زاہد، دین دار اور قناعت کرنے والا
۶۱۰	تیرے تو وصف عیب تاہی سے ہیں بری	۵۷۲	ایک سخی کا حال
۶۱۱	میں تو محمد ہوں: ﷺ	۵۷۳	اللہ کو ایک ماننے والے سب آخر کار جنت میں جائیں گے
۶۱۳	محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے	۵۷۶	حقیقی بادشاہ و مولیٰ اللہ تعالیٰ ہی ہے
۶۱۳	محمد ہمارے بڑی شان والے	۵۷۷	حقیقی سید اللہ تعالیٰ ہی ہے
۶۱۳	الفضل ما شہدت بہ الاعداء	۵۷۸	احادیث مبارکہ بلفظ اللہ در شان باری تعالیٰ عزاً پہ
۶۱۵	عیسائیوں کو دعوتِ انصاف	۵۷۹	حقیقی فیصلہ فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے
۶۱۷	نبی کریم ﷺ غیر مسلم مفکرین کی نظر میں	۵۸۰	احادیث قدسیہ عن تنزیہہ باری تعالیٰ عم نوالہ
۶۱۷	1- سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر (ﷺ)	۵۸۲	اللہ تعالیٰ حکیم و علیم بھی ہے اور مالک الملک بھی
۶۱۷	2- شعاع نور مظہر اتم مینار ہدایت (ﷺ)	۵۸۲	اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو موحد پیدا فرمایا
۶۱۷	3- پیکر شرافت (ﷺ)	۵۸۳	ایک علمی بحث
۶۱۸	4- مصلح اعظم (ﷺ)	۵۸۸	اللہ تعالیٰ وسیلہ بننے سے پاک ہے
۶۱۸	5- دنیا کے بہترین استاد (ﷺ)	۵۸۹	اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق
۶۱۸	6- قابل عزت ہستی	۵۹۰	اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشورہ سے بے نیاز ہیں
۶۱۸	7- سب سے سچی زندگی	۵۹۱	دل کا حال خدا ہی جانتا ہے
۶۱۸	8- حضرت عیسیٰ سے افضل (ﷺ)	۵۹۲	کھول بخشش کا باب یا تو اب
۶۱۸	9- معلم خلق خدا (ﷺ)	۵۹۳	امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
۶۱۹	عظیم الشان مصلح (ﷺ)	۵۹۴	مسک محبت اہل سنت اہل جنت
۶۱۹	11- اعلیٰ اخلاق کے پاکیزہ معلم (ﷺ)	۵۹۴	غیر خدا کی عبادت حرام و کفر ہے
۶۱۹	12- جلیل القدر پیشوا (ﷺ)	۵۹۶	تمہارا رب (پروردگار) بھی ایک تمہارا اب (باپ) بھی ایک
۶۱۹	13- عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام کے بانی (ﷺ)	۵۹۷	ایک تجزیہ - کیا یہ شرک ہے؟
۶۱۹	14- تاجدار شرف و فضیلت (ﷺ)	۵۹۸	اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی مشترک صفات
۶۲۰	15- انسانی معیار اخلاق کو بلند کرنے والے (ﷺ)	۶۰۱	حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۲۶	45- محبوب ترین شخصیت (ﷺ)	۶۲۰	16- موجودہ مصائب کے نجات دہندہ (ﷺ)
۶۲۶	46- بہت ہی بڑے کریکٹر کے مالک (ﷺ)	۶۲۰	17- خدا کے سچے نبی (ﷺ)
۶۲۶	47- شیرین گفتار، محسن انسانیت (ﷺ)	۶۲۰	18- سیکر استقلال (ﷺ)
۶۲۶	48- فخر عالم (ﷺ)	۶۲۰	19- روشن چراغ اور صاحبِ خلقِ عظیم (ﷺ)
۶۲۷	49- پکے راست باز اور سچے ریفارمر (ﷺ)	۶۲۱	20- معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی (ﷺ)
۶۲۷	50- جانوروں کے لئے بھی باعثِ رحمت	۶۲۱	21- تعلیماتِ جمہوریت کا سرچشمہ (ﷺ)
۶۲۷	51- اولوالعزم، خلیق اور معاملہ فہم (ﷺ)	۶۲۱	22- جلال اور بزرگی کے مستحکم ستون (ﷺ)
۶۲۷	52- مقدس ذات اور سچے رسول (ﷺ)	۶۲۱	23- رحمت عالم من الرحمن (ﷺ)
۶۲۷	53- پر نور وحدانیت کی بشارت (ﷺ)	۶۲۱	24- ہادیان مذاہب کے سر تاج (ﷺ)
۶۲۷	54- اوصافِ حسنہ کے مجسم (ﷺ)	۶۲۲	25- بہترین اوصاف کے حامل (ﷺ)
۶۲۸	55- گمراہوں کے بہترین ہادی (ﷺ)	۶۲۲	26- خاکِ عرب کے ذرہ ذرہ کو ڈائنامیٹ بنانے والے (ﷺ)
۶۲۸	56- فصاحت و بلاغت میں یکتائے روزگار (ﷺ)	۶۲۲	27- محسنِ انسانیت (ﷺ)
۶۲۸	57- سردارِ اعظم اور حیرت انگیز معلم (ﷺ)	۶۲۲	28- وحدت کی لڑی میں پرونے والے مہاپرش (ﷺ)
۶۲۸	58- قومِ حکومت اور مذہب کے بانی (ﷺ)	۶۲۲	29- پاکیزہ خاطر برہمچاری (ﷺ)
۶۲۹	59- ایک عظیم شعلہ نور (ﷺ)	۶۲۳	30- رہبرانِ بنی نوع انسان میں ممتاز (ﷺ)
۶۲۹	60- مشیتِ الہی کے مبلغ (ﷺ)	۶۲۳	31- عظیم شخصیت اور مجسمہ استقلال (ﷺ)
۶۲۹	61- پامال ذروں کو درخشاں ستارے بنانے والے	۶۲۳	32- قیموں کے مربی (ﷺ)
۶۲۹	62- سچے امین اور پاکباز (ﷺ)	۶۲۳	33- عورتوں کے محسن (ﷺ)
۶۲۹	63- عالمِ انسانیت کے استاذ (ﷺ)	۶۲۳	34- خدا داد عطیہ اور اس کا نور (ﷺ)
۶۲۹	64- مردہ عربوں کو اشرف ترین بنانے والے (ﷺ)	۶۲۳	35- خوش شکل، فہیم اور غرباء پرور (ﷺ)
۶۳۰	65- بہترین سیاسی قانون دان (ﷺ)	۶۲۳	36- داغِ دھبوں سے پاک نورانی چہرہ والے (ﷺ)
۶۳۰	66- بہت بڑے حکیم و موحد (ﷺ)	۶۲۳	37- دنیائے ارضی کے لئے ابر رحمت والے (ﷺ)
۶۳۰	67- ضعیف و محتاج کے لئے رحمت (ﷺ)	۶۲۵	38- پیغمبر مساوات و اخوت (ﷺ)
۶۳۰	68- صراطِ مستقیم پر ڈالنے والے (ﷺ)	۶۲۵	39- روئے زمین کے عظیم انسان (ﷺ)
۶۳۰	69- صاحبِ رائے اور بے مثال مفکر (ﷺ)	۶۲۵	40- بلند مرتبہ سیاسی مدبر (ﷺ)
۶۳۰	70- عقل میں یگانہ روزگار (ﷺ)	۶۲۵	41- اعلیٰ صفات کے مالک (ﷺ)
۶۳۰	71- نہایت خوش طینت اور فیاض (ﷺ)	۶۲۵	42- حمیہ الاقوام کے بانی (ﷺ)
۶۳۱	72- بہادر، غیور اور حق پرست (ﷺ)	۶۲۶	43- صادق عظیم (ﷺ)
۶۳۱	73- ایشیا کے لئے قابلِ فخر (ﷺ)	۶۲۶	44- پاکیزہ فاتح (ﷺ)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷۰	الحمد لله اوله والحمد لله اخره	۶۳۱	74- تاریخ عالم کے انقلابی (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۷۲	لفظ اللہ کی تفسیر	۶۳۱	75- قدر و منزلت کے لائق (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۷۳	عقائد اہلسنت (توحید باری تعالیٰ)	۶۳۱	76- عظیم مذہبی قائد اور غیر جبریل (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۷۶	شرک اور اس کی حقیقت	۶۳۱	77- عظیم ترین عاقل و عادل (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۷۷	نبوت و ولایت	۶۳۲	78- بت شکن نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۷۸	حقیقت مصطفیٰ	۶۳۲	79- سب سے اکمل اور افضل (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۷۹	علم خالق و علم مخلوق	۶۳۲	80- منتشر کو متحد کرنے والے (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۷۹	ملک و اختیار	۶۳۲	81- نور ہدایت (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۸۰	عقیدہ حیات النبی (صلی اللہ علیہ وسلم)	۶۳۲	82- طبیب حاذق اور اعلیٰ متقن (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۸۱	معذرت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)	۶۳۲	83- جلیل القدر اور عظیم الشان رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۸۲	ایمان بالغیب	۶۳۳	84- ذلت و ہلاکت کے گڑھے سے نکالنے والے (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۸۲	صحابہ کرام اہل بیت عظام	۶۳۳	85- قبیلے اور وطنیت کے بت شکن (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۸۳	ذات و صفات میں یکتا ذات	۶۳۳	86- پوپ اور قیصر سے طاقت ور (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۸۵	الانواع فی علم التوحید	۶۳۳	87- انسانی ترقی کے رہنما (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۹۲	نعمات توحید و رسالت	۶۳۳	88- متحدہ اقوام کے سردار (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۹۳	اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو	۶۳۳	89- مہاسن درمن مومن (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۹۵	پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ	۶۳۳	90- دنیا کے بہت بڑے محسن (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۹۵	اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو	۶۳۳	91- امن عالم کے ستون (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۹۸	الا للہ، الا للہ	۶۳۳	92- سچی زبان کی تاثیر والے (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۹۸	لا الہ الا للہ	۶۳۳	93- پیکر شرم و حیاء اور محمودہ محامد و محاسن (صلی اللہ علیہ وسلم)
۶۹۹	لا موجود الا للہ	۶۳۵	94- زندہ جاوید تعلیمات کے معلم (صلی اللہ علیہ وسلم)
۷۰۲	امنا برسول اللہ	۶۳۵	95- غیر فانی فلسفی
۷۰۳	امنا برسول اللہ	۶۳۵	ذکر اونچا ہے ترا بول ہے بالاتیرا
۷۰۴	کہو لا الہ الا للہ	۶۳۷	تم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام
۷۰۶	اللہ اللہ اللہ اللہ هو لا الہ الا هو	۶۳۹	ایک ضروری وضاحت
۷۰۷	بارہ ربیع الاول آیا کیجا کرم کریم	۶۴۰	رموز حوالہ جات
۷۰۷	ہردم از ما صد درود و صد سلام	۶۴۲	بے شک اللہ تعالیٰ "بزرگان مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)"
۷۰۹	دعائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	۶۴۶	اللہم (اے میرے اللہ) بزرگان مصطفیٰ علیہم التحیۃ والثناء
۷۱۰	فریاد ہے تجھ سے اے میرے پروردگار: اختتامی دعا	۶۴۹	یقین دانم دریں عالم کہ لامعبود الا هو

باب نمبر ۴

ذکرِ خدا (جلا و علا) بزبانِ مصطفیٰ (علیہ التھیہ و الثناء)

ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
 غنچوں کی چنگ شبنم کی ضیاء پھولوں کی مہک بلبل کی نوا
 کیا دیکھے کوئے وسعت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری
 مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو
 ہر نقش تیری قدرت کا نشان ہر نقش کے لب پر تیرا بیاں
 مٹی کو زبان دیکر اس کو اعجاز بیاں دینے والے
 مصروفِ ثنا ہیں سرو و من سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
 قائم ہے تجھی سے حسنِ چمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
 عاجز ہے نظرِ قاصر ہے دھن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
 تو روح صبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
 ہر بزم میں تو موضوعِ سخن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
 اعظم کو بھی دے توفیق سخن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ

شبِ معراج مسجدِ قصیٰ میں انبیاءِ کرامِ حمدِ الہی بجالاتے ہیں

معراج کی رات مسجدِ قصیٰ میں انبیاءِ کرامِ علیہم السلام نے تحدیثِ نعمت کے طور پر اپنے اپنے خطبوں میں جو اپنی شان کا اظہار فرمایا اور آخر میں نبی کریم ﷺ نے اپنے اوپر اپنے رب کی نوازشات کا ذکر کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا: اے نبیو! امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر فضیلت لے گئے ہیں۔

السلام اے حسن کے ماہ تمام السلام اے سارے نبیوں کے امام
 ہر نبی علیہ السلام نے اپنے خطبہ کا آغاز حمدِ خدا جل و علا سے کیا! آپ بھی ان میں سے بعض نبیوں کی زبان سے نکلنے والا حمدیہ الفاظ سے اپنی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور بخشے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں خطبہ ارشاد فرمایا:

الحمد لله الذي خلقني بيده واسجد لي ملائكتك وجعل الانبياء من ذريتي
 ”سب تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنے پدِ قدرت سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے میرے لئے سجدہ کرایا اور نبیوں کو میری ذریت سے بنایا۔“

☆ حضرت آدم علیہ السلام کے اس خطبے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام اٹھے اور فرمایا:

الحمد لله الذي اجاب دعوتي فنجاني من الغرق بالسفينة وفضلني بالنبوة
 ”سب تعریف اس اللہ کے لئے جس نے میری دعاسنی اور کشتی کے ذریعہ مجھے غرق ہونے سے نجات دی اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔“

☆ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور فرمایا:

الحمد لله الذي اتخذني خليلاً واعطاني ملكاً عظيماً واصطفاني برسالته وانقذني من النار وجعلها علي برداً وسلاماً .

”سب تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور اپنی رسالت کے ساتھ مجھے جن لیا اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو مجھ پر ٹھنڈا کر دیا۔“

☆ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آپ نے فرمایا:

الحمد لله الذي كلمني تكليماً واصطفاني برسالته وانزل علي التورات .

”سب تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور اپنی رسالت کے ساتھ مجھے جن لیا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی۔“

☆ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے اور آپ نے فرمایا:

الحمد لله الذي انزل علي الزبور ولين لي الحديد .

”سب تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھ پر زبور نازل فرمائی اور میرے لئے لوہے کو نرم کر دیا۔“

☆ حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھے اور فرمایا:

الحمد لله الذي سخر لي الرياح والجن والانس و علمني منطق الطير واعطاني ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي

”سب تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہوا، جنوں اور انسانوں کو میرے لئے مسخر کر دیا اور مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم دے دیا اور ایک بے مثل ملک مجھے عطا فرما دیا۔“

☆ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور فرمایا:

الحمد لله الذي علمني التوراة والانجيل وجعلني ابرى الاكمه والابرص واحى الموتى باذنه .

”سب تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے تورات وانجیل سکھائی اور مجھے مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دینے والا اور مردوں کو اپنے اذن سے زندہ کر دینے والا بنایا۔“

☆ جب یہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے خطبات ارشاد فرما چکے تو سب سے آخر ہمارے حضور امام الانبیاء و

خاتم النبیین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ اٹھے

کون آقا: شب اسرئیل کے دولہا یہ دائم درود

محمد سے صفت پوچھو خدا کی خدا سے پوچھیے شان محمد (ﷺ)

اللهم صل على نور محمد في الانوار وصل على روح (روح مبارک پر) محمد في الارواح وصل على

جسد (جسم اطہر پر) محمد في الاجساد وصل على راس (سر مبارک پر) محمد في الرؤس وصل على وجه

(چہرہ مبارک پر) محمد فی الوجوه وصل علی جبین محمد الاجین وصل علی جبهة (پیشانی مبارک پر) محمد فی الجباه وصل علی عین (آنکھ مبارک پر) محمد فی العیون وصل علی حاجب (ابر و مبارک پر) محمد فی الحواجب وصل علی جفن (پلک مبارک پر) محمد فی الاجفان وصل علی انف (ناک مبارک پر) محمد فی الانوف وصل علی خد (رُخسار مبارک پر) محمد فی الخدود وصل علی صدغ (کنپٹی مبارک پر) محمد فی الاصداع وصل علی اذن (کان مبارک پر) محمد فی الاذان وصل علی فم (منہ مبارک پر) محمد فی الافواه وصل علی شفة (ہونٹ مبارک پر) محمد فی الشفاه وصل علی سن (دانت مبارک پر) محمد فی الاسنان وصل علی لسان (زبان مبارک پر) محمد فی اللسنة وصل علی ذقن (تھوڑی مبارک پر) محمد فی الاذقان وصل علی عنق (گردن مبارک پر) محمد فی الاعناق وصل علی صدر (سینہ مبارک پر) محمد فی الصدور وصل علی قلب (دل مبارک پر) محمد فی القلوب وصل علی ید (ہاتھ مبارک پر) محمد فی الایدی وصل علی کف (کف مبارک پر) محمد فی الاکف وصل علی اصبع (انگلی مبارک پر) محمد فی الاصابع وصل علی زند (گٹ مبارک پر) محمد فی الازناد وصل علی ذراع (کہنی سے درمیانی انگلی تک کے حصے پر) محمد فی الاذرع وصل علی مرفق (کہنی مبارک پر) محمد فی المرافق وصل علی عضد (بازو مبارک پر) محمد فی الاعضاء وصل علی ابط (بغل مبارک پر) محمد فی الاباط وصل علی منكب (کندھے مبارک پر) محمد فی المناكب وصل علی کتف (شانہ مبارک پر) محمد فی الاکتاف وصل علی ترقوة (ہنسی کی ہڈی مبارک پر) محمد فی التراقی وصل علی کبد (جگر مبارک پر) محمد فی الاکباد وصل علی ظهر (بکر مبارک پر) محمد فی الظهر وصل علی فخذ (ران مبارک پر) محمد فی الافخذ وصل علی رکبة (گھٹنے مبارک پر) محمد فی الرکب وصل علی ساق (پنڈلی مبارک پر) محمد فی السوق وصل علی کعب (ٹخنے مبارک پر) محمد فی الکعوب وصل علی عقب (ایڑی مبارک پر) محمد فی الاعقاب وصل علی قدم (قدم مبارک پر) محمد فی الاقدام وصل علی شعر (بال مبارک پر) محمد فی الشعور وصل علی لحم (گوشت مبارک پر) محمد فی اللحوم وصل علی عرق (پینہ مبارک پر) محمد فی العروق وصل علی دم (خون مبارک پر) محمد فی الدماء وصل علی عظم (ہڈی مبارک پر) محمد فی العظام وصل علی جلد (کھال مبارک پر) محمد فی الجلود وصل علی لون (رنگ مبارک پر) محمد فی الالوان وصل علی قامة محمد فی القامات وبارک وسلم علیہ وعلی الہ واصحابہ وازواجه (آپ کی بیویوں پر) وذریاتہ (اولاد پر) افضل صلاة واکمل برکة واز کی سلام بعدد کل معلوم لك وعلینا معهم کلما ذکرک وایاہ الذاکرون وغفل عن ذکرک و ذکرہ الغافلون۔

اور ارشاد فرمایا:

کلکم اثنی علی ربہ وانا اثنی علی ربی

”آپ سب تو اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کر چکے اب میں اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوں۔“

پھر آپ نے فرمایا:

الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعلمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وانزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل امتي خيرة امة اخرجت للناس . وجعل امتي امة وسطا وجعل امتي هم الاولون والاخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري . وجعلني فاتحا وخاتما وسماني رؤفا رحيفا .

”سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر تمام انسانوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور جس نے مجھ پر قرآن مجید، فرقان حمید نازل فرمایا ایسا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور جس نے میری امت کو بہترین امت اور امت وسطیٰ بنایا اور جس نے میرے غلاموں کو (جنت میں داخل ہونے میں) اول اور (دنیا میں آنے میں) سب امتوں سے آخر بنایا اور جس نے میرے لئے سینے کو کھول دیا اور مجھ سے میرا پاراٹھا لیا اور میرے لئے میرے ذکر کو بلند فرما دیا اور مجھے (سلسلہ انبیاء کا) فاتح اور خاتم بنا دیا اور میرا نام رؤف رحیم رکھا۔“

(مسند البزار ج ۱ ص ۴۱ رقم حدیث ۵۵، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۹)

میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ کے یہ جامع کلمات سن کر ہر نبی علیہ السلام یہ پکاراٹھا ہوگا کہ نہیں ہے جہاں میں مثال محمد (ﷺ)

نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام

سلام اے سرور کل یا محمد یا رسول اللہ	سلام اے تاجدار عرش مسند یا رسول اللہ
سلام اے حامد و محمود و احمد یا رسول اللہ	سلام اے ظن ذات امجد یا رسول اللہ
سلام اے حامل اوصاف بیحد یا رسول اللہ	سلام اے صاحب خلق عظیم و رحمت عالم
سلام اے راز دار ذات سرمد یا رسول اللہ	سلام اے رحمت للعلمین اے نور یزدانی
کرم ہے آپ کا امت پہ بیحد یا رسول اللہ	سلامی کے لئے امت در رحمت پہ حاضر ہے
بلا کر پیار سے نزدیک مرقد یا رسول اللہ	سلام اپنے غلاموں کا سدا سرکار سنتے ہیں
زمیں بولی ہزاروں کا ہے مقصد یا رسول اللہ	سلامی کو ہزاروں امتی روضہ پہ حاضر ہیں
حریم ناز سے ہو کر بر آمد یا رسول اللہ	سلام اپنے ضیائے مدح خواں کا پیار سے سنے

(مولانا ضیاء القادری)

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

ماذا يقول المادحون وما عسى
ان يجمع الكتاب من معنا كا
الله لوان البحار مدا دم
والشعب اقلام جعلن لم الكا
لم يقدر الثقلان يجمع نوره
ابد وما استطاعم اله ادراكا

(قصیدہ نعمان بن ثابت ص ۲۵-۲۶)

آپ ﷺ کے حسن و جمال کے بارے تعریف کرنے والے کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ لکھنے والے (کاغذ کے) دفتروں میں آپ کی حقیقت لکھ سکیں۔

اللہ کی قسم! اگر تمام سمندر روشنی اور تمام درختوں کی قلمیں بن جائیں اور انہیں (آپ ﷺ کی تعریف) میں لگا دیا جائے۔ پھر جن وانس تا قیامت بھی لکھتے رہیں تو آپ کے اوصاف کا قلیل حصہ میں نہ لکھ سکیں گے اور نہ ہی ان اوصاف کا ادراک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

لا یکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

آدم بر سر حمد باری تعالیٰ عزاسمہ

امام اہل سنت، مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ کے والد ماجد رئیس المتکلمین والمتقلمین مولانا شاہ نقی علی خان علیہ الرحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء میں اپنی قلم کو جنبش دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

حمد بے حد اس واجب الوجود و قادر مطلق کو شایاں ہے جس نے تمام ممکنات کو تشریف و جود سے مشرف فرمایا اور چھ دن میں ساتوں آسمان اور زمین کو بنایا عجائب حکمت و غرائب صنعت اُس کی ادراک عقول سے برتر اور احاطہ و وہم و خیال سے باہر۔

چٹاں آفریدی زمین و زماں
ہماں گردشِ انجم و آسماں
کہ چندا نکہ اندیشہ گردد بلند
سر خود برون نیاورد زیں کند

ظاہر ترین موجودات محسوسات ہیں اور اظہر محسوسات جسم تمام متکلمین اور حکماء اُس کی ماہیت میں حیران ہیں اور قریب ترین مخلوقات آدمی سے ہستی اُس کی ہے، انا کہتا ہے اور نہیں جانتا کہ حقیقت میری کیا ہے۔

تنت زندہ بجان و جہاں نہانی
تو از جاں زندہ و جاں راندانی

ہر مصنوع صنعتِ صانع با کمال پر بلسانِ حال شاہد ہے۔ اپنی پیدائش میں تامل کر کہ ایک قطرہ ناپیز کو تخم تیری آفرینش کا کیا اور ایک مادہ سے پوست اور گوشت، رگ اور استخوان، ہاتھ پاؤں، سر، سینہ، پیٹ، پیٹھ، آنکھ، لب، زبان، تاک، کان اس بہیت و شکل سے بنائے کہ بہتر ان سے ممکن نہیں۔ زمین دیکھ کس قدر فراخ ہے اگر تمام عمر چلے اُس کی سیر نہ کر سکے آسمان سے مینہ اتارا اور اُس سے ہر قسم کے غلے اور طرح طرح کے میوے تیرے کھانے کے واسطے پیدا کئے اور انواع انواع پھول اور رنگ رنگ کے شگوفے نئی نئی صورت کے بنائے۔ دریا کو دیکھ تمام زمین کو محیط ہے اور جس قدر کہ دریا زمین سے لطیف و بہتر ہے اسی قدر عجائب اُس کے عجائب زمین سے زیادہ تر ہیں۔

بدریا فتن عقل را تاب نیست
دل از داغداران تسلیم اوست
بحکم آشکارا حکمت نہاں

ہر آنچہ آفریدا و باسباب نیست
خرد دانش آموز تعلیم اوست
پہ از حکمت و حکم او شد جہاں

نظامی

سکون نقطہ خاک اور حرکت واضطراب ہوا سرسری نہیں۔ نسیم سحر کس کی تلاش میں کوچہ بکوچہ دوراں ہے اور دریا کس کی طلب میں بے سرو پا رواں ہے۔ درخت کس کے حکم سے جادہ استقامت پر سیدھا کھڑا ہے کہ آ رہ سر پر چلتا ہے مگر اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا اور پہاڑ کس کے ہجر میں تنگ دل ہے کہ دیوانوں کے مانند دام و دڈ سے مانوس ہے اور آدمیوں سے جدا ہے۔ نئے شب و روز کے حکایت کرتی ہے اور کس کی جدائی سے شکایت۔ پھول نے کیا دیکھا کہ شگفتہ و خنداں ہے۔ بلبل نے کیا سنا کہ رات دن نالاں ہے۔ آگ آتش کدہ میں اُس کی سوزِ محبت میں جلتی ہے اور پوجنے والوں کو خبر نہیں اور بت بت خانے میں مدہوش ہیں مگر بت پرست اُن کے حال سے واقف نہیں۔ آسمان زمین عرش و کرسی کے ملائکہ اعلیٰ علیین سے تحت اثری تک اُس کی تسبیح اور تہلیل میں مشغول۔

ہمہ نقش این گنبد زر نگار
گواہ اند بر صنع پروردگار
اگر گوہر آمد و گرچہ نحسے ست
برون و درونش حکایت بے ست
تو گر گفت ایساں ندانی خموش
کہ گفتند لیکن نداری تو گوش

ہر چیز میں بے شمار عجائب و غرائب ہیں۔ مگر عجیب تر یہ ہے کہ آدمی اچھی صورت کا غذا یا دیوار پر منقش دیکھ کر اُس کے نقاش پر ہزار آفریں اور تحسین کرتا ہے اور اپنی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ نقاش ازل نے ایک قطرہ آب پر کیسے کیسے نقش بدیع کھینچے ہیں اور کس کس طرح کی قوتیں اُس کے ظاہر و باطن میں پیدا کی ہیں۔

چہ دولت کہ در بند کار تو نیست
چہ مقصود کاں در کنار تو نیست (نظامی)

نسیم لطف اُس کی جس طرف گزرتی ہے ایک لمحہ میں پُر عیب کو ہنرور اور ناقص کو کامل کرتی ہے۔ خاک بیچارہ کو وہ دشت میں آوارہ پھرتی ہے۔ ناگاہ خلافت زمین کی اُس کی عنایت ہوتی ہے۔ مقربین ملاء اعلیٰ تسبیح و تقدیس میں سات لاکھ برس سے مشغول ہیں بکمال حیرت عرض کرتے ہیں: نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ الہی ہم مدت سے تیری عبادت کرتے ہیں یہ مایہ فساد و خوزیزی اس کام کی کب لیاقت رکھتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے: انسی اعلم مالا تعلمون۔ یعنی تم اس کے فساد اور خوزیزی پر نظر رکھتے ہو اور ہماری رحمت و عنایت کو نہیں دیکھتے۔ ہم اس سے ایک پاک مخلوق پیدا کریں گے اور اس کو تمام عالم سے برگزیدہ فرمائیں گے

ہست مارا بے ز عالم پاک
راز ہائے نہفتہ در دلِ خاک

عمر فاروق رضی اللہ عنہما جس زمانہ میں بت پوجتے تھے اُس کے نزدیک امیر المؤمنین تھے اور فضیل بن عیاض جب راہ مارتے تھے اُس کے علم میں راہرتے تھے۔ حبیب نجار ایک بت تراش تھے سعادت ازی نے اُن کی دستگیری فرمائی۔ قوم اُن کو قتل کرتی تھی اور وہ کہتے تھے: یسلیت قومی یعلمون بما غفر لی رہی و جعلنی من المکرمین۔ جادوگر فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ

کرنے آئے ایک جھلک نور تو حید کی ان پر چمک گئی بے اختیار پکارنے لگے واللہ خیر و ابقی فرعون کہتا تھا تمہیں سولی دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا وہ کہتے تھے لا ضیر اننا الی ربنا منقلبون۔ کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ سولی نہیں وسیلہ حصول مطلوب اور زردبان بام محبوب ہے۔ الغرض جس طرف دریائے رحمت اُس کا جوش مارتا ہے ہزاراں ہزار دفتر معصیت ایک قطرہ سے دھل جاتے ہیں یکا یک رسول قبول یہ مژدہ جانفزا سنا جاتا ہے: الحیب یقرنک السلام ویقول ان لی معک کلامًا اور برقی غضب اس کی جس پر گرتی ہے ہزار برس کی اطاعت اور ریاضت کو ایک دم میں جلا کر خاک کرتی ہے۔ معلم ملکوت کو ایک آن میں شیطان اور ملعون کرتی ہے اور بلعم باعور کو ایک لمحہ میں مردود و مقہور۔ اے عزیز جان ہزاروں طالبوں کی اُس کی غیوری سے برباد ہے اور لاکھوں دل سوختہ دریائے لا ابالی میں غرق۔ عارف و عالم ندائے ان اللہ لغنی عن العالمین سے اپنے کام میں حیران اور پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے شب و روز خائف و ترساں کس کی مجال ہے کہ خلاف اس کے دم مارے اور اُس کے کام میں چون و چرا زبان پر لائے لا یسال عما یفعل اس کی شان ہے اور غناء حقیقی اُس کی ذات کو شایاں اگر ایک جہان کو آتش قہر سے جلا کر برباد کرے اصلاً گردِ ظلم کی اُس کے دامنِ عدل پر نہ بیٹھے اور جو سب گنہگاروں کو آبِ رحمت سے دھو کر پاک کر دے اور اُس کی جباری اور عظمت میں ہرگز نقصان نہ آئے۔ اے عزیز جبکہ صفات اُس کے احاطہ و ہم و خیال سے منزہ بلکہ ادراک عقول سے برتر ہیں تو معرفت اُس کی ذات کی کسے حاصل ہو سکے۔ مصرع۔ قیاس کن ز گلستانِ من بہارِ مرا۔ ایک عالم اُس کی طلب میں سرگرداں ہے اور ایک جہان اُس کی تلاش میں سرا سیمہ و حیران۔ کوئی مشرق و مغرب میں تگا پو کرتا ہے اور کوئی جنوب و شمال میں جستجو مگر دامنِ دولت اُس کا کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔

طالبانِ چوں حلقہ بردر ماندہ اند زانکہ نزدیکت کسے راراه نیست

موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ارنی کہا حکم ہوا لن ترانی۔ ایک تجلی اس کی چمکی اور جمال پروردگار دیکھا مگر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دگًا و خر موسیٰ صعفاً۔ ہاں سید انس و جان محمد مصطفیٰ ﷺ کو یہ ظرف عالی عنایت ہوا کہ مکہ سے قاب قوسین تک سفر کیا اور جمال پروردگار دیکھا مگر کسی بات میں اصلاً فرق نہ ہوا

موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر تو صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی

اے عزیز! یہ مقام سیدانام کے لئے مخصوص ہے جو بات وزیر اعظم کو حاصل ہوتی ہے ہر کسی کو نہیں ملتی اور جو اسرار محبوب پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ پر نہیں کھلتے۔ وہ جناب عنقائے قاف قدس ہیں اور شہباز آشیان انس بلبل بوستاں و ما یناطق عن الہوی طوطی شکر خائے۔ سبحان الذی اسری شاہین بلند پروازانا سید ولد ادم عند لیب خوش آواز باغ و علمک ما لم تکن تعلم ندیم خلوت کدہ قاب قوسین او ادنیٰ مقیم عشرت کدہ و لقد راہ نزلة اخروی۔ مہمان خوان یطعمنی ویسقین۔ مرید صاحب اخلاص و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔

چابک قدم بسیط افلاک ولا گہر محیط لولاک

خاکی و براوج عرش منزل

امی و کتاب خانہ در دل

(انوار جمال مصطفیٰ ﷺ)

حمد بے حد مرخدائے پاک را

حمد بے حد مرخدائے پاک را
 آنکہ در آدم دمید او روح را
 آنکہ فرماں کرد قہرش بادرا
 آنکہ لطف خویش را اظہار کرد
 آن خداوندے کہ ہنگام سحر
 سوئے او نھمے کہ تیر انداختہ
 آنکہ اعدا را بدریا درکشید
 چون عنایت قادر قیوم کرد
 با سلیمان داد ملک و سروری
 از تن صابر بہ کرماں قوت داد
 آن یکے را ازہ برسر میکشد
 اوست سلطان ہر چہ خواہد آن کند
 ہست سلطانی مسلم مر اورا
 آن یکے را گنج و نعمت مید ہد
 آن یکے را زر دو صد ہمایاں دہد
 آن یکے بر تخت با صد عزو ناز
 آن یکے پوشیدہ سنجاب و سمور
 آن یکے بر بستر کھواب و رخ
 طرفۃ العینے جہاں برہم زند
 آنکہ با مرغ ہوا ماہی دہد
 بے پدر فرزند پیدا او کند
 مردۃ صد سالہ را حی سے کند
 صانع کز طین سلاطین می کند
 آنکہ ایماں داد مشیت خاک را
 داد از طوفاں نجات او نوح را
 تا سزائے کرد قوم عاد را
 با خلیش نار را گلزار کرد
 کرد قوم لوط را زیر وزیر
 پشمے کارش کفایت ساختہ
 ناقہ را از سنگ خار ابرکشید
 در کف داؤد آہن موم کرد
 شد مطیع خاتمش دیو و پری
 ہم ز یونس لقمہ باحوت داد
 دیگرے را تاج بر سری نہد
 عالمے را در دے دیراں کند
 نیست کس را زہرہ چوں و چرا
 دیگرے را رنج و زحمت مید ہد
 دیگرے در حسرت ناں جاں دہد
 دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز
 دیگرے خفتہ برہنہ در تنور
 دیگرے بر خاک خواری بستہ تیغ
 کس نمی آرد کہ آنجام زند
 بندگاں را دولت و شای دہد
 طفل را در مہد گویا او کند
 این بجز حق دیگرے کے می کند
 نجم را رجم شیاطین می کند

از زمین خشک رو یاند گیاه آساں را بے ستوں دارد نگاه
پچ کس در ملک او انباز نے قول اور لحن نے آواز نے

اصل تعریف اللہ ہی کی ہے

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے جس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہی گناہوں کو بخشتا ہے اور وہی ہی عیبوں کو چھپاتا ہے۔ وہ ہی دکھوں کو دور کرتا ہے اور وہی شکستہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ وہ اپنی نظیر اور مشابہ سے بلند تر ہے۔ شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ وہ اللہ عزوجل ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ”محمود“ ہے کہ سختیوں اور تکالیف پر صرف اسی کی حمد کی جاتی ہے۔ وہ ”مشکور“ ہے کہ خوش حالی اور تنگ دستی ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ وہ ہی حقیقی ”کریم“ ہے کہ حقیقی جو دو کرم سے صرف وہی پہچانا جاتا ہے۔ وہ ”رحیم“ اور محبوب اعظم ہے کہ رکوع و سجود صرف اس کے لئے ہیں۔ وہ ہی ”قدیم الذات“ اور ”بديع الصفات“ (یعنی بے مثل صفات والا) ہے کہ دکھوں کو دور کرنے کے لئے اسی کو پکارا جاتا ہے: ”و ان یمسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو“ (پ ۷، الانعام: ۱۷) اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔“

اے بندو! تمہارا ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے، تمہارا رزق اسی کے ذمہ ہے، وہ تمہیں کافی ہے اور وہی تمہارا پروردگار ہے: ”ذلکم اللہ ربکم ؕ لا الہ الا هو“ (پ ۷، الانعام: ۱۰۲) یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔“..... پھر یہی زمینوں کی چمک اللہ عزوجل کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں اور اس کی یکتائی پر نشانیاں قائم ہیں: ”و الہکم الہ واحد ؕ لا الہ الا هو“ (پ ۲، البقرہ: ۱۶۳) اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“..... سرکش اور گمراہ لوگ اللہ عزوجل کے وجود کا انکار کیونکر کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عزوجل کی وحدانیت کو کیسے جھٹلایا جاسکتا ہے یا کیسے اس کی یکتائی کا انکار کیا جاسکتا؟ جبکہ وہ فرما رہا ہے: ”شہد اللہ انہ لا الہ الا هو“ (پ ۳، ال عمران: ۶) وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔“..... وہی عیبوں کو چھپانے والا اور کمزوروں پر رحم فرمانے والا اور ”وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا هو“ (پ ۷، الانعام: ۵۹) اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہ جانتا ہے۔“..... تو وہ کیوں اس کی بخشش نہ فرمائے جو اس کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ اس لئے کہ اس کی یہ شان ہے: ”غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب لا ذی الطول“ (پ ۲۳، المؤمن: ۳) گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“..... تو اے اللہ عزوجل کو ایک ماننے والے! باری تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کی تلوار سے اُن لوگوں کی گردنیں اڑا دے جو اس کو مخلوق جیسا بتاتے ہیں اور خود کو ان باتوں سے بچا جو وہ کہتے ہیں اور ”فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو“ (پ ۱۱، التوبہ: ۱۲۹) پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔“..... اللہ عزوجل کے اولیاء ہر وقت اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، وہ کسی وقت اس کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں نہ اس کے ذکر میں سستی کرتے ہیں جبکہ کفار کو یہ دشوار ہے (جسہی تو ایمان نہیں لاتے): ”فتعلی اللہ الملک

الحق لا اله الا هو ۴ (ب ۱۸، المؤمنون: ۱۱۶) تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے۔ ”..... تو اے بندے! تیرا دھوکے باز دشمن شیطان تجھے دھوکا نہ دے دے، اور تو کسی کفر پر ڈٹ نہ جانا اور دنیا کی زیادہ طلبی میں پڑ کر فخر و تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا اور: ”ولا تدع مع الله الها اخر ۵ لا اله الا هو ۶ (ب ۲۰، القصص: ۸۸) اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔“ یہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

آیت کا نزول ہوا اور تین سو ساٹھ بت گر گئے

ذرے ذرے سے نمودار ہے قدرت تیری
آتا نہیں نظر مگر موجود ہر جگہ
ظلمت شب پھاڑ کر پیدا کرے نوری سحر
مومن و منکر کی رازق ہے الہی تیری ذات
خوب ہے ارشاد یہ لا تقنطوا ترا
حق تیری ثناؤں کے بھلا کیسے ادا ہوں
ماورئی اذہان سے یا رب وسعت تیری
چشم بینا کو ہے دید کی دعوت تیری
ہے سحر میں دیدنی یا رب جلوت تیری
نسلِ آدم کے لئے بے حد عنایت تیری
کاش ساجد پہ بھی ہو روزِ حشر رحمت تیری
بن مصطفیٰ ہے کون جو یارب کرے مدحت تیری

شهد الله انه لا اله الا هو ۷ والملكه واولوا لعلم قائما ۸ بالقسط ۹ لا اله الا هو العزيز الحكيم ۱۰

ان الدين عند الله الاسلام ۱۱ (ب ۳، آل عمران: ۱۸، ۱۹)

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔

حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ (360) بت تھے، جب مذکورہ آیت مبارکہ نازل

ہوئی تو تمام بت سجدہ ریز ہو گئے۔“ (تفسیر القرطبی، سورۃ آل عمران، تحت الآیۃ ۱۸، ج ۲، الجزء الرابع، ص ۳۳)

حضرت سیدنا ابن کیسان علیہ الرحمۃ سے منقول ہے: ”اللہ عزوجل نے اپنی عجیب تدبیر، پختہ صناعیت اور محکم امور سے خود اپنے

لئے اپنی مخلوق کے سامنے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

(تفسیر زاد المسیر لابن الجوزی، سورۃ آل عمران، تحت الآیۃ ۱۸، ج ۱، ص ۳۱۱)

حضرت سیدنا غالب قطان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ایک دفعہ میں نے تجارت کی غرض سے کوفہ میں حضرت سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے

قریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک رات جب میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا تو وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھے تھے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے:

”شهد الله انه لا اله الا هو ۷ والملكه واولوا لعلم قائما ۸ بالقسط ۹ لا اله الا هو العزيز الحكيم ۱۰ ان الدين

عند الله الاسلام ۱۱“ تو کہنے لگے: ”میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ عزوجل نے گواہی دی، اور اس گواہی کو اللہ

عزوجل کے سپرد کرتا ہوں، یہ اللہ عزوجل کے پاس میری امانت ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت طیبہ کو کئی بار دہرایا۔ میں نے دل

میں سوچا کہ ضرور اس کے متعلق انہوں نے کچھ سن رکھا ہے۔ چنانچہ، میں نے ان کے ساتھ مل کر نماز ادا کی اور رخصت ہوتے وقت

عرض کی: ”میں نے آپ کو یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتے سنا ہے، کیا آپ نے اس کے متعلق کوئی (فضیلت) سنی ہے؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں ایک سال تک نہیں بتاؤں گا۔“

چنانچہ، میں نے ان کے دروازے پر وہ دن لکھ دیا اور سال گزرنے کی انتظار کرنے لگا، سال گزرنے پر میں نے عرض کی: ”اے ابو محمد! سال گزر چکا ہے۔“ تو ارشاد فرمایا: ”مجھے حضرت سیدنا ابووائل رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کر کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا لایا جائے گا تو اللہ عزوجل فرمائے گا: ”میرے اس بندے کا میرے پاس عہد ہے اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے کا حق دار ہوں، (اے فرشتو!) میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔“ (المعجم الکبیر الحدیث ۱۰۴۵۳، ج ۱۰، ص ۱۹۹)

منقول ہے: ”جس نے سوتے وقت مذکورہ آیت مبارکہ پڑھی اللہ عزوجل اس سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت اس (پڑھنے والے) کے لئے استغفار کرتا رہے گا۔“ (تفسیر القرطبی، سورۃ آل عمران، تحت الآیہ ۱۸، ج ۲، الجزء الرابع، ص ۳۳)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ عزوجل کے اس فرماں عالی شان ”غافر الذنب وقابل التوب (پ ۲۴، المؤمن: ۳)“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”اللہ عزوجل اس کے گناہ بخشے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے جو اس کی وحدانیت کی گواہی دے۔“ اور ”شدید العقاب (پ ۲۴، غافر: ۳)“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس شخص کو سخت عذاب دینے والا ہے جو اس کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔“

کلمہ توحید پر ایک حدیث بے مثل سند کے ساتھ

قال الامام علی رضا حدثنی ابی موسیٰ کاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال: حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حدثنی جبرئیل قال: سمعت رب العزۃ یقول: لا الہ الا اللہ حصنی، فمن قال دخل حصنی، ومن دخل حصنی امن من عذابی .

”سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ امام موسیٰ کاظم وہ امام جعفر صادق وہ امام محمد باقر وہ امام زین العابدین وہ امام حسین وہ (اپنے والد ماجد) علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی کہ ان سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: کہ میں نے اللہ عزوجل کو فرماتے سنا، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جس نے اسے کہا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا اور جو میرے قلعہ میں داخل

ہو میرے عذاب سے امان میں رہا۔“ (الصواعق المحرقة لابن حجر المکی، حلیۃ الاولیاء لابی نعیم، ۹۲۱/۳)

اس حدیث پاک کی سند کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

امام ابن حجر مکی علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کی روایت و سند کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا کہ جب امام علی رضی اللہ عنہ نیشاپور میں تشریف لائے چہرہ مبارک کے سامنے ایک پردہ تھا، حافظان حدیث امام ابو زرہ رازی۔ امام محمد بن اسلم طوسی اور ان کے ساتھ

بیشتر طالبان علم حدیث حاضر خدمت انور ہوئے اور گڑگڑا کر عرض کی: کہ اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے اور اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے بیان فرمائیے۔ امام نے سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا کہ پردہ ہٹالیں۔ خلق کی آنکھیں جمال مبارک سے ٹھنڈی ہوئیں۔ دو گیسو شانے پر لٹک رہے تھے۔ پردہ ہٹتے ہی خلق کی یہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا ہے۔ کوئی خاک پر لوٹتا ہے۔ کوئی روتا ہے۔ کوئی سواری مقدس کا سم چومتا ہے۔ اتنے میں علماء نے آواز دی خاموش۔ سب لوگ خاموش ہو رہے۔ لوگوں نے امام مذکور سے حضور ﷺ سے کوئی حدیث روایت کرنے کو عرض کی تو یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضور رواں ہوئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا۔ دو اتوں والے جو ارشاد مبارک لکھ رہے تھے شمار کئے گئے تو بیس ہزار سے زائد تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لو قرات هذا الاسناد علی مجنون لبرا من جنتہ۔

یہ مبارک سند اگر مجنون پر پڑھو تو ضرور اسے جنون سے شفا ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے نام تحصیل نفع و دفع ضرر اور آگ بجھانے کے واسطے ہیں۔ ایک پارچہ میں لکھ کر بیچ آگ میں ڈال دیں اور بچہ روتا ہو تو لکھ کر گہوارے میں اس کے سر کے نیچے رکھ دیں اور کھیتی کی حفاظت کے لئے کاغذ پر لکھ کر بیچ کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اس پر باندھیں اور رگیں ٹپکنے اور تجارتی درد اور حصول تو نگری و وجاہت اور سلاطین کے پاس جانے کے لئے داہنی ران پر باندھیں اور دشواری و ولادت کے لئے عورت کی بائیں ران پر نیز حفاظت مال اور دریا کی سواری اور قتل سے نجات کے لئے۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں فی الواقع جب اسمائے اصحاب کہف قدست اسرار ہم میں وہ برکات ہیں حالانکہ وہ اولیائے عیسوین میں سے ہیں تو اولیائے محمدین صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین کا کیا کہنا۔ ان کے اسمائے کرام کی برکت کیا شمار میں آسکے۔ اے شخص تو نہیں جانتا کہ نام کیا ہے۔ مسی کے انجائے وجود سے ایک نحو ہے۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ علماء نے فرمایا: کہ وجود شئی کی چار صورتیں ہیں۔ وجود اعیان میں۔ علم میں۔ تلفظ میں۔ کتابت میں تو ان دو شق اخیر میں۔ وجود دائم ہی کو وجود مسمی قرار دیا ہے، بلکہ کتب عقائد میں لکھتے ہیں۔ الاسم عین المسمی۔ نام عین مسمی ہے۔ امام رازی نے فرمایا۔ المشہور عن اصحابنا ان الاسم هو المسمی۔ مقصود اتنا ہے کہ نام کا مسمی سے اختصاص کپڑوں کے اختصاص سے زائد ہے اور نام کی مسمی پر دلالت تراشہ ناخن کی دلالت سے افزوں ہے تو خالی اسماء ہی ایک اعلیٰ ذریعہ تبرک و توسل ہوتے نہ کہ اسمی سلاسل علیہ کہ اسناد اتصال محبوب ذوالجلال و حضرت عزت و جلال ہیں۔ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ و محبوب و اولیاء کے سلسلہ کرام و کرامت میں انسلاک کی سند، تو شجرہ طیبہ سے بڑھ کر اور کیا ذریعہ توسل چاہئے۔ (فتاویٰ رضویہ ۱۳۷/۲)

کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پاس رب کا عہد ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے: لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہداً (پ ۱۶، نحریم: ۸۷)

لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے پاس قرار رکھا ہے۔

مفسر قرآن، حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ الرحمۃ، اس آیت کے تحت عہد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے

فرمائے ہیں:

”حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ علیہم الرضوان سے فرمایا: ”کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام رب عزوجل کے پاس ایک عہد لو؟“ عرض کی: ”وہ کس طرح؟“ فرمایا: ”صبح و شام یہ کہو!

”اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انى اعهد اليك فى هذه الحيوۃ بانى اشهد ان لا اله الا انت لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلى الى نفسى فانك ان تكلى الى نفسى تباعدنى من الخير وتقربنى الى الشر وانى لا اثق الا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا توفينىه يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد“

(اے اللہ عزوجل! اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! اے پوشیدہ و ظاہر کو جاننے والے! میں تیرے پاس اس زندگی میں ایک عہد رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بندے اور رسول ہیں۔ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو وہ مجھے بھلائی سے دور اور برائی کے قریب کر دے گا۔ میں تیری رحمت کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا، میرے اس اقرار کو بطور عہد نامہ محفوظ فرما اور قیامت کے دن مجھے پورا بدلہ عطا فرما۔ بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔) جو یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھے گا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ عزوجل کے پاس عہد ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔“

(تفسیر قرطبی، سورۃ مریم، تحت الآیۃ: ۸۷، ج ۶، ص ۶۳)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”عہد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

(المعجم الاوسط، الحدیث ۹۳۸۱، ج ۶، ص ۴۸۱، راوی ابن عمر، الاسماء والصفات للبيهقي، باب ما جاء فى فضل

الكلمة، الحدیث ۲۰۵، ج ۱، ص ۲۱۹)

فرمان باری تعالیٰ ہے: **و الزمهم كلمة التقوى** (پ ۲۶، الفتح: ۲۶) ترجمہ: اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا۔

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: ”کلمة التقوى“ سے مراد لا اله الا الله کہنا ہے۔“

(المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الفتح، باب كلمة التقوى، الخ الحدیث ۳۷۶۹، ج ۳، ص ۲۶۱)

فرمان باری تعالیٰ ہے: ”اليه بصعد الكلم الطيب“ (پ ۲۲، فاطر: ۱۰) اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔“ ”الكلم

الطيب“ سے مراد لا اله الا الله کہنا ہے۔

ایک نیکی کے ملیں ڈھیروں ثواب

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ج (پ ۸، الانعام: ۱۶۰) جو ایک نیکی لائے تو اس کے لئے اس جیسی دس ہیں۔

یہاں ”الحسنة“ سے مراد لا اله الا الله کہنا ہے۔

صدرالافاضل، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی ایک نیکی کرنے والے کو دس نیکیوں کی جزا اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقہ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے۔ ایک کے سات سو کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض فضل ہے۔ یہی مذہب ہے اہل سنت کا اور بدی کی اتنی ہی جزا، یہ عدل ہے۔“

بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”کلمہ طیبہ ایک مضبوط زرہ اور محفوظ قلعہ ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت میں ہو گیا۔ اس لئے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے: لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اپنے رب عزوجل کی عظمت و بزرگی بیان کرو کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جو میرے قلعے میں داخل ہو وہ

میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔“ (احیاء علوم الدین، کتاب اسرار الصلاة، باب ثالث، بیان تفصیل ما..... الخ، ج ۱، ص ۲۳۷)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اگر گنہگاروں کو معلوم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا اجر ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کریں۔ دن رات میں چوبیس (۲۴) گھنٹے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حروف بھی چوبیس ہیں، ہر حرف ایک گھنٹے کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔“

منقول ہے: ”جب بندہ دن یا رات کے کسی لمحے میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جو خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔“

(مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند انس بن مالک، الحدیث ۳۵۹۹، ج ۳، ص ۲۷۲)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سب سے افضل بات جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کہی وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔“

(الموطا للامام مالک، کتاب القرآن، باب ما جاء فی الدعاء، الحدیث ۵۰۹، ج ۱، ص ۲۰۳)

حضور ﷺ کا فرمانِ حقیقت نشان ہے: ”مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان

لے آئیں۔“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس..... الخ، الحدیث ۲۱، ج ۲۸۲)

یہ الفاظ پڑھنے والوں پہ قبر و حشر میں وحشت نہ ہوگی

کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے	کون جانے کہاں کہاں تو ہے
لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری	یہ بھی ظاہر ہے بے نشان تو ہے
سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے	کس قدر ہم پہ مہربان تو ہے
کیا ٹھکانہ ہے ”رحمتوں“ کا تیری	بحر عرفاں و بے کراں تو ہے
تو درخشاں ہے مہر و انجم میں	تابش روح و کپکشاں تو ہے
اک تیری ذات لائقِ سجدہ	ایک معبود دو جہاں تو ہے
حمد میں تیری کیا کہے نیز	لائقِ بزم دو جہاں تو ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے زندہ اٹھنے میں اور نہ ہی قیامت میں۔ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں، جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے: ”الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن، انا ربنا لغفور شکور سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قبول کرنے والا ہے۔“

(تاریخ بغداد، الرقم ۵۳۸۰ عبد الرحمن بن واقد، ج ۱۰، ص ۲۶۳، احیاء علوم الدین، کتاب الاذکار والدعوات، باب اول،

فضیلة التہلیل، ج ۱، ص ۳۹۳، المعجم الاوسط، الحدیث ۹۳۷۸، ج ۶، ص ۳۸۰)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی: ”کون سا عمل سب سے افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”مرتے وقت تیری زبان اللہ عزوجل کے ذکر سے تر ہو۔“ (الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، باب الاذکار، الحدیث ۸۱۵، ج ۲، ص ۹۳)

اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: ”کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔“

(فردوس الاخیار للذہبی، باب الباء، الحدیث ۸۱۱۵، ج ۲، ص ۳۶۰)

معزز قارئین: مؤمنین سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ عزوجل نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی محبت اور اپنا فرمانبردار ہونا ان کے لئے مقدر فرمادیا تھا تو وہ وہی (عطائی) ولایت سے اللہ عزوجل کے ولی بن گئے۔ یقیناً آیات طیبات میں ان کی مدح فرمائی گئی ہے۔ ”چنانچہ، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

یحبہم ویحبونہ (پ ۶، المائدہ: ۵۴) وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔

لا الہ الا اللہ کی برکت

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها امانة الا ذی عن الطریق والحباء شعبۃ من الایمان

ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کرنا ہے اور حباء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے (متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔

بخاری شریف، کتاب الایمان، باب امور الایمان ۱۲/۱، نمبر ۹)

یہ کلمہ نبی ہے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے

کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتا

ہے۔ (الموسوعة لمام ابن ابی الدنیا، کتاب المحتضرين، الحدیث ۳/۲، ج ۵، ص ۳۰۳)
حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

(سنن ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب فی التلقین، الحدیث ۳۱۱۶، ص ۱۴۵۸)

حضرت سیدنا صاحبِ نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حالتِ نزع میں ان کے پاس حاضر تھا۔ (ان کی حالت دیکھ کر) میں رونے لگا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”چپ ہو جائیے، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ عزوجل کی قسم! اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، اگر مجھ سے شفاعت کا کہا گیا تو میں آپ کی شفاعت کروں گا، اگر مجھ سے ہوسکا تو آپ کو ہر قسم کا نفع پہنچاؤں گا۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”قسم بخدا عزوجل! میں نے حضور رحمت عالم ﷺ سے سنی ہوئی تمام احادیث، جن میں آپ کے لئے بھلائی تھی، آپ کو بیان کر دی ہیں مگر ایک حدیث بیان نہیں کی، وہ آج بیان کر دیتا ہوں اور اسے میں نے اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے (پھر ارشاد فرمایا) میں نے تاجدار رسالت ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں تو اللہ عزوجل اس پر دوزخ کی آگ حرام فرمادیتا ہے۔“ (المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث عبادہ بن الصامت، الحدیث ۲۲۷۷۳، ج ۸، ص ۳۰۲)

چابی کے دندانوں کا ہونا بھی ضروری ہے

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا! کیا یہ حق نہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے؟ (پوچھنے والے کا مطلب یہ تھا کہ پھر باقی کسی چیز کی کیا ضرورت ہے: جیسے آج کل کے نام نہاد قلندر کہتے ہیں) فرمایا:

و لكن ليس مفتاح الاوله اسنان فان جنت بمفتاح له اسنان فتح لك والالم يفتح لك

(رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب ۱۰۹/۳)

ہاں ہاں: لیکن وہ کون سی چابی ہے جس کے دندانے نہ ہوں، اگر تو دندانوں والی چابی لائے گا تو تیرے لئے (جنت کا دروازہ)

کھلے گا ورنہ نہیں۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں

جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ آئے گا

☆ عن اسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى

الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم، فهز منا هم، ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم، فلما

غشينا قال: لا اله الا الله. فكف عنه الانصاري، وطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا،

بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا اسامة! اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال:

قلت: يا رسول الله؟ لما كان متعوذا، قال: فقال: اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال: فما زال

يكررها على حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم.

و فی روایة: فدعاه فساله، فقال: لم قتلته؟ قال: یا رسول الله! اوجع فی المسلمین، وقتل فلانا وفلانا، وسمی له نفرا۔ وانی حملت علیه، فلما رای السیف، قال: لا اله الا الله۔ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اقلته؟ قال: نعم: قال: فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القيامة؟ قال: یا رسول الله! استغفر لی۔ قال: وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القيامة؟ قال: فجعل لا یزیده علی ان یقول: كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القيامة؟

”حضرت أسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جہاد کے لئے حرقہ کی طرف روانہ کیا جو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست دے دی۔ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلہ کے ایک شخص کو گھیر لیا، جب ہم اس پر غالب آگئے تو اس نے کہا: لا اله الا الله۔ انصاری تو (اس کی زبان سے) کلمہ سن کر الگ ہو گیا لیکن میں نے نیزہ مار مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی اکرم ﷺ کو بھی اس واقعہ کی خبر ہو چکی تھی۔ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: اے اسامہ! تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر فرمایا: تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ حضور ﷺ بار بار یہ کلمات دہرا رہے تھے اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔“

”ایک اور روایت میں ہے: حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت أسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی، چند صحابہ کرام کا نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں کو اس نے شہید کیا ہے۔ میں نے اس پر حملہ کیا جب اس نے تلوار دیکھی تو فوراً کہا: لا اله الا الله۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم نے اسے قتل کر دیا؟ عرض کی: جی حضور! فرمایا: جب روز قیامت لا اله الا الله کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے استغفار کیجئے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: جب روز قیامت لا اله الا الله کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ حضور ﷺ بار بار یہی کلمات دہراتے رہے کہ جب قیامت کے دن لا اله الا الله کا کلمہ آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟“

(اخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب: المغازی، باب: بعث النبی صلی الله علیه وسلم اسامة بن زید الی الحرقات من

جہینة، ۱۵۵۵/۳، الرقم: ۴۰۲۱، وفی کتاب: الادیات، باب: قول الله تعالیٰ: ومن احیاهما، (المائدة: ۳۲)،

۲۵۱۹/۶، الرقم: ۶۲۷۸، ومسلم فی الصحيح، کتاب: الايمان، باب: تحريم قتل الکافر بعد ان قال: لا اله الا الله،

۹۷/۱، الرقم: ۹۳-۹۷، وابن مندة فی الايمان، ۲۰۸/۱، الرقم: ۲۱۰، الرقم: ۶۳-۶۵)

اگر چہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو

حضرت سیدنا ابوالاسود دؤلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ”میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ آرام فرما رہے تھے اور آپ ﷺ کے اوپر ایک سفید کپڑا تھا پھر دوسری بار حاضر ہوا تو بھی آپ ﷺ آرام فرما

رہے تھے۔ تیسری بار حاضر ہوا تو آپ ﷺ بیدار تھے۔ میں بیٹھ گیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے، پھر اسی حالت پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ میں نے عرض کی: ”اگر چہ وہ زانی اور چور ہو“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر چہ وہ زانی اور چور ہو۔“ میں نے پھر عرض کی: ”اگر چہ وہ زانی اور چور ہو۔“ ارشاد فرمایا: ”اگر چہ وہ زانی اور چور ہو۔“ چوتھی بار پوچھنے پر آپ ﷺ نے فرمایا: (اگر چہ) ”ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔“ (سرکار ﷺ نے یہ کلمہ ازراہ محبت فرمایا)۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حال میں وہاں سے نکلے کہ آپ کہہ رہے تھے: (اگر چہ) ابو ذر کی ناک آلود ہو۔“

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی من مات..... الخ، الحدیث ۹۳، ص ۲۹۳)

قبر و حشر کی وحشت کا علاج

☆ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس علی اهل لا الہ الا اللہ وحشة فی قبورہم ولا منشرہم وکانی انظر الی اهل لا الہ الا اللہ وہم ینفضون التراب عن رؤوسہم ویقولون . (الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن)

و فی روایة: لیس علی اهل لا الہ الا اللہ وحشة عن الموت ولا عند القبر .

”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ (کا ورد کرنے) والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی محشر میں۔ گویا میں لا الہ الا اللہ (کا ورد کرنے) والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ (قبروں سے اٹھتے ہوئے) اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمارے غم کو ختم کر دیا۔“

ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: ”لا الہ الا اللہ (کا ورد کرنے) والوں پر نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوتی ہے اور نہ ہی قبر میں۔“ (اخرجه الطبرانی فی المعجم الاوسط، ۱۸۱/۹، ۱۷۱، الرقم: ۹۳۷۸، ۹۳۳۵، والبیہقی فی

شعب الایمان، ۱۱۱/۱، الرقم: ۱۰۰، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۲۶۹/۲، الرقم: ۲۳۵۹)

دروازہ بند کر کے عطا کیا جانے والا وظیفہ

عن یعلیٰ بن شداد قال: حدثنی ابی شداد بن اوس وعبادة بن الصامت حاضر بصدقه قال: کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: هل فیکم غریب یعنی اهل الكتاب، قلنا: لا، یا رسول اللہ، فامر بغلق الباب وقال: ارفعوا ایدیکم وقولوا: لا الہ

الا اللہ . لرفعنا ایدینا ساعة ثم وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ ثم قال (الحمد لله، اللهم بعثنی بهذه الکلمة وامرنی بها ووعدنی علیها الجنة، وانک لا تخلف الميعاد) ثم قال: الا

ابشروا فان اللہ عزوجل قد غفر لکم

”حضرت یعلیٰ بن شداد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عباده بن صامت رضی اللہ عنہ کی موجودگی اور تصدیق کے ساتھ

میرے والد حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی: ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس موجود تھے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم میں کوئی غیر مذہب آدمی ہے؟ آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کوئی اہل کتاب ہے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو: "لا الہ الا اللہ" ہم نے پل بھر کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے، اے اللہ! تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس کا مجھے حکم دیا اور تو نے اس کے عوض مجھ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا پھر فرمایا: لوگو! تمہیں بشارت ہو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔"

(اخرجه احمد بن حنبل في المسند، ۱۲۳/۳، الرقم: ۱۷۶۲، والبزار في المسند، ۴۰۸/۸، الرقم: ۳۳۸۳، والطبرانی في المعجم الكبير، ۲۸۹/۷، الرقم: ۷۱۶۳)

کوئی طوفان غم میں نہیں ملتا

درد تسکین میں نہیں ڈھلتا

آرزو کا دیا نہیں جلتا

آستان حضور سے ہٹ کر

جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کے دل خدا کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی قدرت کے کمال کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ دلوں کو راحت و فرحت نہ سیر گا ہوں سے میسر ہوتی ہے نہ موسم کی تبدیلیوں سے، نہ قیمتی گاڑیوں سے نہ کوٹھیوں بنگلوں سے نہ کھیل کود سے نہ اپنی مرضی و منشا کی زندگی گزارنے سے۔

اگر دلوں کا چین و قرار تلاش کرنا ہے تو پھر خدا کو شب و روز یاد کرو۔ آئیے قرآن حکیم میں اللہ کے اس ارشاد گرامی کو پڑھتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ الا بذكر الله تطمئن القلوب ○ ”سن لو اللہ کی یاد سے ہی (ایمان والوں کے) دل اطمینان و سکون پاتے ہیں۔“ (سورۃ الزعد آیت نمبر ۲۸)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اگر یوں اعتراض کیا جائے کہ سورۃ انفال میں اللہ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبہم (انفال: ۲) ”مومن ہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں“ اور سورۃ الرعد میں فرمان خداوندی ہے، الا بذكر الله تطمئن القلوب ○ ”سن لو اللہ کی یاد سے ہی (ایمان والوں کے) دل اطمینان و سکون پاتے ہیں۔“ تو تعارض واقع ہوا؟ اس تعارض و اشکال کو ہم مختلف وجوہ سے زائل کرتے ہیں۔

(۱) ایمان والے جب قرآن مجید میں سزا و وعید کی آیات پڑھتے ہیں، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب اجر و ثواب دانی آیات پڑھتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔

(۲) اہل ایمان جب ایمانی کیفیت کی تحری کرتے ہیں، تو دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور جب اپنی عبادات کی کیفیات پر نظر کرتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عبادات کامل تر نہیں ہوتیں۔

(۳) جس وقت ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت میں غور و خوض کرتے ہیں تو دل اطمینان پاتے ہیں اور جب صفات قہر و غضب میں غور و فکر کرتے ہیں تو دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔

(۴) جب ایمان والے اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دل میں خوف آ جاتا ہے اور جب اللہ کی مغفرت کی وسعت اور رحمت خداوندی پر نظر ڈالتے ہیں تو خوش و مطمئن ہوتے ہیں۔ (تبیان القرآن جلد ۶ ص ۹۵)

امام ابوالشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو رسول خدا ﷺ نے اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جن کے دل مطمئن ہیں) صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔

امام ابن مردویہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا کریم ﷺ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے میرے اہل بیت سے اور مسلمانوں سے سچی محبت رکھتے ہیں خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب سنو اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ (الدر المنثور جلد ۲، ص ۲۴۶)

قلب کی اقسام:

قلب کی چار قسمیں ہیں:

(۱) قلب قاس (کھوٹا دل)

(۲) قلب ناس (بھولنے والا دل)

(۳) قلب مشتاق

(۴) قلب وجدانی

قلب قاس:

یعنی کھوٹا دل، یہ کافروں اور منافقوں کو ملا اور یہ لوگ صرف دنیا اور اس کی خواہشات سے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا رضو اباً لِحیوة الدنیا واطمانوا بہا۔ یہ لوگ دنیا پر خوش اور اسی سے مطمئن ہیں۔

قلب ناس:

یعنی بھولنے والا دل۔ یہ دل مسلمان گنہگار کو نصیب ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وہ بھولا اور ہم نے اس کا عزم نہ پایا۔ اس کا اطمینان بصورت توبہ اور اللہ کی طرف رجوع سے ہوتا ہے اس لئے فرمایا فَنَسِیَ وَهَدَىٰ بِسُورَةِ تَوْبَةٍ قبول کر کے اس کو ہدایت دی۔

قلب مشتاق:

یہ دل مومن مطیع کو نصیب ہوا اور اس کو خدا کے ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

الدِّينَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ۔

قلب وجدانی:

یہ قلب حضرات انبیائے کرام اور خواص اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کا سکون و سرور، چین و قرار ذات الہی اور اس کی صفات لا متناہی سے ہے جس طرح حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کی کیف تحی الموتی اللہ کریم تو مردے کس طرح زندہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تمہیں ایمان نہیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کی بلی ولكن یطمئن قلبی ایمان ہے لیکن تو جب خود مجھے احیاء الموتی (مردے کو زندہ کرنے) کی کیفیت دکھائے گا اور صفت محی (زندہ کرنے والا) کی تجلی میرے دل پر ڈالے گا تو میں مطمئن ہو کر تیری ذات کے واسطے سے محی الموتی (مردوں کو زندہ کرنے والا) ہو جاؤں گا۔ (روح البیان ۱۳، ص ۶۳۵)

یہی وجہ ہے کہ جب کسی خاص بندے کے دل پر خداوند قدوس تجلی ڈالتا ہے تو اس سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے دل کے شیشے سے نور اطمینان اس کے نفس پر منعکس ہوتا ہے اور پھر اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اسی برکت سے جذبات عنایہ یعنی ارجعی الی ربک (اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ) کے خطاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (تفسیر روح البیان جلد ۱۳، ص ۶۳۶)

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان جو قریب المرگ تھا، رسول خدا ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا تجھے اپنے دل کی کیفیت کیا محسوس ہوتی ہے عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی خوف ہے اس وقت احمد مصطفیٰ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ایسے موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کی امید و منشاء کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جس سے وہ خوف کرتا ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

خالق تو کائنات کا، رازق تو کردگار
سینوں کے خاص راز بھی تجھ پہ ہیں آشکار
تیری نگارشات سے ہمیں دعوت دیدار
ساجد کے فہم سے وراء تیرے ہیں سارے کار

تیرے ہی لطف و کرم سے ہر طرف ہے بہار
تیرا علم ہے بیکراں ہر چیز پہ محیط
تیری عنایتوں سے زینت چمن کی ہے
فی احسن تقویم پہ پیدا کیا انسان

ذکر کا معنی کیا ہے؟

ذکر کا معنی ہے یاد تو جس چیز سے رب تعالیٰ کی یاد آ جائے وہی ذکر اللہ ہے خیال رہے کہ سب سے پہلے ذکر اللہ، چہرہ مصطفیٰ ﷺ ہے پھر قرآن مجید پھر حدیث پاک پھر نماز پھر روزہ پھر ذکر و اذکار تحمید و تسبیح پھر مراقبہ پھر مکاشفہ۔ جس عبادت میں رب تعالیٰ یاد نہ آئے وہ عبادت بھی ذکر اللہ نہیں۔ مجالس اولیاء و علماء و صالحین، زاہدین، عاشقین بھی ذکر اللہ ہیں۔ یاد رہے! اطمینان کامل دل و دماغ کی آٹھ حالتوں کا نام ہے۔

(۱) اللہ پر کھل بھروسہ

(۲) دنیا سے بے پرواہی

(۳) عبادت میں لذت

(۴) وسواس شیطانی سے نجات

(۵) اولیاء اللہ سے محبت

(۶) پریشانیوں، الجھنوں سے دوری

(۷) دامنِ مصطفیٰ ﷺ کا قرب (۸) اطمینانِ رب کی طرف سے اور بے اطمینانی شیطان کی طرف سے سمجھے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا:

الذین امنوا وعملوا الصلحت طوبیٰ لهم وحسن مآب ○
وہ لوگ جو سچے پکے مسلمان بن گئے اور اپنی ساری زندگی میں نیکیوں والے ہی عمل کئے ان کے لئے طوبیٰ ہے اور اچھا انجام ہے۔

طوبیٰ ایک درخت ہے جو آقا کریم ﷺ کے جنتی گھر میں اگا ہوا ہے اس کی شاخیں قدرتِ الہیہ سے جنت کے ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا اس کے سایہ میں ایک طرف سے دوڑے تو سو (۱۰۰) سال تک بھی دوسرے کنارے نہ پہنچ سکے دنیا و آخرت کے تمام پھول، پھل تمام خوشبوئیں تمام رنگ اس میں موجود ہیں اس کی جڑ سے کافور اور سبیل اور تمام نہریں (دودھ، شہد کی) جاری ہیں اس کو رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اُگایا اور اپنی روح پھونکی اس میں جنتی کی ہر خواہش کی نعمت موجود ہوگی زیور کپڑے بھی اس کا پھل، انگور کا ایک دانہ منگے کے برابر ہے دنیا کا کوئی درخت اور جنت کا کوئی درخت اس کے مشابہ نہیں ہے۔
(تفسیر نعیمی پ ۱۳، سورۃ الرعد ۲۲۹)

نہیں ممکن بیاں لفظوں میں ہو تیری ثنا مولا
تیری رحمت سے بہرہ ور ہوا ہر ایک دنیا میں
تجھے ہم بھول بھی جائیں نہ تو بھولے مگر ہم کو
جہاں والوں کو جب سارے سہارے چھوڑ جاتے ہیں
مجھے گرمی محشر سے بچانا در گزر کرنا
ہے تو واحد احد یکتا دو عالم کا خدا مولا
تیرا جاری وساری ہے کرم صبح و مسامولا
کوئی ایسا نہیں جس پہ نہ ہو تیری عطا مولا
تو پھر اس وقت کام آئے تیرا اک آسرا مولا
ہے ناصر کی تیرے دربار میں یہ التجا مولا

موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہِ خداوندی میں عرض:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی:

”یا رب ما الشکر الذی ینبغی لک اے اللہ کون سا شکر ہے جو تیری شان کے لائق ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
اے موسیٰ ”لا یزال لسانک رطبا من ذکر۔ یہ کہ تیری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔“

(اخرجه ابن ابی شیبہ فی المصنف، ۴۳/۷، ۳۲۲۸۸، وابن المبارک فی کتاب الزهد، ۲۸۰، وابن ابی الدنیا فی الشکر، ۱۸،

الرقم: ۳۹ والبیہقی فی شعب الایمان، ۱۰۳/۳، الرقم: ۴۴۲۸)

☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

علیکم بذكر الله فانه شفاء وایاکم و ذکر الناس فانه داء۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکرو کیونکہ یہ شفا ہے اور لوگوں

کے ذکر سے بچو کیونکہ یہ بیماری ہے (اخرجه احمد بن حنبل فی الزهد: ۱۷۹)

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله . افضل ذكر لا اله الا الله ہے اور بہترین دعا الحمد لله

ہے (ترمذی ۴۲۲/۵، ۴۳۸۴)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سبحان الله وبحمده پڑھتا ہے حطت خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر۔ اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

(بخاری، ۳۳۵/۵، ۶۰۳۲، مسلم ۲۰۷۱/۳، رقم: ۲۶۹۱)

ہر وقت دل میں رہے یاد الہی
مغلوب نہ ہو جاؤں کہیں نفس کے ہاتھوں
دل میں ہے تیرے دین کی خدمت کی تمنا
بس لاج سر حشر گناہ گار کی رکھنا
ہر شعر سے مطلوب فقط تیری رضا ہو
آباء کو مرے بخش دے اے بخشنے والے
یہ شہر ہمیشہ رہے آباد الہی
ہر حال میں درکار ہے امداد الہی
مقصود نہیں مسد ارشاد الہی
ہو جائے نہ محنت کہیں برباد الہی
مٹ جائے دلوں سے ہوسِ داد الہی
قائم رہے دیں پر مری اولاد الہی

دس لاکھ نیکیاں، دس لاکھ گناہ معاف دس لاکھ درجے بلند

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جو بازار میں داخل ہو اور بلند آواز سے یہ کلمات کہے: ”لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي دائم لا يموت بئس الخیر والیہ المصیر وهو علی کل شیء قدیر تو اللہ عزوجل اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے دس لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے اور دس لاکھ درجات بلند فرما دیتا ہے۔“

(جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا دخل السوق، الحدیث ۳۳۲۸، ص ۲۰۰۵)

جب حضرت سیدنا قتیبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پاک سنی تو روزانہ اپنی سواری پر سوار ہو کر بازار جاتے اور یہ حدیث پاک بیان کر کے لوٹ آتے، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ وہاں کے امیر تھے۔

(الاحادیث المختارة، مسند عمر فاروق رضی اللہ عنہ، الحدیث ۱۸۷، ج ۱، ص ۲۹۷)

دیکھو! ان اہل توحید و رسالت کا کردار! شرم و حیا ان کو اللہ عزوجل کا ذکر پھیلانے سے نہ روکتی تھی اور یہ لوگ تمام مخلوق کے سامنے اللہ عزوجل کی پاکی بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے: ”فاذکرونی اذکرکم (بقرہ: ۱۵۲) تم میری یاد کرو میں تمہارا چہ چا کروں گا۔“

☆ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے روزانہ سو بار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر کہا تو یہ اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے،

اس کے لئے سونکیاں لکھی جائیں گی اور سو گناہ معاف ہوں گے، اس دن شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی اور اس سے افضل کسی کا عمل نہ ہوگا مگر اسی شخص کا جو اس سے زیادہ عمل کرے۔“

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل التہلیل، الحدیث ۶۳۰۳، ص ۵۳۸)

☆ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے دس بار لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير کہا وہ ایسا ہے جیسے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے چار جانوں کو آزاد کیا۔ (صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل التہلیل، الحدیث ۶۳۰۳، ص ۵۳۸)

☆ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اپنے مُردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور انہیں جنت کی بشارت دو کیونکہ دانا اور باخبر مرد و عورت اس کلمہ کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔“ (صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب تلقین الموت..... الخ، الحدیث ۹۱۶، ص ۸۲۱،

موسوعة للإمام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب خوف من اللہ، الحدیث ۱۶۹، ج ۵، ص ۴۴۶)

اے مسلمان بھائیو! اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے۔ دیکھو تو سہی! کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کتنا عظیم الشان ہے اور اللہ عزوجل کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے۔ اس کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ اجر کثیر پاؤ، اس سے ثواب کامل اور اجر وافر ملتا ہے۔ مؤمن، کافر سے ممتاز ہو جاتا ہے اور جو بندہ مؤذن کی آواز کو سنے اور جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہے اور جب مؤذن کہے، لا الہ الا اللہ تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے اور پھر تبرکاً اپنے چہرے اور داڑھی پر ہاتھ پھیر لے تو اللہ عزوجل اس کے ہر اس بال کے عوض جس کو اس کے ہاتھ نے چھوا ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ (الروض)

ایک صحابی رسول ﷺ کا فرمان ہے: ”جس نے لا الہ الا اللہ کی تعظیم کی خاطر اسے بلند آواز سے کہا اللہ عزوجل اس کے چار ہزار گناہ معاف فرمادے گا۔“ اور یہ بھی منقول ہے: ”اگر اس کے چار ہزار گناہ نہ ہوں تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں کے گناہ معاف فرمادے گا۔“ (فردوس الاخبار للدیلمی، باب المیم، الحدیث ۵۵۱۱، ج ۲، ص ۲۳۳)

کاغذ کا ایک پرزہ ننانوے رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گا

”قیامت کے دن ایک شخص کو میزان پر لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے (۹۹) رجسٹر نکالے جائیں گے جن میں سے ہر رجسٹر پر اس کے گناہ درج ہوں گے اور وہ رجسٹر تا حد نگاہ وسیع ہوں گے، ان کو میزان میں رکھا جائے گا پھر انگلی کے پورے جتنا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی لکھی ہوگی۔ جب اس ٹکڑے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ گناہوں پر غالب آ جائے گا اور اللہ عزوجل محض اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اس کو معاف فرما کر جنت میں لے جانے کا حکم فرمادے گا۔“ (تفسیر الطبری، سورۃ الاعراف، تحت الآیة ۸، الحدیث

۱۳۳۴، ج ۵، ص ۴۳۳، فردوس الاخبار للدیلمی، باب الباء، الحدیث ۸۳۷۲، ج ۲، ص ۴۹۸)

تفصیلی واقعہ ترمذی ابن ماجہ اور دیگر کتب کے حوالے سے ملاحظہ ہو۔

☆ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

ان الله سيخلص رجلا من امتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا، يا رب، فيقول: افلك عذر؟ فيقول: لا، يا رب، فيقول: بلى، ان لك عندنا حسنة فانه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: انك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء.

”حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو چن کر الگ کر دے گا پھر اس کے سامنے گناہوں کے ننانوے دفتر کھولے جائیں گے ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے (وہی نظر آئے گا)، پھر فرمائے گا: کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا: نہیں، میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! نہیں، (کوئی عذر نہیں ہے۔) اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میزان کے پاس حاضر ہو جا۔ وہ عرض کرے گا: اے اللہ! ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں: پھر ایک پلڑے میں ننانوے دفتر (گناہوں کے) رکھے جائیں گے اور ایک میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ دفتروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا جبکہ کاغذ (کا پلڑا) بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔“

(اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب: الايمان، باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد ان لا اله الا الله، ۲۳/۵، الرقم: ۲۶۳۹،

وابن ماجه فی السنن، کتاب: الزهد، باب: ما يرجی من رحمة الله يوم القيامة، ۱۴۳۷/۲، الرقم: ۴۳۰۰، واحمد بن حنبل فی

المسند، ۲/۲۱۳، الرقم: ۶۹۹۳، وابن حبان فی الصحيح، ۱/۴۶۱، الرقم: ۲۲۵، والحاكم فی المستدرک ۱/۴۶، الرقم: ۹)

ہے خوار و زبوں سرور کونین کی امت
تو ارض و سماوات کا خالق ہے خدایا
تخلیق تو تو نے ہی کیے ہیں یہ عناصر
کھاتے میں ترا رزق سبھی کافر و مسلم
حق تیری عبادت کا ادا ہو نہیں سکتا
فریاد ہے فریاد ہے فریاد الہی
یہ دشت و جبل ہیں تیری ایجاد الہی
انسان تو ہے مجموعہ اضداد الہی
تو مالک کل اجود اجواد الہی
جتنی بھی عبادت کرے شہزاد الہی

(محمد شہزاد احمد مجددی)

فضائل ذکر الہی اور فرمان نبوی

یا رب تیری وہ فیض رسا ہے درگاہ پھرتا نہیں محروم کوئی حاجت خواہ
غیروں سے کروں عرض تیرے ہوتے لاحول ولا قوۃ الا باللہ

عن ام المؤمنین عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه .

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اپنے جمیع اوقات میں ذکر الہی فرماتے تھے۔ (الجامع للترمذی، باب ما جاء ان دعوة المسلم، مستجابة، ۱۷۴/۲، الصحيح لمسلم، ۱۳۹۰، باب ذکر الله تعالى في حال الجنابة، ۱۶۲/۱، السنن لابی داؤد، باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهارة ۳/۱، السنن لابن ماجه، ۲۶/۱، المسند لاحمد بن حنبل، ۱۳۹/۳، السنن الكبرى للبيهقي، ۹۰/۱، الجامع الصغير للسيوطي، ۳۳۳/۲، تحاف السادة للزبيدي، ۲۸۷/۲، كنز العمال للمصطفى، ۱۷۹۸۰، ۶۵/۷، شرح السنة للبغوي، ۳۳/۲، التفسير للقرطبي، ۳۱۰/۳، المسند لابی عوانة ۲۱۷/۱)

☆ عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر، فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، هلموا الي حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا، قال: فيسئلهم ربهم، وهو اعلم منهم، ما يقول عبدي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول: هل راونى؟ قال: فيقولون: لا والله اماراوك، قال: فيقول: كيف لو راونى؟ قال: يقولون: لو راوك كانوا اشدك عبادة واشدك تمجيذا واكثر لك تسبيحا، قال: يقول: فما يسئلون؟ قالوا: يسئلونك الجنة، قال: يقول: وهل راوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب اما راوها، قال: يقول: فكيف لو انهم راوها؟ قال: يقولون: لو انهم راوها، كانوا اشد عليها حرصا واشد له طلبا واعظم فيها رغبة، قال: فما يتعوذون قال: يقولون: من النار، قال: يقول: وهل راوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب اما راوها، قال: يقول: فكيف لو راوها؟ قال: يقولون: لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخالفة، قال: فيقول: فاني اشهدكم اني قد غفرت لهم، قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى جلسهم .

(الجامع الصحيح للبخاري، باب فضل ذكر الله تعالى، ۹۴۸/۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گشت کرتے ہیں، جب کسی جماعت کو ذکر خدا میں مشغول پاتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے

ساتھیوں کو ندا کرتے ہیں کہ ادھر آؤ دیکھو یہ لوگ ذکر میں محو ہیں۔ ارشاد فرمایا: پھر وہ سب مل کر آسمان دنیا تک ان سب کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں: وہ تیری پاکی، بڑائی، خوبی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں: خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ عرض کرتے ہیں: اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت زیادہ عبادت کریں، بہت زیادہ بزرگی بیان کریں، اور بہت زیادہ پاکی بولیں۔ پھر فرماتا ہے: وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ فرماتا ہے: کیا انہوں نے جنت کا دیدار کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں: اے رب خدا کی قسم! اس کو تو نہیں دیکھا! فرماتا ہے: اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ عرض کرتے ہیں: اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی نہایت حرص، بہت زیادہ طلب اور بہت کچھ رغبت کریں۔ پھر فرماتا ہے: وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں دوزخ سے، فرماتا ہے: کیا انہوں نے اس کو ملاحظہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں: خدا کی قسم! اسے نہیں دیکھا۔ فرماتا ہے: اگر اسے دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ عرض کرتے ہیں: اگر اسے دیکھ لیں تو اس سے بھاگیں اور نہایت خوفزدہ ہوں۔ فرماتا ہے گواہ رہنا میں نے انہیں بخش دیا۔ یہ سن کر کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں: ان میں فلاں شخص تو اپنی کسی ذاتی غرض کے تحت آیا تھا فرماتا ہے۔ وہ ان ذاکرین و سامعین کا ہم نشین تھا اور ذاکرین کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔

سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ
رحمان وہی رازق ہے وہی
سبحان اللہ سبحان اللہ
معبود عرب معبود عجم
سبحان اللہ سبحان اللہ
حوروں کی ادا غلاموں کی دعا
سبحان اللہ سبحان اللہ
ہر بزم کا وہ موضوع سخن
سبحان اللہ سبحان اللہ
ہر سنگ و شجر ہر برگ و ثمر
سبحان اللہ سبحان اللہ

ہے رب کو بقا اور سب کو فنا
کرتے ہیں دو عالم اس کی ثنا
مالک ہے وہی خالق ہے وہی
ہر ایک کا ہے وہ عقدہ کشا
مقصودِ رسل مطلوبِ اُمم
روشن ہیں اسی سے ہر دوسرا
نبیوں کی ولا ولیوں کی صدا
از تحتِ شریٰ تا عرشِ علی
وہ نورِ زمن وہ حسنِ چمن
ہر رنگ میں ہے وہ جلوہ نما
یہ شام و سحر وہ شمس و قمر
ہر چیز ہے محو ذکرِ خدا

عظمت اس کی ہو کیسے بیاں عاجز ہے قلم، قاصر ہے زباں

نقوی ہے سراپا جرم و خطا
سبحان اللہ سبحان اللہ

میرے بندے نے سچ کہا

☆ عن ابی ہریرۃ و ابی سعید رضی اللہ عنہما انہما شہدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال يقول اللہ عزوجل صدق عبدی لا الہ الا انا وانا اکبر واذا قال العبد لا الہ الا اللہ وحده قال صدق عبدی لا الہ الا انا وحدی واذا قال لا الہ الا اللہ لا لاشریک لہ قال صدق عبدی لا الہ الا انا ولا شریک لی واذا قال لا الہ الا اللہ لہ الملك ولہ الحمد قال صدق عبدی لا الہ الا انا لی الملك ولی الحمد واذا قال لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ قال صدق عبدی لا الہ الا انا ولا حول ولا قوۃ الا بی ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا کہ میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ ”لا الہ الا اللہ وحده“ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے سچ کہا میں اکیلے کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جب بندہ ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ“ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ میرا کوئی شریک ہے اور جب بندہ ”لا الہ الا اللہ لہ الملك ولہ الحمد“ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں میرے بندے نے سچ کہا میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے لئے بادشاہت ہے اور میرے لئے سب تعریفیں ہیں اور جب بندہ ”لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے سچ کہا میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گناہ سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاقت میری توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

قال ابو اسحق ثم قال الاغر شینا لم افہمہ قال فقلت لابی جعفر ما قال فقال من رزقہن عند موتہ لم تمسہ النار

ابو اسحاق راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد اغر (ان کے استاد) نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہ سکا تو میں نے ابو جعفر (ان کے ساتھی) سے پوچھا کہ استاد صاحب نے کیا کہا؟ کہا وہ بتا رہے تھے کہ جس آدمی کو موت کے وقت یہ تمام کلمے نصیب ہو جائیں اسے آگ نہیں چھو سکتی۔

(ابن ماجہ، کتاب الادب: باب فضل لا الہ الا اللہ (۳۷۹۳) شیخ ناصر الدین البانی نے اسے صحیح کہا

ہے۔ (صحیح ابن ماجہ، ۳۰۶۱)

یاد رہے: موت کے وقت کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے یہ سکھایا ہے کہ فوت ہونے والے کو حاضرین مجلس کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کریں اور جس کا آخری کلام ”لا الہ الا اللہ“ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

ہے رب جہاں زیر فرمان تیرا
تو اب بھی ہے موجود جیسے تھا پہلے
تو ہے وحدہ لا شریک دو عالم
تو ہر شے کا خالق تو ہر شے پہ قادر
زمانہ ہے ممنون احسان تیرا
کرم ہے عوالم پر ہر آن تیرا
ازل سے ابد تک ہے فیضان تیرا
ہے مضبوط ہر عہد و پیمان تیرا

فرشتوں کو مجالس ذکر کی تلاش

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تبارک وتعالیٰ ملائکة سیارة فضلاً یتفون مجالس الذکر، فاذا وجدوا مجلساً فیہ ذکر قعدوا معہم وحف بعضهم بعضاً باجنحتہم حتی ملؤ ما بینہم و بین السماء الدنیا، فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا الی السماء قال: فسألہم اللہ عزوجل وهو اعلم بہم من این جنتہم، فیقولون جنتنا من عبادک فی الارض یسبحونک ویکبرونک ویہللونک ویحمدونک ویسئلونک، قال: وماذا یسئلوننی؟ قالوا: یسئلونک جنتک، قال: وهل رأوا جنتی؟ قالوا: لا، قال: فکیف لو رأوا ناری؟ قالوا: ویستجیرونک، قال: ومما یتجیرونی، قالوا: من نارک یا رب! قال: وهل رأوا ناری؟ قالوا: لا، قال: فکیف لو رأوا ناری، قالوا: ویستغفرونک، قال: فیقول: قد غفرت لہم واعطیتہم ما سألوا، واجرتہم مما استجاروا، قال: یقولون: رب! فیہم فلان عبد خطاء؟ انما مر فجلس معہم، قال فیقول: وله غفرت، ہم القوم لا یسقی بہم جلیسہم۔

(صحیح مسلم باب فضل مجالس الذکر، ۳/۳۴۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ذکر خدا کی مجالس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جب انکو کہیں ذکر کی مجلس مل جاتی ہے تو وہاں شریک ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں سے بعض بعض کو ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو آسمان پر پہنچتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں: پھر اللہ تعالیٰ علیم و بصیر ہونے کے باوجود پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں: ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی، توحید اور حمد و ثنا میں رطب اللسان تھے اور تجھے سے دعا میں مشغول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ مجھ سے کس چیز کی دعا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں: تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں: نہیں اے ہمارے رب! فرماتا ہے: تو میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا

حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تیری پناہ تلاش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کس چیز سے میری پناہ ڈھونڈ رہے تھے؟ کہتے ہیں: تیری دوزخ سے، فرماتا ہے: کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں: نہیں۔ فرماتا ہے پھر کیا حال ہو ان کا اگر وہ اس کو ایک نظر دیکھ لیں؟ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت چاہ رہے تھے، فرماتا ہے: میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور جو مانگا تھا وہ دیا اور جس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے میں نے ان کو عطا کی، عرض کرتے ہیں: اے رب کریم! ان میں ایک شخص خطا کار بھی تھا جو اس مجلس کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ فرماتا ہے: میں نے اس بھی کو بخشا کہ وہ ایسی جماعت ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت و محروم نہیں رہتا۔

مداوائے ہر غم ہے قرآن تیرا
نہ حد تعین نہ جہان تیرا
ہیں کرتے سدا ذکر و اعلان تیرا
دلِ مردِ مومن ہے ایوان تیرا
رہے ماننا دل سے فرمان تیرا

تو ہر نقص و ہر عیب سے ہے مبرا
تیری ذات ہے ماورا بیش و کم سے
ترے فرش والے تیرے عرش والے
زمین آسمان میں کہاں تیری منزل
یہی آرزو ہے خدایا یہ نقوی

یادِ اوسر مایہ ایماں بود

عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یقول: من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ (التاریخ الکبیر اللبخاری، ۱۱۵/۲، انحاف السادة للزبیدی، ۳۷۵/۳، فتح الباری للعسقلانی، ۱۱/۱۲۷، التمهید لابن عبد البر، ۳۶/۶ جامع ترمذی)

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جسے میری یاد مجھ سے مانگنے سے باز رکھے میں اسے بہتر اس عطا کا بخشوں گا جو مانگنے والے کو دوں۔

محافظ تو ہفت آسمانوں کا ہے
تو خالق مکانوں زمانوں کا ہے
یہ اعزاز ہم بے زبانوں کا ہے
یہ صدقہ نبی کے گھرانوں کا ہے
تو رازق بھی سارے جہانوں کا ہے
نہ غم ان کو اب آشیانوں کا ہے
اثر اب بھی اس پر نشانوں کا ہے

تو خالق دونوں جہانوں کا ہے
تعین سے ہے ماورا تیری ذات
عرب کی زباں میں نزول کتاب
ہمیں خیر امت بنایا گیا
تو ہی جن و انسان کا معبود ہے
اماں میں ہیں تیری طیور و شجر
گواہی تو سجدوں کی دیگی جبیں

حمد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود جزا دے گا

”عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلام وعليه ثوبان معصفران قال فحدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم ان عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا الى السماء وقالوا يا ربنا ان عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله عز وجل وهو اعلم بما قال عبده ماذا قال عبدى قالوا يا رب انه قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال الله عز وجل لهما اكتبها كما قال عبدى حتى يلقاني فاجزيه به.“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ”یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك“ کہتا ہے پس یہ کلمہ دو فرشتوں (کرآما کاتبین) پر مشکل گزرتا ہی وہ نہیں جان پاتے کہ اسے کیسے لکھیں؟ (یعنی اس کا کتنا ثواب لکھیں) وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں:

اے ہمارے پروردگار بے شک تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے لکھیں؟ اللہ عزوجل فرماتا ہے (حالانکہ وہ اپنے بندے کی بات کو زیادہ جانتا ہے) میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں ہمارے پروردگار اس نے کہا ہے ”یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك“ اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو ویسے ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا میں خود اس کی جزاء اسے دوں گا۔

(ابن ماجہ، کتاب الادب: باب فضل الحامدین (۳۸۰۱) ابن ماجہ (۸۲۹))

تجھے علم سب لا مکانوں کا ہے
تو مختار کل سب خزانوں کا ہے
سہارا تو ہی بادبانوں کا ہے
بھروسہ کے شامیانوں کا ہے
تو آقا بھی سب راز دانوں کا ہے
ضیا بھی تو شاعر ترانوں کا ہے

(ضیاء الحق قاسمی)

تری دسترس سے نہ باہر کوئی
مجھے دین و دنیا کی دولت ملے
تو کشتی کو میری کنارے لگا
ترے ابر رحمت کے سب منتظر
ہے محرم تو ہی اپنے رازوں کا بھی
تری حمد لکھنا تو اعزاز ہے

شیطانی حملوں سے کیسے بچا جائے؟

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الشیطان واضع

خطمه علی قلب ابن آدم، فان ذکر الله خنس، وان نسی التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس۔
(مجمع الزوائد للهيثمی، ۱۳۹/۷، جمع الجوامع للسيوطی، ۵۶۳۲، کنز العمال للمصنفی، ۱۷۸۲، ۴۱۸/۱،
المطالب العالیة لابن حجر، ۳۳۸۳، الدر المنثور للسيوطی، ۲۲۰/۶، اتحاف السادة للزبيدي، ۲۹۸/۷، التفسیر
لابن كثير، ۵۸۸/۸، التفسیر للقرطبي، ۲۶۲/۲۰، البداية والنهاية لابن كثير، ۶۰/۱، الترغيب والترهيب للمنذري،
۴۰۰/۲، المغنی للعراقي، ۲۷/۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل پر رکھے
ہوئے ہے، جب آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو شیطان دبک جاتا ہے، اور جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کا دل
اپنے منہ میں لے لیتا ہے تو یہ ہے وسوسہ ڈالنے والا اور دبک جانے والا۔

☆ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا اله الا الله، اذکار الہی میں افضل
ذکر ہے، اور الحمد للہ، بہتر دعا ہے۔ (الجامع للترمذی، باب ماجاء ان دعوة المسلم، مستجابہ، ۱۷۳/۲، السنن لابن
ماجہ، باب فضل الحمدین، ۲۷۸/۲، المسند لا حمد بن حنبل، ۱۲۸/۲، المستدرک للحاکم، ۴۹۸/۱، الترغیب
والترہیب للمنذری، ۴۱۵/۲، التفسیر للبیہقی، ۱۹۰/۳، فتح الباری للعسقلانی، ۲۰۷/۱۱، اتحاف السادة
للزبيدي، ۲۵/۵، الدر المنثور للسيوطی، ۱۱/۱، کنز العمال للمصنفی، ۱۷۴۸، ۴۱۳/۱، التمهيد لابن عبد البر،
۴۳/۶، الجامع الصغير للسيوطی، ۷۹/۱)

نوائے لطف و عطا لا اله الا الله
وہی ہے جلوہ نما لا اله الا الله
کریم سب سے بڑا لا اله الا الله
فقط وہی ہے سہا لا اله الا الله
سخائے اہل سخا لا اله الا الله
وجود ارض و سما لا اله الا الله
چراغ ذہن رسا لا اله الا الله
رہو اسی کے گدا لا اله الا الله

دوائے کرب و بلا، لا اله الا الله
کنشت ہو کہ کلیسا یا دیر ہو کہ حرم
وہی ہے سارے زمانے کا خالق و رازق
رہے ہے اور رہے گی اسے حیات و بقا
ولائے اہل ولا ہے اسی کی الفت سے
اسی کے حکم سے قائم ہے بزم حسن جہاں
اسی کا رزق ہے تسکین روح کا باعث
اسی کے اسم گرامی کا لوگو ورد کرو

وہی ہے منزل نقوی، سکون قلب و نظر

مراد اہل دعا، لا اله الا الله

کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے کی فضیلت

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردفہ علی الرحل قال: یا معاذ بن جبل! قال: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: يا معاذ! قال: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدق من قلبه الا حرمه الله علي النار قال: يا رسول الله! افلا اخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: اذا يتكلموا، واخبر بها معاذ عند موته تأثماً .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اور آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! حضرت معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا فرمانبردار ہوں۔ حضور ﷺ نے پھر فرمایا: اے معاذ! حضرت معاذ نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور فرمانبردار ہوں۔ حضور ﷺ نے پھر فرمایا: اے معاذ! حضرت معاذ نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں حاضر خدمت ہوں اور فرمانبردار ہوں۔ تین مرتبہ حضور ﷺ نے اسی طرح فرما کر ارشاد فرمایا: جس شخص نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدق دل سے گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنادوں؟ فرمایا: تو عام طور پر لوگ اسی پر بھروسہ کر لیتے۔ پھر حضرت معاذ نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے کتمانِ علم کے گناہ سے بچنے کے لئے یہ

حدیث بیان فرمادی۔ (الجامع الصحیح للبخاری، کتاب العلم، ۲۴/۱، الصحیح لمسلم، کتاب الایمان، ۴۶/۱)

واسطہ تیرے کرم کا اے کریم	رحم کر بندوں پہ اپنے اے رحیم
مصطفیٰ محبوب مطلق کے لئے	یا خدا عصیاں ہمارے بخش دے
کر ہمیں صدیق کا صدقہ عطا	مرحمت فرما ہمیں صدق و صفا
اور عمر فاروق عادل کے لئے	عدل کی توفیق یا رب ہم کو دے
بہر عثمان صاحبِ حلم و حیا	یا الہی ہم کو دے شرم و حیا
ازپے حضرت علی المرتضیٰ	ہم پہ ہو فیضانِ بابِ علم کا
ازپے حسین مردانِ رضا	کوئی غم ہم کو نہ ہو دارین کا
از طفیل فاطمہ خیر النساء	خیر کی توفیق ہم کو دے خدا
جملہ اصحابِ پیبر کے لئے	اتباعِ مصطفیٰ کا شوق دے
یا الہی بہر اولادِ رسول	یہ دعا ہم عاصیوں کی کر قبول

(محمد یونس مالک)

ذاکرین کے فضائل

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ان اللہ عزوجل یقول : وان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاخیر منهم .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ عزوجل کا فرمان ہے کہ اگر کوئی میرا ذکر کسی جماعت میں کرے گا تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت ملائکہ میں کروں گا۔

(الجامع الصحیح للبخاری، باب قول اللہ یحذرکم اللہ، ۱۱۰۱/۲، الصحیح لمسلم، باب الحد ذکر اللہ تعالیٰ، ۳۲۱/۲، الجامع للترمذی، ابواب الدعوات، ۲۰۰/۲)

☆ عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ان اللہ عزوجل یقول : لا یدکرنی فی ملاء الا ذکرته فی الرفیق الاعلیٰ . (الترغیب والترہیب للہندی، ۳۹۳/۲)

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ عزوجل فرماتا ہے: مجھے کوئی کسی جماعت میں یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کا ذکر میں رفیقِ اعلیٰ میں کرتا ہوں۔

☆ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما من قوم اجتمعوا یدکرون اللہ عزوجل لا یریدون بذلك الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات .

(المسند لا حمد بن حنبل، ۱۳۲/۳، مجمع الزوائد للہیثمی، ۷۶/۱۰، اتحاف السادة للزبیدی، ۸/۵، الحاوی للفتاویٰ للسیوطی، ۲۵/۲، کنز العمال للمتی، ۱۸۸۹، الدر المنثور للسیوطی، ۱۵۱/۱، المغنی للعراقی، ۲۹۷/۱، حلیۃ الاولیاء لا ہی نعیم، ۱۰۸/۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو قوم بھی جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا کہتا ہے: کھڑے ہو جاؤ تمہاری مغفرت ہوگئی۔ تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل گئے۔

☆ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الی ذکر اللہ . (الجامع للترمذی، باب ما جاء فی فضل الذکر، ۱۷۳/۲، السنن لابن ماجہ، باب فضل الذکر، ۲۷۷/۲، المسند لا حمد بن حنبل، ۲۳۹/۲)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں، جب تم کوئی مصیبت آتی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر گریہ و زاری سے کرو۔

☆ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما

عمل آدمی عملاً انجالیہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، قیل: ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، الا ان تضرب سیفہ حتی یقطع۔

(المعجم الاوسط للطبرانی ۲/۳، الجامع الصغیر للسیوطی ۴۸۵/۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دینے والا نہیں، عرض کیا گیا: جہاد بھی نہیں، فرمایا: جہاد بھی نہیں، ہاں جبکہ تم راہِ خدا میں قتال کرتے رہو یہاں تک کہ جہاد ختم ہو جائے۔

رُخ کرم کی ضیاء، لا الہ الا اللہ
رحیم ارض و سما، لا الہ الا اللہ
جہاں کا عقدہ کشا، لا الہ الا اللہ
نصیر شاہ و گدا، لا الہ الا اللہ

دل عمل کی صدا، لا الہ الا اللہ
کریم عدم و وجود و علم غیب و شہود
وہی ہے ظاہر و باطن، وہی ہے وارثِ کل
وہی ہے سارے زمانے کا اول و آخر

دل کی صفائی ذکر اللہ سے

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ن لكل شیء صقالة، وان صقالة القلب ذکر اللہ، وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالیٰ قال: ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال: ولو ان یضرب بسیفہ حتی یقطع۔

(کنز العمال للمتقی ۱۷۷۷، ۱/۳۱۸، الجامع الصغیر للسیوطی ۱۴۶/۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کے لئے صفائی ہے اور دل کی صفائی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعہ ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مقابلہ میں کوئی چیز عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ عرض کیا: جہاد بھی نہیں، فرمایا: اگر اس وقت تک قتال کرتا رہے جب تک جہاد ختم ہو۔

☆ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

ذکر اللہ الغداة والعشی اعظم من حطم السیوف فی سبیل اللہ واعطاء المال سحا

(ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ۱، ۲۳۵)

ایک صبح اور ایک شام ذکرِ خدا میں گزارنا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تلواروں کے توڑنے اور مال کے اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے سے بہت بہتر ہے۔

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لو ان رجلین یحمل احدهما علی الجیاد فی سبیل اللہ والاخر یدکر اللہ لکان افضل او اعظم

اجرا (ابن ابی شیبہ، المصنف ۶: ۵۸، رقم: ۲۹۳۶۲، الدر المنثور للسیوطی، ۱: ۱۵۰)

☆ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لو ان رجلا بات يحمل على الجهاد في سبيل الله ويات رجل يتلوا كتاب الله لكان ذاكر الله

افضلهما (المصنف لابن ابی شیبہ، ۶: ۱۳۳، رقم: ۳۰۰۸۹)

اگر دو میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے رات گھوڑے پر گزارے اور دوسرا اللہ کا ذکر و تلاوت کرتا رہے تو ان میں سے ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ليذكروا الله قوما في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى .

دنیا میں کئی لوگ بچھے ہوئے پٹنگوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں (جنت کے) بلند درجات میں داخل

فرمائے گا (الصحيح لابن حبان، ۲: ۱۲۳، رقم: ۳۹۸)

☆ حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ان الذين لا تزال سنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون

جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر سے تر رہتی ہیں وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔

(الترغيب والترهيب للمنذرى، ۲: ۲۵۶، رقم: ۲۳۰۲)

سكون اهل وفا ' لا اله الا الله

اُسی کو سجدہ روا ' لا اله الا الله

صفائے راہ صفا ' لا اله الا الله

رو رضا و لقا ' لا اله الا الله

در رسول خدا کا غلام ہے نقوی

فقیر آلِ عبا ' لا اله الا الله

وہی تووردِ مقدس ہے سارے عالم کا

اسی کا نور درخشاں ہے ذرے ذرے ہیں

اسی کی بو سے مہکتا ہے زندگی کا چمن

اُسی کے فضل سے ہم کو ہوئی میسر ہے

ذاکر کو معیت باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تعالیٰ یقول:

انا مع عبدی اذا ذکر لی وتحركت بی شفتاہ .

(السنن لابن ماجہ، باب فضل الذکر، ۲/۲۷۷، المسند لاحمد بن حنبل، ۲/۵۳۰، المستدرک للحاکم، ۱/۳۹۶،

تاریخ دمشق لابن عساکر، ۴/۱۳۸، الدر المنثور للسيوطی، ۱/۱۳۹، الجامع الصغیر للسيوطی، ۱/۱۱۹، التلمیح

للقرطبی، ۲/۱۷۲، کنز العمال للمنی، ۱۷۶۳، ۱/۳۱۵، جمع الجوامع للسيوطی، ۵۳۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: میں اپنے بندے کے

ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ملیں۔

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلماتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو کلمے اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہیں۔ زبان پر ہلکے لیکن میزان عمل پر بھاری ہوں گے۔ وہ دونوں کلمے یہ ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان اللہ العظیم (الجامع الصحیح للبخاری، باب قول اللہ ونضع الموازن القسط، ۱۱۲۹/۲، الصحیح لمسلم، ذکر، ۳۰، باب فضل التهلیل والتسبیح، ۳۳۲/۲، الجامع للترمذی، ابواب الدعوات، ۱۸۵/۲، السنن لابن ماجہ، باب فضل التسبیح، ۲۷۸/۲، المسند لاحمد بن حنبل، ۲۳۲/۲، شرح السنۃ للبخاری، ۲۲/۵، اتحاف السادۃ للزبیدی، ۱۵/۵، الترغیب والترہیب للمنذری، ۲۲۰/۲، المصنف لابن ابی شیبہ، ۲۸۹/۱۰، کنز العمال للمتقی، ۲۰۰۷، ۲۶۲/۱، الدر المنثور للسیوطی، ۷۱/۳، التفسیر للبخاری، ۲۰۵/۵، التفسیر للقرطبی، ۶۷/۱، التفسیر لابن کثیر، ۲۹/۸)

یا حی یا قیوم	تو	کشافِ مکتوم
ہر چیز کا تو مجبور	یا اللہ	یا معبود
لا ریب ہے تو رحمن	لا ریب	ترا قرآن
تو لاجد لا محدود	یا اللہ	یا معبود
تو شاہد، تو مشہود	نہ والد	نہ مولود
ہر اک پہ تیرا جود	یا اللہ	یا معبود
تو منعم، تو سلطان	تو محسن	تو حنان
ہر دور کا تو محمود	یا اللہ	یا معبود
تو دافع ہر خناس	تو ماحی	سب وسواس
ہے ذکر تیرا مسعود	یا اللہ	یا معبود

تحمید و تسبیح میزان کو بھردیتے ہیں

☆ عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والارض، والصلوة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها۔"

(رواہ مسلم، ج ۱ صفحہ ۸۵۹، کتاب الطہیات رقم الحدیث ۴۳۲)

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: پاکیزگی نصف ایمان ہے الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمد للہ زمین و آسمان یا ان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے صدقہ دلیل ہے اور صبر ضیاء (روشنی) ہے اور قرآن پاک تمہارے موافق دلیل ہوگا یا مخالف اور ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے پھر یا تو اس (اپنے جسم) کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا اس کو عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔

یہ حدیث حضور ﷺ کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ ﷺ نے دین کے بہت سے حقائق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا پہلا جزو طہارت کے متعلق ہے اسی لئے اس حدیث کو محدثین نے کتاب الطہارت میں نقل کیا ہے۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادات کے لئے لازمی ہے بلکہ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے: "و یحب المظہرین" اور (اللہ تعالیٰ) پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے (البقرہ)۔ اس سے معلوم ہوا کہ طہارت کا مقام کیا ہے؟ طہارت نصف ایمان ہے اس پر بحث کرتے ہوئے حضرت امام نووی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ اس حدیث (صفائی نصف ایمان ہے) کا ایک معنی یہ ہے کہ طہارت کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ایمان لانے سے مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح وضو سے پہلے کے گناہ وضو سے مٹ جاتے ہیں لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا اس لئے فرمایا طہور نصف ایمان ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے ایمان سے مراد نماز ہے جیسا کہ اللہ عزوجل قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ "و ما کان اللہ لیضیع ایمانکم"

ترجمہ: اللہ عزوجل کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۴۳)

اور چونکہ صحت نماز کے لئے طہارت شرط ہے اس لئے طہارت نماز کے لئے بمنزلہ جز ہے۔ اس لئے فرمایا طہور نصف ایمان ہے یعنی نماز کا جزء ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصدیق بالقلب اور اطاعت ظاہرہ دونوں ایمان کا جزء ہوں اور طہارت نماز کو متضمن ہے جو اطاعت ظاہرہ ہے۔ اس اعتبار سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ طہور نصف ایمان ہے۔

حدیث بالا میں مزید یہ فرمایا کہ الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمد للہ آسمان اور زمین یا ان کے درمیان کو بھر دیتے۔ ان اذکار کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید المرسلین ﷺ نے فرمایا: جس نے کہا "سبحان اللہ العظیم وبحمدہ" اس کے لئے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ (ترمذی شریف، کتاب الدعوات)

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص ایک دن میں سو دفعہ "سبحان اللہ وبحمدہ" پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں (مسلم شریف، کتاب الذکر والدعاء) ان مذکورہ احادیث سے بھی "سبحان اللہ" اور "الحمد للہ" کے فضائل و برکات معلوم ہوئے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں اذکار زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔

قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ اعمال کا وزن کیا جاتا ہے اور اعمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر سبحان اللہ اور الحمد للہ کے ثواب کو مجسم کیا جائے تو ان کی جسامت آسمان اور زمین کو بھر دے گی اور ان کے ثواب کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا کلمہ اللہ عزوجل کے منزہ ہونے اور ہر نقص اور عیب سے بری ہونے کے معنی پر مشتمل ہے اور الحمد للہ کا کلمہ اللہ عزوجل کی طرف مستقر ہونے، اس کی حمد و ثناء اور اس کا شکر بجالانے پر مشتمل ہے۔

تو قاضی الحاجات	تو سامع کل دعوات
یا اللہ ' یا معبود	تو عالم کا مقصود
یا صحرا کے ذرات	ہوں دریا کے قطرات
یا اللہ ' یا معبود	تو ہر جا ہے موجود
ہر قلب ہو پُر تنویر	تو بخش دے وہ تدبیر
یا اللہ ' یا معبود	ہر وحشت ہو مفقود
تو راحم ' تو ستار	تو ناصر ' تو غفار

ہو نقوی کی بہبود

یا اللہ ' یا معبود

کم خرچ بالانشیں

عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امراة و بین یديها نوى او حصی تسبح به فقال: الا اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل، فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله اكبر، مثل ذلك، ولا اله الا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك .

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک صحابیہ کے پاس گیا دیکھا کہ ان کے پاس کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں ہیں جن پر وہ تسبیح شمار کر رہی ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھے اس سے آسان اور افضل و نپیفہ نہ بتا دوں، پھر فرمایا: یہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله اكبر، مثل ذلك، ولا اله الا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك . (الجامع للترمذی، ابواب الدعوات، ۱۹۳/۲، السنن لابن ماجه باب فضل التسبيح، ۲۷۸/۲، المستدرک للحاکم، ۵۱۳/۱، شرح السنة

للبيهقي، ۶۲/۵، كنز العمال للمتقى، ۳۷۰۷، ۱۹۲/۳، الصحيح لابن حبان، ۲۳۳۰)

☆ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ تمام فجر پڑھ کر اپنی مسجد (بیت) میں بیٹھی (ذکر و اذکار میں) مصروف تھیں، دوپہر کے وقت حضور ﷺ پھر تشریف لاتے تو وہ اسی حال میں تھیں حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں اگر یہ کلمات تمہارے سارے دن کے وظائف کے ساتھ تو لے جائیں تو بھاری ہو جائیں (اور وہ یہ ہیں) سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته (رواہ مسلم، مشکوٰۃ)۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ یہ کلمات پڑھے ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدير“، تو اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، سونکیاں لکھی جائیں گی، سو گناہ معاف ہوں گے، دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لاسکے گا مگر وہ جس نے اس سے زائد پڑھا ہوگا (متفق علیہ، مشکوٰۃ)۔

☆ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا:

يا ايها الناس اربعوا انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم والذى تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته .

اے لوگو اپنی جانوں پہ نرمی کرو تم لوگ کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے تم تو سمیع و بصیر کو پکار رہے ہو جو تم میں ہر ایک کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔

☆ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے تھا اور اپنے دل میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ادلك على كنز من كنوز الجنة، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں میں عرض کی ضرور یا رسول اللہ ﷺ۔ فرمایا: (وہ خزانہ یہی ہے) لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ (متفق علم، مشکوٰۃ) ایک روایت میں ہے یقول الله تعالى اسلم عبدی واستسلم الله فرماتا ہے میرا بندہ فرمانبردار ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا (رواہ البیہقی فی دعوات الکبیر، مشکوٰۃ)۔

☆ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل قال لموسى عليه الصلوة والسلام: يا موسى! لو ان السموات السبع وعامرهن غيرى والارضين السبع فى كفة ولا اله الا الله فى كفة مالت بهم لا اله الا الله .

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور ان میں رہنے والے فرشتے اور ساتوں زمینیں ایک پلے میں ہوں اور کلمہ طیبہ دوسرے پلے میں تو کلمہ طیبہ والا پلہ ہی وزنی ہوگی۔ (رواہ فی شرح السنۃ، مشکوٰۃ باب ثواب التسمیح)

والتحميد والتهليل والتكبير، المستدرک للحاکم، ۱/۱۳، اتحاف السادة، للزبيدي، ۵/۱۱، المغنی للعراقي

(۲۹۸/۱، كشف الخفا للعجلوني، ۲/۲۴۵)

ہے موجود ہر اک جگہ خوان تیرا
ہے جاری ہمیشہ سے فیضان تیرا
ہے ہر کام بے مثل و ذیشان تیرا
اکیلا ہے تو حق ہے قرآن تیرا
کیا ذرے ذرے نے اعلان تیرا

خدایا یہ عالم ہے مہمان تیرا
زمین و زماں میں مکین و مکاں میں
عبادت کے لائق ہے اک ذات تیری
نہ ہو گا نہ ہے کوئی تیرا مقابل
تو خالق تو رازق تو مالک تو صادق

بیٹھے اٹھتے ذکر خدا میں مشغول رہو

عن ام المؤمنین عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس احدكم في مجلس فلا يبرحن منه حتى يقول ثلاث مرات: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، اغفر لي وتب علي، فان كان اتى خيرا كان كالطابع عليه، وان كان مجلس لغو كان كفارة لما كان في ذلك المجلس. (الترغيب والترهيب، ۲/۴۱۱)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں کوئی کسی جلسہ میں بیٹھے تو ہرگز وہاں سے نہ ہٹے جب تک تین باریہ دعا نہ کرے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا اله الا انت، اغفر لی وتب علی، پاکی ہے تجھے اے رب ہمارے! اور تیری تعریف بجالاتا ہوں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میرے گناہ بخش اور میری توبہ قبول فرما! پھر اگر اس جلسہ میں اس نے کوئی نیک بات کہی ہے تو یہ دعا اس پر مہر ہو جائے گی اور اگر وہ جلسہ لغو و بیکار تھا تو جو کچھ اس میں گزرا یہ دعا اس کا کفارہ ہو جائے گی۔

☆ عن ابی ہریرۃ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس مجلسا يقول في آخره اذا اراد ان يقوم من المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی جلسہ فرماتے تو اس کے ختم میں اٹھتے وقت یہ دعا کرتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الہی تیری پاکی بولتا اور تیری حمد میں مشغول ہوتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ میں تیری مغفرت مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ (السنن لابی داؤد، باب فی کفارة المجلس، ۲/۶۶۷، الترغيب والترهيب

للمنبري، ۲/۴۱۱، كنز العمال للمفتي، ۷/۱۸۳۷۷، ۷/۱۵۲)

☆ عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس

مجلساً يقول في آخره اذا اراد ان ينهض من المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب الا انت۔ (الترغيب والترهيب، ۲/۴۱۲)

حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی جلسہ فرماتے تو اس کے آخر میں اٹھتے وقت یہ دعا پڑھتے۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب الا انت۔

☆ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلساً كثر فيه لفظة فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك۔

(الجامع للترمذی ابواب الدعوات، السنن لابی داؤد، باب فی كفارة المجلس ۲/۱۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں غلط سلسلہ باتیں ہوتی رہیں تو مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، تو اس مجلس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

☆ عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له۔

(الترغيب والترهيب للمندري ۲/۴۱۱)

حضرت جبیر بن مطعم رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے ذکر خدا کی مجلس میں ”سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك“ پڑھا تو یہ کلمات اس ذکر کے لئے مہر ہو گئے اور اگر مجلس لغو و بیہودہ تھی تو یہ اس کے لئے کفارہ ہو جائیں گے۔

تو مشکل کشا ہے تو حاجت روا ہے	جہاں پر ہے اکرام و احسان تیرا
تیری نعمتیں سب ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ	مگر سب سے اعلیٰ ہے عرفان تیرا
زمانے کی ہر ایک شے میں ہے دیکھا	نگاہ بصیرت نے عنوان تیرا
تو ممدوح عالم ہے میرے خدایا	نہیں صرف مجھ کو ہی ارمان تیرا

گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں پہ مہر

☆ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما انه قال: كلمات لا يتكلم بهن احد

فی مجلس حق او مجلس باطل عند قیامہ ثلاث مرات الا کفر بہن عنہ، ولا یقولہن فی مجلس خیر ومجلس ذکر الا ختم اللہ لہ بہن کما یختم بالخاتم علی الصحیفۃ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ (السنن لابن داؤد باب فی کفارة المجلس ۲/۶۶۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مجلس حق یا مجلس باطل سے اٹھتے وقت جو شخص بھی ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور ذکر خیر کی مجلس میں پڑھے تو یہ کلمات اس کے ذکر پر مہر ہو جائیں گے جیسے کسی مکتوب پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے تو اس پر اپنی لاشی مبارک ماری، درخت کے پتے جھڑ گئے پھر فرمایا جو شخص یہ (مندرجہ ذیل) کلمات پڑھے اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑ جائیں گے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ کلمات یہ ہیں۔

الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر (ترمذی، مشکوٰۃ)

☆ حضرت مکحول جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، حضرت مکحول کہتے ہیں جو ساتھ یہ الفاظ بھی ملا لے گا ولا منجا من اللہ الا الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے ستر مصیبتوں کے دروازے بند کر دے گا جن میں سے ادنیٰ مصیبت غریبی ہے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ) حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

روگاں وچوں روک اوڑا جس دا نام غریبی کنڈ ولا کے لنگ جاندے نیں رشتے دار قریبی

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ننانوے بیماریوں کا علاج ہے جن میں کم درجے کی بیماری غم ہے۔ (بیہقی، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ”سبحان اللہ“ کا کلمہ ساری مخلوق کی عبادت ہے، الحمد لله کلمہ شکر ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ اخلاص ہے، اللہ اکبر آسمان وزمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے اور جب بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلم واستسلم۔ میرا بندہ میرا مطیع ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا

(رواہ رزین، مشکوٰۃ)

محبوب کا صدقہ ہمیں انمول دیا ہے دروازہ فردوس بریں کھول دیا ہے
خالق نے گناہ گاروں سے کاروں کے بدلے رحمت کا خزانہ ہی کبھی تول دیا ہے

کلام الامام امام الکلام

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ ان احادیث کے تحت یوں رقمطراز ہیں:

غرض کہ ان احادیث صحیحہ مشہورہ علی اصول الحدیث میں جن میں بعض کو امام ترمذی نے حسن صحیح، اور حاکم نے بر شرط مسلم صحیح، اور منذری نے جید الاسناد کہا، حضور پر نور سید عالم ﷺ عام ارشاد و ہدایتِ قولی و فعلی فرماتے ہیں کہ آدمی کوئی جلسہ کرے تو اسے اٹھتے وقت یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اگر جلسہ خیر کا تھا تو وہ نیکی قیامت تک سر بہر محفوظ رہے گی، اور لغو کا تھا تو وہ لغو باذن اللہ محو ہو جائے گا، تو لفظ و معنی دونوں کی رو سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کو ہر نماز کے بعد بھی اس دعا کی طرف ارشاد فرمایا گیا ہے۔

جہت لفظ سے تو یوں کہ ”مجلس“ سیاق شرط میں واقع ہے تو عام ہوا۔ تلخیص الجامع الکبیر میں ہے۔

النكرة في الشرط تعميم، وفي الجزاء تخصص كهي في النفي والاثبات .

شرح جامع صغیر میں ہے۔

انه نكرة في موضع الشرط، وموضع الشرط نفي والنكرة في النفي تعميم

معہذا اسماء شروط خود سب صورتوں کو عام ہوتے ہیں۔

امام محقق علی الاطلاق فتح میں فرماتے ہیں۔

اذا عام في الصور على ما هو حال اسماء الشروط .

تو قطعاً تمام صلوات فریضہ، واجبہ اور نافلہ کے جلسے اس حکم میں داخل، اور ادعائے تخصیص بے تخصیص محض مردود و باطل۔

اور جہت معنی سے یوں، کہ جلسہ خیر سے اٹھتے وقت یہ دعا کرنا اس خیر کے حفظ و نگاہداشت کے لئے ہے، تو جو خیر جس قدر اکبر

و اعظم اسی قدر اس کا حفظ ضروری و اہم اور بلاشبہ خیر نماز سب چیزوں سے افضل و اعلیٰ تو ہر نماز کے بعد اس دعا کا مانگنا مؤکد تر ہوا،

یارب! مگر نماز عیدین نماز نہیں، یا اس کے حفظ کی جانب نیاز نہیں، یا حضور اقدس ﷺ نے فرما دیا ہے کہ ہمارا یہ ارشاد

ماورائے عیدین یا ما سوائے نماز میں ہے، یا اس کے بعد یہ دعا نہ کرنا۔

سبحان اللہ، میں جلسہ صلوات کا اس حکم میں دخول عموم لفظ و شہادت معنی سے ثابت کرتا ہوں، خود حدیث ام المؤمنین صدیقہ

رضی اللہ عنہا کیوں نہ ذکر کروں جس میں صاف صریح کہ حضور پر نور سید المرسلین ﷺ نے بنفس نفیس جلسہ نماز کو اس حکم میں داخل فرمایا: تخرج

حدیث تو اوپر سن چکے کہ نسائی و ابن ابی الدنیاء و حاکم و بیہقی نے روایت کی، اب لفظ سنئے، سنن نسائی کی نوع من الذکر بعد التسلیم،

میں ہے۔

تو رحمن میرا میں انسان تیرا

مہکتا ہے مہکے گا بتان تیرا

ہے آدم بھی تیرا تو شیطان تیرا

مگر سب سے بڑھ کر ہے قرآن تیرا

نہیں ہے جسے شوق و ارمان تیرا

خدایا یہ کیا کم ہے احسان تیرا

تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن

ازل سے ابد تک ہے تیری حکومت

کتابیں صحیفے تیرے بے بہا ہیں

زمانے میں ہے کون سی چیز ایسی

☆ عن ام المؤمنین عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم كان اذا جلس مجلسا او صلى تكلم بكلمات فسأله عائشة عن الكلمات فقال: ان تكلم بخير كان طابعا عليهن الى يوم القيامة، وان تكلم بشر كان كفارة له . سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك . (الترغيب والترهيب للمندري، ۴/۲)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم ﷺ جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات فرماتے، ام المؤمنین نے وہ کلمات پوچھے؟ فرمایا: وہ ایسے ہیں کہ اگر اس جلسہ میں کوئی نیک بات کہی ہے تو یہ قیامت تک اس پر مہر ہو جائیں گے اور بری کہی ہے تو کفارہ۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، استغفرک واتوب الیک۔ الہی! میں تیری تسبیح و حمد بجالاتا ہوں اور تجھ سے استغفار و توبہ کرتا ہوں۔

تسبیح و تہلیل و تحمید و تکبیر

☆ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

سبحان اللہ آدمی میزان ہے الحمد للہ اسے بھر دے گی، لا الہ الا اللہ کے لئے رب سے کوئی آڑ نہیں یہاں تک کہ سیدھا اس تک پہنچتا ہے (ترمذی، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے (ایضاً)

☆ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا:

يا محمد اقرء امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غرا سها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر . (ترمذی . مشکوٰۃ)

اے پیارے محمد ﷺ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے جنت میں سفید (خالی) زمین بہت ہے وہاں کے درخت یہ کلمات ہیں۔ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر . یعنی ان الفاظ کا وظیفہ کر کے جنت میں اپنے لئے درخت لگاتے رہو۔

☆ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہما جو کہ مہاجر عورتوں میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

عليكن بالتسبيح والتهلل والتقديس واعقدن بالا فامل فانهن مسؤولات مستنطات ولا تغفلن فتنسين الرحمة (ترمذی ابوداؤد).

اے عورتو! اپنے اوپر لازم کر لو تسبیح و تہلیل اور رب کی پاکی بولنے کو اور انگلیوں پہ گنا کرو (پڑھائی کو) کیونکہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا، انہیں بولنے کی طاقت دی جائے گی، کبھی غفلت نہ کرنا اور نہ رحمت سے دور کر دی جاؤ گی۔

☆ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص (بدوی، اعرابی) حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بولا

علمنی کلاماً اقولہ۔ حضور! مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو میں پڑھا کروں۔ فرمایا یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم اس نے عرض کی یہ تو میرے رب (کی تعریف) کے لئے ہیں، میرے لئے کیا ہے فرمایا تیرے لئے یہ کلمات ہیں اللھم اغفر لی وارحمنی و اھدنی وارزقنی و عافنی (شک الراوی فی عافنی (مسلم)

☆ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

افضل کلمات چار ہیں۔ (۱) سبحان اللہ، (۲) الحمد للہ، (۳) لا الہ الا اللہ، (۴) اللہ اکبر، ایک روایت میں احب الکلام الی اللہ فرمایا گیا مزید فرمایا لا یضربک بایتھن بدات۔ جس سے چاہے شروع کر لے مضر نہیں

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب التسمیۃ والتحمید.....)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہی کلمات کے بارے میں روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات کہنا مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے (ایضاً)

☆ انہی کلمات کے بارے فرمایا جو صبح و شام پڑھے تو قیامت کے دن کوئی شخص بھی اس سے بہتر عمل نہ لاسکے گا مگر وہ جس نے یہی پڑھا ہو گا یا اس سے زائد..... (ایضاً)

ہے باقی فقط نام و فرمان تیرا
تری ذات کی حمد، عرفان تیرا
عطا ہو مجھے صرف رضوان تیرا
یہ دیوان نقوی ہے فیضان تیرا

دو عالم کی ہر چیز فانی ہے لیکن
جہاں کے قیاس و گماں سے ہے باہر
نہ دنیا نہ عقبی کی ہے کچھ ضرورت
ہے تحریر میری میں تنویر تیری

جو یہ کلمات کہے آگ نہ جلانے گی

حضرت ابوسعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق میں فرماتا ہے لا الہ الا انا وانا اکبر اور جب کوئی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اللہ تعالیٰ (اس کی تصدیق میں) فرماتا ہے لا الہ الا انا وحدى لا شریک لی اور جب کوئی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملك ولہ الحمد تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا انا لی الملك ولی الحمد اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا انا لا حول ولا قوۃ الا ہی اور جو یہ کلمات مرض الموت میں کہے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

☆ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ، سو مرتبہ الحمد للہ، سو مرتبہ لا الہ الا اللہ، سو مرتبہ اللہ اکبر، پڑھے تو اس کو سو حج، سو گھوڑے فی سبیل اللہ خیرات کرنے، سو غلام اولاد اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب ہو گا اور یہ کہ اس دن اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کوئی نہ ہو گا مگر وہ جو یہی عمل اس قدر یا

اس سے زائد کرے۔ مفہوم حدیث (ترمذی مکتوٰۃ)

محمد ہے بے مثل انسان تیرا
کیا ہے محمد نے اعلان تیرا
نہیں ہے وہ میرا ہے فرمان تیرا
محمد ہے محمود و تبتیان تیرا
نہیں ان سا کوئی بھی جانان تیرا
ہوا لامکاں میں جو مہمان تیرا
نہ رکھتا تھا شیطان عرفان تیرا
زمانے میں قانونِ قرآن تیرا
خزاں سے رہے دور بتان تیرا
یہ بندہ بہت ہے پریشان تیرا
رہے دو جہاں میں مسلمان تیرا

خدایا ہے محفوظ قرآن تیرا
تری ذاتِ اقدس تھی اک کنزِ مخفی
نہیں ہے جو مشاقِ حسنِ محمد
زمانہ تیری حمد کرتا ہے لیکن
محمد ہے ختمِ نبوت کا حامل
وسیلہ ہے آدم کا حضرت محمد
ہے آدم کا طالب ہی طالبِ خدا کا
دعا ہے خدایا کہ جاری ہو جلدی
تو کر متحد امتِ مسلمہ کو!
کرم کر الہی، کرم کر، کرم کر!
یہی التجا ہے خدایا یہ نقوی

مجالس ذکر کی فضیلت

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول اللہ! وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا: حلقہ ذکر۔

(الجامع للترمذی، دعوات، ۸۲، ابواب الدعوات، ۱۸۹/۲، المسند لاحمد بن حنبل، ۱۵۰/۳، حلیۃ الاولیاء لابن

نعم، ۲۶۸/۶، المعجم الکبیر للطبرانی، ۹۵/۱۱، السنن الکبریٰ للبیہقی، ۳۲۲/۱، اتحاف السادة للزبیدی،

۲۳۰/۱، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۲۹۰/۳، الدر المنثور للسيوطی، ۱۵۲/۱، الترغیب والترہیب للمنذری،

۱۱۲/۱، مجمع الزوائد للہیثمی، ۱۲۶/۱، لسان المیزان لابن حجر، ۲۳۹/۵)

ابن ابی دنیا وغیرہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: پھر فرمایا صبح و شام اگلے پچھلے پہر ذکر کیا کرو کیونکہ جو جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے ہاں ذکر کی کیا منزلت ہے وہ خود ذاکر بن کر معلوم کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کی بہت قدر فرماتا ہے۔

☆ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم: غنیمۃ مجالس اهل الذکر الجنة۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اہل ذکر کی مجلسوں کا حاصل جنت ہے۔ (المسند لا حمد بن حنبل، ۱۷۷/۲، مجمع الزوائد للہیثمی، ۷۸/۱۰، الدر المنثور للسيوطی، ۱۵۲/۱،

الترغیب والترہیب للمندری، ۴۰۵/۲، کنز العمال للمصطفیٰ، ۱۷۹۳، ۴۲۰/۱)

☆ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يقول الرب عز وجل يوم القيامة: سيعلم اهل الجمع من اهل الكرم، فقيل: ومن اهل الكرم؟ يا رسول الله! قال: اهل مجالس الذكر في المساجد

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل روز قیامت ارشاد فرمائے گا: عنقریب قیامت میں جمع ہونے والے جان لیگے کہ اہل ذکر کون ہیں، عرض کیا گیا: اہل ذکر کون ہیں؟ یا رسول اللہ! فرمایا: مسجدوں میں ذکر خدا کرنے والے۔ (المسند لاحمد بن حنبل، ۲۸/۳، اکاٹل لابن عدی، کنز العمال للمصطفیٰ، ۱۷۹۳/۱، ۴۲۷)

قوت و طاقت کا خزانہ

حافظ ابن قیم الجوزی نے اپنے استاذ و شیخ ابن تیمیہ کو ایک اثر ذکر کرتے سنا تھا کہ فرشتوں کو جب عرش الہی اٹھانے کا حکم ملا تو کہنے لگے خدایا ہم تیرا عرش کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جبکہ اس پر تیری عظمت و جلال کا بھاری بھرم بوجھ موجود ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا پڑھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو انہوں نے پڑھتے ہی عرش الہی اٹھالیا ”بعد ازاں بعینہ یہ اثر مجھے مل گیا کہ ابن ابی الدنیا نے یہی اثر لیتھ بن سعد از معاویہ بن صالح سے ذکر فرمایا: مجھے معاویہ بن صالح نے کہا ہمارے اساتذہ نے بیان فرمایا کہ روایت پہنچی ہے کہ عرش الہی جب پانی پر تھا تو اللہ عزوجل نے سب سے پہلے حاملین عرش کو پیدا کیا انہوں نے دریافت کیا پروردگار! تو نے ہمیں کس لئے پیدا کیا؟ ارشاد ہوا اپنی تخت برداری کے لئے کہنے لگے خدایا تیرا عرش اٹھانے کی کس کو طاقت؟ حالانکہ اس پر تیری عظمت و جلال اور تیرا رب و وقار موجود ہے اللہ عزوجل نے فرمایا پڑھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے ہی انہوں نے فوراً عرش الہی کو اٹھالیا،

اور بڑے بڑے مشکل معاملات کو طے کرنے تکلیفیں سہ جانے، شاہی درباروں تک رسائی اور بڑے بڑے بادشاہوں سے نہ جھجکنے میں بلکہ ہولناک اور خطرناک سے خطرناک حالتوں سے صحیح سالم نکل جانے میں اس کلمہ بابرکت کی عجیب و غریب تاثیر دیکھی ہے، بلکہ اس میں فقر و فاقہ اور افلاس دور کرنے کی قوت و تاثیر بھی موجود ہے۔

چنانچہ ابن ابی الدنیا بواسطہ لیتھ بن سعد عن معاویہ بن صالح عن اسعد بن رواد روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا جو روزانہ سو مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔

حبیب بن سلمہ کی جب دشمن سے مدد بھیڑ ہوتی یا کوئی قلعہ فتح کرنا ہوتا تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کو بہت پسند فرماتے تھے ایک دفعہ آپ کوئی رومی قلعہ فتح کرنے گئے ہی تھے کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی دیگر مسلمانوں نے بھی زور سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور نعرہ تکبیر کہا تو فوراً قلعہ بھی زمین پر دھڑام سے آگرا۔

ابن ابی الدنیا اپنی کتاب میں حکیم بن محمد احنسی سے ذکر کرتے ہیں کہ مجھے حدیث ملی ہے کہ جنتی قصور و محلات کی تعمیر ذکر سے ہوتی ہے جب ذکر کرنا بند کر دیں تو تعمیر بھی بند ہو جاتی ہے پوچھا جائے تو فرشتے کہتے ہیں رسد و سامان لائیے۔

ابن ابی الدنیا نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ذکر فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سات دفعہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے لئے جنت میں ایک برج تیار کیا جاتا ہے اور جس طرح جنت کے محلات ذکر سے تیار ہوتے ہیں اسی طرح جنت کے باغ اور پودے بھی ذکر سے بنتے ہیں۔

ابن ابی الدنیا نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت فرمائی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں بہت بہت درخت لگاؤ۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! بہشت کے درخت کیا ہیں فرمایا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔

(الوابل الصیب من الکلم الطیب)

پڑھے قلب تپاں ' اللہ ہی اللہ
کہے روح رواں ' اللہ ہی اللہ
مرا مقصود جاں اللہ ہی اللہ
یہاں بھی اور وہاں اللہ ہی اللہ

رہے وردِ زباں ' اللہ ہی اللہ
مٹے نفسِ زبوں کی ہر سیاہی
رہے پیشِ نظر جلوہ اسی کا
ہے فانی سب جہاں لیکن ہے باقی

مجلس ذکر پر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات

عن معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقة من اصحابہ فقال: ما اجلسکم ہہنا، قالوا: جلسنا نذکر اللہ، قال: اتانی جبرئیل فاخبرنی: ان اللہ عزوجل یباہی بکم الملائکة۔

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے حلقہ ذکر کے پاس سے گزرے، فرمایا: کس لئے تم لوگ یہاں جمع ہوئے ہو؟ بولے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے، فرمایا: میرے پاس حضرت جبرئیل آئے اور کہا بیشک اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔

(الصحيح لمسلم، باب فضل الاجتماع علی الذکر، ۳۴۶/۲، الجامع للترمذی، باب ما جاء فی القوم یجلسون یذکرون، ۱۷۴/۲، المسند لا حمد بن حبل، ۹۲/۳)

☆ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان عبد اللہ ابن رواحة رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا لقی الرجل من اصحابہ یقول: تعال! نؤمن بربنا ساعة، فقال: ذات یوم لرجل: فغضب الرجل فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ! الا تری، الی ابن رواحة، یرغب عن ايمانک الی الايمان ساعة، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یرحم اللہ ابن رواحة انه یحب المجالس التي تباہی بها الملائکة علیہم السلام۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی جب بھی کسی صحابی سے ملاقات ہوتی تو فرماتے: آؤ ہم تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ ایک دن انہوں نے ایک صاحب سے یہ ہی جملہ کہا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ابن رواحہ کو تو دیکھئے کہ آپ کے عطا کردہ ایمان سے ہٹ کر اس ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے۔ وہ ایسی مجالس سے محبت کرتے ہیں جن کے ذریعہ ملائکہ پر فخر کیا جائے۔

(المسند لا حمد بن حنبل، ۲۶۵/۳، العشر للسیوطی، ۱۵۱/۱، الترغیب والترہیب للمنذری، ۴۰۳/۲)

☆ عن عمر وبن عسبة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین رجال لیسوا بانبیاء ولا شهداء یغشی بیاض وجوہہم نظر الناظرین یغبطہم النبیون والشهداء بمقعدہم وقر بہم من اللہ وعز وجل قیل: یا رسول اللہ! من ہم؟ قال: ہم جماع من نوازع القبائل یجتمعون علی ذکر اللہ تعالیٰ فینتقون اطائب الکلام کما ینتقی اکل التمر اطابہ.

حضرت عمرو بن عسبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے داہنے دست قدرت کی طرف کچھ لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دونوں دست قدرت کو داہنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو نبی و شہید تو نہیں لیکن ان کے چہروں کی چمک دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی۔ انبیاء و شہداء اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے مقام و قرب پر رشک کرینگے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا: وہ ذاکرین کی جماعت ہوگی جو آپس میں متعارف تھے لیکن ذکر کی مجلس میں جمع ہو کر چن چن کر اچھا کلام پیش کرتے تھے جیسے کھجور کھانے والا اچھی کھجوریں چن چن کر جمع کرتا ہے۔ (الجامع الصغیر للسیوطی، ۳۳۷/۲)

حاکم و معبود ہر ارض و سما
لا شریک ولا عدیل ولا مثل
جلوہ گاہ کائنات عالمیں
درہ اسماء حسنی بے مثال

حمد ہر حامد برائے کبریا
جامع اوصاف در صورت جمیل
سجدہ گاہ انبیاء و مرسلین
در صفات خویش کنیز ہر کمال

ذکر کرنیوالوں پر رحمت کے فرشتوں کا ہجوم

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل مجلس یدکر اسم اللہ تعالیٰ فیہ تحف الملائکۃ حتی ان الملائکۃ یقولون: زید وازادکم اللہ واللذکر یصعد بینہم وہم ناشروا اجنحتہم (الجامع الصغیر للسیوطی، ۳۳۷/۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر

ہو اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ ملائکہ کہتے ہیں: اور زیادہ ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ ثواب دیگا۔ ذکر فرشتوں کے درمیان بلند ہوتا ہے اور وہ اپنے پر پھیلانے ہوتے ہیں۔

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما بین قوم یذکرون اللہ الا حفت بہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ و ذکر ہم اللہ فیمن عنده۔ (الجامع للترمذی باب ماجاء فی القوم یجلسون، ۱۴۳/۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اور چین اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث کے ضمن میں فتاویٰ رضویہ شریف (۶۷۵/۲) میں فرماتے ہیں۔

ہر محبوب خدا کا ذکر محل نزول رحمت ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ۔ نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔

ابو جعفر حمدان نے ابو عمرو بن نجید سے اسے بیان کر کے فرمایا: فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأس الصالحین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب صالحین کے سردار ہیں۔

لہذا ذکر رسول اللہ بلاشبہ باعث نزول رحمت الہی ہے۔

مالک ہر دور و رحمن و خیر
از جمالش نور دارند بے گماں
ہادی و مطلوب و مقصودِ زماں
در حضورِ کبریائے ذوالہمن
رہمائے رہنمایانِ سبل
از کتابش یاد دارم این سبق
ذاتِ پاکش از خیالا تم ورا

ذاتِ پاکش درد و عالم بے نظیر
ماہتاب و آفتابِ آسماں
ہست او موجود در جملہ جہاں
ہج کس را نیست راہ دم زدن
خالق کل رازق کل رب کل
کل شیء ہالک فرمانِ حق
نقوی مسکین چہ میگوید ثنا

یاداوکن یاداوکن یاداو

☆ عن ابی الحوزاء اوس بن عبد اللہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسل قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکثرُوا ذکر اللہ حتی یقول المنافقون: انکم مراؤن۔

(کنز العمال ۱۷۵۳، ۱/۳۱۳، الجامع الصغیر ۸۶/۱)

حضرت ابو الحوزاء اوس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی

کثرت سے کرو کہ منافق لوگ کہنے لگیں کہ یہ ریاکار ہیں۔

☆ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكرو الله ذكرا يقول المنافقون: انكم تراؤن .

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو یہاں تک کہ منافق کہنے لگیں یہ لوگ ریاکار ہیں۔ (المعجم الكبير للطبرانی ۱۲/۱۶۹، الجامع الصغير للسيوطی، ۶۱/۱)

☆ عن عبد الله بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله . (الجامع للترمذی، باب ما جاء في فضل الذكر، ۲/۱۷۳، المسند لاحمد بن حنبل، ۱۸۸/۳، السنن الكبرى للبيهقي، ۳/۳۷۱، المستدرک للحاکم، ۱/۳۹۵، الترغيب والترهيب للمنزدي، ۲/۳۹۳، حلية الاولياء لابن نعيم، ۹/۵۱، التاريخ الكبير للبخاري، ۱/۳۱۶، اتحاف السادة للزبيدي، ۵/۶، كنز العمال، للمفتي، ۱۸۳۱، الامالي للشجري، ۱/۳۲۷، الدر المنثور للسيوطی، ۱/۱۳۹)

حضرت عبد اللہ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمیشہ ذکر الہی میں زبان تر رہے۔

☆ عن ام انس رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثرى من ذكر الله، فانك لا تاتين بشيء احب اليه من كثرة ذكره . (الدر المنثور للسيوطی ۵/۲۰۵، الجامع الكبير ۲/۷۵)

حضرت ام انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اللہ کا ذکر بکثرت کرو کیونکہ تو کوئی چیز ایسی نہ لائے گی جو خدا کو اپنی کثرت ذکر سے زیادہ پیاری ہو۔

☆ عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الايمان . (الدر المنثور ۵/۲۰۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو ذکر الہی کی کثرت نہ کرے وہ ایمان سے بیزار ہو گیا۔

☆ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله عند كل شجر وحجر . (السنن الكبرى للبيهقي ۱/۳۲۸)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر سنگ و شجر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاویٰ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی فرض مقرر نہ فرمایا، مگر یہ کہ اس کے لئے ایک حد معین کر دی، پھر عذر کی حالت میں لوگوں کو اس سے معذور رکھا سوا ذکر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کوئی حد نہ رکھی جس پر اہل

ہو اور نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا مگر جس کی عقل سلامت نہ رہے اور بندوں کو تمام احوال میں ذکر کا حکم دیا ان کے شاگرد امام مجاہد فرماتے ہیں: تو ذکر الہی ہمیشہ ہر جگہ محبوب و مرغوب و مطلوب مندوب ہے۔

جس سے ہرگز ممانعت نہیں ہو سکتی جب تک کسی خصوصیت خاصہ میں کوئی نبی شرعی نہ آئی ہو۔ (فتاویٰ رضویہ ۲/۶۷۷)

اے خالق ارض و سما ارحم لنا ارحم لنا
اے مالک ہر دوسرا ارحم لنا ارحم لنا
اے عقل انساں سے ورا ارحم لنا ارحم لنا
قائم قدیم و دائماً ارحم لنا ارحم لنا
سجدے میں کرتے ہیں دعا ارحم لنا ارحم لنا
ہر شے میں ہے جلوہ ترا ارحم لنا ارحم لنا
اے غمزدوں کے آسرا ارحم لنا ارحم لنا
باچشم نم ہے التجا ارحم لنا ارحم لنا

کثرت سے ذکر کرنے والے

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون .

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ذکر اس درجہ بکثرت کرو کہ

لوگ مجنوں بتائیں۔ (المسند لابن حنبل، ۶۸/۳، المستدرک للحاکم ۴۹۹/۱، کنز العمال، ۳۱۳/۱)

گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او
ہر گدا را ذکر او سلطان کند ذکر او بس زیور ایماں بود
ہر کہ دیوانہ بود در ذکر حق زیر پائش عرش و کرسی نہ طبق

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پہ تشریف لے جا رہے تھے جب جمدان (پہاڑ

جو کہ مدینہ شریف کے قریب پڑتا ہے یہاں سے پیدل مدینے پاک ایک رات کی مسافت ہے) کے پاس سے گزرے تو فرمایا:

سبق المفردون . الگ رہنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی وما المفردون یا رسول

اللہ . حضور! الگ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات . فرمایا: کثرت سے اللہ تعالیٰ کا

ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ)

☆ طبرانی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ پہاڑ روزانہ ایک دوسرے سے نام بنام پوچھتے ہیں کہ کیا تجھ پہ کوئی اللہ تعالیٰ

کا ذکر گذرا، اگر کوئی پہاڑ کہتا ہے ہاں گذرا ہے تو سب اس کو مبارک دیتے ہیں، عوارف المعارف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے زمیں

کے حصوں کے بارے میں بھی ایسا ہی مروی ہے کہ روزانہ صبح و شام زمین کے بعض حصے بعض دوسروں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا

تجھ پہ کوئی اللہ کا ذکر گزرا یا بیٹھا ہے اگر کوئی حصہ ہاں میں جواب دے تو دوسرے ہتھے کہتے ہیں تو ہم سے افضل ہے۔

(مرآة بحوالہ مرقات)

☆ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت . جو اللہ کا ذکر کرے وہ زندہ کی طرح ہے اور جو نہ کرے وہ مردہ کی طرح ہے۔ (مشکوٰۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ)

پوشیدہ ہے ہر شے میں مگر جلوہ گزیر ہے ظاہر ہے کسی نے بھی مگر دیکھا نہیں ہے
میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں تجھے دشت و جبل میں تو جبکہ رگ جاں سے بھی کچھ اور قریں ہے
بم و قمر نغمہ و گل میں نہ ہو کیوں حسن خود خالق کونین جمیل اور حسین ہے
کوہ طور کے جلوے ہوں کہ انوار حرا ہوں ہر سمت ہو یدا ترا ہی عکس میں ہے
گو تختِ ثریٰ سے بھی کوئی اس کو پکارے فریاد وہی سنتا ہے جو عرش نشین ہے
پلتے ہیں ترے در پہ سبھی کافر و مشرک یا رب ترے الطاف کی تو حد ہی نہیں ہے
ہے دونوں جہاں میں تو ہی عابد کا سہارا خم تیری ہی چوکھٹ پہ سدا اس کی جبین ہے

ذکر سے محروم لوگ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

من قعد مقعد الم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترة ومن اضطجع مضطجعا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترة . (رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل.....)

جو کسی مجلس میں بیٹھے یا کسی خوابگاہ میں لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت و ندامت ہوگی۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفة حمار وکان علیہم حسرة . (رواہ احمد و ابو داؤد، مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل)

جو قوم کسی جگہ بیٹھے اور اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائے تو وہ مجلس ان کے لئے مردار گدھے کی طرح ہے اور ان پہ حسرت و ندامت ہوگی۔

☆ انہی سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم ترة فان شاء عذبہم وان شاء غفر لہم (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل)

نہ بیٹھی کوئی قوم کسی مجلس میں کہ نہ تو اللہ کا ذکر کرے اور نہ اپنے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجے مگر یہ مجلس ان کے لئے حسرت و ندامت ہوگی اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو بخش دے۔

تیرے غم میں جو نہ گذرے بیکار زندگی ہے
اے مرے کریم مجھ پر بھی کرم نوازیں ہوں
عرب و عجم کے والی میں نہ جاؤں در سے خالی
تیرے رخ پہ کیا سجے ہیں یہ تجلیوں کے سہرے
شب غم کے گیسوؤں نے مجھ پر کیا تھا سایہ
دامن سجا کے جائیں اشکوں کے موتیوں سے
ہیں یہ نام مصطفیٰ کی سبھی عزتیں نیازی
تجھے یاد کرتے رہنا یہی شانِ بندگی ہے
کہ ترے کرم کا چہ چا گھر گھر، گلی گلی ہے
ترے در پہ جو بھی آیا اسے ہر خوشی ملی ہے
جو ہے رونقِ دو عالم ترا حسنِ سرمدی ہے
تیرا نام لب پہ آیا تو میری شامِ غم ٹلی ہے
دربارِ مصطفیٰ میں جس جس کی حاضری ہے
ورنہ تیرے جہاں میں اچھوں کی کیا کمی ہے

(عبدالستار نیازی)

حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام

حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

کل کلام ابن ادم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ .

(رواہ الترمذی، وابن ماجہ، مشکوٰۃ)

انسان کا ہر کلام اس پہ وبال ہے، مفید نہیں سوائے اس کے کہ اچھی بات کا حکم دے یا برائی سے روکے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فان کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وان ابعث الناس من

اللہ القلب القاسی (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ)

اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو کیونکہ بغیر ذکر خدا کے زیادہ باتیں دل کی سختی ہیں اور لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔

☆ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے کہ یہ آیت اتری والذین یکنزون الذهب..... (التوبہ) جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں..... بعض صحابہ کرام نے عرض کی کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سا مال سب سے اچھا ہے پھر ہم وہی جمع کرتے (یہ سن کر) حضور علیہ السلام نے فرمایا: افضلہ لسان ذا کر و قلب شا کر و زوجة مؤمنة تعینہ علی ایمانہ .

بہترین مال ذا کر زبان، شا کر دل اور مؤمنہ بیوی ہے جو ایمان پر اس کی مدد کرے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک حلقے پہ گذرے تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کس لئے یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھے ہیں، فرمایا: اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ صرف اسی مقصد کے لئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا! اللہ کی قسم ہمیں کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا، فرمایا میں نے تم پہ کسی تہمت کی بنا پہ قسم نہیں لی، (تم جانتے ہو) میں

القیامة بندوں میں سے کون ہے جو اللہ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والا ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا مرد اور عورت۔ عرض کیا گیا حضور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا (کہاں گیا) فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما فان الذاکر افضل منه درجہ اگر غازی کفار و مشرکین پہ اتنی تلوار چلائے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خود خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے ایک درجہ افضل ہے یا درجہ میں افضل ہے۔ (احمد ترمذی، مشکوٰۃ)

☆ حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا

ذاکر اللہ فی الغافلین کا لمقاتل خلف الفارین وذاکر اللہ فی الغافلین کفصن اخصر فی شجر یا بس۔

غافلوں میں ذاکر ایسے ہے جیسے جہاد سے بھاگنے والوں میں مجاہد اور غفلوں میں ذاکر ایسے ہے جیسے خشک درخت میں ہری شاخ ایک روایت میں ہے مثل الشجرة الخضراء فی وسط الشجر۔ جیسے (خشک) درختوں میں سرسبز درخت۔

وذاکر اللہ فی الغافلین مثل مصباح فی بیت مظلم

اور غافلوں میں ذاکر ایسے ہے جیسے اندھیرے گھر میں روشن چراغ۔

وذاکر اللہ فی الغافلین یریه اللہ مقعدہ من الجنة وهو حی

غفلوں میں ذکر کرنے والے کو اس کی زندگی میں ہی اسکا جنت والا گھر اللہ تعالیٰ دکھا دے گا

وذاکر اللہ فی الغافلین یغفر بعدد کل فصیح واعجم والفصیح بنوادم والاعجم البہائم۔

(رواہ رزین، مشکوٰۃ)

اور غفلوں میں ذاکر کی تمام فصحاء اور اعجم کے برابر بخشش ہو جاتی ہے یعنی انسانوں اور جانوروں کے برابر۔

یہی حدیث بعض کتب میں مندرجہ ذیل الفاظ کے اضافے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے اس میں

اضافی الفاظ یہ ہیں

وذاکر اللہ فی الغافلین ینظر اللہ الیہ نظرة لا یعذبہ بعدھا ابدا۔ وذاکر اللہ فی السوق لہ بكل

شعرة نور یوم القیامة۔

غفلوں میں رہ کر ذکر خدا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ایسی نظر فرماتا ہے کہ اس کے بعد اسے کبھی عذاب نہ دے گا اور بازار

میں ذکر الہی کرنے والے کے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور رہے گا۔

(بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۴۱۲، رقم ۵۶۷، ابن المبارک، الزهد، ۱: ۱۲۲، رقم ۳۵۷)

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ما عمل العبد عملاً انجی له من عذاب الله من ذکر الله . (رواه مالك . مشکوة)

بندے نے ذکر الہی سے بڑا کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اس کو اللہ کے عذاب سے زیادہ بچانے والا ہو۔

☆ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو عثمان نہدی نے کہا: مجھے معلوم ہے کہ جس وقت میرا رب میرا ذکر کرتا ہے، لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا: ان الله يقول فاذا كروني اذكر كم . اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذا ذكرت ذكرني . پس جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو میرا رب اس وقت میرا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔

(بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۳۰۶، رقم: ۵۵۱، الترغیب والترہیب، ۲: ۲۵۲، رقم: ۲۲۸۸)

☆ عن انس رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله .

”حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت کرنا ہے اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض رکھنا ہے۔“

(بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۳۶۷، رقم: ۳۰۹، ۳۱۰، دیلمی، الفردوس بما نوز الخطاب، ۳: ۵۲، رقم: ۳۱۳۱،

ہندی، کنز العمال، ۱: ۳۱۷، ۳۱۸، رقم: ۱۷۷۶)

نہ مڑ جگ تے آنا ایں
کچھ کھونا ایں کچھ پانا ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں
نت سوں سوں رات گزاریں توں
اس غفلت مار مکانا ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں
بن یاد خدا وند باری دا
کیہ تیرا کھانا دانہ ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں
چھڈ جھڑا دنیا فانی دا
کیہ اینویں مغز کھپانا ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں
چھڈ چغلی جھوٹ تے چوری نوں
جے اپنا آپ چھڑانا ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں
جا پنپے وقت مسیتی توں
ایہہ ڈھوں حکم ربانا ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں
کر پوجا رب دی ہر ویلے
جے اپنا لیکھ جگانا ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں

رکھ تقویٰ حق تعالیٰ دا جس رحمت نال پہچانا ایں
اٹھ جاگ سفر نوں جانا ایں

ذکر خدا کے فوائد کثیرہ

ذکر الہی کے علماء نے سو سے زیادہ فوائد بیان کئے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ فوائد جو مختصر الفاظ میں بیان کیے جاسکتے ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں یاد رہے! ان تمام فوائد میں سے ایک ایک فائدہ یا تو قرآن پاک کی کسی آیت سے حاصل ہے یا کسی نہ کسی حدیث سے مستناد ہے ان آیات و احادیث کو بیان کرنے سے چونکہ سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا لہذا صرف فائدہ کا ذکر کرنے پہ اکتفا کیا جائے گا۔ مگر چند مقامات پہ ماخذ کا ذکر بھی ہوگا۔ ان شاء اللہ

☆ ذکر الہی شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔

☆ ذکر الہی خدا تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔

☆ دل کے تمام غم و فکر و قلبی پریشانیوں کو دفع کرتا ہے۔

☆ دل میں فرح و سرور انبساط اور عیش و خوشی پیدا کرتا ہے۔

☆ دل اور بدن کو طاقت بخشتا ہے۔

☆ دل کو روشن اور چہرے کو نورانی کرتا ہے۔

☆ کشائش رزق کا موجب ہے۔

☆ ذاکر کو رعب و ہیبت، لذت و حلاوت اور غرور و تدبر کا لباس پہناتا ہے۔

☆ اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے جو اسلام کی روح۔ آئیے ملت کا قطب اور سعادت و نجات کا مدار ہے اور اللہ

عزوجل نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیا ہے اور محبت کا سبب و وسیلہ ذکر الہی کی مداومت ہے۔ جوں جوں ذکر میں اضافہ ہوگا۔

توں توں محبت الہی بڑھتی جائے گی۔ لہذا محبت الہی کے طالب و خواہشمند کو تمام علائق توڑ کر ذکر الہی پر ٹوٹ پڑنا چاہیے اور حد سے

زیادہ شوق و رغبت اور توجہ و انہماک سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح علم درس و مذاکرہ اور تکرار سے بڑھتا ہے اسی طرح کثرت

ذکر سے محبت الہی بڑھتی ہے جس طرح درس و تکرار کا علم دروازہ ہے اسی طرح ذکر الہی محبت کا دروازہ محبت کا شارع اعظم اور صراط

اقوم (سیدھا راستہ) ہے۔

☆ ذکر الہی سے محاسبہ نفس کا مادہ پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ ذکر ذاکر کو ”باب الاحسان“ یعنی دروازہ احسان کے اندر داخل کر کے

دم لیتا ہے۔ جہاں پہنچ کر وہ خدا کی اس طرح عبادت کرتا ہے گویا خدا تعالیٰ کو بچشم خود دیکھ رہا ہے۔ مگر یاد رکھئے! جس طرح کوئی شخص

دھرنا مار کر بیٹھ رہنے سے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعینہ اس طرح کوئی شخص ذکر الہی سے غافل بیٹھ کر مقام احسان تک نہیں پہنچ سکتا۔

بسم اللہ پڑھ کے چل قلمیں

لکھ کلمے پاک دی گل قلمیں

دس عظمت عشق حقیقی دی

ہن ہو کے سردے بل قلمیں

حق اول آخر کلا اے
ہر پاسے اللہ اللہ اے
ایہہ ساری دنیا فانی اے
کل عالم تے سلطانی اے
ایہہ ساری دنیا رولا اے
جو سب توں اعلیٰ اولیٰ اے

کل عالم دا رب اللہ اے
اے نقوی ظاہر باطن وچہ
رب باقی تے لاثانی اے
اے نقوی حق تعالیٰ دی
اک خالق رازق مولیٰ اے
کر ذکر خدا دا اے نقوی

ذکر الہی سے انابت حاصل ہوتی ہے

☆ ذکر الہی سے انابت حاصل ہوتی ہے، انابت کہتے ہیں رجوع الی اللہ کو تو انسان جب ذکر الہی کی وجہ سے خدا کی طرف زیادہ رجوع کرے گا اسی قدر اس کا دل تمام حالات، تمام معاملات اور تمام کاروبار میں خدا تعالیٰ کی جانب پھریگا۔ خدا کی طرف متوجہ ہوگا اور محض خدا تعالیٰ کو ہی اپنا مربی تصور کرے گا حتیٰ کہ صرف ایک خدا ہی اس کا ملجا و ماویٰ اور خدا ہی اس کی جائے پناہ ہوگا۔ خدا ہی ہر مصیبت و پریشانی میں اس کا دستگیر ہوگا اور خدا ہی اس کا مرجع و معاد اور قبلہ و کعبہ دل ہوگا اور نزول مصائب و بلیات کے وقت صرف ایک خدا ہی کو پکارنے کا عادی، بلکہ ماہر و پختہ کار ہو جائے گا۔

☆ ذکر الہی، تقرب الہی کا موجب ہوتا ہے جس قدر ذکر الہی میں کوشش ہوگی اسی تناسب سے قرب زیادہ ہوگا اور جس قدر غفلت زیادہ ہوگی اسی قدر بعد ہوگا۔

☆ ذکر الہی سے انسان پر معرفت کے بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس قدر زیادہ کرتا ہے اسی قدر معرفت میں بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ معرفت الہی کا سب سے بڑا عارف اعظم بن جاتا ہے۔

☆ ذکر الہی دل میں خدا تعالیٰ کی ہیبت و عظمت اور عزت و جلال کا سکھ بٹھاتا ہے کیونکہ ذکر کے دل پر خدا تعالیٰ کا انتہائی غلبہ و استیلا چھا چکا ہوتا ہے اور وہ پوری طرح حضور قلب سے خدا کی طرف راجع ہوتا ہے۔ مگر ایک غافل الذکر انسان کی یہ حالت بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل پر ہیبت الہی کا محض معمولی اور باریک سا پردہ ہوتا ہے۔

☆ خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ عزوجل آسمانوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے:

فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

اور ذکر میں اگر یہی ایک وصف (تذکرۃ الہی) موجود ہو تو اس کے لئے یہی شرف و فضیلت کافی ہے۔ چہ جائیکہ دیگر اوصاف حسنہ اس میں مرکوز ہوں چنانچہ حضور ﷺ سے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائکہ ذکرتہ فی ملائکہ خیر منہم
جو مجھے تنہائی میں یاد کرے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جو کسی مجلس میں میرا ذکر کے تو میں اس مجلس میں اس کا
تذکرہ کرتا ہوں جو اس مجلس سے بھی بہتر ہے۔

☆ ذکر الہی حیات قلبی کا موجب ہے، جوں جوں انسان ذکر الہی کرتا ہے اس کے دل میں نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں (ابن قیم) نے ابن تیمیہ سے سنا ہے کہ دل کے لئے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لئے پانی تو بتلائیے پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پر کیا گذرتی ہے؟

☆ ذکر دل اور روح دونوں کی غذا ہے انسان کو جب ذکر الہی کی خوراک نہ ملے تو وہ اس جسم کی طرح بیکار و ناکارہ ہو جاتا ہے جس کی خوراک بند کر لی جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔

☆ ذکر دل کا زنگ اتار دیتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بیان ہو چکا ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دل کا زنگ غفلت و ہوا اور خواہش نفسانی ہے اور اس کی جلا، ذکر الہی اور توبہ و استغفار ہے۔

☆ ذکر الہی تمام گناہوں اور بدیوں کو محو کر دیتا ہے، کیونکہ ذکر تمام نیکیوں سے اعلیٰ ترین نیکی ہے اور نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

☆ ذکر انسان و خدا تعالیٰ کی باہمی بیگانگی و بے ربطی کو زائل کرتا ہے کیونکہ غافل انسان اور خدا تعالیٰ کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا۔ لہذا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو باہمی رابطہ و تعلقات کو استوار رکھ سکتی ہے۔

خداوند تو می دانی منم در بحر عصیانم
منم زندہ نہ من مردہ نہ من در وصل و جبرانم
کدامے مذہبے دارم کدامے مشربے دارم
پریشانم پشیمانم پشیمانم پریشانم
نہ بیدارم نہ خوابیدہ نہ من در نفع و نقصانم
کدامے منصبے دارم بے بے ساز و سامانم

ذکر کے کلمات خود ذاکر کا ذکر کرنے لگتے ہیں

☆ ذاکر خدا تعالیٰ کا جن کلمات جلالت اور تسبیحات و تحمیدات سے ذکر کرتا ہے وہی اذکار مصائب و تکلیف کے وقت اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان ماتذکرون من جلال اللہ عزوجل من التہلیل والتکبیر والتحمید يتعاطفن حول العرش لهن
دوی کدوی النحل یذکر بصاحبہن افلا یحب احدکم ان یکون له ما یذکر بہ هذا الخ او
بمعناہ

ہیت و جلال خداوندی سے جو تم اس کی تہلیل و تکبیر اور تحمید کرتے ہو۔ وہ (کلمات) جا کر عرش الہی کے گرد گھومنے لگ جاتے ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح آواز نکالتے ہیں اور اپنے فاعل کو یاد کرتے ہیں۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہیں بھی کوئی چیز عرش الہی کے پاس یاد کرے اور تمہارے تذکرے کرے؟

☆ جب انسان عیش و کشادگی میں ذکر الہی کرتے کرتے خدا تعالیٰ سے تعارف اور راہ و رسم پیدا کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کا واقف کار بن جاتا ہے تو اللہ عزوجل تنگی و شدت میں اس کا واقف و مددگار ہوتا ہے اور اس سے جان پہچان رکھتا ہے اور ہر وقت اس کی دیکھیری فرماتا ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی آئی ہے کہ:

”خدا تعالیٰ کا مطیع و ذکر گزار بندہ جب اللہ عزوجل کو سختی و مصیبت کے وقت پکارتا ہے یا اپنی کسی حاجت کے لئے دست سوال دراز کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں خدایا کسی واقف و معروف شخص کی معروف سی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اللہ عزوجل سے اعراض کنندگانِ غافل شخص جب خدا تعالیٰ کو پکارتا اور اس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا! کسی منکر و ناواقف شخص کی غیر معروف آواز ہے۔“

☆ ذکر خدا عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، کا قول ہے اور مرفوعاً حضور ﷺ سے بھی مروی ہے حدیث گذر چکی ہے کہ

ما عمل آدمی انجلی له من عذاب الله من ذکر الله تعالیٰ (رواہ الطبرانی فی الاوسط)
آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کے لئے ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دہندہ ہو۔

☆ ذکر الہی کے باعث ذکر پر اللہ عزوجل کی جانب سے آرام و سکینت نازل ہوتی ہے۔ اسے رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے گرد رحمت الہی کے فرشتے پرے پرے باندھ کر گھیرا ڈال لیتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔

منم ملا نہ من قاضی منم صوفی نہ من غازی	منم شاعر نہ من حاجی منم اینم نہ من آنم
منم ادنی گدائے تو ہی خواہم لقاے تو	نمی دانم سوائے تو توئی مقصود ایمانم
گنہ گارم خطا کارم منم ناچار و بیمارم	کرم کن بر دل زارم ترا جویم ترا خوانم

ذکر تمام بیہودگیوں سے بچا لیتا ہے

ذکر الہی زبان کو چغلی و غیبت جھوٹ و بکواس اور گالی گلوچ سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ آخر کلام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر زبان سے ذکر الہی اور تبلیغ احکام نہ کرے تو کبھی جائز بات کہے گا اور کبھی ناجائز بلکہ بسا اوقات حرام، فسق و فجور اور بیہودہ بکواسات کہے گا جس سے زبان کو محفوظ رکھنا از بس ضروری ہے اور وہ محض خدا کا ذکر اذکار کرنے سے ہی محفوظ رہ سکتی ہے اور تجربہ و مشاہدہ دونوں اس پر شاہد ہیں لہذا جس نے زبان کو ذکر الہی کا عادی بنا دیا، اس نے اپنی زبان کو ہر قسم کے باطل و بیہودہ لغویات اور بکواسات سے محفوظ کر لیا مگر جس کی زبان ذکر الہی سے خشک ہو جائے تو ہر لغو و باطل و فحش میں تر رہے گی۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔

☆ ذکر الہی کی مجالس فرشتوں کی مجالس ہوتی ہیں اور لغو و باطل اور خالی از ذکر کی مجالس شیطانی مجالس ہوتی ہیں۔ اب انسان کے سامنے دونوں مجالس ہیں جسے بہتر تصور کرتا ہے اسے خود انتخاب کرنے کیونکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں جس کے ساتھ شامل ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔

☆ ذکر سے ذکر خود بھی سعید و نیک بخت ہو جاتا ہے اور اس کا ہم نشین اور ہم مجلس بھی نیک بخت و نیک اقبال ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ ذکر الہی جہاں اور جس وقت بھی ہو بابرکت و قابلِ عزت چیز ہے۔ لیکن غافل و بیہودہ کو اپنی لغویات اور ذکر الہی سے غفلت

کے باعث خود بھی بد بخت اور اپنے ہم مجلس کو بھی بد بخت بنا کر رہتا ہے۔

☆ ذکر کی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت و افسوس سے مامون و مصون رہے گا کیونکہ جو مجلس ذکر الہی سے خالی ہو وہ مجلس اہل مجلس پر قیامت کے دن حسرت و ہلاکت اور بربادی کا موجب ہوگی۔

☆ خلوت میں خدا کی یاد کر کے رونے سے اس دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس دن سخت گرمی اور عد کی دھوپ ہوگی تمام لوگ سورج کی گرمی و دھوپ میں تڑپ رہے ہوں گے اور ذاکر عرش الہی کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے نہایت عیش و آرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔

☆ ذاکر کو ذکر الہی میں منہمک رہنے کی وجہ سے بارگاہ الہی سے وہ وہ انعامات حاصل ہوتے ہیں جو مانگ کر لینے والوں کو بھی حاصل نہیں ہوتے کیونکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

قال سبحانه تعالیٰ من شغله ذكری عن مسئلتی اعطيته افضل ما اعطى السائلین ○

جس شخص کو میری یاد سوال و درخواست کرنے سے روکے رکھے، میں اسے مانگ کر لینے والوں سے زیادہ عنایت کرتا ہوں۔

لم تشنه سرم تفتہ ولم خسته و حیرانم
ره شرقم رہے غریب منم ہرگز نمی دانم
منم از فضل و احسانش مسلمانم مسلمانم

خرد گم کردم و ہوشم نماند و جان من کشته
بیا در خانہ قلم منم از تو ترا طلسم
حساب روز محشر را مرا نقوی چه غم باشد

ذکر خدا تمام عبادات سے افضل بھی ہے اور آسان بھی

ذکر جملہ عبادات سے اعلیٰ و افضل ہونے کے باوجود سب سے سہل و آسان ترین عبادت ہے کیونکہ زبان کی حرکت جملہ اعضاء و جوارح کی حرکات کی نسبت نہایت خفیف و آسان ترین ہوتی ہے۔ شب و روز جس قدر زبان حرکت کرتی ہے اتنا دیگر اعضاء و جوارح کو حرکت کرنی پڑے تو انہیں انتہائی مشقت ہو اور وہ تھک کر چور ہو جائیں بلکہ اس قدر حرکات تو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ یہ زبان ہی کا کام ہے کہ شب و روز اس قدر حرکت کرنے اور ہلنے چلنے سے تھکنے میں نہیں آتی۔

☆ ذکر الہی کرنے سے جنت میں پودے اور درخت لگتے ہیں جیسا کہ حدیث گذر چکی کہ معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے کہا:

اے پیارے محمد! میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا جنت کی زمین بھی نہایت بہترین و اعلیٰ ہے اور پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے۔ مگر ہے وہ صاف اور چٹیل میدان اور اس کے پودے یہ ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر (ترمذی)

ترمذی شریف ہی کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا:

من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنة۔ (حسن صحیح بواسطہ ابی زبیر عن جابر)

اسے بھول کر دوسری چیز میں مشغول ہو جائے اس کی حفاظت و نگرانی ترک کر دے اور اس کی اصلاح سے منہ موڑے تو وہ خراب و برباد اور بد بخت نہیں ہوگا؟ پھر خود ہی بتلائیے کیا آپ اسے خراب و برباد کر کے محروم و نامراد ہونا چاہتے ہیں؟ یہی ایسا شخص ہے جس کے جملہ کاروبار حد سے متجاوز ہونے کی وجہ سے مقام افراط تک پہنچ گئے۔ تمام مصالِح ضائع ہوئی اور ہلاکت و بربادی ناکامی و نامرادی اور خسران کے اسباب و علل نے پوری طرح اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان تمام نقصانات سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے خدا تعالیٰ کی دوامی یاد ذکر الہی سے والہانہ شیفگی و وابستگی اور ہر وقت یاد خدا میں رطب اللسان رہنا۔ انسان کو چاہیے کہ یاد اللہ کو اپنی زندگی و حیات کا لازمی جز نہیں بلکہ خود اسی کو حیات و زندگی تصور کرے جس کے سوا انسان کو کچھ چارہ نہیں اور اسے غذا کے قائم مقام سمجھے جس کے فقدان سے جسم کی تباہی و بربادی یقینی ہوتی ہے۔ ہاں شدت پیاس و تلخی کے وقت اسے آب خنک سردیوں اور گرمیوں کا لباس، انتہائی جاڑے اور لوہوں سے بچنے کی جھونپڑی سمجھے۔

بندۂ خدا کے لئے ضروری ہے کہ ذکر الہی کو ان تمام چیزوں کے قائم مقام بلکہ ان سے اعظم و اعلیٰ خیال کرے کیونکہ کہاں روح و قلب کی خرابی و ہلاکت؟ اور کجا بدن کی خرابی و بربادی؟ بدن کی خرابی و ہلاکت یقینی و لا بدی سہی مگر بعد از خرابی بسیار پھر بھی قابل اصلاح ہے لیکن روح و قلب کی موت کے بعد تو اس کی اصلاح و فلاح کی امید بھی مفقود اور ناممکن ہے لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

اور ذکر و دوام ذکر میں محض یہی ایک فائدہ جملہ فوائد سے کافی ہے کیونکہ جو خدا تعالیٰ کو بھلا دے خدا تعالیٰ دنیا میں اس سے اس کا اپنا نفس بھلا دیگا، اور قیامت کو عذاب جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیگا۔ ارشاد باری ہے۔

و من اعرض عن ذکری فان له معیشتہ ضنکاً و نحشرہ یوم القیمۃ اعمیٰ قال رب لم حشرتہ اعمیٰ وقد کنت بصیراً قال کذالک انتک ایاتنا فنسیتہا و کذالک الیوم تنسیٰ (طہ - ۱۲۳)

جو میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لئے معیشت تنگ ہے اور قیامت کو اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا: خدایا! مجھے تو نے نابینا کر کے اٹھایا حالانکہ میں (دنیا میں) آنکھوں والا ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا۔ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا۔ اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔

دلِ را جانبِ شاہِ حرم کن
مرادِ ر دین و دنیا محترم کن
مرا محفوظِ آتام و ندم کن
بجانم فضل و احساں دم بدم کن
مداوائے دلِ درد و الم کن
مرا موصوفِ اخلاق و شیم کن
بہ عشقِ عالم لوح و قلم کن

خداوند بحال من کرم کن
توئی خلاق و رزاقِ عوالم
توئی مشکل کشائے ہر دو عالم
نمی دارم سوائے تو خدائے
ترا خوانم، ترا بینم بہ ہر سو
گند گارم ز سرتاپا خطایم
مرا در دین و دنیا یا الہی

بہ دین سید عرب و عجم کن
بلیاتِ رہِ نقوی عدم کن

مرا در مرگ و در روز قیامت
بفیضانِ شہِ ختمِ نبوت

بیدار مغز سو یا ہوا ذاکر غافل تہجد گزار سے بہتر ہے

وحدت جو عطا کن میں نہاں ہوتی ہے سو رنگ میں وہ جلوہ فشاں ہوتی ہے
ہر آن نئی شان میں ہو کر تحلیل انوار کی صورت میں عیاں ہوتی ہے

ذاکر انسان کو ہر وقت (روحانی) سیر کراتا ہے۔ حالانکہ کبھی وہ بستر خواب پر لیٹا ہوتا ہے کبھی کوچہ و بازار میں پھر رہا ہوتا ہے کبھی تندرست کبھی بیمار کبھی نعمتوں میں اور کبھی لذتوں میں ہر حالت میں اسے روحانی سیر کراتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی وقت اور کوئی حالت (روحانی) سیر سے خالی نہیں گذرتی حتیٰ کہ بستر پر سوئے ہوئے غافل تہجد گزار سے کہیں آگے نکل جاتا ہے صبح دیکھو، تو ذاکر بستر خواب پر لیٹے لیٹے منزل طے کر چکا اور قافلہ سے آگے نکل گیا ہوتا ہے۔ لیکن غفلت سے تہجد گزار نے والا شخص بیچارہ جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا نظر آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عنایت فرما دیتا ہے۔

ایک عابد کے متعلق حکایت ہے کہ وہ اپنے دوست کے ہاں جا کر مہمان ٹھہرے، اور تہجد پڑھتے پڑھتے تمام رات گذاری مگر میزبان بستر پر لیٹے لیٹے صبح اٹھا۔ عابد صاحب فرمانے لگے، میاں! تیرے سوتے سوتے قافلہ تو دور نکل گیا، میزبان نے کہا اس کی بہادری کیا جو قافلہ کے ساتھ سفر میں ہی رات گزارے اور صبح اٹھ کر قافلہ کے ساتھ ہی چل کھڑا ہو، جو امر تو وہ ہے جو رات بستر پر گزارے اور لیٹے لیٹے صبح کو قافلے سے بھی آگے نکل جائے۔

اس حکایت کے دونوں محمل ہو سکتے ہیں، محمل صحیح بھی اور محمل فاسد بھی۔ اگر یہ محمل قرار دیا جائے کہ انسان بستر پر لیٹے لیٹے سو کر پھڑا کے بھی مارتا ہے اور قانت قائم اللیل و تہجد گزار سے بھی ثواب میں بڑھ جائے تو یہ قطعاً غلط اور باطل ہے۔ اس کا محمل تو یہ ہے کہ بستر پر لیٹنے والے کے دل کا کنکاشن خدا سے جڑ چکا ہو اور اس کا دل اپنے پروردگار کے ساتھ معلق ہو اور محبت الہی کے ولولہ و جوش نے اس کے دل کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہو اور اس کی یہ حالت ہو چکی ہو کہ وہ قدوسیوں کے مقدس جگہوں میں عرش الہی کا طواف کرتے کرتے اس طرح رات بسر کر دیا کرتا ہو گویا وہ دنیا و مافیہا سے بالکل بیخبر ہے۔ لیکن سردی یا درد یا تکلیف کے عارضہ سے کسی رات وہ قیام اللیل نہ کر سکے، یا دشمن کے تعاقب میں تہجد نہ پڑھ سکے یا خود اس کے پیچھے پیچھے دشمن آ رہا ہو اور وہ جان کے خطرہ سے بیچارہ چھپتے چھپتے تہجد ادا کر سکے یا دیگر کسی عذر کی بنا پر اس سے قیام اللیل رہ گیا ہو مگر بسترے پر لیٹ کر بھی وہ اپنے اندر خدا تعالیٰ کی محبت اور جوش و خروش کا اس قدر جذبہ رکھتا ہو جس کا علم خدا تعالیٰ کو ہے تو وہ اس شخص سے ہزار درجہ بہتر ہے، جو رات کو تہجد گزارتے تو صبح کردے مگر اس کے دل کا ایک ایک گوشہ ریا، غرور، تکبر، طلب جاہ اور عزت طلبی کی غلاظت و گندگی سے لبریز ہو چکا ہو یا خود کہیں اور اس کا دل کہیں ہو، تو ایسا شخص یقیناً بستر پر لیٹے لیٹے بھی اس تہجد گزار سے بے شمار مراحل آگے نکل جاتا ہے کیونکہ عمل کا تعلق بدن سے نہیں دل سے ہوتا ہے تمام تر دار و مدار نیت پر ہے کہ اصل چیز جڑ ہے پتے نہیں کیونکہ ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو خوابیدہ عزائم کے لئے ہیجان خیز ہے۔ خاموش و مخفی خواہشات کو بھڑکا دیتی ہے اور مردہ جذبات طلب میں نئی روح پھونک دینے والی

چیز ہے۔

ذکر الہی سے قلب میں حیات اور آخرت کی تمام منازل میں روشنی ملتی ہے

ہر شے میں عیاں کر کے اپنی محبت دکھلائی بہر طرز نزاکت اپنی
ہر رنگ میں دیدارِ محمد کے لئے ”ڈالی“ ہے خالق نے لذت اپنی

ذکر ہی ایسی چیز ہے جو ذکر کے لئے دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور اور آخرت میں بھی نور کا موجب ہوگا اور پلصراط پر اس کے آگے آگے چلتا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ دلوں میں نور اور قبروں میں روشنی پیدا کرنے کے لئے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **او من كان ميتا فاحيينه وجعلنا له نور ايمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (انعام) بتلائے! جو شخص جہالت کی موت مرچکا تھا ہم نے اسے علم کی روح عطا کر کے زندہ کر دیا اور اسے نور شریعت عطا کیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو ایسے اندھیروں میں گھر چکا ہے جہاں سے کبھی نہ نکل سکے گا۔**

یہاں نور والے سے وہ مومن مراد ہے جو ایمان باللہ، محبت و معرفت خدا اور ذکر الہی سے منور ہو چکا ہے اور صاحبِ ظلمات سے وہ شخص مراد ہے جو خدا سے غافل ہو چکا ہے۔ حضور ﷺ کی دعائے نور اس تصور کو سمجھنے کے لئے کافی دوانی ہے، مزید روشنی کے لئے مندرجہ ذیل دعا پے غور کریں۔

اعوذ بنور وجهك الذی اشرق له الظلمات و صلح علیه امر الدنيا والاخرة ان يحل علی

غضبك او ينزل بی سخطك لك العقبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بك ۔

(اے اللہ) میں تیرے غضب سے تیرے چہرہ انور کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس کے سامنے تمام تاریکیاں روشنی میں بدل جاتی ہیں اور جس کے باعث دنیا و آخرت کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں، گناہ سے باز رہنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق تیری ہے مدد پے موقوف ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ تمہارے رب کے ہاں نہ رات ہے نہ دن بلکہ سب آسمان اللہ کے چہرے کے نور سے روشن ہیں، بعض روایات میں اس اثر کے الفاظ اس طرح ہیں آسمانوں اور زمینوں کی روشنی (رونق) اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے نور کے باعث ہی ہے، اسے عثمان داری نے ذکر کیا ہے قرآن میں ہے: **واشرقفت الارض بنور ربها۔ (الزمر: ۳۹) زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، تو ثابت ہوا کہ بروز قیامت ہر طرف خدا ہی کے نور کی جلوہ گری ہوگی نہ کہ شمس و قمر کے نور کی۔**

چمن اس کا، بہار اس کی، بہاروں کا نظام اس کا
مکان سے لامکان تک ذرے ذرے میں مقام اس کا
جہاں دیکھو، جدھر دیکھو وہیں موجود نام اس کا
وگر نہ کس سے پنہاں ہے حدوث اپنا دوام اس کا

ہے اس کی محفل اس کا ساقی و مینا و جام اس کا
عناصر کے رگ و پے میں ہر اک شے اور لاشے میں
نہاں خانوں میں دل کے اور عالم کی زبانوں پر
نگاہ فلسفہ گم ہے خود کی کو بنی میں

نور خدا کی جلوہ گری

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ہمیں خطبہ میں پانچ چیزیں ارشاد فرمائیں، فرمایا:

ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابہ النور لو كشفه لا حرقتم سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه ثم قرأ ان بورك من في النار ومن حولها (نمل ۲۷-۲۸)

اللہ عزوجل سوتا نہیں اور نہ اسے سونا لائق ہے رزق وغیرہ کے ترازو کو وہی اونچا نیچا کرتا ہے اور اسی کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے رہتے ہیں، اور وہ نور کا حجاب کئے ہوئے ہے اگر اسے اٹھا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے جلال و عظمت کا نور نظر پہنچنے تک تمام چیزوں کو خاکستر کر کے رکھ دے پھر استشہاد کے لئے آیت تلاوت فرمائی ان بورك الخ یعنی وہ بابرکت ذات ہے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ حجاب بھی خدائے قدوس کے چہرہ اقدس کے نور سے مستعیر ہوگا اور اگر وہ حجاب نہ ہو تو چہرہ خداوندی کے انوار تمام دنیا کو جلا کر رکھ کر ڈالیں اور انوار الہیہ گزدور گزدور نہیں بلکہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک باری تعالیٰ و تقدس کی نظر پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل تبارک و تعالیٰ نے جب (عرش معلیٰ سے) کوہ طور پر تجلی فرمائی اور تھوڑا سا حجاب اٹھایا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں دھنس گیا اور ایک سیکنڈ کے لئے بھی خدائے ذوالجلال و جبروت کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔

چمن کے چہچہے ہوں یا سکوت کوہ و صحرا ہو
یہ عرش و فرش یہ رنگینیاں پہنائے عالم اس کی
ہوا میں ابر و باراں میں زمیں میں آسمانوں میں
مسلسل ذکر جاری ہے فضا میں صبح و شام اس کا
یہ مہر و مہ یہ بحر و بر یہ خشک و تر تمام اس کا
مہک اس کی چمک اس کی سکوں اس کا خرام اس کا

ذکر خدا سے فاقہ قلبی کا انسداد ہوتا ہے

دل میں ہر وقت ایک حاجت اور ایک فاقہ موجود ہوتا ہے جس کا انسداد ذکر الہی کے سوا کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ جب ذکر اس کا اس طرح شعار بن جائے کہ اصالت وہی ذکر ہو اور زبان محض اس کی تابع ہو تو یہی وہ ذکر ہے جو تکمیل حاجات اور فاقہ کو مٹانے کا موجب ہو سکتا ہے اور جس کے ہوتے ہوئے انسان مال کے بغیر بھی غنی، قبیلہ و کنبہ نہ ہونے کے باوجود معزز اور حکومت کے بغیر بھی بارعب اور مہیب ہوتا ہے، مگر جب ذکر الہی سے غفلت کرے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے اور کثرت امور و حادثات کے باوجود فقیر، حکومت کے باوجود ذلیل اور بے شمار رشتہ داروں اور کنبہ و قبیلوں کے باوجود تمام لوگوں کی نظروں میں حقیر و ذلیل اور خمیس ہوتا ہے۔

الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا
زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں ترے جلوے
ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے
جہاں والوں سے کیونکر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا
نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا
سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا

تیرا محبوب پیغمبر تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی اک رازداں تیرا
 جہان رنگ و بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے نہ کوئی ہمسفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا
 تری ذاتِ معلیٰ آخری تعریف کے لائق چمن کا پتہ پتہ روز و شب ہے نغمہ خواں تیرا

ذکر الہی کی چار خوبیاں

ذکر میں چار خوبیاں ہیں، متفرق کو جمع کرنا، اور مجتمع کو متفرق، قریب کو بعید اور بعید کو قریب کرنا۔ جمع کی صورت یہ ہے کہ انسان کے پراگندہ دل، پراگندہ ارادہ، پراگندہ محبت، پراگندہ خشوع و تذلل اور پراگندہ متفرق عزائم کو جمع کرنا اور تمام پراگندگیاں رفع کر کے جملہ چیزوں کو درست کر دیتا ہے اور بنظر غور دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کی پراگندگی تشتت و افتراق ہی انسان کے لئے سراسر عذاب و وبال جان ہیا اور دل و فکر و ارادہ کی جمعیت میں ہی زندگی و حیات اور جملہ نعمت و انعامات مرکوز ہیں۔

تفرق کی صورت یہ ہے کہ انسان پر غم و تفکرات، ہم و اندوہ، کسی کام اور مطلوبہ خواہشات میں ناکامی و نامرادی پر حسرت و افسوس اور جملہ مصائب جس قدر بھی انسان پر جمع ہو جاتے ہیں سب کو متفرق و منتشر کر دیتا ہے، علیٰ ہذا القیاس جس قدر گناہ و خطا کاریاں، بدکاریاں و بدنامیاں اس پر گھیرا ڈال لیں، سب کو یکدم رفو چکر کر دیتا ہے اور سب ایک ایک کر کے اس سے جھڑک مضمحل و مفقود اور لاشے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی جماعت پر جتنے بھی شیطانی لشکر چڑھ کر جمع ہو آتے ہیں مار مار کر ایک منٹ میں انہیں بھگا دیتا ہے اور یاد رکھئے! ایسے شخص پر شیطانی لشکروں کا حملہ و هجوم لا بدی ہے کیونکہ ابلیس ہر وقت اور ہر ساعت فوج در فوج اور لشکر پر لشکر روانہ کرتا رہتا ہے اور ذاکر جتنا خدا تعالیٰ کا زیادہ طالب ہوگا اور عشق الہی میں جتنا زیادہ پختہ کار ہوگا، خدائی تعلقات و واردات میں جس قدر اس کا گہرا تعلق ہوگا۔ اسی تناسب سے اسے گمراہ کرنے کے لئے زیادہ صاحب شان و شوکت و صاحب قوت و سطوت اور بے شمار و بھاری بھر کم لشکروں کی ضرورت ہوگی اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ جن کا مقابلہ کرنا جسے ہزیمت دینا اور جسے متفرق و منتشر کرنا از حد لازم ہے اور یہ کام صرف دوام ذکر سے نکل سکے گا اور اس کا علاج صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ذکر الہی میں انسان رطب اللسان رہے۔

بعید کو قریب کرنا یہ ہے کہ خدا کی یاد میں شیطان اور انسان کی اپنی خواہشات اور طویل امیدیں جس سے آخرت کو دور اور انسان کی نظر سے اوجھل کر دیتی ہے وہی آخرت خدا تعالیٰ کی یاد میں منہمک ہونے سے بالکل قریب آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لئے وہ ذکر میں اس قدر سرپٹ مشغول ہو جاتا ہے، گویا قیامت پنا ہو گئی اور وہ عین میدان قیامت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو بالکل تیار کھڑا ہے۔ یہ حالت طاری ہوتے ہی دنیا خود بخود اس کی نظر میں ذلیل و حقیر دکھائی دینے لگتی ہے اور دل میں آخرت کی عظمت و شان و شوکت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے وہی دنیا جو کل تک قریب نظر آتی تھی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور وہی آخرت جو آج تک دور معلوم ہوتی تھی آنکھوں کے سامنے نقشہ بن کر نمودار ہو جاتی ہے کیونکہ دل میں آخرت قریب ہوگی تو دنیا دور ہوتی جائے گی حتیٰ کہ آخرت ایک مرحلہ قریب ہوگی تو دنیا ایک مرحلہ دور ہوگی اور آخرت کو دل میں قریب تر کرنا از بس ضروری و لا بدی ہے جو صرف اسی صورت قریب ہو سکتی ہے کہ انسان ہر وقت ہر آن ذکر میں رطب اللسان رہے۔

تو تشبیہاں تو ایں اُچا سوہنا پاک منزہ
تیری حمد چتارے دل ایہہ آکھے پاک درود

ترا پرچم لہرندا میں تکیا اے ہر پاسے
شانِ عظیم اے تیری مولیٰ بخشیا پاک حبیب

ذکر خدا سے دل بیدار رہتا ہے

ذکر خدا دل کو نیند سے ہوشیار اور خواب غفلت سے بیدار کر دیتا ہے اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دل غفلت کی نیند سوچکا ہو تو اس کی سینکڑوں تجارتیں خراب اور ہزاروں منافع برباد اور سراسر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے مگر جب نیند سے بیدار اور خواب غفلت سے ہشیار ہو کر اسے پتہ چلتا ہے کہ سونے سے میری فلاں تجارتیں خراب ہوئیں اتنے منافع برباد ہو گئے اور الٹا اتنے خسارے لازم آئے تو پہلے سے بھی زیادہ چالاک اور چاق و چوبند ہو کر تلافی مافات کے لئے کمر بستہ ہو جاتا ہے بقیہ عمر بھر کے لئے ہشیار و بیدار ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور غفلت و سستی اور نیند کو قریب تک نہیں آنے دیتا اور یہ بیداری و ہوشیاری صرف ذکر الہی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ ذکر الہی سے غافل رہنا ہی گہری نیند اور خواب غفلت کا موجب ہوتی ہے۔

☆ ذکر وہ درخت ہے جس پر احوال و معرفت الہی کے وہ پھل لگتے ہیں جس پر سالک و عارف لوگ جان دیتے ہیں اور یہ پھل صرف ذکر الہی کے شجر سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں پھر جس قدر اس درخت کا پیڑ زیادہ ہوگا جڑیں راسخ و مضبوط ہوں گی اسی قدر زیادہ پھلدار ہوگا اور ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر اس مقام کا نتیجہ و ثمرہ حاصل ہوتا ہے جو تو حید خداوندی کے لئے بیداری و ہشیاری کا موجب ہوتا ہے۔

اور ذکر ہی وہ بنیاد ہے جس پر جملہ مقامات کی عمارت اسی طرح کھڑی کی جاسکتی ہے جس طرح کسی بنیاد پر دیوار یا دیوار پر چھت کھڑی کی جاسکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار نہ ہو تو اپنی منزل طے نہیں کر سکتا اور بیدار کرنے والی چیز صرف ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جو خواب غفلت سے ہوشیار و بیدار کرتی ہے۔ چنانچہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اور غفلت ہی دل کی نیند بلکہ اس کے لئے موت کا حکم رکھتی ہے جس کی وجہ سے دل روحانی طور پر بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔

خالق تے سبحان توں مولیٰ

مالک تے رحمن توں مولیٰ

رحمت شفقت و نڈن والا

عزت ذلت دیون والا

لئے دل نون جوڑن والا

سبھ دیاں راساں موڑن والا

ذکر سے قرب و معیت خداوندی نصیب ہوتی ہے

ذکر اپنے مذکور (خدا تعالیٰ) کے قریب اور مذکور (خدا تعالیٰ) اس کے ساتھ اور اس کی معیت میں ہو جاتا ہے اور یہ معیت معیت عملی و احاطہ عامہ نہیں بلکہ معیت خاصہ ہے۔ یعنی قرب و ولایت نصرت و محبت اور توفیق و اعانت کے لحاظ سے عزوجل انسان سے دور نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ میں ہے۔

خدا تعالیٰ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

ان الله مع الذين اتقوا (نحل ۱۶-۱۷)

اللہ عزوجل صبر گزاروں کے ساتھ ہے۔

والله مع الصبرين (بقرہ ۳-۳۳)

اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے ساتھ ہے۔

غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے

اور ذکر گزار کو اس معیت کا اکثر دو افر حصہ نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔

انا مع عبدی ما ذکرنی وتحركت بی شفتاه (بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

جن تک انسان میرے ذکر میں رطب اللسان رہے اور اس کے ہونٹ ہلکتے رہیں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔

جبکہ دوسری حدیث قدسی میں ہے

اهل ذکرى اهل مجالستى و اهل شكرى اهل زیارتى و اهل طاعتى اهل کرامتى و اهل معصیتى

لا اقنطهم من رحمتى ان تابوا فانا حبیبهم فانى احب التوابین و احب المتطهرین فان لم یطبوا

فانا طیبهم ابتلیهم بالمصائب لا طهرهم من المعائب . (الوابل الصیب من الکلم الطیب)

اہل ذکر میرے، ہم مجلس اہل شکر میرے زائرین اہل طاعت میرے اصحاب کرامت ہیں اہل معصیت میرے رحمت پر

وردہ ہیں جن کو میں اپنی رحمت سے ناامید نہیں کرتا چاہتا اگر توبہ کریں تو میں ان کا دوست ہوں کیونکہ توبہ کرنے والوں کو

میں محبوب سمجھتا ہوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہوں اور اگر علاج ہی نہ کرائیں تو میں خود ان کا طیب ہوتا

ہوں اور مصائب کے آپریشن سے ان کو عیوب سے پاک صاف کر دیتا ہوں۔

سبھ تیری امداد دے طالب، توں ایں سبھ دا ناصر

تیری یاد اجالے وٹڈے جلویاں دا توں مظہر

باقی سبھ مخلوق اے تیری توں سمھناں دا والی

توں دنیا دا خالق مالک توں دنیا دا والی

تیری حمد دے نغے گائے تیرے تسبیح خواناں

تیرا ای ناں لے کے سائیاں سارے کرن اڑاناں

اول وی توں آخر وی توں، توں ایں باطن ظاہر

وچ تصرف تیرے سبھ کجھ جو چاہیں اوہ ہودے

توں اچا توں سبھ توں اچا توں سمھناں توں عالی

توں جبار مشیت تیری جو چاہویں اوہ کردا

تیریاں ای تعریقاں کردیاں مولا سبھ زباناں

شمس قمر تے تارے سارے تیرے حکم تے چل دے

ایک ضروری وضاحت

جو معیت ذاکر کو نصیب ہوتی ہے اس سے کوئی معیت ہمسری و مشابہت نہیں کر سکتی اور یہ اس معیت سے اخص ہوتی ہے جو

ایک محسن و متقی کو عنایت ہوتی ہے بلکہ یہ ایسی معیت ہے جو نہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے نہ وصف سے بلکہ ذوق و وجدان سے معلوم

ہوتی ہے اور یہی مقام لغزش ہے جہاں انسان کفر کے قریب تر پہنچ جاتا ہے اور جب تک اس معیت کے ساتھ ساتھ بندہ قدیم

وحادث، خالق و مخلوق، اور عابد و معبود میں فرق نہ کرے تو اسلام سے خارج اور حلولیہ بن کر یا عیسائیوں سے جا ملتا ہے یا وجود یہ ہو کر

قائلین وحدت وجود میں داخل ہوتا ہے جو وجود باری تعالیٰ کو عین موجودات کا وجود سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خیال میں نہ کوئی رب ہے نہ

بندہ نہ مخلوقات ہے، نہ خدائے برحق بلکہ وہ تو رب کو بندہ اور بندہ کو رب اور مخلوقات کو حق تعالیٰ تصور کرتے ہیں، حالانکہ اللہ عزوجل تو

ان کے بکواسات سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔

الغرض مقصود یہ ہے کہ انسان صحیح عقیدہ پر رہے تو فیہا، ورنہ جب ذکر و اذکار کا غلبہ و تسلط پوری طرح اس پر مستولی ہو جائے کہ خدا کی یاد بلکہ خود اس کا نفس اس کے دل سے غائب و مخفی ہو جائے اور ہر چیز اس کو خدا نظر آئے تو یقیناً حلول و اتحاد جیسے عقائد فاسد میں مبتلا ہو کر وہ شریعت اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور مرتد و ملعون ہو کر مرے گا۔

اے خدا ستار تیری ذات ہے میں ہوں عاصی میری کیا اوقات ہے
سر ندامت سے نہیں اٹھتا مرا شرم بد اعمال پر دن رات ہے

ذکر خدا صدقہ و جہاد سے بھی افضل ہے

ذکر الہی، غلام آزاد کرنے، خدا کی راہ میں مال لٹانے، جہاد فی سبیل اللہ کے لئے سواری پیش کرنے اور تلوار لے کر میدان جہاد میں خود اپنے نفس کو پیش کرنے کے برابر و مساوی ہے چنانچہ پہلے بھی گذر چکا ہے کہ۔

”جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ و وحدہ لا شریک لہ لہ الملك و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر پڑھے اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے سونکیاں لکھی جاتی ہیں سو برائیاں محو کی جاتی ہیں اور صبح سے شام تک اس دن شیطان سے مصون و محفوظ رہتا ہے“ (الحديث)

ابن ابی الدنیا بواسطہ اعمش از سالم بن ابی الجعد ذکر فرماتے ہیں کہ کسی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں شخص نے سو غلام آزاد کیا ہے تو فرمایا کہ سو غلام تو بہت کافی اور افضل ترین صدقہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ افضل ترین ایمان ہے جو انسان کے روز و شب لازم و ملزوم رہے اور انسان ہر وقت ذکر الہی میں طب اللسان رہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”سونے کے دینار سخاوت کرنے کی بجائے سبحان اللہ پڑھ لینا مجھے زیادہ پسند ہے“۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ ”دینار سخاوت کرنے کی بجائے اتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ لینا مجھے تو زیادہ پسند لگتا ہے“ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”راہ چلتے چلتے چند مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا مجھے جہاد میں گھوڑا پیش کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“

ابو درداء رضی اللہ عنہ کی صحیح الاسناد حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے لئے تمام اعمال سے بہتر خدا کے ہاں از حد نفیس و پاکیزہ بلندی درجات کا اعلیٰ ذریعہ، راہ خدا میں سونا چاندی لٹانے سے بھی بہتر، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ دشمنان خدا سے لڑتے نہیں مارتے خود بھی جام شہادت نوش کر جاؤ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ! فرمائیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ خدا تعالیٰ کا ذکر ہے۔ (ابن ماجہ، ترمذی، حاکم سند صحیح)

میں گناہوں سے جھکا جاتا ہوں یوں بوجھ مجھ پر میری اپنی ذات ہے
شکر ہو یا رب تیرا کیسے ادا نعمتوں کی مجھ پہ جو برسات ہے
کر عطا انوار اپنی ذات کے قبر کی کالی خدا یا رات ہے

جو ذکر کو بھول گیا وہ خدا کے شکر کو بھول گیا

ذکر ایسا لشکر ہے جس نے ذکر بھلا دیا اس نے گویا خدا تعالیٰ کا شکر ترک کر دیا۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زید بن اسلم سے ذکر فرماتے

ہیں کہ

”موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا! تیرے انعامات تو بے شمار ہیں، اب مجھے زیادہ شکر بجالانے کا طریقہ بھی سکھلا دے، اللہ عزوجل نے جواب دیا مجھے کثرت سے یاد کیجئے کیونکہ آپ کثرت سے میرا ذکر کریں گے تو گویا آپ میرا کثرت سے شکر بجالائے اور مجھے بھلا دیا تو گویا آپ نے میری ناشکری کی۔“

شعب الایمان میں بیہقی رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ

موسیٰ علیہ السلام نے کہا! مولا! کون سا شکر تیرے مناسب ہے؟ اللہ عزوجل نے وحی نازل فرمائی کہ میرے ذکر سے آپ کی زبان ہر وقت تر رہنی چاہئے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے۔ بعض دفعہ جنبی ہوتا ہوں پاخانہ پیشاب سے استنجا نہیں کیا ہوتا؟ اللہ عزوجل نے فرمایا کوئی حرج نہیں پھر عرض کی: مولا! کیا پڑھا کروں؟ فرمایا یہ پڑھا کیجئے۔ سبحانک وبحمدک وجنبی الاذی وسبحانک فقی الاذی۔

خدایا میں تیری حمد و ثنا اور تسبیح کہتا ہوں مجھے گندگی سے دور رکھ۔ خدایا تو پاک ہے مجھے بھی گندگی سے نجات دے۔

کر طلب اللہ کی الفت رات دن اس کی چاہت عزت جذبات ہے
رکھ یقین تجھ کو خدا دے گا سیر تیرے لب پر جو نبی کی نعت ہے

ذکر تمام متقیوں سے معزز ہے

متقی و پرہیزگاروں میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اکرم المخلوق اور معزز وہ شخص ہے جس کی زبان ذکر الہی میں ہر وقت تر رہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا اسے از حد پاس ہوتا ہے ہر وقت اسے ان کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے اور ذکر اس کی گھنٹی و شعار بن چکا ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ اس کے لئے دخول جنت اور دوزخ سے نجات کا موجب ہو جاتا ہے اور دخول جنت و نجات دوزخ معمولی چیز نہیں بلکہ بہترین ثواب و اعلیٰ قسم کا اجر ہے اور ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اٹھا کر خدا تعالیٰ کے قریب و حضور اور بارگاہ الہی میں پہنچا دیتی ہے اور خدا تعالیٰ کا قرب ہی سب سے بہترین و اعلیٰ منزلت و مقام ہے۔

خدائے لم یزل ہے وہ خدائے ذوالجلال ہے وہ با کمال ہے بڑا اسی سے ہر کمال ہے
وہ رفعتوں کا ہے ایں ہر ایک دل میں ہے کہیں وہ لا شریک وحدہ نہ اس کی مثل ہے کہیں
عروج ہے فقط اسے اسی کو ہر کمال ہے خدائے لم یزل ہے وہ لا یزال ہے

ذکر سے قساوت قلبی کا علاج

دل میں قساوت و سختی ہوتی ہے جسے ذکر الہی ہی پگھلا کر تحلیل کر سکتا ہے اس لئے انسان کو ذکر الہی کی ساتھ اپنی قساوت قلبی

دستِ دلی کا علاج کرنا چاہئے۔

حماد بن زید معلیٰ بن زیاد سے ذکر کرتے ہیں کہ کسی نے امام حسن کو کہا: اے ابوسعید مجھے قساوتِ قلبی کی شکایت ہے، فرمایا ذکر الہی کی (انگلیٹھی میں رکھ کر) اسے پکھلائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جتنا زیادہ غافل ہوگا اتنا ہی زیادہ سخت اور قاسی ہوتا چلا جائے گا لیکن جب خدا تعالیٰ کی یاد کریگا، تو یہ قساوت و سختی اس طرح پکھلتی جائے گی جس طرح آگ میں شیشہ و تانبا پکھل جاتا ہے۔ غرضیکہ ذکر الہی ہی ایک ایسی چیز ہے جو قساوتِ قلبی و سنگِ دلی کو پکھلا کر رکھ دیتی ہے۔

وہ کیڑے پالتا ہے پتھروں میں اس کی شان ہے اور اس کی قدرتوں کو دیکھ کر بشر حیران ہے

سمجھ نہ جس کی آسکے وہ ایسا اک سوال ہے خدائے لم یزل ہے وہ لا یزال ہے

☆ ذکر دل کی دوا اور قلب کی شفا ہے اور غفلت سراسر مرض و بیماری ہے، یاد رکھئے ہر دل بیمار ہے اور سب کی دوا و شفا ذکر الہی میں موجود و مرکوز ہے۔ امام مکتول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خدا تعالیٰ کا ذکر سراسر شفا ہے مگر کسی انسان کا نام جپنا اور ذکر کرنا سراسر مرض و بیماری ہی بیماری ہے۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ مکتول رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوعاً مرسلًا ذکر فرماتے ہیں کہ جب دل ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو شفا یاب اور تندرست ہو جاتا ہے لیکن ذکر سے جب غافل ہو جاتا ہے تو دوبارہ بیمار اور مریض ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے۔

اذا مرضنا تداوینا بذكر کم فترك الذکر احمیاناً فنتکس

جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو تیرا ذکر کر کے علاج کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی ذکر ترک کر دیتے ہیں تو دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں۔

یہ پانیوں پہ کشتیوں کا تیرنا اسی سے ہے یہ تیرا میرا چلنا پھرنا بولنا اسی سے ہے

جہاں بھی دیکھ لو اسی کی ذات کا جمال ہے خدائے لم یزل ہے وہ لا یزال ہے

ذکر الہی حُب الہی کی اصل ہے

ذکر محبت الہی کا اصل اور راس الموالات ہے اور غفلت اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی اصل اور راس العداوت ہے تو انسان ہمیشہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے اس مقام و منزلت تک پہنچ جاتا ہے کہ خود اللہ عزوجل بھی اس سے دوستی و موالات اور محبت کرنے لگ جاتا ہے اور ذکر الہی سے غفلت و سستی کرتے کرتے اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا دشمن و مغضوب اور درگاہ الہی سے بالکل رائدہ جاتا ہے۔ امام اوزاعی حسان بن عطیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ

اللہ عزوجل سے انسان کی ہر دشمنی بیچ ہوتی ہے مگر ذکر الہی سے کراہت کرنے یا خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ذکر کو برا سمجھنے سے کوئی دشمنی بڑھ کر نہیں، دیکھئے! اس دشمنی و عداوت کا اصل سبب ذکر الہی سے غفلت کرنا ہے اور انسان خدا کی یاد سے غافل رہ کر نہ خود پسند کرتا ہے کہ ذکر الہی بجالائے اور نہ ہی اور کوئی شخص خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے تو اس وقت اللہ عزوجل کا پکا دشمن بن جاتا ہے جیسا کہ ذکر کرتے خدا تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔

کوئی پہر کی چاہ میں جہاں سے گزر گیا کسی کا گوہر مراد سے پیالہ بھر گیا
کہیں خوشی کی بارشیں کہیں فقط ملال ہے خدائے لم یزل ہے وہ لا یزال ہے

☆ کوئی چیز ایسی نہیں جو ذکر الہی کے برابر انعامات خداوندی کے حصول یا عذاب و غضب الہی کے دفاع کا موجب ہو سکے
کیونکہ ذکر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو چاروں طرف سے کھینچ کر دینے کا باعث اور غضب خداوندی کو دفع کرنے کا موجب ہے۔
ارشاد باری ہے: ان الله يدافع عن الذين امنوا (ج ۲۲-۵۴) خدا تعالیٰ ایمانداروں سے اپنا غصہ و غضب دفع کرتا ہے۔

غرضیکہ ایمانداروں میں ذکر الہی کے باعث جس قدر قوت ایمانی ہوگی جتنا ایمان کامل ہوگا، جس قدر مادہ ایمانی قوی و مضبوط
ہوگا اتنا ہی خدا تعالیٰ اس سے غضب الہی کو دور سے دور رکھے گا چونکہ اصول ہے کہ کوئی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اسی اصول کی بنا پر
جو خدا تعالیٰ کو یاد رکھے گا خدا اس کو یاد رکھے گا اور جو خدا کو بھلائے گا خدا اس کو بھلا دے گا یعنی چھوڑ دے گا ارشاد الہی ہے:

لئن شكرتم لا زيدنکم (ابراہیم ۱۲-۲۴) شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔

اور ذکر ہر قسم کے شکر سے اعلیٰ ترین شکر ہے اور شکر از دیانت کا موجب اور مزید نعمت کا باعث ہے۔

سلف صالحین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی یاد سے غفلت کرنا کتنی بدترین قباحت ہے جو نیکی و احسان میں
تجھ سے کبھی غافل نہیں رہتا۔

شجر میں وہ حجر میں وہ شمس اور قمر میں وہ سماعتوں میں ہے وہی مرے دل و نظر میں وہ
میں زاہد اس سے پھر سکون میری کہاں مجال ہے خدائے لم یزل ہے وہ لا یزال ہے

ذکر خدا اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دُعاؤں کا موجب ہے

ذکر کی وجہ سے ذکر پر خدا تعالیٰ اور تمام فرشتوں کی صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور غور کیجئے کہ جس کے لئے خدا تعالیٰ
کے فرشتے دُعا کریں اور خود خدا تعالیٰ رحمت نازل فرمائے تو یقیناً وہ فلاح یاب اور کامیاب و فائز المرام ہوگا۔ ارشاد باری ہے۔

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة واصيلاً ○ هو الذي يصلي عليكم

وملئكنه ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيماً ○

ایماندارو! کثرت سے خدا کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو وہی تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے
فرشتے تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر روشنی میں پہنچائے اور وہ مومنوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔

تو یہ خدا تعالیٰ اور ملائکہ کی رحمت و صلوات ہے جس کا اتنا اثر ہے کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچانے کا باعث
ہے اور جب خود خدا تعالیٰ اور تمام فرشتوں کی رحمت و صلوات انسان پر نازل ہوں اور اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی میں پہنچا
دیں تو پھر خود ہی بتلائیے کہ وہ کون سی خیر و برکت ہے جو انسان کو حاصل نہیں ہوئی؟ اور کون سی بُرائی و شرارت ہے جو انسان سے دور
نہیں ہوئی؟ افسوس صد افسوس ان لوگوں پر جو خدا تعالیٰ سے غافل رہ کر اس کے کروڑہا انعامات و احسانات سے محروم و بد نصیب رہ

گئے وباللہ التوفیق

☆ ذکر الہی پر مداومت کرنے والا شخص خوشی کے مارے خنداں خنداں اور ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ ابن ابی الدنیا نے ابی درداء رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”جن کی زبان ذکر الہی میں ہر وقت تر رہتی ہے وہ ہنستے ہنستے اور خنداں خنداں جنت میں داخل ہوں گے۔“

جو نقش الیکے میں توں سھے سوہنے
ہر چیز ای مولا دی عطا اے نجی
سبحان تری شان لئی آکھاں ، لکھاں
اوہ جہات بے پاوے تے میں سوچاں لکھاں

بھاندا اے جو تینوں کریں ویسا مینوں
بخشش دا طلبگار آں تیتھوں سائیاں
دل پاک محبت دی ردا دے طالب
دل داغ محبت تھیں سجا دے مولا
پا فضل دا مینہ حرف وفا دے مولا
ایہناں نوں توں عشتے دی نوا دے مولا

توں سمھناں دارب این سچا تیریاں سبھ انواراں
توں رحمٰن سداون والا ، توں اللہ توں کلا
تیرے بن معبود نہ کوئی تیری حمد چتاراں
تیری ذات اے اُچی ، پچی رکھے وچ حصاراں

تمام احکام اقامت ذکر کے لئے مشروع ہوئے

تمام اعمال اقامت لذلک اللہ یعنی ذکر الہی کو قائم و دائم اور ہمیشہ کے لئے باقی رکھنے کی غرض سے مشروع کئے گئے ہیں تو گویا جملہ اعمال کے اجراء و مشروعیت کا اصل مقصد ذکر الہی کا حاصل کرنا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

اقم الصلوة لعلوک الشمس (بنی اسرائیل ۱۰۹) سورج ڈھلتے نماز پڑھئے۔

و نضع الموازین القسط الیوم القیمة (انبیاء ۲۱-۲۲) قیامت کے روز ہم انصاف کا ترازو (میدان میں) لگائیں گے۔

مذکورہ بالا آیت سے ظرفیت کا معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ مگر اس تفسیر پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لازم ظرفیہ کے بعد اسم ظرف و اسمائے زمان آنا چاہئیں اور ذکر ظرف نہیں بلکہ مصدر ہے اس کا یہ جواب دیا جائے کہ یہاں ظرف زمان محذوف سمجھا جائے یعنی عند وقت ذکر کری (مجھے یاد کرتے وقت) اور یہ احتمالی معنی ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ لام تعلیلیہ بنایا جائے یعنی اقم الصلوة لاجل ذکر کری (مجھے یاد کرنے کی وجہ سے نماز قائم کیجئے) اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اقامت نماز اس وقت ہو جب خدا انسان کو یاد کرے تو معلوم ہوا کہ انسان کے ذکر کرنے سے پہلے خداوند تعالیٰ انسان کو یاد کرتا ہے جب ہی تو ذکر الہی کا القاء والہام ہوتا ہے۔ لہذا تینوں معنی درست ہیں۔

اتل ما ووحی الیک من الکتاب و اقم الصلوة ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر و لذکر اللہ

اکبر (مکبوت ۲۹-۵۴)

اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے کیونکہ نماز فحش و بد کاموں سے روک دیتی ہے اور خدا تعالیٰ کا ذکر یقیناً ہر چیز سے بہت بڑا ہے۔

بعض اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تم نماز میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو اور جو اسے یاد کرے خدا اس کو یاد کرتا ہے۔ تمہارے اللہ اللہ کرنے کی نسبت خود اللہ عزوجل کا تمہیں یاد کرنا کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، اور یہ تفسیر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سلمان رضی اللہ عنہ، ابی درداء رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

ابن ابی الدنیا عطیہ سے بواسطہ فضیل بن مرزوق ذکر کرتے ہیں کہ ولذکر اللہ اکبر . فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارے ذکر الہی بجالانے کی نسبت خدا تعالیٰ کا ہمیں یاد کرنا ہر ذکر سے اعلیٰ و افضل ہے۔

ابن زید اور قتادہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں خدا کا ذکر کرنا تمام چیزوں کے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔

سلمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کون سا عمل جملہ اعمال سے افضل ہے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ولذکر اللہ اکبر ابی درداء رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث بھی اس کی شہادت میں پیش کی جاسکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمام اعمال سے بہتر و پاکیزہ اور سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہترین عمل نہ بتلاؤں؟ الخ ابوالعباس (امام ابن تیمیہ) کہا کرتے تھے،

آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نماز کے دو بڑے مقصد ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں اول یہ کہ نماز فحش اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا موجب ہے اور وہ ذکر الہی پر مشتمل ہے دوم یہ کہ اس کے اندر ذکر جیسی اعلیٰ چیز موجود ہے جو نہی عن المنکر سے بھی اعلیٰ ہے۔

اور ابن ابی الدنیا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ آپ سے دریافت فرمایا گیا کون سا عمل تمام اعمال سے افضل ہے؟ فرمایا خدا تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔

سنن میں بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طواف بیت اللہ سعی بین الصفا والمروہ منی کے جمرات کو کنکر مارنا سب ذکر الہی کے قائم و دائم رکھنے کی غرض سے کئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد۔ ترمذی۔ حسن صحیح)

میریاں پاک خیالاں نوں اوہ ہر دم پیا اُجالے
اوہدے ناں نہیں سوہنے سارے اوہدے پاک حوالے

میریاں حرف ثناواں نوں اوہ موتیاں دیوچ ڈھالے
اوہدی یاد ای چین دلاں لئی ہر اک رتے دیندی

اوہ ای سھناں نوں زندگی دیوے
جہنوں چاہوے اوہ قیصری دیوے

اوہدی رحمت دی سھتے چھاں اے
جہنوں چاہوے گدا بنا دیوے

حمد ثناواں تیرے لئی سبھ توں ساڈا محمود
جو تیرا انکاری مولا ! ہوندا اوہ مردود

توں رحمن رحیم ایس مولا تیرا نام وودود
توں قیوم توں حامد واحد توں والی توں رب

توں ظاہر ایس ہر پاسے ای ' ہر تھاں تیرا ڈیرا
اکھ جو منظر تکدی ڈھکی اوہ اے تیرا پردہ
تیریاں گلاں ہر پاسے نیں ' ہر اک لب تے نغمہ

ہر شے تیری حمد چتارے ' ہر تھاں تیرا جلوہ
حسن ترے نے ڈھکیا ہو یا سارا چار پھیرا
ساز ازل تے ناں تیرا اے ' تار نفس وچ توں ایس

کثرت ذکر افضل الاعمال ہے

دنیا میں طرح طرح کے عمل اور قسم قسم کے عامل ہیں (کوئی روزہ دار ہے تو کوئی حاجی، کوئی صدقہ دیتا ہے تو کوئی دیگر عمل کرتا ہے لیکن) سب سے اعلیٰ و افضل عمل اس شخص کا عمل ہے جس میں ذکر الہی کا اکثر و بیشتر حصہ موجود ہو لہذا سب سے اعلیٰ روزہ دار وہ ہے جو روزہ میں خدا تعالیٰ کا ذکر کثرت سے بجالائے سب سے بڑا سخی و مصدق وہ ہے جو کثرت سے خدا کا ذکر کرے سب سے بڑا حاجی وہ ہے جو (اپنے حج میں) اللہ عزوجل کا ذکر بڑھ چڑھ کر ادا کرے علیٰ ہذا القیاس دیگر اعمال کو سمجھ لیجئے۔ اس کے متعلق ابن ابی الدنیا نے ایک مرسل حدیث بیان فرمائی ہے کہ

آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا، اہل مسجد میں سے کون شخص زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا جو کثرت سے خدا تعالیٰ کا ذکر کرے۔ پھر سوال کیا گیا کون سا جنازہ بہتر ہے؟ فرمایا جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے پھر پوچھا گیا مجاہدین میں سے کون سا مجاہد بہتر ہے؟ فرمایا جو خدا تعالیٰ کا ذکر کثرت سے بجالائے پھر دریافت کیا گیا حاجیوں میں سے کون سا حاجی (عبادت گزار) بہتر ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے پھر دریافت کیا گیا کہ تمام انسانوں یا عابدوں میں سے کون سا آدمی بہتر ہے فرمایا جو کثرت سے خدا تعالیٰ کا ذکر کرے۔

ابوبکر کا قول ہے ذکر گزار لوگ تمام خیر و برکت لوٹ لے گئے۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں

رات کی مشقت سے اگر جنگ آگئے ہو مال خرچ کرنے سے بخیل و شوم بن گئے ہو اور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے سے بزدل

ہو گئے ہو تو کثرت سے اللہ عزوجل کا ذکر کرو، اور خدا تعالیٰ کی یاد کرو۔

”لا شریک“ میں آئے نظر مجھے اچھی ہی بات
عرفان ملتا ہے اور ملتی ہے نجات
چھڑا دے اُلفت منات اور لات
خدا کے بعد ہے بس محمد ﷺ کی ذات
دور ہوں آفات روشن رہے ہر رات

لا شریک لا ریب ہے خدا ہی کی ذات
پڑھ کر اسے اک گیان حاصل ہوتا ہے
درس محبت الہی باہم اس میں تو
نکتہ اک بتاتی ہے یہ بھی سب کو
اسے پڑھنے سننے والوں کی اے یوسف

ذکر الہی تمام نقلی عبادات کا کام بھی دیتا ہے

ذکر الہی پر دوام و مداومت تمام تطوعات و نقلی عبادت کی نائب اور ان کی نیابت کا کام دے جاتی ہے خواہ وہ تطوعات بدنی ہوں یا مالی یا بدنی بھی ہوں اور مالی بھی، جیسے نقلی حج اور اس کا ثبوت حدیث ابی ہریرہ میں بالصراحت موجود ہے کہ ”فقراء مہاجرین آنحضرت ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ مالدار تو بڑے بڑے عالی درجات اور ابدی نعمتیں حاصل کر گئے ہماری طرح وہ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں روزے رکھ لیتے ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس زائد مال بھی موجود ہوتا ہے اس لئے وہ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کر لیا کرتے ہیں اور ہم ویسے کے ویسے اُن کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور ﷺ نے فرمایا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتلاؤں؟ کہ جو تم سے فوقیت لے گئے ہیں ان کے مساوی اور دوسروں پر فائق ہو جاؤ اور تم سے وہی شخص فائق و افضل ہو سکے جو تمہاری طرح اس عمل کو کرنے لگ جائے فقراء نے کہا ہاں: یا رسول اللہ! ضرور بتلائیے، حضور ﷺ نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ (متفق علیہ)

دیکھئے! آنحضرت ﷺ نے اس فوت شدہ حج و عمرہ اور جہاد کے عوض انہیں ذکر کی تلقین فرمائی اور بتلایا کہ ذکر کرنے سے وہ ان سے فائق ہو جائیں گے، لیکن جب مالداروں کو پتہ چلا تو وہ بھی ذکر کرنے لگ گئے اور صدقات و عبادات کے ساتھ ساتھ پھر مالی لحاظ سے فائق رہے اور خیرات مال کے ساتھ ذکر کر کے دونوں فضیلتیں حاصل کر گئے لہذا دوبارہ فقراء کو مطالبہ کرنا پڑا اور آنحضرت ﷺ کے ہاں شکایت لے کر پہنچے کہ وہ بھی ذکر کرنے لگ گئے اور مالی لحاظ سے بھی ہم پر فائق رہے جو کہ ہمارے اختیار سے باہر ہے اب کیا کریں؟ حضور ﷺ نے فرمایا! ”پھر یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عنایت کر دیتا ہے۔“

عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ! اسلام کے اکثر عادات و سنن اور احکام و شرائع کا پتہ چل گیا ہے۔ اب کوئی ایسی جامع چیز ارشاد فرمائیے جو میرے لئے کافی و ودانی ہو حضور ﷺ نے فرمایا: ذکر الہی کو اپنے پر لازم کر لو کہنے لگا: یا رسول اللہ! یہ مجھے کافی ہے؟ فرمایا کافی بلکہ زائد ہے۔

دیکھئے ناصح اعظم ﷺ نے اسے ایسا ذریعہ بتلایا جو شرائع اسلام پر ہر وقت اسے برا بیچتے و شائق رکھے ہر دم اسے ان کی حرص و طمع دامنگیر رہے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ انہیں جمع کرنے کی سعی و کوشش میں منہمک رہے کیونکہ جب ذکر الہی کو وہ اپنا شعار بنا لے گا تو اسے ذکر سے بھی محبت ہوگی اور ذکر محبوب رکھنے والے مسبب الاسباب سے بھی کیونکہ اللہ عز و جل کو تقرب الہی کے بعد شرائع اسلام سے زیادہ کوئی چیز محبوب تر نہیں تو آنحضرت ﷺ نے اسے ایسی چیز بتلا دی جس سے وہ شرائع اسلام کو بخوبی ادا کر سکے اور اس پر تمام سنن و احکام و شرائع کا ادا کرنا بالکل سہل و آسان ہو جائے اور اس کا نام ہے ”ذکر الہی“

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
کون لایا کھینچ کر پچھتم سے باد ساز گار؟
کس نے بھردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟
خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب؟
موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟

ذکرِ خدا اطاعتِ الہی کا سب سے بڑا معاون ہے

ذکرِ عبادات پر سب سے بڑا معاون ہے کیونکہ ذکر کی تاثیر سے انسان کو اطاعاتِ خداوندی سے انس و محبت ہو جاتی ہے اور بالکل سہل و آسان معلوم ہوتی ہیں طبیعت میں کچھ کوفت نہیں ہوتی بلکہ انہیں ادا کرنے میں اسے اس قدر حظ و سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے اس قدر خوشی و مسرت ہوتی ہے اور اس قدر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہ اتنی اسے مشقت معلوم ہوتی ہے نہ طبیعت میں گرائی محسوس ہوتی ہے جتنی کہ غافل انسان کو غافل رہ کر تکلیف و مشقت اور گرائی محسوس ہوتی ہے اور تجربہ و مشاہدہ اس کا شاہد و مؤید ہے جس سے خود بخود حقیقت حال منکشف ہو سکتی ہے۔

☆ ذکرِ الہی ہر مشکل کو آسان صعب کو سہل، عسیر کو یسیر اور ثقیل کو خفیف کر دیتا ہے کیونکہ کوئی ایسی مشکل نہیں جو ذکر کی برکت سے آسان نہ ہو، کوئی عسیر نہیں جو یسیر نہ ہو، کوئی مشقت نہیں جو خفیف نہ ہو، کوئی شدت و سختی نہیں جو زائل نہ ہو کوئی مصیبت نہیں جو اس کی برکت سے دور نہ ہو اسکے معلوم ہوا کہ ذکرِ الہی ہی ایک ایسی چیز ہے جو شدت و سختی کے بعد کشادگی، تنگی کے بعد آسانی، عسر کے بعد یسر اور رنج و غم کے بعد مسرت و فرحت کا موجب ہوتا ہے۔

ہر اوکڑ چوں کڈھ کے اہو پارلے جاندا مینوں
نھیریاں اندر میرے لئی اُس روشن دیوے بالے

نام اوہدا دوا اے دکھاں دی
گیت دیوے تے ننگی دیوے

رحمت والیاں نظراں پا کے کرنا ایں امداد
توں نافع توں ساڈا ہادی مالک ہست و بود

تیرا پیار سہارا بھالاں توں شفیق رؤف ایں
اوہ نہیں ڈگدا کسے دے کولوں جس دی توں لج پالی

ہووے دل چوں دور ہنیرا
روشن کر دے چار پھیرا

سفنے سچ بناندا اوہو بجھے دیپ جگاندا
سبحان اللہ جو وی آکھے ہاسے جھولی پاوے

ذکر سے تمام خطرے دور ہو جاتے ہیں

ذکر تمام خوف و خطرات اور ہولناکیوں کو دفع کرتا اور تحصیلِ امن میں عجیب و غریب تاثیر رکھتا ہے کیونکہ سخت سے سخت خوف و خطرات اور ہولناکی مصیبتوں میں گھرے ہوئے انسان کے لئے بھی کوئی چیز ذکر سے زیادہ نافع اور فائدہ مند نہیں، ذاکرِ خدا تعالیٰ جتنا ذکر کرتا ہے اتنا ہی اسے امن حاصل ہوتا ہے اور خطرات زائل ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہی خطرات جو اس کے لئے خوف

موجب ہوتے ہیں امن سے بدل جاتے ہیں مگر اس کے برعکس غافل انسان امن کے باوجود خوفزدہ رہتا ہے حتیٰ کہ وہی امن اس کے لئے خطرات بن جاتے ہیں اور جس میں ادنیٰ سا بھی احسان ہو وہ دونوں کا تجربہ و مشاہدہ کر سکتا ہے واللہ المستعان۔

ذکر خدا سے جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ واقعہ کافی ہے کہ جب حضور ﷺ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی کی مشقت اور دیگر کاروبار کی زیادتی و تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے آپ ﷺ سے خادمہ کو طلب کیا تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور آپ کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ (نوکر کے عوض) رات کو سوتے وقت تینتیس تینتیس بار سبحان اللہ، الحمد للہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں اور فرمایا نوکر کی بجائے یہ کلمے تمہارے لئے بہتر ہیں۔ (بخاری) بعض نے کہا جو خدا تعالیٰ کے ذکر پر مداومت کرے اسے رات کو سوتے ہوئے اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے جو نوکر سے مستغنی کر دیتی ہے۔

ذکر خدا دا شانناں والا دل وچہ ٹھنڈاں پاوے
ذکر خدا دا پاک نبی دی شان نون نت ودھاوے
نام اللہ دا جہڑا سبھ تھیں رحمتاں پیا ورتاوے

ذکر خدا دا شانناں والا ہر دم کر دے رہیے
ذکر خدا دا پاک نبی توں ودھ کے کس نے کرنا
نام اللہ دا قطرے تائیں سچا لعل بناندا

ذکر کرنے والے مقابلہ جیت گئے

میدان مقابلہ میں جملہ اعمال آخرت کا مقابلہ ہو رہا ہے جس میں ذکر گزار اور ذاکر لوگ ہی جیت رہے ہیں لیکن فی الحال دنیا کی گردوغبار آلود زندگی ان کے غلبہ و جیت کی رویت سے مانع ہے اس دنیوی زندگی کی گردوغبار رہتے ہی روز روشن کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا اور تمام لوگ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ کون شخص تمام اعمال میں سب سے بڑھ کر جملہ اعمال میں جیت گیا ہے۔

ولید بن مسلم فرماتے ہیں کہ محمد بن عجلان نے عمر نامی غفرہ کے غلام سے سنا کہ قیامت کے روز جب عملوں کے ثواب سے پردہ منکشف ہوگا تو ذکر سے زیادہ کوئی عمل لوگوں کو افضل نہیں دکھائی دے گا تو اس وقت تمام لوگ افسوس کرنے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ افسوس! ذکر سے زیادہ تو کوئی چیز آسان نہیں تھی اور ہم محروم ہی رہ گئے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سیروا سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال: الذين اهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم اوزارهم۔

چلے چلو! مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے دریافت کیا مفردون کون ہیں؟ آنحضرت نے فرمایا! جو ذکر الہی میں ہر دم خوش رہتے ہیں اور ذکر ان کی تمام تکلیفیں اور مصیبتیں رفع کر دیتا ہے۔

و فی روایۃ فیاتون یوم القیامۃ خفا فا (ترمذی، ۵: ۵۷۷، رقم ۳۵۹۶)

پس وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں (گناہ کے بوجھ سے) ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔

سوہنا رب ای ہر پاسے سے ظاہری نظر نہ آوے
میری سوچ تے فکر وی اوہدی عظمت دے گن گاوے
جے اوہ چاوے تے اوہ ساڑے پک ارادے ڈھاوے

سوہنا رب ای ہر ہر شے چوں اپنا عکس دکھاوے
لکھ واری شکر گزاراں اوہدی قدرت دا میں
ذات اوہدی سبحان تے سوہنی پاک شریکے توں اے

اہتروا کی لفظی تحقیق

اہتروا بالشی ولیہ: کسی چیز پر مست و دیوانہ ہو گئے اس سے چمٹ گئے اور اسے اپنا شعار بنا لیا۔

حدیث کے بعض الفاظ میں المسہتروں بذکر اللہ اور مستہتروں کا معنی ہی شیفتگان ذکر۔ عربی میں کہا جاتا ہے استہتر فلان بكذا یعنی اس پر شیفتہ ہو گیا۔ اس کی ایک دیگر تفسیر یہ ہے کہ اہتروا فی ذکر اللہ۔ یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے۔ حتیٰ کہ ان کے ہم عمر بھی فوت ہو گئے مگر وہ اب تک ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے اہتر الرجل فهو مهتر جبکہ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے محبوظ الحواس ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جائے بہکی بہکی باتوں کو ہتر کہتے ہیں گویا اس نے ذکر الہی میں اتنی عمر گزاری کہ اس کے ہوش و حواس تک قائم نہ رہے نیز باطل کو بھی ہتر کہتے ہیں رجسٹل مستہتر یعنی کثیر الابطال زیادہ دروغ گو۔

اسی طرح ابن عمر کی حدیث میں ہے اعدو بالله ان اکون من المستہترین خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ مستہتر (دروغ

گو) بنوں۔

غرضیکہ اس کی حقیقت لفظی یہ ہے کہ استہتار کسی چیز سے محبت کی وجہ سے اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع کر لینا خواہ حق ہو یا باطل۔ لیکن اس کا اکثر استعمال باطل میں ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ جب کہا جائے فلان مستہتر تو اس سے صرف باطل کا معنی ہی سمجھا جاتا ہے البتہ جب کسی شے سے مقید کر دیا جائے تو اس وقت تقیدی معنی مراد ہوگا جیسے ہو مستہتر وقد استہتر فری ذکر اللہ یعنی ذکر الہی پر شیفتہ ہو کر مجنونانہ وار پلٹ پڑا اس معنی کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے الفاظ ہیں۔

اکثر واذکر اللہ حتی یقال مجنون

خدا کا اتنا زیادہ ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگ جائیں۔

المصباح المنیر میں ہے استہتر یعنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ فائق میں زخشری فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اعدو بالله ان اکون من المستہترین میں مستہتر بننے سے پناہ مانگتا ہوں مستہترین کینہ و فضول لوگوں کو کہتے ہیں جنہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی نے انہیں کیا کہا یا وہ لوگوں سے کیا بکواس بکتے ہیں اور اس حدیث کو ترمذی و حاکم نے بہ لفظ ذیل روایت کیا ہے کہ سبق المفتردون المستہتروں فی ذکر اللہ بطبع الذکر عنہم افعالہم فیاتون یوم القیمۃ خفا فاذا ذکر الہی کے شیفتہ مفردوں سبقت لے گئے جن کے تمام بوجھ کو ذکر الہی دور کر دے گا تو قیامت کے دن وہ ہلکے پھلکے حاضر ہوں گے اس کی سند صحیح ہے۔

تو یکتا اس ذات اچ اپنی کوئی نیں تیرا ثانی

تو باقی اس رہا ' ایتھے ہو رتے ہر شے فانی

ذات تیری ای کر دی پئی اے سھناں دی نگرانی

نور تیرے تے ڈھکیا ہویا سارا چار پھیرا

ذکر انسان اور دوزخ کے درمیان دیوار بن جائے گا

ذکر انسان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتا ہے جب وہ کسی دوزخی راستے پر چلنا چاہتا ہے تو ذکر الہی رستے میں دیوار بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ ذکر دائمی اور کامل ہوگا تو وہ دیوار بھی محکم و مضبوط اور پختہ ہوگی۔ جس میں سے گزرنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا ورنہ وہ گناہ میں مبتلا ہو کر رہے گا۔

عبدالعزیز بن ابی داؤد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا اس نے ایک مسجد بنائی اور اس کے محراب میں سات پتھر لگائے۔ جب نماز پڑھنے لگتا تو پتھروں سے مخاطب ہو کر کہتا میں تمہیں اپنے عقیدہ پر گواہ بناتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اتفاقاً وہ بیمار ہو گیا اور خواب میں دیکھا کہ اسے دوزخ میں چلے جانے کا حکم ملا وہ کہتا ہے کہ میں نے پتھروں میں سے ایک پتھر کو جسے خوب جانتا ہوں دیکھا کہ دوزخ کے منہ پر پھیل کر آ گیا اور دوزخ کا ایک دروازہ بند کر دیا حتیٰ کہ اسی طرح تمام پتھروں نے دوزخ کے ساتوں دروازے بند کر دیے۔

☆ فرشتے ذکر کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں جیسا کہ تاہب کے لئے دعاء مغفرت فرماتے ہیں چنانچہ حسین معلم بواسطہ عبداللہ بن بریدہ از عامر شعسی عبداللہ بن عمرو بن وقاص کا قول روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ عزوجل کی نازل کردہ کتاب (قرآن حکیم) میں غور و استنباط سے معلوم ہوا کہ انسان جب الحمد لله کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العلمین جب پورا الحمد لله رب العلمین کہتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں اللهم اغفر لعبدک (خدا یا اپنے بندے کے گناہ معاف کر دے) جب کہتا ہے سبحان الله فرشتے کہتے ہیں وبحمدہ اور جب پورا سبحان الله وبحمدہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللهم اغفر لعبدک جب وہ کہتا ہے لا اله الا الله فرشتے کہتے ہیں واللہ اکبر اور جب پورا لا اله الا الله واللہ اکبر پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللهم اغفر لعبدک خدا یا اپنے بندے کو بخش دے۔

بجز از عشق تو باقی ہمہ فانی دانست

عرضہ کر دم دو جہاں بر دل کا فقادہ

ہرنگو چو حافظ می صاف خورد

شود مست وحدت ز جام الست

ذکر پر دشت و جبل کا فخر و مباہات

دشت و جبل پہاڑ اور وادیاں ذکر کی وجہ سے فخر و مباہات کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ فلاں ذکر کرنے ہم پر ذکر الہی کیا ہے۔

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو نام لے کر دریافت کرتا ہے کہ آج تجھ پر کوئی ذکر نہیں گذرا؟

اگر وہ جواب دے کہ ہاں گذرا ہے تو اسے بیحد خوشی ہوتی ہے۔“

حضرت عون عبداللہ فرماتے ہیں، بعض میدان دوسرے میدانوں کو آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ میرے پڑوسی آج تم میں سے کسی پر کوئی ذکر تو نہیں گذرا؟ تو جواب میں کئی ہاں کہتے ہیں اور بعض نفی میں جواب دیتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اعمش مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ بعض پہاڑ بھی دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہیں کہ او فلاں آج تجھ پر کوئی ذکر نہیں گذرا؟ بعض اثبات میں جواب

دیتے ہیں اور بعض نفی میں۔

☆ کثرت ذکر نفاق سے نجات کا موجب ہوتا ہے کیونکہ منافق اللہ عزوجل کو بہت کم یاد کیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

ولا یذکرون اللہ الا قلیلاً (نساء، ۴، ع ۲۱) وہ (منافق) اللہ عزوجل کا بہت کم ذکر کرتے ہیں

حضرت کعب فرماتے ہیں جو کثرت سے خدا تعالیٰ کا ذکر کرے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور اللہ اعلم شائد اللہ عزوجل نے اسی لئے سورہ منافقون کو اپنے قول:

یا ایہا الذین امنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ہم الخاسرون۔

ایماندارو تمہیں تمہارے مال و اولاد ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا تو یقیناً وہی لوگ خسارہ میں رہیں گے۔ (سورہ منافقون، ۶۳، ع ۲) سے ختم فرمایا ہے کیونکہ اس میں منافقین کے فتنہ سے ڈرایا گیا ہے کہ وہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے گندگی نفاق میں پھنس گیا اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خارجیوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا وہ منافق ہیں جو خدا تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کم کرنا نفاق کی علامت ہے اور کثرت سے ذکر کرنا نفاق سے امن کا موجب ہوتا ہے اور خدا اللہ عزوجل اس سے کہیں منزہ و برتر ہے کہ ایک ذکر گزار کو نفاق میں مبتلا کر دے۔ بلکہ یہ تو ذکر الہی سے دل کی غفلت کا خمیازہ ہے جو اسے بھگتنا پڑتا ہے۔

تیری ذات کمالات والی تیری وڈی قدرت	سبھے پاک زوالاں توں ایں تیری اُچی طاقت
سمناں دا مقصود اے مولا! تیرا پاک سہارا	سمناں دا معبود وی توں ایں ایہ وے تیری عظمت
سبھ نوں شانناں بخشن والی شان اے اعلیٰ تیری	تیرے لئی سبھ حمد ثناواں تیرے لئی ہر مدحت
وچ دلاں ایہ نور دے دیوے خوب جگا دیں ربا	دے ساناں سوہنے سوہنے لفظ جہڑے قرآنی

ذکر الہی کی لذت تمام لذات سے بہتر ہے

صرف ذکر میں ایک ایسی لذت و چاشنی ہوتی ہے جس کی نظیر مشکل ہے، انسان کو سارے ثواب کی بجائے محض وہی لذت و سرور حاصل ہو جائے جو ایک ذکر گزار کو حاصل ہوتا ہے وہ تمام نعمتیں مل جائیں جو اس کے دل کو حاصل ہونی ہیں تو اتنا ہی کافی و کافی ہے اسی لئے مجالس ذکر کو ریاض الجنۃ جنت کے باغ کہا گیا ہے۔

مالک بن دینار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کوئی لذت ذکر کی ہمسری نہیں کر سکتی کیونکہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ذکر سے زیادہ خفیف و آسان ذکر سے زیادہ لذت دار ذکر سے زیادہ خوش کن اور ذکر کے برابر سرور قلب کا باعث ہو۔

ذکر دنیا میں بھی چہرے کی رونق تر و تازگی اور بپاشت اور آخرت میں بھی نور و ضیا کا موجب ہوتا ہے لہذا خدا تعالیٰ کے ذکر گزار بندے دنیا میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ تر و تازہ اور ہارونق چہرہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ ان کو نور ملے

گا۔

ایک مرسل حدیث ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا جو روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قذیر۔ کہے وہ خدا تعالیٰ کے روبرو پیش ہوگا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہوگا۔

☆ ہر مقام و ہر جگہ سفر میں، حضر میں، اندر باہر، گھر میں، جنگل میں ہمیشہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا انسان کے خود اپنے لئے قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ گواہان و شاہد بنانے کا باعث ہے کیونکہ زمین کا ہر قطعہ ہر ٹکڑا گھر باہر، جنگل، پہاڑ ڈاکر کے لئے قیامت کو گواہی دے گا ارشاد باری ہے۔

اذ زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالتها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها
بان ربك اوحی لها (زلزال)

جب زمین سخت ہلائی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی تمام چیزیں نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس دن وہ اپنی سب باتیں بتا دے گی کیونکہ اللہ عزوجل اسے سب کچھ بتا دینے کا حکم صادر فرمائے گا۔

ترمذی نے اپنی جامع میں بواسطہ سعید مقبری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت فرمایا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرما کر صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو اخبار ہا زمین کا خبریں بتلانا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کا خبریں بتلانا یہ ہے کسی انسان خواہ غلام ہو یا آزاد جس نے بھی اس پر کوئی عمل نیک و بد کیا ہو گا وہ اس پر گواہی دے گی کہے گی فلاں نے فلاں روز مجھ پر یہ کیا کیا ایسا کیا ویسا کیا یہ روایت حسن صحیح ہے۔

اور زمین کے ہر قطعہ میں کثرت سے اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والوں کے بے شمار گواہ ہوں گے جنہیں دیکھ دیکھ کر لوگ رشک کریں گے کہ کاش ہمارے بھی اتنے گواہ ہوتے۔

چارے پاسے کھلری دیکھاں تیرے نور دی چادر
بس ہمایوں مرغ عقل از آشیان انداخت
مرغ اوصاف تو از اوج بیاں انداخت
لذت آوارہ زر کام جہاں انداخت

ہر دم تیرا ذکر الاواں تیرا شکر گزاراں
نور حیرت در شب اندیشہ اوصاف تو
من کہ باشم عقل کل راک ناوک انداز ادب
مست ذوق عرفیم کز نعمہ توحید تو

ذکر الہی کے شغل سے زبان فضول کلامی سے بند ہو جاتی ہے

ذکر الہی کا شغل اتنا تمام فضول و باطل اشغال مثلاً چغلی وغیبت لوگوں کی مدح و مذمت وغیرہ سب اشغال سے پھیر دیتا ہے کیونکہ عموماً زبان خاموش تو رہتی نہیں ذکر الہی کرتی ہے یا بسا اوقات لغویات اور فضول بکواسات بکتی رہتی ہے ان دونوں میں سے ایک نہ ایک بات تو ضرور ہوتی ہے ذکر نہ کرے گی تو فضول و اہیات بک دے گی کیونکہ اسے حق میں مشغول نہ کرے گا تو باطل میں لگا

دے گا اسی طرح دل اپنے خالق سے لو نہیں لگائے گا تو کسی مخلوق کے دامِ محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ ایک نہ ایک امر یقینی ہے۔ لہذا دونوں میں سے خود ہی سمجھ کر ایک خصلت اختیار کر لینی چاہئے اور ہر مقامات میں سے ایک مقام کو قبول کر لینا چاہئے۔

ذکر سے شیطانوں میں گھرے ہوئے شخص کو نجات ملتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شیاطین اِکے ذُکے انسان کو شکاریوں کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اسے جانی دشمنوں کی طرح نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے گھوڑتے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور اس کے قدیمی وازلی دیرینہ اور جانی دشمن چلے آتے ہیں تو آپ خود ہی خیال کر لیجئے کہ جو کوئی تنہا خشم آلود اور کمین گا ہوں میں چھپے ہوئے پرانے دشمنوں کے زرعہ میں پھنس جائے وہ چاروں طرف سے اس کے گرد جمع ہو کر محاصرہ کر لیں اور جتنی شرارت و تکلیف اور دھول دھپا کسی سے بن آئے وہ خوب اس کی تواضع کریں کوئی تھپڑ لگائے تو کوئی مکہ رسید کرے کوئی ڈنڈے سے خبر لے تو اس بیچارے پر کیا گذرے گی؟ لہذا ان شیطانوں کا بندوبست کرنا اور انہیں منتشر کرنا از حد ضروری ہے جس کا علاج صرف ذکر الہی ہے اور کوئی نہیں۔

سمہناں دیاں سننا اس توں جہڑے کرن دعاواں اوہناں تاں کدے نہ موڑیں جہڑے ہون سواں

تیرا ذکر الہی اتھے پتا پتا ڈالی

توں سمہناں دارب اس سچا تیریاں سبھ انواراں تیرے بن معبود نہ کوئی تیرا ذکر چتاراں

ذکر کے بے شمار فوائد یہ مشتمل حدیث

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے بواسطہ سعید بن مسیب مروی ہے کہ

مدینہ منورہ میں ہم صفہ میں قیام فرماتھے، ایک روز رسول خدا ﷺ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوئے اور وہیں کھڑے ہو کر فرمانے لگے آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میرے ایک امتی کے ہاں جان لینے کے لئے ملک الموت آیا تو اس کی بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ سلوک و احسان اور نیکی سامنے آگئی اور فرشتے کو اس سے پیچھے ہٹا دیا پھر میں نے اپنا ایک اور امتی دیکھا جو عذاب قبر میں مبتلا ہو چکا تھا تو وضو آیا اور اسے عذاب سے بچا لیا پھر میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جسے بہت سے شیاطین نے تکہ بوٹی کرنے کے لئے گھیر رکھا تھا تو ذکر الہی آیا اور تمام شیطانوں کو بھگا دیا پھر مجھے اپنا ایک امتی نظر آیا جسے ملائکہ العذاب نے گھیر رکھا تھا تو اس کی نماز آئی اور ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ پھر ایک امتی دکھائی دیا جو آگ کے شعلوں میں جل رہا تھا اور بروایت دیگر پیاس سے ہانپ رہا تھا جب بھی حوض کے قریب جاتا پیچھے ڈھکیل دیا جاتا تو ماہ رمضان کے روزے آئے اور پلا کر اسے سیر کر دیا پھر ایک امتی نظر آیا اور کچھ لڑکوں کی ٹولیاں بیٹھی دکھائی دیں جن کے پاس بھی وہ جاتا ہے اسے بیٹھنے نہ دیتے اور دور چھوڑ آتے تو اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے (حضور ﷺ کے) پاس بٹھا دیا۔ پھر ایک امتی کو دیکھا جس کے آگے بھی اندھیرا پیچھے بھی اندھیرا دائیں بھی اندھیرا بائیں بھی اوپر بھی اندھیرا نیچے بھی اور وہ حیران کہ کدھر جائے؟ اور کہاں جائے؟ تو اس کے حج و عمر آئے اور اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا پھر ایک امتی نظر آیا جو ہاتھ کے ساتھ آگ کے شعلوں اور چنگاریوں سے بچا کرنا ہے تو اس کا صدقہ و خیرات آئے اور آگ کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئے پھر ایک امتی کو دیکھا جو مومنوں سے ہات چیتے

کرتا ہے مگر وہ اس سے نہ بولتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں تو صلہ رحمی آئی اور کہنے لگی معشر المؤمنین۔ مومنوں کی جماعت یہ تو بڑا صلہ رحمی کرنے والا آدمی تھا تم اس سے کیوں نہیں بولتے تو اسی وقت تمام مومن اس سے کلام کرنے لگے اور وہ بھی ان سے باتیں کرنے لگا انہوں نے مصافحے کئے اور اس نے بھی۔ پھر ایک امتی نظر آیا جو دوزخ کے فرشتوں اور داروغہ کے اڈے چڑھ گیا اور انہوں نے اسے گھیر لیا تو اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر آئی اور ان کے ہاتھوں سے چھین کر ملائکہ رحمت یعنی رحمت کے فرشتوں میں جا چھوڑا پھر ایک امتی کو دیکھا گھنوں کے بل گر پڑا تھا اور اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب اور پردہ تھا تو اس کا حسن خلق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ خدا تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا پھر ایک امتی نظر آیا جسے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تھا تو اس کا خوف خدا آیا اور اعمال نامہ پکڑ کر دائیں ہاتھ میں دیدیا پھر ایک امتی کو دیکھا جس کے اعمال کا تول کم ہو گیا تو فوت شدہ بچے آئے اور اس کے تول کو بھاری کر دیا پھر ایک امتی نظر آیا جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا تھا اس کی رجا من اللہ یعنی خدا تعالیٰ سے وابستہ امیدیں آئیں اور اس سے بچا کر چل دیں پھر ایک امتی پر نظر پڑی جو جہنم میں گر رہا تھا یا گر گیا تھا کہ اس کے خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو آئے اور اسے بچا لیا پھر ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کھڑا اس طرح کانپ رہا تھا جیسے تیز و تند ہوائیں کھجور کی ٹہنی کو حرکت دیتی ہیں تو اس کا حسن الظن باللہ یعنی خدا سے اس کا نیک ظن آیا اور اس کی کچپی دور کر کے چلا گیا۔ پھر ایک امتی نظر آیا جو پل صراط پر بیچارہ کبھی سرینوں پر گھسٹتا ہے کبھی گھنوں اور پیٹ کے بل لڑھکتا ہے اور کبھی اٹک جاتا ہے تو اس کی نماز آئی اور اٹھا کر پاؤں کے بل کھڑا کر دیا اور اس طرح بچا لیا پھر ایک امتی جنت کے دروازے پر پہنچا نظر آیا اور جنت کے دروازے بند تو لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی آئی اور اس نے دروازے کھول کر اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔

یہ حدیث حافظ ابو موسیٰ مدینی نے منجیات و مہلکات کے متعلق اپنی تصنیف کردہ کتاب الترغیب فی الخصال المنجیہ والترہیب من خلال المریدہ میں جس کی آپ نے شرح بھی لکھی ہے روایت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث از حد حسن صحیح ہے جسے عمرو بن ازد علی بن زید بن جدعان اور ابو جہلہ بلال نے سعید بن مسیب سے روایت فرمایا ہے۔

حافظ ابن قیم الجوزی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ (میرے شیخ و استاذ) ابن تیمیہ اس حدیث کی بڑی عظمت و شان بیان کرتے ہیں اور اسے بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ کہا کرتے اس کی صحت پہ شواہد موجود ہیں (الوابل الصیب من الکلم الطیب)

اک نغمہ میں لیکاں ڈھاواں جہدے نقش خیالی
اکھ دے سانویں اکھ دے اوہلے ہر اک تیرا لشکر
لکھ کروڑاں اکھاں دیکھن ایہ گنتی محدود

اک صورت بے صورت وانگوں رہندی سامنے میرے
تیرا کھوج کیہ لانا فکراں، توں فکراں توں اچا
سارے منظر سارے منظر مولا تیری شان

ذکر اللہ کی حفاظت میں ہے

آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اللہ عزوجل نے تمہیں اپنا ذکر بجالانے کا حکم دیا۔ ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگے آگے بھاگا جا رہا ہو اور دشمن بھی اس کے پیچھے پیچھے تعاقب میں سرپٹ دوڑا آ رہا ہو اور دوڑے دوڑے وہ ایک مضبوط و پختہ

قلعہ میں داخل ہو کر خود کو محفوظ کر لے بعینہ اسی طرح انسان شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنے کو ذرا الہی کے پختہ و مضبوط قلعے میں محفوظ نہ کر لے۔

ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ تو کلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ .

اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت تو فیق الہی پر موقوف ہے

تو اسے کہا جاتا ہے تو نے راہِ راست پالیا۔ اپنے کو مامون و مصون کر لیا اور تمام تکالیف و مصائب سے خود کو محفوظ کر لیا اور اس سے شیطان دور کھڑا ہو کر دوسرے شیطان کو طعن دیتا ہے کہ واہ تجھ سے ایک آدمی بھی نہ درغلا یا گیا اور تجھ سے بچ گیا اور اس نے خود کو محفوظ کر لیا۔ یہ حدیث ابوداؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کی اور حسن کہا۔

اس سے قبل آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ذکر ہو چکا ہے کہ جو روزانہ دن میں سو ۱۰۰ مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و هو علی کل شیء قدیور . پڑھے تو یہ کلمات شام تک اسے شیطانی شرارت سے محفوظ رکھتے ہیں۔

سفیان بواسطہ ابی الزبیر عن عبداللہ بن ضمیرہ کعب سے ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے بسم اللہ فرشتہ جواب دیتا ہے ہدیت تجھے صحیح راستہ مل گیا، جب کہتا ہے تو کلت علی اللہ فرشتہ کہتا ہے کفایت کیا گیا جب کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ فرشتہ جواب دیتا ہے حفظت تو نے اپنے کو محفوظ کر لیا تو شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے چلو میاں! یہاں تمہاری دال نہیں گلتی تم اسے کیسے گمراہ کر سکتے ہو جو ہر چیز سے کفایت کر لیا گیا رہنمائی کر دیا گیا اور محفوظ ہو گیا۔

ابوخلاد مصری فرماتے ہیں جو اسلام میں داخل ہوا وہ قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو مسجد میں داخل ہوا وہ اندرونی قلعہ میں داخل ہوا اور جو مسجد کے اندر ذرا الہی کے حلقہ میں داخل ہو گیا وہ اندرونی قلعہ کی اندرونی کوٹھری میں داخل ہو کر محفوظ تر ہو گیا۔

حافظ ابو موسیٰ نے اپنی کتاب بواسطہ ابی عمران جو فی از انس رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ سے روایت فرمائی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص بستر پر لیٹتے وقت بسم اللہ سمیت پوری فاتحہ پڑھے وہ جن و انس بلکہ ہر شے کی شرارت سے مامون و مصون ہو جاتا ہے۔

نور ترے دا ہر تھاں گھیرا	تیرے دل اے سبھ دا پھیرا
بن تیرے موجود اے کہرا	مالک تے معبود اے کہرا
ذات تری اے فہم توں بالا	سوچاں سمجھاں توں اے اعلیٰ
توں ای چائن ہر تھاں گھلدا	توں جانو ایں ہر اک گل دا
پھلاں تائیں خشبو دیندا	اکھیاں تائیں اتھرو دیندا
بدلاں نوں توں پیا اڈاندا	جتنے چاہیں مینہ ورساندا
رب توں سبھ دا والی مولیٰ	تیری ہستی عالی مولیٰ

شیطان پہ قابو کیسے پایا جائے؟

صحیح بخاری میں بواسطہ ابن سیرین ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ رمضان (صدقہ فطر) کے مال کا مجھے محافظ بنایا کہ اس کی نگرانی و حفاظت رکھوں تو کوئی آیا اور جھولی بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا تو کہنے لگا اس دفعہ جانے دیجئے پھر نہیں آؤں گا، آخر اسی طرح دوبارہ آیا اور منت سماجت کر کے چھوٹ گیا، تیسری دفعہ پھر پکڑا گیا تو کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو تیرے لئے نہایت مفید و نافع ہوں گے جب آپ بستر پر تشریف لے جائیں تو شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی تلاوت فرمائیے، اللہ عزوجل کی طرف سے ایک محافظ تمام رات آپ کی حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان آپ کے قریب تک نہیں بھٹک سکے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور صبح کو آنحضرت ﷺ سے ماجرا بیان کیا اور اس کے بیان کردہ آیت الکرسی اور اس کے اثر کو بھی پیش کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا، تھا تو وہ جھوٹا مگر یہ بات سچ کہی۔ (مختصراً)

حافظ ابو موسیٰ بواسطہ ابی الزبیر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا جب انسان بستر پر جاتا ہے تو جلدی سے اس کے پاس ایک فرشتہ اور شیطان پہنچ جاتا ہے فرشتہ کہتا ہے (اس دن کی بیداری کو) خیر و نیکی کے ساتھ ختم کر اور شیطان کہتا ہے شرارت و برائی سے ختم کر، اگر وہ ذکر الہی کرتے سو جائے تو فرشتہ شیطان کو بھگا کر ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو جلدی سے فرشتہ و شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے۔ خیر و نیکی کے ساتھ کھولنے (یعنی دعا و نیکی کہتے اُٹھتے) اور شیطان کہتا ہے شرارت و برائی سے، تو اگر وہ یہ پڑھے

الحمد لله الذي احيا نفسي بعد موتها ولم يمتهن في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى . الحمد لله الذي يمسك السموات والارض ان تزولا ولنن زالتا ان امسكهما من احد من بعده . الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه

تمام تعریفات خدا کو سزاوار ہیں جس نے مجھے مار کر زندہ کر دیا اور سوتے میں بالکل ہی نہیں کر دیا سب تعریفوں کے لائق وہی خدا ہے جو ان جانوں کو توروک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر کر چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک رہا کر دیتا ہے۔ تمام تعریفات کا سزاوار خدا تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ موجودہ حالت کو نہ چھوڑیں اگر (بالفرض) موجودہ حالت کو چھوڑ دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا تمام حمد و ثنا خدا کے لئے ہے جو آسمانوں کو زمین پر گرانے سے تھامے ہوئے ہے مگر یہ کہ اسی کا حکم ہو جائے۔ تو فرشتہ شیطان کو بھگا کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔

صحیحین میں بواسطہ سالم بن ابی الجعد از کریب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا جو اپنے بیوی سے

جماع کے وقت یہ پڑھے: اللهم جنبنا الشطين و جنب الشيطان ما رزقنا

خدا یا ہمیں اور ہماری اولاد کو شر شیطانی سے محفوظ رکھ اور بچہ پیدا ہو تو اسے شیطان کبھی تکلیف نہیں دے سکے گا۔

توں ای جھولی سکھنی رکھیں توں ای بخشیں کا ناں
اوبدیاں حماں جیسے ہر دم لکھیے اسیں مقالے

توں سپیاں دے مونہہ نوں مولا! موتیاں دے نال بھردا
اوبدی رات وچ ٹریے تے بس اوبدی راہ وچ چلیے

ہر چیز سے حفاظت کا ذکر

حافظ ابو موسیٰ امام حسن بن حضرت علیؓ سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص مندرجہ ذیل آیات تلاوت کرے میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل اسے ہر شیطان سرکش، ہر کاٹ کھانیوالے درندے اور ہر چور ڈاکو سے محفوظ رکھے گا۔ آیات یہ ہیں، آیۃ الکرسی سورۃ اعراف کی ان ربکم اللہ الذی خلق السموت والارض سے لے کر تین آیتیں صافات کی دس آیات سورہ رحمن کی یعمشیر الجن والانس سے لے کر تین آیات اور سورہ حشر کی لو انزلنا هذا سے آخر سورت تک تین آیات۔ راوی کہتے ہیں ایک دفعہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اسے اپنے پہلو میں کوئی چیز محسوس ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا، گھبرائیے نہیں میں تو محض لوجہ اللہ آپ کے ہاں آیا ہوں کہ آپ عروہ کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ مجھے وہ تعوذ سکھا دیجئے جس سے ابلیس الالبالیس اور شیطانوں کا شیطان بھاگ جائے۔ فرمایا پڑھئے۔

امنت باللہ العلیٰ العظیم وحدہ و کفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروہ الوثقی لا
انقصام لها واللہ سمیع علیم حسبی و کفی سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتھی
میں خدائے واحد بلند و برتر پر ایمان لایا اور بتوں اور شیطانوں کے حکم سے انکار کیا اور عروہ الوثقی یعنی مضبوط شریعت کو
پنچہ مار لیا جو ٹوٹنے کی نہیں اور اللہ عزوجل سمیع و علیم وہی مجھے کافی ہے اور جو اسے بلائے اس کی دعا قبول کرتا ہے اور خدا
کے در سے کچھ منتہی نہیں۔

بشر بن منصور علیہ الرحمۃ روایت کرتے ہیں کہ کچھ رات گزرے ایک شخص چیل میدان کی طرف نکلا اور کہتا ہے کہ میں نے
ایک دھماکہ سنا کہ ایک تخت لا کر رکھ دیا گیا کوئی آیا اور اس پر بیٹھ گیا اور جلدی سے اس کے پاس اس کے تمام لشکر فوج در فوج جمع ہو
گئے۔ پھر وہ چلانے لگا کہ کوئی ہے؟ جو عروہ بن زبیر کو میرے قابو میں لا دے اور گرفتار کر لائے تو کسی نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ وہ دیر
تک چیختا چلاتا رہا، تو ایک نے کہا اس کام کو میں پورا کرتا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے دیکھتے دیکھتے اس نے مدینہ منورہ کا رخ کیا
اور جلدی واپس چلا آیا کہنے لگا عروہ پر کسی کا داؤ نہیں چل سکتا تو صاحب تخت نے کہا اُف ہے تم پر پھر اس نے کہا وہ تو صبح و شام چند
کلمات پڑھا کرتا ہے اس لئے ہماری مجال نہیں کہ اس پر قابو پاسکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ صبح ہوتے ہی میں نے بیوی سے زادرہ لیکر
مدینہ شریف کا رخ کیا اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا پتہ پوچھا کسی نے مجھے بتایا تو میں پہنچتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ عروہ رضی اللہ عنہما بہت بوڑھے ہو
چکے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ صبح و شام کچھ کلمے پڑھا کرتے ہیں، تو آپ نے کچھ نہ بتایا پھر میں نے وہ گذشتہ واقعہ بھی سنایا اور جو
کلمات میں نے سنے تھے وہ واقعہ بھی بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہاں یہ کلمات صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھا کرتا
ہوں امنت باللہ العلیٰ العظیم وحدہ

ابو موسیٰ مسلم بطنین سے ذکر کرتے ہیں کہ جب زبیر علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ سے کہا: ایک شیطان خبیث آپ سے مکرو

فریب کرتا اور ایذا دینا چاہتا ہے۔ اس لئے جب بستر پر تشریف لے جائیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔

اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرء من الارض وما يخرج منها ومن شرفتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار ولا طارق يطرق بخير يا رحمن

میں خدا تعالیٰ کے کلمات تامہ کی جن سے نیک و بد کو گزرنے کی مجال نہیں، ان چیزوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں یا آسمان کی طرف چڑھتی ہیں یا جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں یا اس سے نکلتی ہیں نیز لیل و نہار کے فتنوں اور رات کو نازل ہونے والے مصائب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں خدایا مجھے ان سے محفوظ رکھ۔

اور صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ شیطان اذان سے بھاگ جاتا ہے (بخاری، مسلم، ابوداؤد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت سہل بن ابی صالح فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے قبیلہ بنی حارثہ کی طرف بھیجا میرے ساتھ ایک غلام یاد گیر کوئی دوست تھا، کسی نے دیوار کے پار اس کو آواز دی اُس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو کچھ نہ پایا میں نے اپنے باپ کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا: مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہیں جانے ہی نہ دیتا جب ایسی کوئی آواز سنو تو اذان دیا کرو کیونکہ میں نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا حدیث بیان فرمایا کرتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اذان دی جائے تو شیطان گوز مارتے ہوئے اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنائی دے، الخ

خالق تے سبحان توں مولا
تیرا جام دوامی ڈٹھا
مالک تے معبود اے کبیرا

مالک تے رحمن توں مولا
تیرا لطف عوامی ڈٹھا
بن تیرے موجود اے کبیرا

ذکر الہی کی وجہ سے شیطان بے بس ہو جاتا ہے

حافظ ابو موسیٰ بواسطہ ابی رجاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھا کرو کیونکہ شیطان کہتا ہے میں نے گناہ کروا کر ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھ کر ہلاک و برباد کر دیا یہ صورت دیکھ کر میں نے خواہشات کی رغبت دلا کر اس چال سے انہیں ہلاک کیا۔ لہذا خواہشات میں پھنسے پھنسے وہ خود کو ہدایت یافتہ خیال کرتے ہوئے توبہ و استغفار بھی بھول جاتے ہیں۔

نیز ابرہیم بن حکم، حکم کے واسطہ عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی مسافر ایک سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گذر اور اس کے پاس شیاطین کو کھڑے دیکھ کر ٹھہر گیا تو ایک شیطان نے دوسرے شیطان سے کہا کہ سوتے سوتے ہی جا کر اس کا دل بگاڑ دیجئے، جب وہ گیا تو قریب جا کر واپس چلا آیا اور کہنے لگا کہ یہ آیت پڑھ کر سویا ہے اس لئے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی تحقیق کرنے دوسرا گیا اور واپس آ کر کہا کہ تو نے ٹھیک کہا پھر وہ چلے گئے اور مسافر نے اسے بیدار کر کے ماجرا سنایا اور آیت دریافت کی تو اس نے یہ آیت بتائی۔

کے ساتھ شام کی جس کاشکروں سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور خدا تعالیٰ کے سخت و شدید تسلط و غلبہ میں ہم اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اور اللہ عزوجل کے جملہ اسماءِ حسنیٰ کی اعانت و امداد سے ہم تمام ابلیسوں اور شیطان انسانوں اور جنوں کی شرارت اور ہر ظاہر و مخفی چیزوں کے شر اور ان چیزوں کے شر سے جو رات کو نکل آتی ہیں اور دن کو چھپ جاتی ہیں اور خدا کی اس مخلوق کے شر سے جو روئے زمین پر پھیل گئی ہیں اور ابلیس اور اس کے لشکروں کی شرارت اور ہر چلنے والی چیز جس کو تو نے پینٹانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں یقیناً میرا رب صحیح راستے پر ہے میں نے ان کلمات کے ساتھ جن کے ساتھ موسیٰ و عیسیٰ اور اس ابراہیم علیہم السلام نے جس نے خدا کے جملہ کلمات کو پورا کو دکھایا پناہ طلب کی اور خدا سے ان چیزوں کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جو اس نے پیدا کر کے روئے زمین میں پھیلا دیں اور ابلیس اور اس کے لشکروں اور باقی ماندہ تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں خدائے سمیع و علیم کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہے خدائے رحمن درحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں ان جماعتوں کی قسم جو (عبادتِ خدا میں) صغیر باندھے رہتی ہیں پھر ان جماعتوں کی قسم جو (اللہ کے حکم سے خوب) ڈانٹتی ہیں پھر ان جماعتوں کی قسم جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں بیشک تمہارا معبود ایک ہے وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں اور مشرقوں کا رب ہے ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لئے بنایا وہ عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے اور ہر طرف سے دھتکار دیئے جاتے ہیں اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے ہاں جو شیطان اچک کر سن بھاگے تو اس کے پیچھے دکھتا ہوا انکار لگ جاتا ہے۔

اس کا بھی حضور ﷺ کے اس ارشاد سے تعلق ہے جو آنحضرت ﷺ نے آدمی کو بتلایا تھا کہ ذکر الہی سے انسان اپنے کو

شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ (الوابل الصیب من الکلم الطیب لا بن قیم الجوزی)

توں باقی ایں ربا اتھے ہو رتے ہر شے فانی
تیرے جلوے ہر تھاں ڈٹھے تیری رحمت وانگوں
توں دائرہ گرداب وی توں ایں توں دریا توں ساحل
توں یکتا ایں ذات اچ اپنی کوئی نہیں تیرا ثانی
دھرتی اُتے انبراں اُتے تیری ای تابانی
توں مانجھی ایں توں ایں کشتی توں ایں بحر روانی

ذکر کی اقسام اور ان کے احکام

ذکر کی دو قسمیں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کرنا، (۲) اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو یاد رکھنا۔ ذکر کی قسم اول یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اللہ کی شان کے نامناسب الفاظ سے اس کی پاکی بیان کرنا یہ بھی دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ ذکر کا خود ان کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کا آغاز کرنا اور یہ قسم احادیث میں مذکور ہے جیسے سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ وبحمده اور لا الہ الا اللہ و الحمد لله لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغيره

تو ذکر کی سب سے اعلیٰ و افضل وہ قسم ہے جو تمام ثنا و تعریفات خداوندی کی جامع اور اعم ہو، مثلاً سبحان اللہ عدد خلقه

صرف سبحان اللہ سے افضل ہے، ایسے ہی حمد الہی الحمد للہ عدد ما خلق فی السماء و عدد ما خلق فی الارض و ما خلق بینہما و عدد ما ہو خلق صرف الحمد للہ کہنے سے کئی درجہ افضل ہے اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے احکام بیان کرنا۔

مثلاً آپ یہ تبلیغ کریں کہ اللہ عزوجل اپنے بندوں کی تمام حرکات و سکنات اور دعا و پکار سنتا ہے اس پر کوئی ایسا وقت بھی مخفی نہیں جس میں وہ کچھ نہ کرتا ہو اور لوگوں پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم و شفیق و مہربان ہے وہ ہر شے پر قادر ہے اور وہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں دانہ پانی لدے اونٹ گم ہونے کے بعد مل جانے پر خوش ہوتا ہے وغیر ذلک۔ اسی مفہوم کی حدیث بخاری و مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے الفاظ یہ ہیں اللہ افرح بتوبۃ عبده من احد کم سقط علی بغیرہ و قد اضلہ بارض فلاة بیابان جنگل میں اونٹ گم ہونے کے بعد مل جانے سے جس قدر آدمی خوش ہوتا ہے اللہ عزوجل اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔

اور اس کی سب سے اعلیٰ و افضل قسم یہ ہے کہ انسان اپنی وضع کردہ حمد و ثنا نہیں بلکہ بلا تحریف و تعطیل اور تمثیل و تشبیہ اللہ عزوجل کی وہی ماثورہ ثنا و تعریف بیان کرے جو اس نے خود اپنے لئے تجویز فرمائیں ہیں یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور خود ان الفاظ سے حمد و ثنا کی ہے۔

پھر یہ قسم بھی آگے تین اقسام میں منقسم ہے، حمد، ثنا اور مجد و بزرگی اللہ عزوجل کی حمد یہ ہے کہ خدائے سبحانہ و تعالیٰ کی خاص طور پر محض صفات کمالیہ ہی نہ بیان کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت و رضا کو بھی شامل رکھے کیونکہ نہ محبت ساکت حامد ہوتا ہے اور نہ بے محبت ثنا کرنے والا شخص حامد ہو سکتا ہے جب تک کہ ثنا و تعریف کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عشق و محبت کا عنصر نہ ملایا جائے، پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ثنا کنندہ شخص کسی ایک کو لگا تار ذکر کرنا چلا جائے تو یہ ثناء ہوگی اگر صفات جلال و عظمت و کبریائی اور صفات ملک و حکومت کے ساتھ اللہ عزوجل کی مدح سرائی کرے تو یہ مجد ہوگی۔

اور یہ تینوں اقسام اللہ عزوجل نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں جمع فرمادی ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العلمین تو اللہ عزوجل فرماتا ہے: حمدنی عبدی یعنی میرے بندے نے میری حمد کہی، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اثنیٰ علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا کہی جب کہتا ہے مالک بوم الدین اللہ عزوجل فرماتا ہے میرے بندے نے میری مجد و بزرگی بیان کی۔

میریاں پاک خیالاں نوں اوہ ہر دم پیا اُجالے
میریاں حرف ثناواں نوں اوہ موتیاں دے وچ ڈھالے
کراں دعاواں جیہڑیاں وی میں اوہ اوہناں نوں پالے
میںوں دوے سلیقے اوہ پیا منگن دے ہر ویلے
نھیریاں اندر میرے لئی اوس روشن دیوے بالے
ہر اوکڑ چوں کڈھ کے اوہو پار لے جاندا میںوں

خدا بندے سے خود پوچھے.....

بخاری و مسلم میں بروایت ابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ابتدائی الفاظ یوں ہیں قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبدی

ولعبدی ما سال فاذا الخ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے، اسے ملے گا۔

اللہ عزوجل کے اوامر و نواہی کی یاد رکھنا بھی ذکر ہے اور یہ بھی دو قسم پر ہے۔

اول:- یہ کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا کہ اللہ عزوجل نے فلاں کام کا حکم دیا اور فلاں سے منع فرمایا ہے۔ فلاں کو پسند فرمایا ہے، فلاں سے غصہ اور فلاں کام سے راضی ہوتا ہے۔

دوم:- دوسروں کو وعظ کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنا اس کے اوامر کو بجالانے اس کے نواہی سے دور بھاگنا، تو اوامر و نواہی کا صرف وعظ کر دینا اور چیز ہے اور اس پر عامل ہونا چیزے دیگر۔ جب ذکر میں یہ دونوں اوصاف جمع ہو جائیں تو اس کا مرتبہ و مقام ذکر و اذکار سے اعلیٰ و افضل اور بلند تر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس قسم کا ذکر فقہ اکبر اور دوسرے اذکار افضل الذکر ہیں بشرطیکہ نیت صحیحہ سے کئے جائیں۔

اللہ عزوجل کی آیات انعام و احسانات اور بندوں پر اس کے نازل شدہ فضل و اکرام کا تذکرہ کرنا بھی ذکر الہی کی قسم ہے اور یہ بھی ذکر کے جملہ اقسام میں بزرگ ترین ذکر ہے۔

بہر صورت ذکر کی یہ پانچ قسمیں ہوں گی۔ کبھی دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے یہ افضل الذکر ہے۔ کبھی صرف دل سے ہوتا ہے یہ دوسرا درجہ ہے۔ کبھی صرف زبان سے ہوتا ہے، یہ تیسرے نمبر پر ہے، تو معلوم ہوا کہ افضل ذکر وہ ہے جس پر دل اور زبان دونوں متفق ہیں۔

رہا صرف دل یا صرف زبان کا ذکر تو اول الذکر ثانی سے افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ قلبی ذکر سے معرفت حاصل ہوتی ہے، جذبات عشق و محبت بھڑک اٹھتے ہیں، شرم و حیا اور خوف الہی کا تسلط و غلبہ چھا جاتا ہے۔ خشیت الہی و مراقبہ کی تڑپ پیدا ہوتی ہے طاعات و عبادات میں خدا کی فرمانبرداری سے تقصیر و چشم پوشی کرنے سے رُک جاتا ہے اور گناہوں بدکاریوں اور نافرمانیوں سے رکنے کا باعث ہوتا ہے لیکن قلبی تعلق کے بغیر صرف زبان سے ذکر کرنے میں مذکورہ بالا چیزوں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ بفرض محال کچھ نتیجہ برآمد ہو تو معمولی و کم زور اور ناپائیدار ہوگا۔

سجھے پاک روالاں توں ایں تیری اچی قدرت
توں یکتا ایں ذات اچ اپنی کوئی نہیں تیرا ثانی
اپنے خوف تے ڈروچ رکھیں مینوں توں ستار

تیری ذات کمالاں والی تیری وڈی قدرت
توں باقی ایں ربا اتھے ہورتے ہر شیء فانی
توں ایں پاک شریکے توں تیری ذات قبار

ذکر الہی قیام عالم کا سبب ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ۔

(دلی روایت) لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔

اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پہ قیامت نہ آئے گی (یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا یا

یوں کہہ لو کہ قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ (مسلم شریف، ۱/۱۳۱، ۱۳۸)

☆ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا

الا ابنکم بخیر اعمالکم واز کاها عند ملیکمکم وارفعا فی درجاتکم وخیر لکم من ان تلقوا
عدو کم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔

کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہترین اور پاکیزہ تر ہے،
تمہارے درجات میں سب سے بلند تر ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے افضل و اعلیٰ ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا
کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے اس حال میں کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور
بتائیں۔ فرمایا ذکر اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے (ترمذی، ۵، ۶، ۳۵۹/۵، ۶، ۳۳۷۷)

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ان اخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلت ای الاعمال احب الی اللہ قال
ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ۔

میں نے حضور علیہ السلام سے جدا ہوتے ہوتے جو آخری بات سنی وہ یہ تھی کہ میں نے عرض کی حضور: اللہ تعالیٰ کو سب
سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا یہ کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان ذکر سے تر ہو۔

(ابن حبان، ۳/۹۹، ۸۱۸، معجم کبیر للطبرانی، ۲۰/۱۰۶، ۲۰۸)

باقی سبھ مخلوق اے تیری، توں سھناں دا والی
اوہ ای سھناں نوں زندگی دیوے
حمد ثناواں تیرے لئی سبھ، توں ساڈا معبود
جگنو تے پروانے اڈدے، دیکھاں ایدھر او دھر

توں اچا توں سبھ توں اچا توں سھناں توں عالی
ادہدی رحمت دی سبھ تے چھایا اے
تو رحمان رحیم ایں مولا! تیرا نام وود
تیرے ناں دی تسلی پڑھدے بھردے پیارا ڈاری

ذکر دعا سے بھی افضل ہے لہذا.....

ذکر دعا سے افضل ہے کیونکہ اللہ عزوجل کی اس کے اوصاف جمیلہ اس کے انعامات و اسماء مبارکہ کے ساتھ ثنا و تعریف کرنا ذکر
کہلاتا ہے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں انسان کا اپنی حاجات پیش کرنا دعا کہلاتا ہے تو کہاں ذکر؟ اور کہاں دعا؟ کوسوں کا فرق ہے
اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے، جو میرا ذکر کرتے کرتے اپنی کوئی حاجت و درخواست پیش نہ کر سکے اور میرا ذکر اسے اپنی
ضروریات پیش کرنے سے مشغول کر دے میں اسے مانگ کر لینے والوں سے بھی زیادہ عنایت کرتا ہوں۔

اسی لئے دعا میں یہی طریقہ مستحب اور پسندیدہ ہے کہ جب دعا کرنا ہو تو انسان دعا سے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز
کرے بعد ازاں اپنی حاجت و ضروریات کی درخواست پیش کرے چنانچہ حضرت فضالہ بن عبید کی حدیث میں ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا جو نہ تو دعا سے پہلے حمد و ثنا کرتا ہے اور نہ ہی درود شریف پڑھتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس نے دعا میں جلدی کی، پھر اُسے بلایا اور کہا جب نماز پڑھو تو پہلے اللہ عزوجل کی حمد و ثنا سے آغاز کرو پھر (آخر میں) آنحضرت ﷺ پر درود شریف پڑھو بعد ازاں جو دعا کرنا ہو اور کچھ مانگنا ہو اس کی دعا و درخواست کرو۔ صحیح حاکم، احمد، ترمذی، ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔

ساڈے اتے کرم کمایا سانوں عزت بخشی
 حمد ثنائے نعت نبی ﷺ دی، دولت جھولی پائی
 حرف تسکین دل زخم جاں کی دو احمد رب علی نعت خیر الوری
 رحمد اس کی جو جہاں کا ہے پروردگار بھی
 جس کا نہیں شریک وہ رب غفور ہے
 سوہنا پاک نبی ﷺ توں گھلیا، بخشی سوہنی نعت
 سانوں توں قرآن سکھا کے کیتا روشن رستہ
 رحمتوں کی جلو میں ارم کی ہو احمد رب علی نعت خیر الوری
 نعت اس کی جو حاصل لیل و نہار بھی
 جس کی نہیں مثال وہ ذات حضور ہے
 حضور علیہ السلام اپنی دعا کا آغاز ذکر سے ہوتا

دیکھئے! آنحضرت ﷺ نے دعائے کرب و مصیبت کو حمد و ثنا کے ان الفاظ سے آغاز فرمایا ہے،

لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموت ورب الارض ورب العرش الکرم

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم و حلیم ہے اللہ عزوجل کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔

علیٰ ہذا القیاس حضرت بریدہ اسلمی کی وہ حدیث جو اصحاب سنن اور ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمائی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا

اللہم انی اسئلك بانى اشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔

خدا یا میں تجھ سے اس بات کو وسیلہ بنا کر سوال کرتا ہوں کہ میں تیرے خدا ہونے کی شہادت دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو واحد بے نیاز ذات ہے جس کا نہ فرزند ہے نہ والد اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔

تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ عزوجل کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ درخواست کی ہے جس کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔

حافظ منذری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابوالحسن مقدسی نے فرمایا کہ اس کی اسناد میں کوئی طعن نہیں اور اس مسئلہ میں اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں۔

ابوداؤد و نسائی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول خدا ﷺ کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور دعا کی۔

اللہم انی اسئلك بان لك الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السموت والارض یا ذا الجلال

والا کرام یا حی یا قیوم

خدا یا میں تجھ سے ان کلمات کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد و ثنا تیرے لئے ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو منان یعنی احسان کنندہ اور آسمانوں اور زمین کو از سر نو پیدا کنندہ ہے۔ اے بزرگی و جلال کے مالک اے زندہ و قائم رہنے والے خدا۔

(یہ ابو عیاش زرقی زید بن صامت میں جیسا کہ اسے حافظ امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح اسے ابن ماجہ و ابن حبان نے روایت کیا ہے)

حضور ﷺ نے فرمایا اس نے اللہ عزوجل کو اس کے ایسے اسمِ اعظم سے پکارا ہے جس سے دُعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور سوال کیا جائے تو پورا کرتا ہے۔

دیکھئے! آنحضرت نے دو چیزیں بیان فرمائیں ایک یہ کہ دعا سے پہلے حمد و ثنا اور ذکر کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے دوم یہ کہ اسمِ اعظم ہے۔

معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر انسان کے جملہ مطالبات کی کامیابی کا سب سے بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہے۔

واجب الاحترام ہے اللہ
روح ہوئی ہے مطمئن جس سے
ایک ہی لا کلام ہے اللہ
اہل ایمان وہ نام ہے اللہ

ذکر قبولیت دُعا کا باعث ہے

پھر فوائد ذکر و ثنا میں سے یہ علیحدہ فائدہ ہے کہ ذکر دُعا کو مقبول و مستجاب کر دیتا ہے تو جس دُعا سے پہلے ذکر الہی و ثناء خداوند موجود ہو اس دُعا سے پہلے قبول ہوتی ہے جو حمد و ثنا سے خالی ہو پھر اس کے ساتھ انسان اپنی غربت و مسکینی فقر و احتیاج اور اظہار و اعتراف حقیقت کو بھی شامل کر لے تو بالا اہتمام قبول ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے مدعو و سؤل یعنی خدا تعالیٰ کے ہاں اس کی صفا کمالیہ اور اس کے فضل و احسان کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہوئے درخواست کی ہے بلکہ اپنی شدت احتیاج و ضرورت اور فقر و مسکینی صراحتاً واضح کر دیا ہے تو یہ سائل کے سوال کا مقتضا تھا اور وہ اجابت سؤل کا جب دعا میں سائل و سؤل ہر دو کے مقتضیات صریحاً پیش کر دئے گئے تو اثر و قبولیت کے لحاظ سے زیادہ موثر اور معرفت و عبودیت کے لحاظ سے بجا کمال و کامل تر ہوں گے۔

آپ اس مثال میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے انعام و اکرام وغیرہ کا طالب ہو تو اس کے جو دو کرم اور نیکی و بھلائی کا تو سؤل کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنی حاجت و ضرورت اور فقر و مسکینی کو بھی (پورے خشوع و تضرع کے ساتھ) بیان کرے تو مسؤل کے دل کو بوجد نرم کرنے کا موجب ہوگی اور حاجت روائی کا اقرب ترین ذریعہ ہوگی جب اس کی ثنا و تعریف کرتے ہوئے کہے کہ آپ کے جو دو سخا کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے اور آپ کا فضل و احسان کا شمس فی النہار ہو چکا ہے اور بندہ اس قدر عاجز و محتاج ہوا ہے کہ پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے وغیرہ تو اس شخص کی نسبت اس کی دُعا بالا اہتمام مقبول و مستجاب ہوگی جو سامنے ہوتے ہی کہہ دے کہ مجھے فلاں چیز دیدے۔

مالک ہے وہی جہانِ کاخ و کو کا
سامان نجات کر رہا ہوں ساگر
محتاج ہے دل بھی عرش کی خوشبو کا
ہر روز اب تو وردھے اللہ ہو کا

دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں بھی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں

جب آپ کو یہ بخوبی معلوم ہو گیا تو اب مذکورہ ذیل تینوں پیغمبروں کی دُعاؤں میں غور کیجئے ہر ایک نے حمد و ثنا کے ساتھ اللہ عزوجل کے جو دو سخا و مہربانی اور اپنے فقر و احتیاج اور مسکینی کے اظہار کے ساتھ دُعا فرمائی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دُعا کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ○ (قصص ۳۸-۳۷)

خدایا! میں تیری نازل کردہ خیر و بھلائی کا فقیر و محتاج ہوں۔

علی ہذا القیاس دعا ذی النون یونس علیہ السلام کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دُعا پڑھے اس کی تمام مصیبتیں رفع ہو جائیں گی۔

ترمذی میں ہے جو مسلمان کسی کام کے لئے بھی یونس علیہ السلام کی وہ دُعا مانگے جو آپ نے شکم ماہی میں تلاوت فرمائی تھی تو اللہ عزوجل اس کی درخواست و دعا قبول فرماتا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین (اسے ترمذی، امام احمد، حاکم اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور کہا کہ صحیح الاسناد ہے از سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ) اور یہی حال آنحضرت ﷺ کی فرمودہ عام دُعاؤں کا ہے۔ جن میں دُعا کو حمد و ثنا سے شروع کیا گیا ہے علی قاتلکھا افضل الصلوٰۃ والسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے:

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ○ (اعراف ۷-۶)

پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اگر تو مغفرت نہ فرمائے اور رحمت نہ کرے تو ہم خسارہ والوں سے ہو جائیں گے۔

☆ صحیحین میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی دُعا سکھلائیے جو نماز میں پڑھا کروں۔ فرمایا پڑھئے:-

اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم

خدایا! میں نے اپنے نفس پر بہت مظالم ڈھائے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں لہذا مجھ پر اپنی خاص مغفرت و رحمت فرماتو ہی غفور و رحیم ہے۔

دیکھئے! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس عظیم الشان و بزرگ تر دعا میں کتنی چیزوں کو جمع فرمادیا ہے اس میں اپنی حالت کا اعتراف بھی موجود ہے خدا کے فضل و احسان اور جو دو سخا کا وسیلہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا ہے اور مغفرت و ذنوب کے لئے صرف اللہ عزوجل کی ذات بابرکات کو ہی مخصوص و منفرد فرمایا ہے۔ پھر ہر دو امور سے توسل کرنے کے بعد اپنی حاجت کی درخواست فرمائی

ہے۔

لطف رب غفور حاصل کر
 کر طلب اس کی رحمتیں اس سے
 تو اگر چاہے امن سے رہنا
 قلب میں اس کا نور حاصل کر
 اور کیف و سرور حاصل کر
 التفات حضور حاصل کر

ذکر الہی دعا سے اور تلاوت قرآن ذکر سے افضل ہے

یہ اس صورت میں ہے کہ ہر دو کو علیحدہ علیحدہ بنظر مجرد دیکھا جائے لیکن بعض دفعہ کسی عارضہ سے مفضول فاضل سے اولیٰ و اعلیٰ بلکہ بعینہ فاضل ہو جاتا ہے۔ لہذا مفضول کو ادنیٰ تصور کرتے ہوئے فاضل کو اختیار کرنے کے لئے مفضول کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ مثلاً رکوع و سجود میں تلاوت قرآن کی نسبت تسبیح کہنا افضل ہے بلکہ اس وقت تلاوت قرآن حرام یا مکروہ ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (مرض و فوات) میں پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز کے لئے صفیں باندھے کھڑے تھے آنحضرت ﷺ نے فرمایا لوگو! مبشرات نبوت میں سے اب صرف روئے صالحہ ہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں الا وانی نہیت ان اقرء القرآن را کما او ساجدًا خبردار رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنا منع ہے رکوع میں اللہ عزوجل کی عظمت و کبریائی بیان کرو اور سجدہ میں دُعا کی کوشش کیا کرو کیونکہ ایسی صورت قبولیت کی زیادہ سزاوار ہے (احمد، مسلم، نسائی، ابوداؤد)

علیٰ ہذا القیاس تسبیح و تحمید اپنے اپنے موقع محل میں تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ اسی طرح تشہد اور ہر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی و اهدنی و عافنی و ارزقنی پڑھنا قرأت قرآن سے افضل ہے علیٰ ہذا القیاس سلام پھیرنے کے بعد معاً تسبیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کہنا تلاوت قرآن سے افضل ہے اسی طرح اذان کا جواب دینا اور موذن کی طرح وہی کلمات کہنا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم کو دیگر تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت و فوقیت ہے جیسے خالق برتر کو مخلوقات پر مگر ہر مقام اور موقع محل کے لئے خاص کلمات مخصوص اور خاص خاص اذکار مناسب و مختص ہیں جنکو چھوڑ کر کسی دیگر کو ان کی جگہ پڑھنے سے وہ راز و حکمت خلل پذیر ہو جاتی ہے جس کے لئے اللہ عزوجل نے ان خاص کلمات کو مخصوص جگہ کے لئے معین فرمایا ہے اور وہ مطلوبہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس کے لئے علیم و حکیم نے انہیں اس مقام کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح اذکار متعینہ و موقتہ اور قرأت مطلقہ سے اور قرأت مطلقہ اذکار مطلقہ سے افضل ہیں۔ الا یہ کہ دیگر کوئی عارضہ پیش آ جائے کہ قرأت قرآن کی بجائے ذکر و دعا ہی اس مقام محل کے لئے مناسب تر ہو۔

مثلاً ایک گنہگار آدمی اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ اس لئے اسے توبہ و استغفار کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی شیطان و شریر آدمیوں اور جنات کی شرارت و تکلیف کے خطرہ و خوف سے دُعا اور ذکر و اذکار کی ضرورت محسوس کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے خود کو محفوظ کر سکے۔

علیٰ ہذا القیاس بعض دفعہ ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے قرأت قرآن میں مشغول ہونے سے دل پوری طرح

حاضر نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات کتابچہ ہر سوال و درخواست اور دعا و اذکار کا ادنیٰ سا خیال بھی اس وقت حضور دل اور جمع قلبی کا موجب ہوتا ہے۔ متفکر و پریشان حال اور تکلیفوں کا مارا ہوا غمزدہ انسان انتہائی عاجزی و تضرع کے ساتھ دعا کرتا ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہِ ارحم الراحمین میں بار بار گڑ گڑاتا ہے اور دل کاٹ کاٹ کر کلیجہ نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس پر ایک عجیب ہی کیفیت سی طاری ہوئی ہوتی ہے اور یہی حالت اس کے لئے اس وقت مفید و نافع تر ہوتی ہے۔ اگرچہ اجر و ثواب کے لحاظ سے قرأت قرآن اور ذکر و اذکار دونوں فی نفسہ افضل و اعلیٰ ہیں۔

روشنی دیر سے نظر میں ہے
جو سفینہ مرا بھنور میں ہے

ذکر اللہ کا جو گھر میں ہے
پار تو ہی اسے لگائے گا

حفظ مراتب کا خیال ضروری ہے

اور یہ باب از حد فائدہ مند ہے مگر اس میں دو چیزوں کی بحد ضرورت ہے۔ اول فقہ نفس (یعنی اپنی اپنی طبیعت و مذاق سے پوری واقفیت) دوم کسی چیز کی ذاتی اور عارضی فضیلت کہ کون سی چیز بذاتہ افضل ہے اور کون سی کسی عارضہ کی وجہ سے تاکہ وہ حق بھدار رسید کے اصول پر عملدرآمد کر سکے اور ہر چیز کو اس کے مناسب موقع و محل میں رکھ سکے، کیونکہ جو کام آنکھ دے سکتی ہے وہ ٹانگ نہیں دے سکتی۔ جہاں پانی کام دیتا ہے وہاں گوشت اور شوربہ کام نہیں آ سکتا۔ بہر صورت حفظ مراتب میں کامل حکمت و دانشمندی کی ضرورت ہے جس پر اوامر و نواہی کا نظام چل رہا ہے۔

اسی طرح بعض اوقات کپڑوں کے لئے بھی وصابون فائدہ مند ہوتے ہیں اور کبھی تجمیر و عرق گلاب اور خوشبو لگانا۔

تسبیح زیادہ مفید ہے یا استغفار؟

کسی عالم دین سے دریافت کیا گیا کہ انسان کے لئے تسبیح زیادہ فائدہ مند ہے یا استغفار زیادہ مفید ہے؟ اس نے جواب دیا کپڑا صاف ستھرا ہو تو عرق گلاب اور بخورات مفید تر ہیں لیکن اگر میلا کچھلا ہو تو گرم پانی اور صابون بہتر ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں بخورات و عرق گلاب اور خوشبو یا تکیا؟ جب کہ کپڑے ہر وقت میل کچیل سے غلیظ اور گندے ہی رہتے ہوں، تو پھر؟ اسی طرح سورہ اخلاص کو لے لیجئے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے اس کے باوجود آیات میراث خلع و طلاق و عدت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ یہی آیات اپنے مناسب موقع و محل اور ضرورت و احتیاج کے لحاظ سے سورہ اخلاص کی تلاوت سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہیں۔

پھر چونکہ نماز قرأت قرآن اور ذکر اور دعائیں چیزوں پر مشتمل اور اجزاء عبودیت کی باکمل وجوہ جامع ہے اور ان تمام قرأت و اذکار اور اجزاء عبودیت کے ساتھ ساتھ مزید براں تمام اعضاء و ارکان کی عبودیت و عبادت کی بھی جامع ہونے کی بنا پر انفرادی انفرادی قرأت قرآن اور ذکر و دعا ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لئے یہ از حد نافع و فائدہ مند اصل ہے جو انسان پر مراتب اعمال کی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور خوبی یہ ہے کہ یہ اصل انسان پر روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے کہ فلاں عمل کا موقع و محل فلاں ہے اور فلاں عمل فلاں وقت میں موزوں ہے تاکہ انسان فاضل کو چھوڑ کر مفضول میں لگ کر شیطان کو نہ خوش کرتا پھرے۔ یا

فاضل میں اتنا منہمک ہو جائے کہ مفضل کو بالکل ہی نظر انداز کرے حالانکہ اس کے لئے وہی وقت موزوں تر ہو اور وہ اسی وہم و گمان میں مفضل کو چھوڑ کر فاضل کے پیچھے پڑ جائے کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے اور اس میں کم اور اس کا خیال تک ترک کر دے۔ بہر صورت یہ چیز مراتب اعمال و مقاصد اعمال کی واقفیت ہر عمل و فعل کو اپنے مناسب موقع محل میں بجالانے کی دانش و فقاہت یا اہم و اولیٰ اور افضل چیز کی تقویت کی واقفیت از حد محتاج ہے تاکہ انسان فوت شدہ کی تلافی کرے اور دوبارہ نقصان نہ کر بیٹھے کیونکہ اگر مفضل کو چھوڑ دے گا تو اس کا تدارک نہیں ہو سکے گا۔ لہذا مفضل کو بجالانا بھی از حد ضروری ہے اس کی مثال یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی شخص آ کر سلام کہے یا چھینک مارے تو قراءت کو ترک کر کے سلام اور چھینک کا جواب دے لے۔ اگرچہ یہ مفضل ہے اور قراءت قرآن فاضل کیونکہ اس میں اسے کوئی دقت نہیں کہ مفضل کو بھی ادا کر لے اور دوبارہ فاضل کو بھی پہلے کی طرح لگاتار کرتا چلا جائے بخلاف اس کے کہ وہ قراءت کرتا رہے اور سلام و چھینک کا جواب دینے کی مصلحت فوت کر بیٹھے اسی طرح باقی اعمال کا حال ہے۔

بخدا بار بار لازم ہے
حمد اس کی ہے کار نیک اپنا

ذکر پروردگارم لازم ہے
ہم ہیں بندے خدا ہے ایک اپنا

جماع و قضائے حاجت کے وقت ذکر کرنا

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ ہر وقت خدا تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور کسی حالت کو مستثنیٰ نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ جنابت و طہارت ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ رہی پیشاب پاخانے کی حالت تو اس وقت آنحضرت کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ واقعہ بتا سکے۔ (یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت دل میں ذکر خدا کی جلوہ گری مراد ہو) البتہ آنجناب نے اپنی امت کو پاخانہ پیشاب سے قبل و بعد کی دعائیں سکھائیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر از حد اہم چیز ہے اور قضاء حاجت سے قبل و بعد بھی انسان کو ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہئے۔ علیٰ ہذا القیاس جماع کے وقت بھی ذکر مشروع فرمایا کہ یوں کہنا چاہئے۔ بسم اللہ اللھم جنبنا الشیطن و جنب الشیطان ما رزقنا بسم اللہ، خدایا! ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے علیحدہ و محفوظ رکھنا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اپنی بیوی سے ارادہ صحبت کے وقت جو شخص مذکورہ دعا پڑھے تو اس سے جو اولاد ملے گی اسے شیطان تکلیف نہیں دیگا۔ اسے بخاری و مسلم، احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا ہے۔

رہی عین قضاء حاجت و جماع کی حالت تو بلاشبہ اس وقت بھی دل میں ذکر الہی مکر وہ نہیں کیونکہ دل کو ذکر الہی کے سوا تو کوئی چارہ کار ہی نہیں اور تمام دنیا سے محبوب ترین خدا کی یاد سے دل پھیر لینا اس کے لئے ناممکن ہے اور وہ اگر دل کو خدا فراموشی کی تکلیف دے تو یہ تکلیف بالحال ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ شعر

وتابى الطباع على الناقل
مگر طبیعت نقل کرنے والے پر انکار کرتی ہے

یراد من القلب نسیانکم لنا
دل سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بھول جائیں گے

البتہ اس خاص حالت میں زبان سے کچھ کہنا نہ آنحضرت ﷺ نے جائز فرمایا ہے، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے منقول ہے اور عبداللہ بن ابی الہذیل فرماتے ہیں۔ کہ پاخانہ پیشاب کے سوا ہر حالت بلکہ کوچہ و بازار میں بھی خدا کا ذکر کرنا خدا تعالیٰ کو محبوب تر ہے۔ رہی قضاء حاجت و جماع کی حالت تو ایسی حالت میں اسے اتنا کافی ہے کہ حیا و مراقبہ اور خوف خدا کو اپنا شعار بنائے اور انعامات و احسانات الہی کو دلنشین رکھے یہی طریقہ اس وقت کا سب سے اعلیٰ ذکر ہے، کیونکہ ہر حالت کے لئے اس کا ذکر اس کے مناسب حال ہوتا ہے اور اس مخصوص حالت کے لائق و مناسب یہی طریقہ ہے کہ انسان خدا کی ہیبت و جلال اور شان و شوکت کا خوف اور اللہ عزوجل سے شرم و حیا کی چادر اوڑھ لے اور اس دشمن جان و موذی چیز (پاخانہ پیشاب) کے اخراج پر جو اندر ہی رُک کر قونج بن جائے تو ہلاکت نفس و وبال جان بن جائے۔ خدا تعالیٰ کے انعام و احسانات کو مت بھولے کیونکہ جس طرح غذا کھانا نعمت ہے اسی طرح اس مادہ فاسد کا خروج و دفعیہ بھی یقیناً خدا کا انعام ہے،

حضرت علی رضی اللہ عنہ قضاء حاجت سے نکلتے وقت شکم پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے یہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کاش لوگوں کو اس کی قدر ہو سلف صالحین میں سے ایک بزرگ یہ کہا کرتے تھے۔

الحمد لله الذي اذقني لذته و ابقى في منفعته و اذهب عني مضرتة .

اللہ عزوجل کا شکر جس نے طعام کھلا کر ذائقہ و لذت سے حظ اندوز فرمایا، اس کے منافع کو بدن میں رکھا اور نقصانات کو رفع کر دیا۔

علیٰ ہذا القیاس حالت جماع میں یہی ذکر کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ نعمت کبھی نہ بھولے کیونکہ دنیوی نعمتوں میں سے یہ نعمت سب سے اعلیٰ ہے، تو جب اپنے نفس پر خدا تعالیٰ کے یہ انعامات و احسانات یاد کرے گا فوراً اس کے دل سے شکر الہی کے جذبات بھڑک اٹھیں گے اور آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، معاذ! خدا کی قسم مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں، چند کلمے سکھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا اور خبردار! ناغمہ مت کرنا، اور بھول نہ جانا، فرمایا پڑھا کرو،

اللهم اعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك (ابو داؤد، نسائی)

خدا یا اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری اعانت و دستگیری فرما۔

اس دعا میں آنحضرت ﷺ نے ذکر و شکر دونوں کو جمع فرمایا جیسا کہ اللہ عزوجل نے آیت: فاذا كروني اذكرکم

واشكروا لي ولا تكفرون (بقرہ ۲-۱۸۷)

تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری مت کرو۔

میں جمع کر دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ذکر اور شکر سعادت اور نیک بختی اور فلاح و نجات کے جامع اور سرچشمہ ہیں۔

اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے	جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے
دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے	منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے	اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور

احادیث مبارکہ

☆ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

ليذكرن الله قوم في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلىٰ .

کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پہ اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں (جنت کے) بلند درجات میں

داخل فرمائے گا (الصحيح لابن حبان ۱۲۳/۲، ۳۹۸، مسند ابو يعلىٰ، ۳۵۹/۲، ۱۱۱۰)

☆ حضرت ام انس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اهجرى المعاصى فانها افضل الهجره وحافظى على الفرائض فانها افضل الجهاد واكثرى

ذكر الله فانك لا تاتين الله بشئى احب اليه من كثرة ذكره .

(اخرجه الطبرانى فى المعجم الاوسط والمعجم الكبير)

گناہوں کو چھوڑ دے یہ سب سے افضل ہجرت ہے، فرائض پر کارباند ہو جا یہ افضل جہاد ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کر کیونکہ تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کو عمل نہیں لاسکتی۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

من عجز منكم عن الليل ان يكابده وبخل بالمال ان ينفقه وجبن عن العدو ان يجاهد فليكثر

ذكر الله . (اخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير)

تم میں سے جو کوئی پوری رات (عبادت کی) مشقت سے عاجز رہے دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے، دشمن کے

خلاف جہاد میں بزدل ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے۔

☆ حضرت ابو الحارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: معراج کی رات میں ایک بندے کے پاس سے گذرا

جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے کیا یہ کوئی فرشتہ یا نبی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟

جواب ملا

هذا رجل كفى الدنيا لسانه وطبا من ذكر الله وقلبه معلقا بالمساجد ولم يستسب لو الدية قط .

یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مساجد میں معلق رہتا تھا اور اس نے کبھی

اپنے والدین کو گالی نہیں دی (الترغيب والترهيب، ۲/۲۲۹۲، ۲۲۹۳)

☆ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

مثل الذى يذکر ربه والذى لا يذکر ربه مثل الحى والميت

اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے (بخاری ۵: ۲۳۵۳، رقم ۶۰۳۳)

☆ مسلم شریف کی روایت میں ہے

مثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر فيه مثل الحى والميت
 اس گھر کی مثال جس میں ذکر خدا کیا جاتا ہے اور جس میں نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی سی ہے (۱: ۵۳۹، رقم ۷۷۹)
 درو دل مجھ کو عطا کر یا رب
 لاج رکھ لے گناہوں کی
 تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں
 دے کے لیتے نہیں کریم کبھی
 مجھے ایسے عمل کی دے توفیق
 دے مرے درد کی دوا یا رب
 نامِ رحمن ہے ترا یا رب
 دامنِ مصطفیٰ دیا یا رب
 جو دیا جس کو دے دیا یا رب
 کہ ہو راضی تیری رضا یا رب

نماز کی انتظار میں بیٹھنے والے

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول
 الله قبل ان يثوب العشاء فقال ابشروا ابشروا هذا ربكم تبارك وتعالى قد فتح بابا من ابواب
 السماء بياهى بكم الملائكة يقول انظروا الى عبادى قضا فريضة وهم ينتظرون اخرى .

(المسند بزار حديث نمبر ۳۳۶۵)

کہ ایک رات ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، جسے جانا تھا وہ چلا گیا اور جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا۔ پھر رسول
 اللہ ﷺ وقتِ عشاء سے پہلے تشریف لائے اور فرمایا: خوش ہو جاؤ! خوش ہو جاؤ! یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے دروازوں
 میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو! یہ میرے بندے ہیں جنہوں
 نے ایک فریضہ مکمل کر لیا ہے اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔

☆ عن ابى ايوب: ان نوبا وعبد الله بن عمرو يعنى ابن العاص اجتمعا فقال نوب: لو ان
 السماوات والارض وما فيها وضع فى كفة الميزان ووضع لا اله الا الله فى الكفة الاخرى
 لرجحت بهن ولو ان السماوات والارض وما فيهن كن طبقا من حديد فقال رجل لا اله الا الله
 لخرقتهن حتى تنتهى الى الله عز وجل فقال عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه
 وسلم المغرب فعقب من عقب ورجع من رجع فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كاد يحسر ثيابه
 عن ركبته فقال ابشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء بياهى بكم
 الملائكة يقول هولاء عبادى قضا فريضة وهم ينتظرون اخرى .

(مسند احمد بن حنبل ۲: ۱۸۶، حديث ۶۷۵۰)

”حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوب اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اکٹھے ہوئے، حضرت

نوف نے کہا: اگر آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا ان سب سے بھاری ہو جائے گا اور اگر آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب لوہے کے طبق ہوتے اور بندہ لا الہ الا اللہ کہتا تو یہ ان سب کو پھاڑ کر اللہ تک پہنچ جاتا اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی پس جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ پھر حضور ﷺ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ ﷺ کے دونوں گھنٹوں کا کپڑا ذرا اونچا تھا۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا اب مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جائے، یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے ایک فریضہ مکمل کر لیا ہے اور دوسرے کی انتظار میں ہیں۔“

اس بُرے کو بھی کر بھلا یا رب
بات بگڑی ہوئی بنا یا رب
شاد رکھ شاد داما یا رب
یہ نکما ہو کام کا یا رب
ہو مع الخیر خاتمہ یا رب

ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ
میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات
مجھے دونوں جہاں کے غم سے بچا
اس نکمے سے کام لے ایسے
کر دے فضل و نعم سے مالا مال

(مولانا حسن رضا خان بریلوی)

اے فرشتو! دیکھو میرے بندوں کی طرف

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السماء فیقول لہم انظروا الی عبادی جاء ونی شعنا غیرا۔ (صحیح ابن خزیمہ، ۴: ۲۶۳، رقم، ۲۸۳۹)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے سامنے عرفات میں جمع ہونے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھو کہ وہ میرے پاس پراگندہ اور غبار آلود بالوں کے ساتھ (یعنی عاشقانہ اور مجنونانہ روپ میں) آئے ہیں۔“

☆ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا کان یوم عرفة ان اللہ ینزل الی السماء فیباہی بہم الملائکۃ فیقول انظروا الی عبادی اتونی شعنا غیرا ضاحین من کل فج عمیق اشہد کم انی قد غفرت لہم فتقول لہ الملائکۃ ای رب فیہم فلان یزہو وفلان وفلان قال یقول اللہ قد غفرت لہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفة۔ (ایضاً..... رقم، ۲۸۳۰)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا

ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے: میرے ان بندوں کو ذرا دیکھو کہ میری طرف پراگندہ حال اور غبار آلود بال لئے ہوئے صبح کے وقت مختلف گہری گھاٹیوں سے آئی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں: باری تعالیٰ! ان میں تو فلاں فلاں متکبر شخص بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اسے بھی (ان عاشقوں کے صدقے میں) بخش دیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس دن اتنے زیادہ لوگ آگ سے آزاد کئے جاتے ہوں۔“

ترا نور ہی جلوہ گر گو بہ گو ہے ہر اک شے سے ظاہر تو ہی ہو ہو ہے
گل و یاسمن میں سمن نسترن میں گل خشک وتر میں تری ہی تو ہو ہے
ہے نکبت سے تیری معطر دو عالم مہک تیری پھیلی ہوئی سو سو ہے
بہت کچھ ترانے سنے ہر طرح کے جو دیکھا تو تیری ہی جستجو ہے
حجاب تمنا اٹھا جب کہ دل سے جدھر ہم نے دیکھا ادھر تو ہی تو ہے
نہ اک محو دیدار دیدار ہی ہے ہر اک جا میں مولیٰ تری گفتگو ہے

سید دیدار علی شاہ

سونا چاندی صدقہ کرنے سے ذکرِ خدا افضل ہے

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے پوچھا

الا انکم بخیر اعمالکم و از کاہا عند ملیکم و ارفعھا فی درجاتکم و خیر لکم من انفاق الذهب و الورق و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضر بوا اعناقکم و یضر بوا اعناقکم کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کے مقابلہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اس حال میں کہ تم دشمن کو قتل کر دو یا وہ تمہیں۔

قالوا بلی قال ذکر اللہ۔ عرض کی، حضور ہمیں ضرور بتائیں۔ فرمایا وہ عمل ذکرِ خدا ہے (مسند احمد بن حنبل، ۵: ۱۹۵، رقم: ۲۱۷۵)

☆ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

ان الذکر فی سبیل اللہ یضعف فوق النفقة بسبع مائة ضعف (مسند احمد بن حنبل، ۳: ۴۳۸)

بے شک ذکرِ الہی انفاق فی سبیل اللہ پہ سات سو گناہ فضیلت رکھتا ہے

انہی سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

ان الصلوة والصیام والذکر یضاعف علی النفقة فی سبیل اللہ بسع مائة ضعف

(المستدرک للحاکم، ۲: ۸۸، رقم: ۲۴۱۵)

بے شک نماز اور روزے اور اللہ کے ذکر کا اجر انفاق فی سبیل اللہ پہ سات سو گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

☆ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

لو ان رجلا فی حجرہ دراهم یقسمہا واخر یدکر اللہ کان الذاکر للہ افضل

(المعجم الاوسط للطبرانی ۶: ۱۱۶، ۵۹۶۹)

ایک آدمی دامن بھر کر درہاہم تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر خدا میں مصروف ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

کیونکہ الذکر خیر من الصدقہ۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (المسند الفردوس

للدیلمی، ۳: ۲۱۴، ۴۶۱۶) ذکر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔

ہر طرح کی تجھے ثنا یا رب! خد بے حد و بے ریا یا رب!
 سب جہانوں کا پالنے والا کون ہے کون تجھ سوا یا رب!
 تُو ہی رحمان ہے رحیم ہے تُو کوئی ثانی نہیں تیرا یا رب!
 تُو ہی مالک جزا کے دن کا ہے ہے ترے ہاتھ فیصلہ یا رب!
 ہم کو توفیق دے عبادت کی پوجیں ہم تجھ کو ہی سدا یا رب!
 مانگیں ہم تجھ سے ہی مدد ہر دم اور چاہیں تری رضا یا رب!

اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کا جلیس ہوتا ہے

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ای رب اقرب انت فانا جیک ام بعید فانا

دیک، اے اللہ! تو قریب ہے تاکہ میں تجھ سے سرگوشی کروں یا دور ہے کہ تجھے پکاروں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یا موسیٰ انا

جلیس من ذکرنی۔ اے موسیٰ! میں اپنا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں (المصنف لابن ابی شیبہ، ۱: ۱۰۸، ۱۲۲۳،

الجامع الصغیر للسیوطی ۱: ۳۰۴، مسند احمد، الزهد، ۱: ۵۷، ۱۱۱، بیہقی فی شعب الایمان ۶۸۰)

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں فرمایا میں تیرے پیچھے ہوں، آگے ہوں دائیں ہوں بائیں

ہوں اے موسیٰ میں اپنے بندے کا ہم نشین ہوں جب وہ مجھے یاد کرے وانا معہ اذا دعانی اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب

وہ مجھے پکارتا ہے۔ (الفردوس بمائورا الخطاب للدیلمی، ۳: ۱۹۲، ۴۵۳۳)

سیدھے رستے پہ تو چلا ہم کو دل پہ قبضہ ہو بس ترا یا رب!
 اُن کے رستے پہ جو ہیں خاص ترے جن پہ انعام ہے ترا یا رب!
 یعنی کل انبیاء وصدیقین اور شہیدوں کا راستہ یا رب!
 اور تیرے جو نیک بندے ہیں اُن کے رستے پہ تُو چلا یا رب!
 غیر اُن کے جو ہیں غضب میں ترے راہ سے اُن کی لے بچا یا رب!

اور جتنے ہیں راہ سے بھٹکے ہوئے ہم کو اُن سب سے رکھ جُرا یا رب!
ایسا ہی کر الہی! ایسا ہی کر لے مقبول التجا یا رب!

ذکر کرنے والوں کی دعا کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کچھ گھومنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ فاذا دعا القوم امنوا علی دعائهم۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ فاذا صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا معہم۔ جب وہ حضور علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر بعض فرشتے بعض کو کہتے ہیں طوبیٰ لہم لا یرجعون الا مغفور الہم۔ انہیں مبارک ہو یہ تو سارے ہی بخشنے گئے۔ (کنز العمال، ۱: ۴۳۴، رقم ۱۸۷۶)

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس قدر جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ یبلغوا العرش۔ تہہ در تہہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔

(مسند احمد، ۲: ۴۵۸، ۴۵۹)

جس حدیث میں مجالس ذکر کو ریاض الجنۃ یعنی جنت کی کھیتیاں قرار دیا گیا اس میں یہ الفاظ بھی ایک روایت کے اندر ملتے ہیں کہ فرشتے ان مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں لہذا تم دن رات اللہ کا ذکر کرو، جو شخص اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے اس کا کس قدر مرتبہ ہے فان اللہ ینزل العبد منہ حیث انزلہ من نفسہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ہاں اس مقام پہ رکھتا ہے جہاں بندہ اسے اپنے ہاں رکھتا ہے۔ (المستدرک للحاکم، ۱: ۶۷۱، ۲۷۲، رقم ۱۸۲۰) یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

جن احادیث میں جمعہ کے دن فرشتوں کی آمد کا تذکرہ ہے ان میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب امام (خطبہ و نماز کے لئے) نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سنتے ہیں۔ فاذا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر (بخاری، ۱: ۳۰۱، ۸۴۱)

☆ جن کا دیکھنا ذکر الہی کا باعث ہو جائے انہیں بہترین لوگ قرار دیا خیار کم الذین اذراوا ذکر اللہ

(ابن ماجہ ۲، ۱۳۷۹، رقم ۴۱۰۹۔ مسند احمد، ۶: ۴۵۹، رقم ۲۷۲۰)

ایک روایت میں ہے ان من الناس مفاتیح لذكر الله اذا رؤوا ذکر اللہ۔ بعض لوگ ذکر خدا کی چابیاں ہیں کہ جنہیں محض دیکھنا ہی ذکر الہی کا باعث ہے۔ (المعجم الكبير للطبرانی، ۱۰: ۲۰۵، رقم ۱۰۴۷۶) انہی لوگوں کو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے اولیاء اللہ قرار دیا (مجمع الزوائد، ۱۰: ۷۸) سنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ فقال الذین اذراوا ذکر اللہ۔ عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ۔

اولیاء اللہ کے بارے میں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔

المدد اے خدا، سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے

رہزن دین بننے لگے رہنما، حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے

آہ کشمیر، قبرص، فلسطین میں، یا اری ثیریا، روس اور چین میں حق کی خاطر مسلمان کھولیں زباں، جسم خطرے میں ہے جان خطرے میں ہے عہد انگریز کی سب سے لعنت بڑی، تھا جو وکٹوریہ نے بنایا نبی اُس کے اب پیروکار اس قدر ہو گئے، جس سے نظم گلستان خطرے میں ہے ناچ گانے غضب آج محبوب ہیں، آہ اُم الخبائث کے مشروب ہیں ہو رہی ہیں امیروں میں خرمستیاں، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے رہزنوں کا ہوا گرم بازار ہے، رہنماؤں سے اب قوم بیزار ہے غیرت دین وایمان کا بیوپار ہے، آج سچا مسلمان خطرے میں ہے

ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہو سکتا

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعبد اللہ بن رواحہ الانصاری، وهو یذکر اصحابہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اما انکم الملا الذین امرنی اللہ ان اصبر نفسی معکم ثم تلا هذه الآیة: (واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی) الی قوله: (وکان امره فرطاً) اما انه ما جلس عدتکم الا جلس معهم عدتہم من الملائکة، ان سبحوا اللہ سبحوه، وان حمدوا اللہ حمدوه، وان کبروا اللہ کبروه، ثم یصعدون الی الرب، وهو اعلم منهم، فیقولون: یا ربنا عبادک سبحوک فسبحنا، وکبروک فکبرنا، وحمدوک فحمدنا، فیقول ربنا: یا ملائکتی! اشهدکم انی قد غفرت لهم۔ فیقولون: فیہم فلان وفلان الخطاء، فیقول: ہم القوم لا یشقی علی جلسہم۔

”حضرت (عبداللہ) بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آگاہ رہو کہ تم وہ جماعت ہو جس کے ساتھ مجھے ٹھہرے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے آیت مبارکہ ”اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں“ سے لے کر ”اور اُس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔“ تک تلاوت فرمائی۔ (پھر فرمایا:) تم میں سے جتنی تعداد میں لوگ (اجتماعی ذکر کے لئے) بیٹھتے ہیں اتنی ہی تعداد میں فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں تو یہ بھی ان ہی کی طرح تسبیح کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں تو یہ بھی اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں تو یہ بھی اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنے بندوں کے احوال کو زیادہ جانتا ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تیرے بندوں نے تیری تسبیح بیان کی تو ہم

نے بھی تیری تسبیح بیان کی، انہوں نے تیری کبریائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری کبریائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ان میں فلاں فلاں خطا کار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم مجلسِ بد بخت نہیں رہ سکتا (اس لئے تم گواہ رہو کہ میں نے ان گنہگاروں کو بھی بخش دیا ہے)۔“

(طبرانی، المعجم الصغیر، ۲: ۲۲۷، ۲۲۸، رقم: ۱۰۷۴۔ ضعی، کتاب الدعاء: ۲۸۳، رقم: ۱۰۴۔ ابونعیم، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء ۵: ۱۱۸۔ ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء (۵: ۱۱۷، ۱۱۸) میں انبی القاطن کے ساتھ عمر بن ذر سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ منذری نے ”الترغیب والترہیب“ (۲: ۲۶۰، ۲۶۱، رقم: ۲۳۲۳) میں کہا ہے کہ اسے طبرانی نے ”المعجم الصغیر“ میں بیان کیا ہے۔ بیہقی، مجمع الزوائد، ۱۰: ۷۶۔ سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالماثورہ ۵: ۲۸۱، ۲۸۲۔ ابن عساکر، تاریخ دمشق الکبیر۔ ۲۸: ۸۸)

کیسے تفسیر و تفہیم کے نام سے، کیسے فکر و تدبیر نما دام سے یوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے، جن سے مفہوم قرآن خطرے میں ہے مصطفیٰ کے فرامین و ردِ زباں، مصطفیٰ کی انہیں سے کریں کسرِ شاں کس غضب کی ہیں یہ شوخیاں الاماں، تیرے پیارے کا فرمان خطرے میں ہے اہل اسلام کو منتشر کر دیا، اب تو ہر فرد ہے ایک فقہ جدا دشمنانِ نبی بن گئے اولیاء، آج بچوں کی پہچان خطرے میں ہے ہم نے مانا کہ بے شک خطا کار ہیں، مالکِ دو جہاں! ہم گنہگار ہیں امتی ہیں مگر تیرے محبوب کے، اُمت شاہِ ذیشان خطرے میں ہے بہر شاہِ اُمم ہو نگاہِ کرم، پھر ترقی کرے قوم یہ دم بدم شانِ دشوکت سے اختر بھی چمکے ترا، ذوالمنن! وہ پریشان خطرے میں ہے

ذاکرین کو قیامت کے دن رحمن کی دائیں جانب جگہ ملے گی

عن عمرو بن عبسۃ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: عن یمین الرحمن وکلنا یدئہ یمین رجال لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یغشی بیاض وجوہہم نظر الناظرین، یغبطہم النبیون والشہداء بمقعدہم وقربہم من اللہ عزوجل، قیل: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلک وسلم! من ہم؟ قال: ہم جماع من نوازع القبائل، یجتمعون علی ذکر اللہ، فینتقون اطایب الکلام کما ینتقی اکل التمر الطایبہ۔

”حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: رحمن کی دائیں طرف حالانکہ اس کے دونوں اطراف ہاتھ دائیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید۔ ان کے چہروں کا نور

سب لوگوں کی آنکھوں کو چندھیار ہا ہوگا، ان کی مسندوں اور اللہ عزوجل سے ان کے قرب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلک وسلم! یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ مختلف قبیلوں سے آ کر اکٹھے ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مجالس میں جمع ہوا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر کے لئے خوبصورت الفاظ کا اس طرح انتخاب کرتے تھے جیسے کھجوریں کھانے والا اچھی اچھی کھجوروں کا انتخاب کرتا ہے۔“ (بخاری نے مجمع الزوائد (۱۰: ۷۷) میں کہا ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ منذری نے ”الترغیب والترہیب“ (۲: ۲۶۱، رقم: ۲۳۲۶) میں کہا ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ہندی نے ”کنز العمال“ (۱۰: ۲۳۸، رقم: ۲۹۳۲۶) میں کہا ہے کہ اسے طبرانی نے عمرو بن عبسہ سے روایت کیا ہے۔ سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، (۱: ۳۶۸)

☆ عن ابن سابط، قال: انبت ان عن یمن الرحمن، وکلتا یدیه یمین، قوم علی منابر من نور، وجوہہم نور، علیہم ثیاب خضر تغشی ابصار الناظرین، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، قوم تحابوا فی جلال اللہ حین عصی اللہ فی الارض۔

”ابن سابط روایت کرتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ (خدائے) رحمن کے دائیں ہاتھ حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، کچھ لوگ نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ سبز لباس زیب تن کئے ہوئے ہوں گے، وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چندھیادیں گے، وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء بلکہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اُس وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی جب زمین پر اس کی نافرمانی ہو رہی تھی۔“ (ابن ابی شیبہ، المصنف، ۷: ۳۵، رقم: ۳۳۰۹۵۔ ابن مبارک، الزہد، ۱: ۵۲۲، رقم: ۱۳۸۳۔ ہناد، الزہد، ۱: ۲۷۲، رقم: ۲۷۴)

دُعاؤں میں اثر دے یا الہی	مرادیں پوری کر دے یا الہی
دلوں کو سیر کر دے یا الہی	محبت اپنی بھر دے یا الہی
گرفتار مصیبت ہیں مسلمان	انہیں آزاد کر دے یا الہی
تصدق میں محمد مصطفیٰ کے	عنایت ہم پہ کر دے یا الہی
پے صدیق اکبر رحم فرما	دلوں میں نور بھر دے یا الہی
مٹا دے رنج و غم صدقہ عمر کا	منور قلب کر دے یا الہی
پے عثمان، بھرن رحمت کی برسا	جہاں سر سبز کر دے یا الہی
بڑھا دے قوتیں حیدر کا صدقہ	وہ دل دے وہ جگر دے یا الہی
طفیل غوث اعظم، قطب عالم	نگاہ مہر کر دے یا الہی
معین الدین اجمیری کا صدقہ	مصیبت دور کر دے یا الہی
نظام الدین والملت کا صدقہ	انہیں کا مست کر دے یا الہی

بروز قیامت ذاکرین کے چہرے پُر نور ہوں گے

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پُر نور ہوں گے اور وہ موتیوں کے منبروں پہ جلوہ گر ہوں گے لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء، حضرت ابو درداء کہتے ہیں (یہ بات سُن کر) ایک اعرابی اپنے گھٹنے کے بل کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! ان لوگوں کا حلیہ ہمارے سامنے بیان فرمائیے۔ تاکہ ہم انہیں معلوم کر لیں، آپ نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شیء و بلا دشتی یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ۔ یہ وہ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر اللہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ (مجمع الزوائد ۱۰: ۷۱۷)، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: وہ کون ہیں؟ تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ فرمایا: وہ ایسے بندے ہیں جو آپس میں بغیر کسی قرابت داری اور رشتہ کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کے چہرے پُر نور ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ انہیں اس وقت کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا جب لوگ غمزدہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”خبردار! بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔“ (ابن حبان ۲: ۳۳۲، ۳۳۳، ۵۷۲)

پھنسی ہے بحر غم میں اپنی کشتی	یہ بیڑا پار کر دے یا الہی
مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں	انہیں بیدار کر دے یا الہی
غریبوں کو عطا کر مال و دولت	غنی منگتا کو کر دے یا الہی
جو در در مارے مارے پھر رہے ہیں	انہیں رہنے کو گھر دے یا الہی
در دولت پہ کچھ بھوکے پڑے ہیں	اب اُن کے پیٹ بھر دے یا الہی
جو کوسوں دور اپنوں سے پڑے ہیں	تو واپس اُن کو کر دے یا الہی
فرائض سے جو غافل ہیں مسلمان	نمازی اُن کو کر دے یا الہی
اڑالے جائیں جو طیبہ میں یا رب	مجھے وہ بال و پر دے یا الہی
کریا! سُن مناجات منور	اسے مقبول کر دے یا الہی

انبیاء جن پہ رشک کریں گے

سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے دلوں کو پاک اور منور کیا ستاروں کو روشنی دی، ہواؤں کو مسخر کیا، بادلوں کو پھیلا یا، پھر ان کو برسادیا، باغات میں بارش بھیج کر درختوں کو زندگی بخشی، پھلوں کو پیدا کیا۔ اس نے عبادات، کے دنوں کو دیگر تمام اوقات پر فضیلت دی، خیرات و برکات کے حصول کو آسان فرمادیا اور ماہِ رمضان کے تمام مہینوں پر شرف بخشا اور اس کی راتوں کو

فضیلت عطا فرمائی اور اس مہینے کو شبِ قدر کے ذریعے ممتاز فرما دیا جو ہزار مہینوں (یعنی تراسی سال اور چارہ ماہ) سے بہتر ہے۔

☆ عن عمر الخطاب رضی اللہ عنہ قال : قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : ان من عباد اللہ لا ناسا ما ہم بانبياء ولا شهداء بغبطہم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانہم من اللہ، قالوا : يا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلک وسلم! تخبرنا من ہم ؟ قال : ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، ولا اموال يتعاطونها، فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، لا يخافون اذا خاف الناس، ولا يحزنون اذا حزن الناس۔ وقرأ هذه الآية: (الا ان اولياء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم يحزنون) (سنن ابی داؤد، ۳: ۲۸۸، ۳۵۲۷)

”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء۔ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے اللہ کی طرف سے ملنے والے مقام پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں نہ کہ رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم! ان کی چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوفزدہ ہوں گے۔ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔“

عقبے کی مسرت دے نہ دولت دنیا دے اس بے کس و بے حسن کو اعجازِ میجادے

شورش کے زمانے میں اک جوش سراپا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے

جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے

ظلمت کے مکینوں کو فانوس تجلا دے تنویر کے جویا کو پھر نور کی دنیا دے

پھر کور بصیرت کو تو شوق تماشا دے محروم تماشا کو تو دیدہ بینا دے

دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے

ہر عشق کے روگی کو ہر طالب درماں کو ہر بیکس و غمگین کو ہر دیدہ گریاں کو

ہر سوختہ قسمت کو ہر بے سرو ساماں کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو

وہ داغِ محبت دے جو چاند کو شرما دے

ذلت سے چھڑا ہم کو عزت کو دوبالا کر پستی میں پڑے ہیں ہم اب ہمیں اونچا کر

اس دور مصائب میں اب ہم کو نہ رسوا کر رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر

خود داری، ساحل دے آزادی دریا دے

ہر ایک سے آپس میں اندازِ اخوت ہو نفرت نہ کبھی آئے پیدا نہ عداوت ہو
پھر دل کی لطافت میں پیدا نہ کدورت ہو بے لوث محبت دے بیباک صداقت دے
سینوں میں اُجالا کر دل صورتِ مینا دے
خالی ہے محبت سے سینہ گل خنداں کا یہ درد مرا یارب محتاج ہے درماں کا
کوئی بھی نہیں پُرساں اب حال پریشان کا میں بلبلِ نالاں ہوں اس اُجڑے گلستان کا
تاثر کا ساک ہوں محتاج کو داتا دے

(تضمین بر مناجات اقبال از مولانا شفیق القادری)

نہ انہیں خوف ہو گا نہ غم

عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال: کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فنزلت
ہذہ الآیۃ: (لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم) قال: فنحن نسالہ اذ قال: ان اللہ عبادا لیسوا
بانبیاء ولا شہداء یغبطہم النبیون والشہداء بقربہم ومقعدہم من اللہ عزوجل یوم القیامۃ۔ قال:
وفی ناحیۃ القوم اعرابی، فقام فجثا علی رکتہ ورمی بیدیہ، ثم قال: حدثنا یا رسول اللہ عنہم
من ہم؟ قال: فرایت وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتشر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم:
عباد من عباد اللہ من بلدان شتی وقبائل من شعوب ارحام القبائل لم یکن بینہم ارحام یتواصلون
بہا للہ لا دنیا، یتبادلون بہا یتحابون بروح اللہ عزوجل، یجعل اللہ وجوہہم نورا، یجعل لہم
منابر من لؤلؤ قدام الرحمن تعالیٰ، یفزع الناس ولا یفزعون ویخاف الناس ولا یخافون۔

(طبرانی، المعجم الکبیر، ۳: ۲۹۰، رقم: ۳۳۳۳۔ احمد بن حنبل نے "المسند" (۳۳۳: ۵) میں طویل حدیث روایت کی ہے۔ احمد بن حنبل نے "المسند" (۳۳۱: ۵) میں یہ حدیث مختصر بیان کی ہے۔ احمد بن حنبل کی بیان کردہ طویل روایت بیہمی نے "مجمع الزوائد" (۲۷: ۱۰) میں نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ طبرانی نے بھی اس جیسی حدیث روایت کی ہے۔ بیہمی نے اس حدیث کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے۔ بیہمی نے ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت "مجمع الزوائد" (۲۷: ۱۰) میں نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ ابن مبارک، الزہد: ۲۳۸۔ معمر بن راشد، الجامع، ۱۱: ۲۰۲، ۲۰۱: ۱۱۔ حارث المسند، ۲: ۹۹۳، رقم: ۱۱۰۹۔ حکیم ترمذی، نوادر الاصول فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ۴: ۸۲۔ بیہمی، شعب الایمان، ۶: ۲۸۷، ۲۸۸، رقم: ۹۰۰۱۔ منذری، الترغیب والترہیب، ۴: ۱۳، رقم: ۲۵۸۵)

”حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء لیکن انبیاء اور شہداء روزِ قیامت ان کے اللہ تعالیٰ سے قرب اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام پر رشک کریں گے۔ لوگوں کے ایک طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اپنے دونوں ہاتھ مارے اور کہا: یا رسول اللہ! ہمیں ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کا چہرہ خوسی سے کھل اٹھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے وہ بندے ہیں جو مختلف علاقوں، مختلف قبائل اور مختلف خاندانوں سے ہیں جن کے درمیان کوئی خونی رشتہ داریاں بھی نہیں مگر وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ملتے ہیں، صرف اللہ کے

لئے دنیا کے لئے نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ وہ صرف اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے چہروں کو منور کر دے گا، ان کے لئے خدائے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر بچھائے جائیں گے۔ اس دن لوگ خوفزدہ ہوں گے لیکن انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور لوگ غمگین ہوں گے مگر انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔

وہ اُمت جس کو خود خیر الامم تُو نے بنایا ہے یقیناً ہے ترے خیر البشر محبوب کی اُمت یہ اُمت آہ یہ اُمت جہاں بھر میں پریشاں ہے تری شانِ کریمی سے کنارہ کر لیا جب سے ترے محبوب کی اُمت زمانہ بھر میں رُسا ہے مسلمان دور بابِ مصطفیٰ سے ہوتے جاتے ہیں قلوب اہل ایماں پھیر دے تقلیدِ مغرب سے ہدایت نیک دے اللہ ان ایماں فروشوں کو الہی! غیرتِ اسلام کو مسلم میں قائم رکھ

وہ اُمت جس کا رتبہ تُو نے دنیا سے بڑھایا ہے اسے خود اتم الاعلون کہہ کر تُو نے دی عزت جفائے دشمنانِ حق سے وقف یاں حرمان ہے مسلمانوں کی نظریں پھر گئیں کچھ دین و مذہب سے ہے غافل دینِ حق سے مغربی فیشن پہ شیدا ہے زخود محروم تیری ہر عطا سے ہوتے جاتے ہیں الہی کر عطا مسلم کو رغبت اپنے مذہب سے بنا سچا مسلمان خود نما گیسو بدوشوں کو جہاں میں شوکت و شانِ مسلمانی کو دائم رکھ

نور کے منبروں پہ جلوہ گری

عن ابی مسلم الخولانی، قال: قلت لمعاذ بن جبل: واللہ! انی لا حبك لغير دنیا ارجو ان اصیہامك، ولا قرابة بینی وبينك، قال: فلا ی شنی؟ قلت: اللہ۔ قال: فاجذب حیوتی، ثم قال: ابشر ان كنت صادقاً، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظله، یغطهم بمکانہم النبیون والشهداء۔ ثم قال: فخرجت فاتیت عبادة بن الصامت، فحدثته بحديث معاذ، فقال عبادة بن الصامت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول عن ربه تبارک وتعالی: حقت محبتی علی المتحابین فی، وحقت محبتی علی المتناصحین فی، وحقت محبتی علی المتزاورین فی، وحقت محبتی علی المتبازلین فی، وهم علی منابر من نور، یغطهم النبیون والصدیقون بمکانہم۔

(ابن حبان، الصحیح، ۲: ۳۳۸، رقم: ۵۷۷۔ احمد بن حنبل، المسند، ۵: ۲۳۹۔ ابن ابی شیبہ، المعجم، ۷: ۳۵، رقم: ۳۳۱۰۰۔ قرشی، الاخوان: ۵۱، رقم: ۹۔ ابونعیم،

حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ۵: ۱۲۳۔ مقدسی نے "الاحادیث الخارہ" (۸: ۳۱۲، رقم: ۳۷۵) میں اس حدیث کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عبد البر، التہذیب،

۱۳۱: ۲۱۔ منذری نے "الترغیب والترہیب" (۳: ۱۱، رقم: ۳۷۷۵) میں کہا ہے کہ اسے ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ بیہقی، موارد اللغمان: ۶۲۲،

رقم: ۲۵۱۰۔ بیہقی، مجمع الزوائد، ۱۰: ۲۷۸، ۲۷۹۔ منادی، فیض القدر، ۳: ۳۹۳۔ معالی، جواہر الحسان فی تفسیر القرآن، ۴: ۱۳۳)

"ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا: خدا کی قسم! میں بغیر کسی

دنیاوی مقصد کے آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت رکھیں، میرے اور آپ کے درمیان کوئی قرابت داری نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر کیوں؟ میں نے جواب دیا اللہ کے لئے، پس انہوں نے میرا کپڑا کھینچا: پھر کہا: میں خوشخبری سنا تا ہوں کہ اگر تم سچے ہو تو بے شک میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ کے لئے آپس میں محبت کرنے والے اس دن یعنی روزِ قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان کے اس مرتبہ پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔ پھر کہا میں وہاں سے نکلا اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ہاں آیا اور ان سے معاذ والی گفتگو بیان کی۔ پس عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا: میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں پر میری محبت واجب ہوگئی اور میرے لئے آپس میں ایک دوسرے سے نصیحت پکڑنے والوں پر میری محبت لازم ہوگئی اور میرے لئے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں پر میری محبت لازم ہوگئی اور میرے لئے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر میری محبت لازم ہوگئی اور وہ (جن کے لئے اللہ کی محبت لازم ہوگئی) نور کے منبروں پر ہوں گے انبیاء و صدیقین ان کے درجات پر رشک کریں گے۔“ (ابن حبان، الصحیح ۱۰۱: ۱۳۶، رقم: ۶۲۱۷۔ بیہقی، موارد الظمآن: ۵۰، رقم: ۸۶)

دے مرے درد کی دوا یا رب	دردِ دل کر مجھے عطا یا رب
نامِ رحمن ہے ترا یا رب	لاج رکھ لے گناہگاروں کی
نامِ ستار ہے ترا یا رب	عیب میرے نہ کھول محشر میں
نامِ غفار ہے ترا یا رب	بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل
میرے دل کو بھی کر عطا یا رب	زخمِ گہرا سا تیغِ الفت کا
یوں گما اس طرح ملا یا رب	یوں گموں میں کہ تجھ سے مل جاؤں
میرے دل سے مجھے بھلا یا رب	بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی
یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب	خاک کر اپنے آستانے کی
مجھ سے ایسا مجھے چھپا یا رب	میری آنکھیں میرے لئے ترسین
تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب	دشمنوں کے لئے ہدایت کی
ہو مع الخیر خاتمہ یا رب	تو حسن کو اٹھا حسن کر کے

(ذوقِ نعت: مولانا حسن رضا خان)

اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے

یا رب ای عبادك احب اليك؟ اے اللہ تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذی یدکرنی ولا ینسانی۔ وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں۔ (بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۲۵۱، رقم ۶۸۱)

ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کیا ای عبادك اغنی؟ اے اللہ تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الراضی بما اعطیتہ۔ وہ جو میری عطا پر راضی ہو گیا۔ عرض کی ای عبادك احکم؟ تیرا کون سا بندہ بہتر فیصلہ کر نیوالا ہے؟ فرمایا الذی یحکم علی نفسه بما یحکم علی الناس۔ وہ جو اپنے لئے وہی فیصلہ کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لئے کرتا ہے۔ (ایضاً، ۷: ۲۹۱، رقم ۱۰۳۳۸، مصنف ابن ابی شیبہ، ۷: ۷۲، رقم ۳۳۲۸۶)

عرض کی: فای عبادك اعدل؟ تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا: من ادا ان نفسه من نفسه جو خود اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے۔ (ہناد، الزهد، ۱: ۷۷، رقم ۲۸۹)

عرض کی: ای عبادك اعلم؟ تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ فرمایا: عالم لا یشبع من العلم۔ جو علم سے کبھی سیر نہ ہو۔ پھر فرمایا: الذی یجمع علم الناس الی علمہ۔ جو اپنے علم میں لوگوں کا علم جمع کرے۔

عرض کیا: فای عبادك اعز؟ تیرے بندوں میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟

فرمایا: الذی اذا قدر غفر۔ جو غالب آ کر معاف کر دے (الفردوس بما ثور الخطاب للذہبی، ۲: ۳۱۳، رقم ۳۳۱۹)

عرض کی: فای خلیقك اعظم ذنباً؟ تیری مخلوق میں سے بڑا گناہ گار کون ہے؟

فرمایا الذی یتھمنی۔ جو مجھ پر تہمت لگانا ہے۔

عرض کی: وهل یتھمك احد؟ بھلا کوئی تجھ پر بھی تہمت لگا سکتا ہے،

فرمایا الذی یتخیرنی ثم لا یرضی بقضائی۔ وہ جو مجھ سے خیر کا طالب ہو کر میرے فیصلے پر راضی نہ ہو۔

(بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۲۵۱، رقم ۶۸۲)

جہانوں کا مالک ہے تو یا الہی	ہے ارض و سما میں تیر بادشاہی
جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے	ہر اک شے سے ملتی ہے تیری گواہی
تری حمد کرتے ہیں دنیا میں سارے	ملک جن و انس اور سب مرغ و ماہی
تو خالق تو مالک تو رازق ہے سب کا	تو ستار و غفار ہے یا الہی
تیری قدرتوں کے انوکھے نشان ہیں	یہ دن کی تجلی یہ شب کی سیاہی
تری جستجو میں رواں ہیں دواں ہیں	یہ دن کے مسافر یہ راتوں کے راہی
اے مولا تیرے نور رحمت کے آگے	ہے کافور چستی کی سب رو سیاہی

(حکیم سلطان احمد فاروقی چشتی)

ذکر الہی علامت ایمان

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب میں سے بعض کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا

تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزدد ايماننا تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته .
آؤ ہم ایک گھڑی مومن بن جائیں یعنی مل کر ذکر خدا کریں اور اپنے ایمان (کی کیفیت) میں اضافہ کر لیں، آؤ ہم اس کا ذکر اس کی اطاعت کے ساتھ کریں، ہو سکتا ہے وہ ہمارا اپنی مغفرت کے ساتھ فرمائے۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، ۶: ۷۰، رقم ۳۰۴۲۶)

☆ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سيعلم اهل الجمع اليوم من اهل الكرم فليل من اهل الكرم يا رسول الله . قال اهل مجالس
الذكر في المساجد .

قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو معلوم ہوگا بزرگی یا سخاوت والے کون ہیں؟ عرض کیا: حضور وہ کون ہیں؟ فرمایا:
مساجد میں محافل ذکر کا اہتمام کرنے والے (اصحح لابن حبان، ۳: ۹۸، رقم ۸۱۶)

☆ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

طلبت العبادۃ فی کل شیء فما وجدت شینا اشفی لصدري ولا افضل من مجالس الذكر فكانوا
یحضرون عندها فيذكرون فندكر معهم .

میں نے ہر چیز میں عبادت تلاش کی لیکن مجالس ذکر سے زیادہ میرے سینے کو شفا دینے والی اور افضل چیز نہ ملی، لوگ ان (ام
درداء) کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ذکر خدا کرتے اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ ذکر کرتیں۔ (الطبقات الکبریٰ للشعرانی، ۲۹)

☆ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی۔ اشکو اليك قسادة قلبی . میں آپ سے اپنے

دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اذن من مجالس الذكر . مجالس ذکر کے قریب ہو جا۔ (ایضاً: ۳۶)

تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تری شانِ جل جلالہ
گرے قطرے ابر سے خاک پر تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر
تری آب لعل و گہر میں ہے ترا نور شمس و قمر میں ہے
ترے حکم سے جو ہوا چلی تو چنگ کے بولی کلی کلی
ترا جلوہ دونوں جہاں میں ہے ترا نور کون و مکاں میں ہے
تو ملا قریب رگ گلو تری شانِ جل جلالہ
دیا غیب سے مجھے آب جو تری شانِ جل جلالہ
تری شانِ عم نوالہ تری شانِ جل جلالہ
ہے کریم تو ہے رحیم تو تری شانِ جلا جلالہ
یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تری شانِ جلا جلالہ
(اکبر وارثی)

حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہمکاری

عن عبد الله بن الحرث، قال: اوحى الله الى داود ان احبني واحب احبائي وحبيني الى عبادي،

قال: يا رب! احبك واحب احبائك، فكيف احببك الى عبادك، قال: اذكروني لهم فانهم لن يذكر مني الا خيرا - (مصنف لابن ابی شیبہ، ۶۸: ۷، ۳۴۲۵۳)

”حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھ سے اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو اور میرے بندوں میں مجھے محبوب بنا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: اے رب! میں تجھ سے اور تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کروں گا لیکن تجھے تیرے بندوں میں کیسے محبوب بناؤں؟ فرمایا: ان کے سامنے میرا ذکر (کثرت سے) کیا کیوں کہ بیشک میرا ذکر ہی ان کے لئے خیر کا باعث ہوگا۔“

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان داود عليه السلام قال فيه يخاطب ربه عز وجل: يا رب! اى عبادك احب اليك احبه بحبك؟ قال: يا داود! احب عبادى السى نقى القلب نقى الكفين، لا ياتى الى احد سوء اولا يمشى بالنميمة تزول الجبال ولا يزول، واحب منى واحب من يحببى واحب منى الى عبادى. قال: يا رب! انك لتعلم انى احبك واحب منى بحبك وفكيف احببك الى عبادك؟ قال: ذكرهم باياتى وبلائى ونعمائى يا داود! انه ليس من عبد يعين مظلوما او يمشى معه فى مظلمته الا اثبت قدميه يوم تنزل الاقدام.

”حضرت (عبداللہ) بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے مخاطب ہو کر عرض کیا: اے پروردگار! تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تاکہ میں تجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کروں؟ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: اے داؤد! مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا دل اور دونوں ہتھیلیاں پاک و صاف ہوں، کسی سے برائی کرے نہ کسی کی چغلی کھائے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ مجھ سے اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے، اور میرے بندوں کو میری محبت سکھائے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: اے پروردگار! تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے اور تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں لیکن تیرے بندوں کو تیری محبت کیسے سکھاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہیں میری نشانیاں، میری آفات اور میری نعمتیں (کثرت ذکر سے) یاد دلاؤ۔ اے داؤد! میرا جو بندہ بھی مظلوم کی مدد کرے گا یا اس کی داد رسی کے لئے اس کے ساتھ چلے گا میں اسے اُس دن ضرور ثابت قدم رکھوں گا جس دن قدم پھسل جائیں گے۔“ (بیہقی، شعب الایمان، ۱۱۹: ۱۱۹، نم: ۷۶۶۸۔ ویلی، الفردوس بماثور الخطاب، ۱۹۵: ۳، رقم: ۲۵۳۳۔ مناوی، الاتحاف السنیہ بالا حادیث القدیہ، ۱۱۲، ۱۱۳، رقم: ۲۵۸۔ سیوطی، الدر

المحورنی التفسیر بالماثور، ۱۲: ۳)

ہے ذکر ترا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ
مصرف ثنا ہیں سرو من سبحان اللہ سبحان اللہ
غنجوں کی چٹک شبنم کی صبا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا
قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ
کیا کیجے کوئی وسعت تری، ہو کیسے بیان عظمت تری
عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ

مطلوب بھی تو مقصود بھی تو، مسجود بھی تو معبود بھی تو
 ہر نقش تری قدرت کا نشان، ہر نقش کے لب پر تیرا بیاں
 مٹی کو زبان دیکر اس کو اعجازِ بیاں دینے والے!
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: سأل موسیٰ ربہ
 عن ست خصال کان یظن انها له خالصۃ، والسابعۃ لم یکن موسیٰ یحبها۔ قال: یا رب! ای عبادک
 اتقی؟ قال: الذی یدکر ولا ینسی، قال: فای عبادک اهدی؟ قال: الذی یتبع الہدی، قال: فای
 عبادک احکم؟ قال: الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ؟ قال: فای عبادک اعلم؟ قال: عالم لا
 یشبع من العلم، یجمع علم الناس الی علمہ، قال: فای عبادک اعز؟ قال: الذی اذا قدر غفر۔ قال:
 فای عبادک اغنی؟ قال: الذی یرضی بما یؤتی۔ فای عبادک افقر؟ قال: صاحب منقوص۔ قال:
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس الغنی عن ظہر، انما الغنی غنی النفس، واذا اراد اللہ بعبد
 خیرا، جعل غناہ فی نفسہ، وتقاہ فی قلبہ، واذا اراد اللہ بعبد شرا، جعل فقرہ بین عینیہ۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے چھ خصائل
 کے بارے میں سوال کیا: جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ ان میں تمام و کمال پائے جاتے ہیں اور ساتویں
 خصلت موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے رب! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی
 کون ہے؟ فرمایا: وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرے اور مجھے بھولے نہیں۔ عرض کیا: تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ
 ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا: وہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ عرض کیا: تیرے بندوں میں سے سب سے بڑا حاکم کون ہے؟
 فرمایا: وہ جو لوگوں کے لئے وہی فیصلہ کرے جو وہ اپنے لئے کرتا ہے۔ عرض کیا: تیرے بندوں میں سے بڑا عالم
 کون ہے؟ فرمایا: وہ جو علم سے سیر نہ ہو اور لوگوں کا علم بھی اپنے علم میں جمع کرے عرض کیا: تیرے بندوں میں سے سب
 سے زیادہ معزز کون ہے؟ فرمایا: وہ جو غالب آئے تو معاف کر دے۔ عرض کیا: تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ غنی
 کون ہے؟ فرمایا: جو جتنا ملے اس پر راضی ہو جائے۔ عرض کیا: تیرے بندوں میں سے سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ فرمایا: وہ
 جس کا غنا کم ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: غنا (سے مراد) مال کا غنا نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا مراد ہے اور جب اللہ تعالیٰ
 کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں غنا پیدا فرماتا ہے اور اس کے دل میں تقویٰ ڈال دیتا ہے اور
 جب کسی بندے کو اس کے شرکی سزا دینا چاہتا ہے تو اس کا فقر اس کے سامنے کر دیتا ہے (یعنی اس کی آنکھوں میں فقر

ہوتا ہے حقیقتاً وہ فقیر نہیں ہوتا)۔ (الصحيح لابن حبان، ۱۳: ۱۰۱، ۶۲۱، موارد الظمان للہیثمی: ۵۰ رقم ۸۶)

☆ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے میں نے سنا آپ فرماتے ہیں کہ

من اوی الی فراشه طاهرا یدکر اللہ حتی یدرکہ النعاس لم یتقلب ساعة من اللیل سأل اللہ من خیر الدنیا والاخرہ الا اعطاه ایاہ .

جو پاکیزگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بستر پہ جائے تو رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گذرتی یہاں تک کہ اسے اونگھ آگئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کی ہو اور اللہ نے اسے عطا نہ کی ہو۔

(ترمذی شریف، ۵: ۵۳۰، رقم ۳۵۲۶)

☆ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

من شغله ذکری عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطى السائلین (التاریخ الکبیر للبخاری، ۲: ۱۱۵، رقم ۱۸۷۹ . بیہقی، شعب الایمان، ۳، ۳۶۷، رقم ۴۰۸)

ایک روایت میں ہے اعطیتہ فوق ما اعطى للسائلین . میں اس کو مانگنے والوں سے بڑھ کر دیتا ہوں۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، ۶: ۳۳، رقم ۲۹۲۷۱)

تجھ سے جو ہر گھڑی ڈرے مولا	کام کیسے برے کرے مولا
تیری رحمت کی بارشیں پل میں	خشک پتے کریں ہرے مولا
تو کہ شہ رگ سے بھی قریب مگر	دور سے بھی کہیں پرے مولا
پا گئے اصل میں سراغ حیات	جو تیری رہ میں کٹ مرے مولا
جو ترے نام پہ کریں . خالی	ان کے دامن رہیں بھرے مولا
جو بھی مجذوب ذاتِ باری ہوا	بات کب غیر کی کرے مولا
مل گئی رمز لا الہ جسے	بھاگ اس کے ہوئے ہرے مولا
جس نے حاجت روا تجھے مانا	دم وہ غیروں کا کیوں بھرے مولا
کچھ بھی تو صابری نہیں ممکن	وہی ممکن ہے جو کرے مولا

(محمد علی صابری)

اہل ذکر کے گھر جگمگا جاتے ہیں

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ان اهل السماء لیرون بیوت اهل الذکر تضیی لہم کما تضیی الکواکب لاهل الارض . آسمان والے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں (الدر المنثور فی التفسیر المأثور للسیوطی، ۱: ۳۶۷)

☆ عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا ، قالت : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : بیعت اللہ

عز وجل يوم القيامة مناديا ينادى: سيعلم اهل الجمع اليوم من اولى بالكرم، اين الذين (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) فيقومون فيدخلون الجنة، ثم يرجع المنادى، فيقول: سيعلم اهل الجمع من اولى بالكرم (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) فيدخلون الجنة، ثم يرجع المنادى، فيقول: سيعلم اهل الجمع من اولى بالكرم، فيقول: اين الحمادون الله على كل شئى، وهم اكثر من الصنفين الاولين فيدخلون الجنة .

”حضرت اسماء بنت يزيد رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک منادی کو کھڑا کرے گا جو ندا دے گا: اہل محشر عنقریب جان لیں گے کہ صاحبانِ سخا و کرم کون ہیں؟ کہاں ہیں وہ ”جنہیں کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟“ پس وہ کھڑے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ منادی لوٹ آئے گا اور کہے گا اہل محشر عنقریب جان جائیں گے کہ آج صاحبانِ سخا و کرم کون ہیں؟ کہاں ہیں وہ ”جن کے پہلو (اللہ کے ذکر کے باعث) ان کے بستر سے جدا رہتے تھے؟“ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ منادی واپس آ کر پھر ندا دے گا اہل محشر عنقریب جان لیں گے کہ صاحبانِ سخا و کرم کون ہیں؟ پھر وہ کہے گا: کہاں ہیں ہر حال میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ حمد کے ساتھ ذکر کرنے والے اور وہ پہلی دونوں قسموں سے زیادہ ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔“

(المسند عبد بن حمید، ۱: ۴۵۷)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات .

جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں۔ (مسند احمد بن حنبل، ۳: ۱۳۴، رقم ۱۳۲۷)

شب غم میں برہنہ سر ہوں دستارِ گر دینا
بہاروں میں نمو کی سبز کرنیں بانٹنے والے
بھروسے پر ترے کشتی سمندر میں اتاری ہے
مرے بچوں کی آنکھوں میں دھنک کی رم جھم کر
ترے محبوب کی مدحت سرائی میرا نصیب ہو
بہل جاؤں میں اک قطرے سے ناممکن مرے مولا
ریاض بے نوا کی ہر خطا سے درگزر کر کے
اجالا ہر طرف کروں وہ خورشید ہنر دینا
مرے دامن کو بھی مہکی ہوئی کلیوں سے بھر دینا
تو ہر موج بلا کو ساحلِ امید کر دینا
تو ان کے جاگتے خوابوں کی تعبیر سحر دینا
غریب شہید دل ہوں الفتِ خیر البشر دینا
مجھے ان کی محبت کے ہزاروں بحر و بر دینا
تو اس کی آخرِ شب کی دعاؤں میں اثر دینا

ایک روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا لوگوں میں افضل کون ہے سرکار نے فرمایا مبارک ہے وہ جس نے نیک اعمال

کے ساتھ لمبی عمر پائی، ایک اور اعرابی نے کہا کون سا عمل افضل ہے، فرمایا: تیرا دنیا کی محبت سے الگ ہونا اور تیری زبان کا اللہ کے ذکر سے تر رہنا، اس نے کہا! کیا یہ میرے لئے کافی ہے؟ فرمایا نعم و بفضل عنک۔ ہاں بلکہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔

(الاحاد و المثنیٰ للشیبانی ۵۱:۳)

مرے بندگی یہی ہے، میری زندگی یہی ہے
تیری نعمتوں کے صدقے، تری برکتوں کے قرباں
مری آبرو یہی ہے، مری آرزو یہی ہے
ہو مجھے بھی کاش حاصل کبھی سیر کوئے بطحا
یہی سنگ در تو کاوش مرا حاصل جبیں ہے
جو اٹھاؤں سر، تو کیسے بھلا تیرے آستاں سے
تیری رحمتوں کی بارش ہوئی خوب آسماں سے
بھرے میرا ساغر دل، مئے نور بیکراں سے
یہی التجا سدا ہے مری رب دو جہاں سے
جو میں اٹھ کے جاؤں بھی تو کہاں جاؤں آستاں سے

(پروفیسر فیاض احمد کاوش)

قابل فخر خطہ زمین

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ما من بقعة يذكر الله الا استبشرت بذلك الى منتهاها من سبع ارضين وفخرت ما حولها من
البقاع وما من عبد يقوم بغلاة من الارض يريد الصلوة الا تزخرت له الارض
زمین کا ہر خطہ جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ اس ذکر کی وجہ سے ساتوں زمینوں کی انتہا تک خوشی مناتا ہے اور اپنے ارد
گرد کے خطوں پہ فخر کرتا ہے اور جب بھی بندہ بنجر زمین پہ کھڑے ہو کر نماز کا ارادہ کرتا ہے تو زمین فخر کرتی ہے

(المسند ابو یعلیٰ، ۷: ۱۳۳، رقم ۳۱۱۰)

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ان الجبل ينادى الجبل باسمه اى فلان هل مريك احد ذاكر الله فاذا قال نعم استبشر -
ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لیکر پکارتا ہے کیا تیرے پاس سے کوئی اللہ کا ذکر گزارا ہے، جب وہ ہاں میں جواب دیتا
ہے تو وہ خوشی مناتا ہے،

☆ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

اذكر والله كل حجيرة وشجيرة لعلها تانى يوم القيامة تشهد لكم -
ہر حجر و شجر کے پاس ذکر خدا کیا کرو تا کہ قیامت کے دن وہ تمہاری حق میں گواہی دے۔

(مسند الشامین للطبرانی، ۱: ۳۸۸ رقم ۶۷۱ ابن حبان، العظمة، ۵: ۱۷۱۳)

یا الہی تیری حمد پاک سے آغاز ہے ہر گھڑی لمحہ بہ لمحہ سب کا تو دمساز ہے
تو اگر اپنے کرم سے پلک بھر کر دے جدا جسم کے ڈھانچے میں پھر یہ سانس نہ آواز ہے
ایک ہی صف میں برابر ہر گاہ تیری میں ہیں دنیا میں شاہ و گدا محمود خواہ ایاز ہے

سوچ کی معراج اور میرے تخیل کا عروج سب کرم تیرا ہے بندہ کی کیا پرواز ہے
تیرے ذکر پاک سے خالی ہے جو قلبِ حزین مردہ دل ہے اس میں پھر سوز ہے نہ ساز ہے
موت کو بھی فخر ایسی موت پر ہے یوسفی فی سبیل اللہ جو مقتول ہے جانباذ ہے

(صاحبزادہ محمد انور دہلوی یوسفی)

اللہ کا سب سے بڑا احسان

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے

ما من يوم و ليله و لا ساعة الا و لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده و ما من على عبد
بمثل ان يلهمه ذكره

ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے
ذکر کی توفیق سے بڑھ کر کسی احسان سے نہیں نوازا۔ (المسند للبخاری، ۹: ۳۳۶، رقم ۳۸۹۰)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يا ابن ادم انك اذا ذكرتني شكرتني و اذا نسيتني كفرتني۔

اے آدم کی اولاد جب تو نے میرا ذکر کیا تو میرا شکر کیا اور جب تو میرے ذکر سے غافل ہوا تو میری ناشکری کی۔

(المعجم الاوسط للطبرانی، ۷: ۲۰۰، رقم ۷۲۶۵)

☆ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا بنی ان مثل اهل الذکر و الغفلة كمثل النور و الظلمة۔ اے بیٹے

اہل ذکر اور اہل غفلت کی مثال روشنی اور تاریکی کی سی ہے (حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ابو نعیم، ۴: ۳۸، عن وہب بن منہ)

حمد ساری جس کو لائق تیری ہی ہستی ہے وہ رب ہے جو سارے جہاں کا تیری ہی ہستی ہے وہ
دنیا میں رحمت ہے تو تیری ہی ہیں سب عطا اُخرویٰ میں جو رحم والا تیری ہی ہستی ہے وہ
ذرے سے شمس و قمر تک ملک میں ہیں سب تری روز محشر کا جو مالک تیری ہی ہستی ہے وہ
ہم ہیں عابد صرف یا رب تیری ذات پاک کے جس سے ہم مانگیں مدد تیری ہی ہستی ہے وہ
ان کی راہ راست پہ قائم تو رکھ ہم کو سدا ان کو نعمت جس نے بخشی تیری ہی ہستی ہے وہ
دور رکھ ان کے اثر سے جن پہ ہے تیرا غضب بھٹکوں سے جو دے پناہ تیری ہی ہستی ہے وہ
ہے نوائے قلب یا رب بخش دے تو سائر خطا استعین کہتے ہیں جس کو تیری ہی ہستی ہے وہ۔

(مولانا سید محمد علی قادری نورانی)

ذکر کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا

من صلی صلوٰۃ الصبح ثم قعد یدکر اللہ حتی تطلع الشمس وجبت له الجنة

(مسند ابو یعلیٰ، ۲۶:۳ رقم ۱۳۹۵، ۱۳۸۷)

جس نے صبح کی نماز ادا کی اور پھر ذکر الہی میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔

ایک روایت میں جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھنے کا ذکر پھر سورج طلوع ہونے تک ذکر کرتا رہے پھر دو نفل ادا کرے تو

انقلب باجر حجة وعمرة . اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔

(بیہقی شعب الایمان: ۱: ۷۰، المعجم الکبیر للطبرانی، ۸: ۱۷۸، رقم ۷۷۴۱)

☆ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا کوئی دعایا گھڑی کسی دوسری دعایا گھڑی

سے بڑھ کر قرب الہی کا باعث ہے؟ فرمایا: نعم ان اقرب ما یکون الرب من العبد جوف اللیل الاخر فان استطعت

ان تكون ممن یدکر اللہ فی تلك الساعة فکن . ہاں بے شک اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کے بہت قریب

ہوتا ہے اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت ذکر خدا میں مصروف ہو جا۔

☆ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نجد کی طرف لشکر بھیجا، جس نے بہت زیادہ مال

غنیمت حاصل کیا اور بہت جلد واپس آ گیا، جو لوگ اس لشکر میں نہیں گئے تھے ان میں سے کسی نے کہا مار ایسا بعثا اسرع رجعة

ولا افضل غنیمة من هذا البعث ہم نے کسی لشکر کو اتنا جلد واپس لوٹے اور اتنا زیادہ مال غنیمت لاتے نہیں دیکھا۔ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی قوم نہ بتاؤں جو مال غنیمت حاصل کرنے میں اس لشکر سے بہتر اور واپسی کے لحاظ سے اس سے تیز

ترے (ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے)،

قوم شهد واصلوٰۃ الصبح ثم جلسوا یدکرون اللہ حتی طلعت علیہم الشمس فاولئك اسرع

رجعة وافضل غنیمة

یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز ادا کر کے طلوع آفتاب تک ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ (ترمذی، ۵۵۹:۵، رقم ۳۵۶۱)

تیری حمد میں کیا کروں اے خدا میرا علم کیا ہے میری فکر کیا

مکان ہے تیرا لا مکان ہے تیرا زمین ہے تیری آسماں ہے تیرا

تجھی سے صبا ہے تجھی سے سموم زمین پر ہیں گل آسماں پر نجوم

ضیاء رخ زندگی تجھ سے ہے جہاں بھی ہے درخشندگی تجھ سے ہے

تجھی سے ہے سنسار میں رنگ و روپ تجھی سے ہے سایہ تجھی سے ہے دھوپ

محیط دو عالم ہے قدرت تیری ہے کثرت کے پردے میں وحدت تیری

تیرے زمزے آبشاروں میں ہیں تیری عظمتیں کوہساروں میں ہیں

ذکر کرنے والا رب کے سایہ رحمت میں ہوگا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان الله يقول يوم القيامة ابن المتحابون بجلالي اليوم اظلمهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي .

بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں

انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا جس دن میری رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (مسلم شریف، ۱۹۸۸، ۲، رقم ۲۵۲۶)

☆ حضور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: سات لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا

سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

(۱) عادل حکمران، (۲) ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا

ہو، (۴) ایسے دو شخص جو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لئے اکٹھے ہوں اور اسی کے لئے جدا ہوں

(۵) وہ شخص جس کو صاحب منصب و جمال عورت برائی کی دعوت دے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۶) وہ شخص جو ایسے چھپا کر

صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کا علم نہ ہو (۷) رجل ذکر الله خاليا ففاضت عنياه . جس نے اللہ

تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں (بخاری شریف، ۲۳۴۱، رقم ۶۲۹)

جدھر دیکھتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں تیرا جلوہ یا رب عیاں دیکھتا ہوں

نظر میں خبر میں دعا میں اثر میں ہر اک شے میں تجھ کو عیاں دیکھتا ہوں

تو کوہ و دمن میں تو سر دمن میں تو ہی جلوہ گر ہے جہاں دیکھتا ہوں

ملک جن و انساں سبھی تیرے ذاکر تیری یاد میں ہر زبان دیکھتا ہوں

تجلی تری ماہ و انجم سے ظاہر! تجھے کہکشاں کہکشاں دیکھتا ہوں

جدھر رنگ و بو ہے ادھر تو ہی تو ہے تجھے گلستاں گلستاں دیکھتا ہوں

وہ شہ رگ سے نزدیک تر ہے اے عابد دل اپنا میں اس کا مکاں دیکھتا ہوں

اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، ای الجہاد اعظم اجرا؟ کون سا جہاد

اجرو ثواب میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال اکثرهم الله تبارك وتعالى ذكرا . فرمایا جس میں ذکر الہی زیادہ کیا

جائے۔ قال فای الصائمین اعظم اجرا . عرض کی روزہ داروں میں کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ قال اکثرهم الله تبارك

وتعالى ذكرا . فرمایا جس روزہ دار نے ذکر خدا سب سے زیادہ کیا۔ پھر اس نے ہمارے سامنے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کا ذکر کیا

(کہ کس کی نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کا ثواب زیادہ ہے) تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: اکثرهم الله تبارك وتعالى ذكرا . جو

(نمازی، حاجی وغیرہ) زیادہ ذکر خدا کرے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ذہب الذاکرون بكل خیر .

ذکر کرنے والے تو ہر میدان میں نمبر لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے سن کر فرمایا: اجل . ہاں کیوں نہیں۔

(مسند احمد، ۳: ۴۳۸، المعجم الكبير للطبرانی، ۲۰: ۱۸۶، رقم ۴۰۷)

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر ہر حال میں جاری رکھو فلیس عمل احب الی اللہ ولا انجی لعبده من ذکرہ اللہ فی الدنیا والاخرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں اور دنیا و آخرت میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نجات دینے والا نہیں۔ (بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۳۹۵، رقم ۵۲۰)

نام ہے تیرا سب سے بڑا	میں بندہ تیرا تو میرا خدا
تو ہے یہاں تو ہے وہاں	تو ہر جگہ ہے سب کچھ تیرا
قدرت کا ہے اپنا نظام	جس سے چلے ہے سلسلہ
خالق بھی تو مالک بھی تو	رازق بھی تو میں تجھ پہ فدا
ہر شے تیری محتاج ہے	سارا جہاں ہے منگتا تیرا
شمس و قمر بادل ہوا	زمین آسمان سب تیری عطا
چرند پرند رات اور دن	ہر دم کریں سب تیری ثناء
رب غفور تو ہے رحیم	رحمن بھی نام ہے تیرا
پیار پر بے روزگار پر	الہی تو کر اب نظر عطا
روز حشر جن و بشر	حاضر ہوں گے دربار خدا
روحی بہت گنہگار ہے	بخشش کی ہے کرتا دعا

فرائض کی حفاظت اور ذکر کی تلقین

حضرت ام انس رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا: گناہوں کو چھوڑ دے یہ افضل ہجرت ہے، فرائض کی حفاظت کر یہ بہترین جہاد ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو فانک لا تاتی اللہ بشئی احب الیہ من کثرة ذکرہ، کیونکہ تو کوئی عمل ذکر سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتی۔ (المعجم الکبیر والاوسط للطبرانی، ۲۵، ۱۲۹، رقم ۳۱۳، ۷، ۲۱، رقم ۶۷۳۵) ایک روایت میں اس جواب سے پہلے حضرت ام انس رضی اللہ عنہا کی حضور علیہ السلام کے لئے دعا کا بھی بہت پیارے الفاظ میں ذکر ہے فرماتی ہیں میں نے عرض کی جعلک اللہ فی الرفیق الاعلیٰ من الجنة وانا معک حضور! اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں رفیق اعلیٰ کے مقام پر فائز فرمائے اور میں آپ کے ساتھ ہوں..... یا رسول اللہ علمنی عملا صالحا عملا۔ حضور! مجھے کوئی ایسا عمل جو میں کروں (تاکہ جنت میں آپ کے ہمراہ رہوں) تب حضور علیہ السلام نے مندرجہ بالا جواب عطا فرمایا۔ (المعجم الکبیر للطبرانی، ۲۵، ۱۵۰، رقم ۳۵۹)

☆ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اشد الاعمال ثلاثة۔ سب سے زیادہ طاقتور عمل تین ہیں۔ (۱) ذکر اللہ علی کل حال ہر حال میں ذکر خدا کرتے رہنا (۲) الا نصاب من نفسک۔ اپنی طرف سے انصاف کرنا (۳) المواساة فی المال۔ مال میں لوگوں کو شریک کرنا۔ (منصف ابن ابی شیبہ، ۸۰۱، رقم ۳۳۳۰)

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ایک روایت میں ایک اعطاء الحق من نفسک یعنی دوسروں کا حق از خود ادا کرنا (انصاف من نفسک کی جگہ) بتایا گیا ہے (مفہوم تقریباً ایک ہی ہے)۔

(ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ۱: ۸۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے مواساة الاخ من مالک کے الفاظ ہیں (التدوین فی اخبار قزوین، ۳: ۷۰)

اپنے مال سے اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنا

حضرت مقاتل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (اذکروا اللہ ذکر اکثیراً) کے بارے میں فرماتے ہیں باللسان بالتسبیح والکتبیر والتہلیل والتحمید واذکروہ علی کل حال۔ فرمان الہی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ پڑھتے رہو۔

(تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم، ۹: رقم ۱۷۷۰۲)

اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کے بارے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سے جو چیز بھی فرض کی اس کی حد متعین کر دی پھر معزوروں کے عذر کے مطابق انہیں رعایت عطا فرمائی سوائے ذکر کے، نہ اس کے لئے کوئی حد متعین کی ہے اور نہ ہی اس کے چھوڑنے میں کسی کا عذر قبول کیا ہے الا یہ کہ کوئی اپنی عقل ہی کھو بیٹھے لہذا اذکروا اللہ قیاماً و قعوداً و علی جنوبکم باللیل والنهار فی البر والبحر فی السفر والحضر، فی الغناء والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلی کل حال۔ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، رات دن میں، خشکی و تری میں سفر و حضر میں، خوشحالی و فقیری میں، صحت و بیماری میں آہستہ اور بلند آواز سے یعنی ہر حال میں ذکر خدا کرتے رہو۔ (تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳: ۴۹۶)

کچھ نہ تھا جب تھا تو ہی موجود جب کچھ نہ ہو گا ہو گا تیرا وجود
مالک الملک لا شریک ہے تو تو ہی خالق ہے اور تو ہی معبود
تو ہی ہر شے سے ہو گیا ظاہر خود ہی شاہد اور خود ہی مشہود
شکر تیرا خدائے عزوجل عابد ہے تیرے در پہ سر بسجود

افضل ایمان کس کا ہے؟

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود حضور علیہ السلام سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ان تحب للہ و تبغض للہ و تعمل لسانک فی ذکر اللہ۔

یہ کہ تو اللہ کے لئے محبت کرے اور اسی کے لئے ہی دشمنی رکھے اور تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے، میں نے عرض کی: حضور اس کے علاوہ؟ فرمایا: ان تحب للناس ما تحب لنفسک و تکرہ لہم ما تکرہ لنفسک جو کچھ اپنے لئے پسند کرے لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کرے اور جو چیز تجھے ناپسند ہو اس کو دوسروں کے لئے بھی ناپسند کر۔ (مسند احمد، ۵: ۲۲۷، رقم ۲۲۱۸۳)

☆ حضرت جلاس بن عمرو سنان بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

ان لكل ساع غاية وغاية ابن ادم الموت فعليكم بذكر الله فانه يسهلكم ويرغبكم في الآخرة .
پس ذکر الہی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے انجام (موت) کی سختی میں آسانی پیدا کرے گا اور آخرت میں تمہارا مونس
و غمخوار ہوگا (البیان والتعریف، حسینی، ۱: ۲۲۵، رقم ۶۳۵)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان لكل شيء صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله

ہر شے کو چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کو چمکانے والا اللہ کا ذکر ہے۔ (بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۳۹۶، رقم ۵۲۲)

☆ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت عون بن عبد سے بھی یہی مروی ہے۔

(بیہقی، شعب الایمان، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: من اكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق .

جس نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا وہ نفاق سے پاک ہو گیا۔ (المعجم الاوسط للطبرانی، ۷: ۸۶، رقم ۶۹۳۱)

تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جلا جلالہ
گرے قطرے ابر سے خاک پر تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر
تیری آب لعل و گہر میں ہے تر انور شمس و قمر میں ہے
ترے حکم سے جو ہوا چلی تو چنگ کے بولی کلی کلی
ترا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تر انور کون و مکاں میں ہے
ہے دعائے اکبر نا تو ان نہ تھے قلم نہ ر کے زبان

تو ملا قریب رگ گلو تیری شان جلا جلالہ
دیا غیب سے مجھے آب جو تیری شاں جلا جلالہ
تیری شان عم نوالہ تیری شان جلا جلالہ
ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جلا جلالہ
یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان جلا جلالہ
میں لکھوں پڑھوں یہی با وضو تری شان جلا جلالہ

(حضرت اکبر وارثی رحمۃ اللہ علیہ)

ذکر دلوں کی شفاء ہے

حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

ان ذکر الله شفاء وان ذکر الناس داء .

بے شک اللہ کا ذکر شفاء ہے اور لوگوں کا ذکر نری بیماری (بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۷۱۷)

☆ حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام نے فرمایا:

يا حفصة اياك وكثرة الكلام فان كثرة الكلام بعد ذكر الله تميت القلب و عليك بكثرة ذكر الله

فانه يحيى القلب .

اے حفصہ! زیادہ باتیں کرنے سے بچو کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا کثرت کلام دل کی موت ہے اور ذکر خدا زیادہ کرو

کیونکہ یہ دل کو زندگی بخشتا ہے۔ (الفردوس بما نزل الخطاب للدهلمی، ۵، ۳۳۲)

ایک روایت میں کثرت کلام کو جو ذکر اللہ سے خالی ہو دل کی سختی فرمایا گیا اور مزید فرمایا
وان ابعث الناس من الله القلب اتفاسی .

لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ (ترمذی: ۶۰۷۴، رقم ۲۳۱۱)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ذکر اللہ شفاء القلوب .

اللہ کا ذکر دلوں کے لئے شفاء ہے (کشف الخفاء للعجلوانی، ۱: ۵۰۵)

اور حضرت عون بن عبد اللہ نے فرمایا: مجالس الذکر شفاء القلوب

ذکر کی مجلسیں دلوں کے لئے شفاء ہیں۔ (ابو نعیم، حلیہ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، ۳: ۲۳۱)

اے خالق جہاں ہے سارا جہان تیرا ساری زمیں تیری! آسمان تیرا
سب نعمتیں جہاں کی تو نے ہمیں عطا کیں کیا شکر کر سکیں ہم اے مہربان تیرا
تو صانع جہاں ہے قدرت تیری عیاں ہے ہر صنعت اک نشاں ہے او بے نشان تیرا
ہر وقت ذکر تیرا یا رب! کریں نہ کیوں ہم دل مطمئن ہو جس سے وہ ہے نشان تیرا
پہچانتے ہیں تجھ کو ہم علم کی بدولت اس سے ہے قرب حاصل اے مہربان تیرا
فرش زمیں ہے یا رب! راحت کا فرش ہم کو رحمت کا سائبان ہے یہ آسمان تیرا
توفیق دے الہی! ہم سے ہو تیری طاعت یہ سر رہے ہمارا اور آستان تیرا

سو غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن.....

حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ابو سعد بن معبہ نے اپنے مال میں سے سو غلاموں کو آزاد کیا ہے
آپ نے فرمایا:

ان مائة محررة فی مال رجل کثیر الا خبر کم بافضل من ذلك ایمان ملزوم باللیل والنهار ولا
یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ .

بے شک آدمی کا اپنے مال سے سو غلام آزاد کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کام
نہ بتاؤں؟ وہ ہے دن رات ایمان پر قائم رہنا اور تیری زبان کا اللہ کے ذکر سے تر رہنا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ۶: ۵۹، رقم ۲۹۳۶۳، ۷: ۱۷۰، رقم ۳۵۰۵۷)

☆ حضور علیہ السلام نے فرمایا: نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے اولاد اسماعیل
میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اسی طرح نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا
مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے (ابو داؤد شریف، ۳۲۳۳، رقم ۳۶۶۷، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ)

ایک روایت میں ہے (ذکر اللہ) مجھے دنیا کی ہر چیز سے اور اولاد اسماعیل میں سے آٹھ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے

دیتہ کل رجل منهم اثنا عشرة الفاً۔ جس میں سے ہر غلام کی دیت بارہ ہزار ہو۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی، ۸: ۳۸، ۷۹، شعب الایمان ۱: ۳۰۹، ۳۱۰ رقم ۵۶۰، ۵۶۲)

خالق و رنگ و بو کا ہے نور و ضیاء کا ہے مالک ہر ایک شاہ و گدا بے نوا کا ہے

پروردگار بس وہی ہر دو سرا کا ہے ہر اک زباں پہ ذکر اسی کی عطا کا ہے

چہ چہ خدائی بھر میں خدا ہی خدا کا ہے

تھا کنز مخفی چاہا کہ پہچانا جاؤں میں حُسن اپنا دیکھنے کو اک آئینہ لاؤں میں

اپنی تجلیات کا عکس اس میں پاؤں میں تخلیق کائنات کا نقشہ بناؤں میں

آغاز خلق نور حبیب خدا کا ہے

آدم کے سر پہ تاج خلافت سجا دیا اشیا کا علم آپ ہی اس کو سکھا دیا

موجود قدسیوں کا پھر اس کو بنا دیا یوں نوریوں پہ خاکی کا رتبہ بڑھا دیا

یا رب کوئی ٹھکانہ بھی تیری عطا کا ہے

لوح و قلم بنائے گئے عرش و کرسی بھی افلاک اور زمین بھی خاکی بھی نوری بھی

تھے پیکر اخلاق بھی سفاک و شقی بھی ابلیس بھی تخلیق کیا سارے نبی بھی

اضداد کی یکجائی کرشمہ خدا کا ہے

یا رب تو عطا کر ہمیں اسلاف کی ہمت اک بار ملے پھر ہمیں ماضی کی سی عظمت

بخشی تھی جو یا رب مرے اجداد کو سلطوت دنیا کو دکھا دے وہی اسلام کی شوکت

عابد خلاصہ بس یہ میری التجا کا ہے

(پروفیسر سید عابد میر قادری سلطانی برہانپوری)

اے فرشتو! اس کو دوزخ سے نکال لو

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) فرمائے گا۔

اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام

جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا کسی ایک جگہ بھی مجھ سے ڈرا (اے فرشتو)! اس کو دوزخ سے نکال لو۔

(ترمذی، ۶: ۷۱۲، رقم ۲۵۹۳)

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

من ذکر اللہ ففاضت عنیاء من خشية اللہ حتی یصیب الارض من دموعه لم یعذبہ اللہ تعالیٰ یوم

القیامة۔

جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر زمین پہ گر پڑے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ (المستدرک للحاکم، ۲۸۹، ۴، رقم ۷۶۶۸)

☆ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا تو حضور علیہ السلام فرماتے:

يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاء ت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه

اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو، خدا کو یاد کرو۔ ہلا دینے والی (قیامت) آگئی، اس کے پیچھے آنے والی (آگئی) موت اپنی سختی کے ساتھ آگئی موت اپنی سختی کے ساتھ آگئی۔ (ترمذی، ۶۳۶:۴، رقم ۲۳۵۷)

اپنے ملنے کا بتا کوئی نشان
ہوں غم دوری سے مرنے کے قریب
اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں
جان لے تجھ بن ہے جان مجھ پر وبال
جان ہے جان ایک جاں میں جاں نہیں

اے مرے مطلوب دل مطلوب جاں
اے مرے محبوب اے میرے حبیب
ہجر سے زیادہ مصیبت کچھ نہیں
جو نہ دے تو جان کو راہ وصال
کیونکہ جو جاں واصل جاتاں نہیں

ذکر خدا، شیطان سے بچا لیتا ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن ادم فان ذكر الله خنس وان نسي التقم قلبه .

شیطان نے اپنا منہ ابن آدم کے دل پہ رکھا ہوا ہے اگر بندہ اللہ کا ذکر کر لے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر بھول جائے تو شیطان دل کو لقمہ بنا لیتا ہے (دل پہ شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے)

جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جو ہمارے ذکر کے بغیر زندگی گزارتا ہے ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ (الزخرف، ۳۶، مسند ابویعلیٰ، ۷: ۲۷۸، رقم ۴۳۰۱)

☆ دوسرا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا:

الشيطان جائم على قلب ابن ادم فاذا سها غفل وسوس واذا ذكر الله خنس .

شیطان ہر وقت بندے کے دل پہ سوار رہتا ہے اگر بندہ (ذکر الہی سے) غافل ہو جائے یا بھول جائے تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے ورنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے (مصنف ابن ابی شیبہ، ۷: ۱۳۵، رقم ۳۳۷۷۳)

☆ حضرت عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کے دل میں دو گھر ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے ورنہ اپنا منہ اس کے دل پہ رکھ کر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ (حسن حصین، ۷: ۲۹، المسد رک للحاکم، ۲: ۵۹۰، رقم ۳۹۹۱، بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۲۵۹، ۶۸۶)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ دیتے وقت تھکی لگاتا ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے سو یارہ، اب اگر بندہ اٹھ کر ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے فاصبح نشیطا طبیب النفس والا اصبح خبیث النفس کسلان۔ بندہ ہشاش بشاش، خوش و خرم صبح کرتا ہے ورنہ خبیث النفس ست رہتا ہے۔ (بخاری، ۱، ۳۸۳، رقم ۱۰۹۱، ۳۰۹۶، مسلم، ۱، ۵۳۸، رقم ۷۷۶، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

جلوہ گر ہو مجھ کو کر مجھ سے جدا
تا کہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو اک نظر
تجھ سے کرتا ہوں ولے تجھ کو طلب

کب تک یا رب رہوں تجھ سے جدا
یا الہی مجھ کو مجھ سے دور کر
دو جہاں سے کچھ نہیں مجھ کو طلب

(حاجی امداد اللہ مہاجر کی علیہ الرحمۃ)

شیطان کا رزق

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی: یارب، تو نے جو مخلوق بھی پیدا کی ساتھ اس کا رزق بھی پیدا کیا، میرا رزق بھی معین فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کل مالک یدکر اسمی علیہ۔

ہر وہ چیز تیرا رزق ہے جس پر میرے نام کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ (ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ۸: ۱۲۹)

☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو؛ کیونکہ شیطان نہ بند مشک کا منہ کھولتا ہے نہ بند دروازہ اور نہ ہی برتن اور اگر برتن ڈھانپنے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے عرض پہ لکڑی رکھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرو (بسم اللہ شریف پڑھ لو) فان الفویسفة تضرم علی اهل البیت بیتہم؛ کیونکہ چوہا لوگوں کے گھر جلا دیتا ہے یعنی ہوتا شیطان ہے مگر چوہے کے روپ میں آ کر نقصان کر جاتا ہے۔ (مسلم شریف، ۳: ۱۵۹۴، رقم ۲۰۱۲، ابن ماجہ، ۲: ۱۱۲۹، رقم ۳۴۱۰)

کہ جس کی ذات ہے روزی رساں جہاں کے لئے
مہ و نجوم بنائے ہیں آسماں کے لئے
ہر اک نشان ہے اسی ذات بے نشاں کے لئے
اُسی کا ذکر تسکین نواز جاں کے لئے
ہے کبریائی اسی رب لا مکاں کے لئے
الہی! ہم پہ کرم فخر مرسلاں کے لئے

روا ہے سجدہ اس ذات کن فکاں کے لئے
زمیں پہ اس نے کھلائے ہیں لالہ و نسریں
ہر اک ذرے میں جلوہ نشاں ہے نور اسکا
اُسی کے نام سے ہوتی ہیں مشکلیں آسماں
اُسی کی ذات کو زیبا ہے افتخار و غرور
تلی ہوئی ہے تباہی پہ گردش دوراں

(ڈاکٹر محمد عابد نکامی)

قبر میں نور کے جلوے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ جو بلند آواز سے ذکر خدا کیا کرتا تھا، ایک شخص نے اس کے بارے میں کہا لو ان هذا خفض من صوته . کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ آہستہ آواز سے ذکر کرتا، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا فانه اواہ۔ یہ (اپنے رب کی بارگاہ میں) آہ وزاری کرنے والا (مست) ہے، راوی کہتے ہیں جب اس شخص کا وصال ہوا فرامی رجل نارافی قبرہ۔ ایک شخص نے اس کی قبر میں روشنی دیکھی اور قریب آیا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا

هلموا الی صاحبکم فاذا هو الرجل الذی کان یرفع صوته بالذکر اپنے ساتھی کی طرف آؤ جو اونچی آواز سے ذکر کیا کرتا تھا۔

(المستدرک للحاکم، ۵۲۲: ۱، رقم، ۱۳۶۱، بیہقی، شعب الایمان، ۱: ۴۱۸، ۵۸۵)

ایک روایت میں ہے: رای ناس نارافی المقبرة .

بہت سارے لوگوں نے پورے قبرستان میں روشنی دیکھی۔ (ابو داؤد شریف، ۳: ۲۰۱، ۳۱۶۳)

☆ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا جس کو ”ذوالبجادیں“ کہا جاتا تھا، انہ اواہ۔ بے شک یہ (ریا کار نہیں ہے بلکہ) آہ وزاری کرنے والا (خدا کی یاد میں مست رہنے والا) ہے

وذلك انه کان رجلا کثیر الذکر اللہ فی القرآن ویرفع صوته فی الدعاء .

کیونکہ وہ شخص تلاوت قرآن کی صورت میں کثرت سے ذکر خدا کرنے والا اور دعا میں آواز کو بلند کرتا تھا

(مسند احمد بن حنبل ۹: ۱۵۹)

آگے نار جہنم کو بھانے والے آگے خلد بریں تجھ کو بسانے والے

بس زمانے کی یہی بات پسند ہے مجھ کو ”تیرا“ کہتے گدا مجھ کو زمانے والے

ہمارے آقا علیہ السلام کی دعائیں، التجائیں، یادیں اور فریادیں

ان میں سے ہر موضوع پہ آنے والی احادیث مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا اظہار ہو رہا ہے لہذا کتاب کے موضوع کے مطابق ہی یہ تمام سلسلہ ہے۔ اگرچہ بعض ان میں سے الفاظ کے تفاوت سے پہلے بھی لکھی جا چکیں لیکن وہ کسی اور انداز سے لکھی گئی ہیں اور یہ کسی دوسرے عنوان سے۔ لیکن سب میں شانِ خدا جل و علا بزبانِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتناء کا جلوہ نمایاں ہے۔ اگرشہ قرآن مجید کی کئی آیات بھی ان موضوعات پہ لکھی جاسکتی ہیں لیکن صرف احادیث کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ موضوع سے انحراف ہو گیا ہے حالانکہ قرآن پاک بھی تو ہمیں زبانِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ پھر دعاؤں، التجاؤں، یادوں اور فریادوں سے بھی صرف انہی روایات کو لیا ہے جن میں کسی نہ کسی طرح خدا تعالیٰ کی عظمت و شان کا اظہار ہو رہا ہے۔

کتاب کا حجم بڑھانا مقصود ہوتا تو ہر حدیث کے شروع میں تمہیدی کلمات لکھے جاسکتے تھے۔ پھر حدیث کے بعد اس کی تشریح ہو سکتی تھی پھر تخریج میں بیسوں کتابوں کے حوالے دیے جاسکتے تھے ہم نے یہ سب کچھ ترک کر دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ موضوع کے ساتھ موزوں مواد کو جمع کیا جاسکے۔

وضاحت

میں نے اپنی کتاب تقریری نکاب میں توحید باری تعالیٰ کے سلسلہ میں کات توحید اور ذکر الہی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کتاب میں شامل کر دیا جائے تاکہ موضوع کو بیان کرنے میں کوئی تسلی نہ رہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں تاہم کوشش ہوگی کہ تکرار نہ ہو۔

عشق کی آن میں تجھے دیکھا حُسن کی شان میں تجھے دیکھا
عین عرفان میں تجھے دیکھا اپنی پہچان میں تجھے دیکھا
خون دل کا بہا کے آنکھوں سے لعل و مرجان میں تجھے دیکھا
نارِ نمرود میں کھلے کیا گل باغ و بہستان میں تجھے دیکھا
حضرتِ نوح کی نگاہوں سے ہم نے طوفان میں تجھے دیکھا
کل شی قدیر ہے تو ہے! مخفی ہر شان میں تجھے دیکھا
سر گنبد کی سب بہاریں ہیں دھان میں پان میں تجھے دیکھا
کہاں محمود کی نظر پہنچی نورِ ایمان میں تجھے دیکھا

(سید محمود)

بنام شاہد نازک خیالاں

عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذاتِ پاک ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور جس نے امرِ گن سے کئی ہزار عالم کی تخلیق فرمائی۔ اسی کی ذات و صفات ہر عیب اور نقص سے پاک اور ہر آفت سے منزہ ہے۔ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں بے نظیر ہے اور سب صفاتِ کمالیہ سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر محدود اور لامکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر یا کسی جگہ میں نہیں پھر بھی ہر مقام اور ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے۔ تمام معلومات اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ قادرِ مطلق ہے اور اس کا ہر حکم حق ہے۔ جو حتمی اور قطعی ہے۔ وہ ہر خیر و شر کا مالک ہے۔ اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ جس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وہ خالق کائنات ہے اور بے نیاز ہے۔ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ کوئی عقل اللہ کی کیفیت سے باخبر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ابتداء اور انتہا سے بے نیاز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اُس کے قول اور فعل پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جلال و کبریائی اور عظمت و برتری اُس کے وصفِ خاص ہیں۔ اس کی معرفت سے آگاہی میں اقرارِ عجز ہی نیازِ مندی ہے۔ ذوری۔ نزدیکی۔ تاریکی اور روشنی سب اس کے نزدیک برابر ہیں۔ حاضر و ناظر ہونا بھی اس کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ وہ سمیعِ علیم اور بصیر ہے دلوں میں جو اچھے یا بُرے خیالات آئیں انہیں بخوبی

جانتا ہے۔ کائنات کی ہر غیر ذی روح چیز بھی اُس کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ جن فرشتے اور انسان کو اُس نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لہذا انسان پر اس کا عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے مشفق ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کا محسنِ عظیم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اُس کی فرمانبرداری اور شکرگذاری سے اپنا فرض ادا کرتا رہے۔

کیونکہ کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ لہذا حکم ہے کہ بندہ اُس کی ذاتِ پاک کے متعلق نہ سوچے بلکہ اس کی کائنات اور تخیلات کے متعلق ضرور سوچے۔ جو کہ اعلیٰ درجہ کی عبادت متصور ہوتی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اس کو کائنات کے متعلق غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے علم کے کمال اور قوتِ فاعلیہ کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رحمن اور رحیم ہے لہذا ظلم خود اُس کی ذات سے ممکن ہی نہیں۔

صدیوں فلاسفہ کی چناں اور جنسیں رہی۔ لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ذاتِ صفات میں ممکنات سے ممتاز ہے۔ کائنات کا سلسلہ چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے اپنے کاروبار کا الہام عطا کیا ہے۔ ایسا الہام چرند، پرند، حیوانات و حشرات الارض کو بھی دیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوتِ ملکیہ عطا کی ہے۔ جس سے وہ نیک یا بد کی تمیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان جیسے اعضاء سے پاک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتِ صفات میں جمیع کائنات سے الگ اور ممتاز ہے۔ اس کی قدرتِ کاملہ کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ معدوم سے موجود اور موجود سے معدوم کر سکتا ہے۔ باوجود قادرِ مطلق ہونے کے اپنی نافرمانی پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ کافی ڈھیل دیتا ہے۔

اے خدا قربانِ احسانت شوم! این چہ احسان است قربانت شوم
اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع اور غیر محدود ہے کہ اس کی حکمت کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو علم انبیاء علیہ السلام کو ملا تھا وہ سب عطائی تھا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔ کائنات کی سب چیزیں حادث ہیں۔ یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہے زندہ کرے اور جسے چاہے موت دے۔ وہ ہر موجود کو سُنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے۔ وہ غیب یا شہادت سب کو جانتا ہے۔ جو کچھ انسان دنیا میں کرنے والا تھا۔ ویسا ہی خدا نے اپنے علمِ ازلی کی وجہ سے لکھ لیا ہے۔ یہ بطور حکم کے نہیں کہ جیسا اُس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جو نیکی کرنے والا تھا۔ اس کے لئے نیکی لکھی گئی اور جو برائی کرنے والا تھا اس کے لئے برائی لکھی گئی۔ لہذا اللہ کے علم یا اُس کے لکھ دینے نے کسی کو عمل میں مجبور نہیں کر دیا۔ اللہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے۔ ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والی کو ذلیل کر دے۔ جس کو چاہے راہِ راست پر چلائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے فعل کے لئے غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جو کچھ کرتا ہے وہ ہر حالت میں ہماری بہتری کے لئے ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ راضی برضا رہیں۔ معدوم کو موجود کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ قادرِ مطلق ہے۔ اُس کی رحمت

قواعد کی پابند نہیں۔ وہ چاہے تو سخت گنہگار کو بھی بخش سکتا ہے۔ چونکہ قوتِ ملکیہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک و بد کی تمیز عطا کر رکھی ہے اور اپنے احکام سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ لہذا ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم دینی زندگی احکامِ شریعت کے مطابق گزاریں اور ہمیشہ اُس سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں اور خاتمہ بالخیر کی بھی دعا ہمیشہ کرتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو معاملہ فرمائے عین عدل ہے یا فضل۔ ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ ہم پر فضل نہ کرے تو ہماری ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تمام اشیاء و مخلوق کی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی سے ہی قائم ہے۔ ہر ذی روح و غیر ذی روح کا پروردگار وہی ہے حق تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں یعنی لامتناہی اور غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قیاس مخلوق پر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی پیدا کردہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے سورۃ فاتحہ جسے اُمّ الکتاب کا نام دیا گیا ہے اور صفاتِ کمالیہ سے متصف ہے یہ مبارک سورت اللہ تعالیٰ نے آدمی اپنی ذاتِ پاک کے لئے اور آدمی انسان کے لئے نازل فرمائی جو اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے اور اپنی نوازشات سے مستفید ہونے کے لئے انسان کو صراطِ مستقیم کے لئے دعا کا حکم دیا ہے۔

خداوندِ عالم ہے سب سے بڑا ہے زیبا اُسے کبریائی سدا

سورۃ فاتحہ میں لفظ ”مالکِ یومِ الدین“ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی شانِ کبریٰ کی دو مبارک صفات یعنی الرحمن الرحیم بیان فرمائی ہیں لہذا مومنوں کو پر اُمید رہنا چاہیے کہ غفار الذنوب روزِ قیامت اُن پر اپنی رحمت کا استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود اور لامتناہی ہے اور قواعد کی پابند نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنی گرفت پر روزِ ازل سے ہی غالب کر رکھا ہے۔

خدا ہے کہ نہیں ہے؟

یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے یہ برق یہ باراں یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے

یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے

اب سوچ مرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے

یہ چاند یہ سورج یہ ستارے ہیں سفر میں یہ بحر یہ امواج یہ دھارے ہیں سفر میں

فطرت کے دلاویز نظارے ہیں سفر میں ان کا بھی کوئی راہنما ہے کہ نہیں ہے

اب سوچ مرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے

یہ دانے کے سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے یہ سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دیا کس نے

یہ قطرہ نیساں میں گہر رکھ دیا کس نے یہ معجزہ ربّ علی ہے کہ نہیں ہے

اب سوچ مرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے

پھیلے ہوئے ہر سمت کمالات ہیں کس کے یہ لوح و قلم ارض و سموات ہیں کس کے

تا حدِ نظر مثبت نشانات ہیں کس کے احساسِ تجھے اس کا ذرا ہے کہ نہیں ہے

اب سوچ مرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے

کس ذات کا قبضہ ہے زمیں اور زماں پر . قدرت ہے کسے موت کے اسرارِ نہاں پر
ہے کس کی نظر زیست کے دریائے رواں پر اس ڈور کا بھی کوئی سرا ہے کہ نہیں ہے

اب سوچ مرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے

کس ذات کا لہروں کی زباں پر ہے وظیفہ کس ذات کی ہیبت کا سمندر ہے صحیفہ
کس ذات نے انساں کو بنایا ہے خلیفہ اے کور نظر دیدہ وا ہے کہ نہیں ہے

اب سوچ مرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے

یہ وادیاں یہ کوہ و بیابان ہیں کس کے کس کے ہیں یہ گلزار یہ میدان ہیں کس کے
یہ بحر، یہ بر، تابع فرمان ہیں کس کے نظروں میں تری ارض و سما ہے کہ نہیں ہے

اب سوچ مرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے

یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا حسی نعمتوں میں سے تین نعمتیں ایسی قیمتی ہیں کہ جن کے بغیر کسی ذی روح کا گزارا نہیں اور
اتنی عام ہیں کہ ہر ذی روح (خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان، جانور ہو یا کوئی بھی مخلوق، ہر ایک) کو بغیر کسی محنت و مشقت کے حاصل ہیں
لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے کیونکہ مفت میں مل رہی ہیں اور اتنی عام ہیں کہ ہر کسی کو مل رہی ہیں۔ اس بارے میں مندرجہ
ذیل نکات پر غور کر کے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لیا
جائے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی حفاظت کے لئے کیسے کیسے اہتمام فرمائے اور انسانوں نے اللہ کی مخلوق کو برباد کرنے کے لئے کیا کیا
انتظام کئے۔

پانی کی نعمت:

پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسی سے ہر شے (جاندار) کو بنایا گیا۔ (و جعلنا من الماء کل شیء حتی .
القرآن) اسی پانی پر ہی نہ صرف انسان کی زندگی بلکہ بے جان زمین کی زندگی کا دار و مدار بھی ہے۔ (من نزل من السماء ماء
فاحیاء بہ الارض بعد موتھا . القرآن)۔

دیکھو فصل زمین سے اُگتی ہے مگر اس کے اگنے کا سبب (پانی) چونکہ آسمان سے اترتا ہے لہذا ہمارے رزق کی نسبت آسمان کی
طرف کی گئی۔ (و فی السماء رزقکم . القرآن)

پانی چاہے ہم کنویں سے نکالیں، نلکے، دریا یا نہر سے بہر حال اترتا آسمان سے ہی ہے۔ (هو الذی انزل من السماء ماء
طهورا . القرآن) جس کو زمین اور پہاڑوں نے انسانی ضرورتوں کے لئے اللہ کے حکم سے ذخیرہ کر لیا اور نہ اگر ہمیں ایک ہی بار
ساری زندگی کے لئے پانی دے دیا جاتا تو ہم کہاں سنبھالتے پھرتے اور چونکہ رب کہتے ہی اسے ہیں جو بتدریج اپنی مخلوق کی تربیت
فرماتا ہے اس لئے اللہ نے ہمیں ہر شے ہماری ضرورت کے مطابق مہیا کی ہے اسی طرح اگر ہمیں ساری زندگی کی خوراک ایک ہی
بار اکٹھی دے دی جاتی تو ہم اس کو کہاں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کے مطابق ہمیں ہر چیز عطا فرمائی اور ہمیں ہر شے

زمین سے نکالنے کا سلیقہ سکھادیا مثلاً پانی کو میں نے امانت کے طور پر تمہارے لئے زمین کے سپرد کر دیا ہے۔ کنویں، نلکے اور ٹیوب ویل کے ذریعے حسب ضرورت نکالتے رہنا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قل اراء یتیم ان اصبح ماء کم غور افمن یاتیکم بماء معین . (الملك)

”آپ فرمادیجئے! بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو (بجائے زمین سے اوپر نکالنے کے زمین کے نیچے) دھنسا دیتا تو کون ہے (اللہ کے سوا) جو تمہیں بہتا پانی عطا کرتا؟“

کاش ذہن و ضمیر پر میرے
کاش مجھ کو رنجت کا چہرہ
ہر بھلائی کا بھید ہو یا رب
حشر کے دن سفید ہو یا رب

(منظر دارٹی)

یاد رکھو! اگر اس پانی کو ہم خود مشکوں، تالابوں میں ذخیرہ کرتے تو یہ بدبودار ہو جاتا اور استعمال کے قابل نہ رہتا۔ اس پانی کی کیا اہمیت ہے؟ اس بارے میں کسی مسلمان مفکر کا نہیں بلکہ ایک عیسائی مفکر کا تجزیہ ملاحظہ کیجئے۔

پانی کی اہمیت اور مصنوعی بارش:

آج کل خدائی بارش کے مقابلے میں مصنوعی بارش بھی شروع ہو گئی ہے کہ سمندر کو کونلے کے ذریعے بھاپ بنا کر پھر اسی بھاپ کو بارش بنا کر برسایا جاتا ہے، اگرچہ اسرائیل نے یہ تجربہ کیا مگر ناکام رہا، کیونکہ یہ مصنوعی بارش سینکڑوں بیماریوں کا باعث بنی جبکہ خدائی بارش تو ہزاروں بیماریوں سے شفا کا مژدہ جانفزا لے کر اترتی ہے۔ (وانزلنا من السماء ماء مبارکاً۔ القرآن)

لیکن یہ مصنوعی بارش باوجودیکہ بیماریوں کا باعث تھی مگر کتنی مہنگی پڑی؟ (انگریز لکھتا ہے کہ) ایک ملک پر صرف دس منٹ کی بارش برسائی ہو (جس سے زمین پوری طرح تر بھی نہیں ہوگی) تو صرف کونلے کا خرچہ (بغیر نقل و حمل اور مزدوری کے اخراجات کے) نوے کھرب ٹن کونلے چاہیے جسکی متوسط قیمت (آج سے کئی سال پہلے) چھ سو تیس کھرب ڈالر ہے (جس کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ) پاک و ہند میں جتنا تیس ہزار سال میں کمایا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ خرچہ ہوگا یعنی تیس ہزار سال بھوکے مرو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ پہنو، نہ پڑھو پڑھاؤ۔ صرف کھاتے ہی رہو اور دس منٹ کی سینکڑوں بیماریوں والی بارش کروالو۔

سبحان اللہ! یہ اللہ ہی ہے جو پورا پورا مہینہ مفت میں بارش برساتا رہتا ہے اور کبھی کسی نیک بندے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو ہفتہ ہفتہ بارش ہوتی رہتی ہے جس سے خدا کے مقبول بندے کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی آسانی کے ساتھ لگایا جاسکتا ہے۔

یہ اندازہ بھی ایک انسانی ذہن کا ہے اصل حقیقت پھر بھی خدا ہی جانتا ہے۔ (قتل الانسان ما اکفره)

لطیفہ: کہتے ہیں ایک مرتبہ فرعون کو لوگوں نے کہا: تو کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بارش نہیں ہو رہی ذرا مہربانی کر۔ اس نے شیطانوں کو عرض کیا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میری خدائی تو خطرے میں پڑ جائے گی۔ بڑے شیطان نے کہا: تو فکر نہ کر۔ میں نے اگر تجھے اس دعوے پر تیار کیا ہے تو تیرا یہ مطالبہ بھی پورا کر دوں گا۔ چنانچہ شیطان نے تمام ”مطلوگڑوں“ کو اکٹھا کیا اور اوپر جا کر سب نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اور اس طرح ”بارش“ تو ہو گئی لیکن ہر طرف بدبو ہی بدبو

پہل گئی۔ لوگ پھر فرعون کے پاس آئے اور کہا: یہ کیا مصیبت ہے؟ اس طرح کی بارش پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ فرعون نے اپنے آقا (شیطان) کی خدمت میں عرض کیا تو شیطان نے جواب دیا: ”جیسا تو خدا ہے ویسی میں نے بارش کروادی۔“

إِلٰهِی لَا یَطِیْبُ اللَّیْلُ إِلَّا بِمُنَاجَاتِكَ
وَلَا یَطِیْبُ النَّهَارُ إِلَّا بِطَاعَتِكَ
وَلَا تَطِیْبُ الدُّنْیَا إِلَّا بِذِکْرِكَ
وَلَا تَطِیْبُ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤُوتِكَ

(یحییٰ بن معاذ رازی)

روشنی کی نعمت:

دوسری بڑی قیمتی اور بڑی عام نعمت جس کی ہم قدر نہیں کرتے روشنی ہے اگر یہ نہ ہو تو نہ کوئی کام ہو سکے (لکھائی پڑھائی، غذا خوراک، چلنا پھرنا الغرض ہر کام دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے اور دیکھنا روشنی پر موقوف ہے اندھیرے میں کوئی کیا کام کرے گا بمطابق ”اتناں مارے انھی نوں کسن لگے تھی نوں“ (اندھا اندھی کو مارے گا تو مکا ستون کو ہی لگے گا) بہر حال امریکہ کا ایک دن کا بجلی کا خرچہ (آج سے پچیس سال پہلے) چونتیس کروڑ ڈالر تھا، پوری دنیا میں بجلی کا خرچہ کیا ہوگا اس کا اندازہ لگا لو ایک انگریز نے لکھا ہے پوری دنیا میں جو بجلی صرف ہوتی ہے اگر کسی آلے سے اس کو تولا جائے تو کل وزن ۱/۴ اچھٹا تک بنتا ہے (سوا تولہ) اور سورج کی صرف وہ روشنی جو زمین پہ آتی ہے وہ اس کی کل روشنی کا ۱/۲ سو کروڑواں حصہ ہے (یعنی سورج کی روشنی کے دو سو کروڑ حصے کرو تو صرف ایک حصہ زمین کی طرف آتا ہے) جس کا وزن چار سوا سوا (۴۸۰) من ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مُفْت عطا فرما رکھی ہے اور اس کی قیمت کے بارے میں انگریز نے لکھا ”موجودہ ساری دنیا اگر دس کروڑ گنا ہو جائے تو پھر بھی اس کی قیمت علمے برابر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ساری بجلی سوا تولہ جس سے لوڈ شیڈنگ نکالو تو باقی ایک تولہ رہ جائے اور اگر مہینے بعد بل ادا نہ کرو تو میٹر کٹ جائے اور اگر ادا کرو تو غریب بندے کے بچے بھوکے مرجائیں۔ لیکن سبحان اللہ! اللہ نے ہم سے بل کیا مانگا ہے؟ لئن شکرتم لا زیدنکم۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اور میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیتا رہوں گا بس یہی اس کا بل ہے یاد رہے کہ سورج زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے۔

جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز کیس تیری غذا کے واسطے

چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے یہ سب کچھ ہے تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے

دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا حُبّ حبیب کبریا کے واسطے

اگر اللہ تعالیٰ بغیر شکر کے ہمیں اتنا کچھ عطا فرما رہا ہے تو شکر ادا کرنے پر ہمیں کیا کیا عطا فرمائے گا؟ کیونکہ لا زیدنکم۔ میں

تین تاکیدیں بھی ہیں شروع میں لام تاکید کا اور نون مشدد (ثقیلہ) میں دو تاکیدیں ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد

ہے سوچنے کی بات اسے بار بار سوچ

ہوا کی نعمت:

ہوا کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس طرح لگا لو کہ اگر چند لمحے ہوا میٹر نہ ہو تو ہر ذی روح کی موت واقع ہو جائے کیونکہ

سائنس لینا ہی ہو اور موقوف ہے ہوا اندر نہ جائے پھر بھی موت، باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، تو ہر سائنس پر دو نعمتیں ایسی مل رہی ہیں کہ جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسی لئے فرمایا: وان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها۔ جب تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو شکر کیا ادا کرو گے؟ سائنسدانوں کے مطابق ہر انسان کو زندہ رہنے کے لئے چودہ ہزار گیلن ہوا درکار ہے۔ یہی پٹرول والی گیلن اور ہوا پٹرول سے زیادہ مہنگی ہونی چاہیے کیونکہ پٹرول سے صرف چند افراد کی گاڑی چلتی ہے اور ہوا سے ہر جاندار کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے زندگی ہوگی تو وہ گاڑی چلے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ گلستان میں کیا خوب فرمایا ہے:

منت مر خدائے راعزوجل کہ طاقش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت۔ ہر نفسے کہ فرو میرود مد حیات است و چوں برے آید مفرح ذات پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است اور ہر نعمتے شکرے واجب۔

از دست وزباں کہ بر آید کز عہدہ شکرش بدر آید

اعملوا ال داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔

بندہ ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد

ورنہ سزاوار خداوندیش کس نتواند کہ بجا آورد

بارانِ رحمت بے حسابش ہمہ جار سیدہ وخوانِ نعمت بے دریغش ہمہ جا کشیدہ۔ پردہ ناموس بندگاں بگناہ فاحش ندر دو وظیفہ روزی بھٹائے منکر نبرد۔

اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبرو تر سا وظیفہ خور داری

دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ با دشمنان نظر داری

فراش باد صبارا گفتہ تا فرش زمردیں بگستر اند و دایہ ابر بہاری را فرمودہ تا بنات نبات را در مہد زمین بہ پروراند و درختاں را بخلعت نوروزی قبائے سبز ورق در برگرفتہ و اطفال شاخ را بقدم موسم ربیع کلاہ شگوفہ بر سر نہادہ عصارہ نخلے بقدرت او شہد فائق شدہ و تخم خرمائے بتربیت او نخل باسق گشتہ۔

ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کار اند تا تو تانے بکف آری و بغفلت نہ خوری

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نبری

ترجمہ: اس خدائے بزرگ و برتر کا احسان ہے (وہی احسان کے لائق ہے) کہ جس کی بندگی نزدیک کی کو واجب کرنے والی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی نزدیکی کا سبب ہے اور اس کا شکر ادا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے جو سائنس کہ اندر جاتا ہے زندگی کو بڑھانے والا ہے یعنی مددگار ہے اور جب وہ باہر آتا ہے ذات کو یعنی روح کو فرحت بخشنے والا ہے۔ پس ہر سائنس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور اس کی ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔

ترجمہ شعر: کس کے ہاتھ اور زبان سے یہ کام پورا ہو کہ اس کے شکر کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے یعنی یہ بات ناممکن ہے کہ بندہ پر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا جتنا شکر واجب ہے وہ ادا کر سکے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ قرآن مجید میں

فرماتا ہے: اے آلِ داؤد! تم شکر کیا کرو کیونکہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔

ترجمہ قطعہ ۱: وہی بندہ بہتر ہے جو کہ اپنی کوتاہی کا عذر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے ورنہ اس کی خداوندی کے لائق کوئی شخص بھی شکر نہیں بجالا سکتا۔

اس کی رحمت کی بارش بے حساب سب کو پہنچتی اور اس کی نعمت کا دسترخوان بے دریغ (بے محروم کیے) سب جگہ بچھا ہوا ہے، بندوں کی عزت کا پردہ بڑے سے بڑے گناہ پر چاک نہیں کرتا، اور مقررہ روزی کسی بڑی سے بڑی خطا پر بھی بند نہیں کرتا۔

ترجمہ قطعہ ۲: اے وہ کریم کہ تو اپنے غیب کے خزانہ سے آگ کی پوجا کرنے والوں اور عیسائیوں (تین خدا ماننے والوں) کو وظیفہ خوار (روزی کھانے والا) رکھتا ہے یعنی برابر مقررہ روزی دیتا رہتا ہے اپنے دوستوں کو کب محروم کرے گا جبکہ تو دشمنوں پر بھی نظرِ کرم رکھتا ہے۔

بادِ صبا کے فراش (فرش بچھانے والے) کو حکم ہوا تو اس نے سبز رنگ کی گھاس کا فرش بچھا دیا، ابر بہار کی دایہ یعنی بہار کے بادل کو حکم ہوا تو اس نے گھاس کی بیٹیوں یعنی گھاس کو زمین کے گہوارے میں پالا، درختوں کو موسم بہار آتے ہی نوروز کے قیمتی جوڑے سے خلعت پہنائی اور موسم بہار کی آمد کی خوشی میں شاخوں کے سروں پر غنچوں کی ٹوپیاں رکھیں، مکھیوں کے منہ کا نچوڑا ہوا اس کی قدرت سے اعلیٰ درجہ کا شہد بن گیا اور چھوڑے کی گٹھلی اس کی تربیت سے تناور درخت ہو گئی۔

ترجمہ قطعہ ۳: ہوا، بادل، چاند، سورج اور آسمان سب تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو روٹی ہاتھ میں لائے اور اس کو غفلت کے ساتھ نہ کھائے (سب تیرے لئے حیران و سرگردان و پریشان ہیں اور تیری اطاعت کر رہے ہیں) تو پھر یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ تو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری نہ کرے۔

معزز حضرات! یہ تو صرف تین نعمتوں کے بارے میں تفصیل تھی اگر اسی طرح ہر نعمت کے متعلق لکھا جائے تو پوری کتاب مرتب ہو جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم لکھ لکھ کر ٹوٹ جائیں اور کہنا پڑے کہ تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا جن کو **وَاللّٰی اِنَّمَا یُنۡزِلُ الرِّیۡسَ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ** سے بڑی نعمت وصول کرتے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں کس قدر **مَنْ یَّهۡتَکُمۡ مِّنۡہُمۡ یَّجۡزِئۡہُمۡ** وہ لوگ تفسیری و سائنسی نکتہ تو حید:

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **وَجَعَلۡ خَلۡلَہَا اَنۡہَرَا وَجَعَل لِّہَا رِوَاسِی وَجَعَل بَیۡنَ البَحَرِیۡنِ حَاجِزَا**۔ (انمل: ۶۰)

”بھلا زمین کو کس نے بنایا ہے ٹھہرنے کی جگہ اور جاری کر دیں اس کے درمیان نہریں اور بنا دیے زمین کے لئے (پہاڑوں کے) لنگر اور بنا دیے دو سمندروں کے درمیان پردے“۔

مندرجہ بالا آیات کریمہ میں قرآنِ معنی مستقر ہے یعنی ٹھہرنے کی جگہ جہاں مخلوق آباد ہے اور اپنی زندگی چین و آرام اور خوشی و مسرت سے گزار رہی ہے قرآن کے ایک لفظ میں آپ جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شانِ ربوبیت کے ان گنت

کرشمے آپ کو یہاں سمٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسانی زندگی کی بقا اور نشوونما کے لئے زمین میں کن خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر موجود نہ ہوں تو انسانی زندگی ان رعنائیوں اور مسرتوں سے یکسر خالی ہو جس سے اب اس کا دامن معمور ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا سراغ نہ لگایا جاسکے تو ایجاد و اختراع کی بے پناہ قوتیں جو اس کی فطرت میں مضمر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بے کار پڑی رہیں۔ ان تمام وسائل اور اسباب کی بہم رسانی کے بعد ہی انسانی زندگی کو بقا اور نشوونما نصیب ہو سکتی ہے۔ غرضیکہ قرار کے لفظ میں آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے معارف و معانی کا ایک لامتناہی سلسلہ آپ کے سامنے بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں میں نیویارک سائنس اکیڈمی پریزیڈنٹ اے۔ سی مورسین کے مضمون کا ایک مختصر اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے آپ پر امن جعل الارض قرار کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا۔

”زمین اپنے محور پر ایک میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار ایک ہزار میل کی بجائے ایک سو میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتیں کہ زندگی کی اگر کچھ رقمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجہ حرارت بارہ ہزار ڈگری فارن ہیٹ ہے لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اتنی ہی پہنچتی ہے جو حیات بخش ہے اور اگر سورج کا درجہ حرارت بارہ ہزار ڈگری کی بجائے چھ ہزار ڈگری ہوتا تو گرہ زمین برف کے نیچے دب جاتا اور اگر اٹھار ہزار ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ زمین کا ٹھکاؤ تیس درجے کا زواہ بنا تا ہے۔ اسی ٹھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب و تقوں کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے بلکہ صرف پچاس میل ہوتی تو سمندروں میں مدوجزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کر لے جاتا اگر زمین کی سطح موجود سطح سے صرف دس فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور زوئے زمین پر کوئی سبز پتہ نظر نہ آتا۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کارخانہ ہستی اتفاقاً معرض وجود میں نہیں آ گیا بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ورنہ زندگی کا کوئی امکان نہ تھا۔“ (ضیاء القرآن جلد اول، الانعام: ۷۳ کا حاشیہ وزیر آیت مندرجہ بالا)

اس قدر مجھ کو وسعتیں دے دے

بچ ہو میرے سامنے دنیا

اور زمیں بھر کے رحمتیں دے دے

میرا دامن بھی ہو زمیں جتنا

اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور سائنسی نکتہ

مذکورہ آیت کی تفسیر میں ایک دوسرے مفسر نے جو کچھ لکھا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں:

”زمین کا اپنی بے حد و حساب مختلف النوع آبادی کے لئے جائے قرار ہونا بھی کوئی سادہ سی بات نہیں۔ اس کرہ خاکی کو

جن حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، ان کی تفصیلات پر آدمی غور کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مناسبتیں ایک حکیم و دانا قادرِ مطلق کی تدبیر کے بغیر قائم نہ ہو سکتی تھیں۔ یہ گرہ فضائے بسیط میں معلق ہے، کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود اس میں کوئی اضطراب اور اہتزاز نہیں ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی اہتزاز ہوتا، جس کے خطرناک نتائج کا ہم کبھی زلزلہ آجانے سے باسانی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ تھی۔ یہ کرہ باقاعدگی کے ساتھ سورج کے سامنے آتا اور چھپتا ہے جس سے رات اور دن کا اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایک ہی رخ ہر وقت سورج کے سامنے رہتا اور دوسرا رخ ہر وقت چھپا رہتا تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی کیونکہ ایک رخ کو سردی اور بے نوری نباتات اور حیوانات کی پیدائش کے قابل نہ رکھتی اور دوسرے رخ کو گرمی کی شدت بے آب و گیاہ اور غیر آباد بنا دیتی۔ اس کرہ پر پانچ سو میل کی بلندی تک ہوا کا ایک کثیف ردّ اچڑھا دیا گیا ہے جو شہابیوں کی خوفناک بمباری سے اسے بچائے ہوئے ہے۔ ورنہ روزانہ دو کروڑ شہاب، جو ۳۰ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف گرتے ہیں، یہاں وہ تباہی مچاتے کہ کوئی انسان، حیوان یا درخت جیتا نہ رہ سکتا تھا۔ یہی ہوا درجہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے، یہی سمندروں سے بادل اٹھاتی اور زمین کے مختلف حصوں تک آبِ رسانی کی خدمت انجام دیتی ہے اور یہی انسان اور حیوان اور نباتات کی زندگی کو مطلوبہ گیسوں فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ ہوتی تب بھی زمین کسی آبادی کے لئے جائے قرار نہ بن سکتی۔ اس کرے کی سطح سے بالکل متصل وہ معدنیات اور مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء بڑے پیمانے پر فراہم کر دیئے گئے ہیں جو نباتی، حیوانی اور انسانی زندگی کے لئے مطلوب ہیں۔ جس جگہ بھی یہ سرد سامان مفقود ہوتا ہے وہاں کی زمین کسی زندگی کو سہارنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس کرے پر سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، چشموں اور زیر زمین سوتوں کی شکل میں پانی کا بڑا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے اور پہاڑوں پر بھی اس کے بڑے بڑے ذخائر کو منجمد کرنے اور پھر پگھلا کر بہانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس تدبیر کے بغیر یہاں کسی زندگی کا امکان نہ تھا۔ پھر اس پانی، ہوا اور تمام اُن اشیاء کو جو زمین پر پائی جاتی ہیں، سمیٹے رکھنے کے لئے اس کرے میں نہایت ہی مناسب کشش رکھ دی گئی ہے۔ یہ کشش اگر کم ہوتی تو ہوا اور پانی، دونوں کو نہ روک سکتی اور درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا کہ زندگی یہاں دشوار ہو جاتی۔ یہ کشش اگر زیادہ ہوتی تو ہوا بہت کثیف ہو جاتی، اس کا دباؤ بہت بڑھ جاتا، بخارات آبی کا اٹھنا مشکل ہوتا اور بارشیں نہ ہو سکتیں، سردی زیادہ ہوتی، زمین کے بہت کم رقبے آبادی کے قابل ہوتے، بلکہ کششِ ثقل بہت زیادہ ہونے کی صورت میں انسان اور حیوانات کی جسامت بہت کم ہوتی اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا کہ نقل و حرکت بھی ان کے لئے مشکل ہوتی۔ علاوہ بریں، اس کرے کو سورج سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے جو آبادی کے لئے مناسب ترین ہے۔ اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا تو سورج سے اس کو حرارت کم ملتی، سردی بہت زیادہ ہوتی، موسم بہت لمبے ہوتے، اور مشکل ہی سے یہ کرہ آبادی کے قابل ہوتا اور اگر فاصلہ کم ہوتا تو اس کے برعکس گرمی کی زیادتی اور دوسری بہت سی چیزیں مل جل کر اسے انسان جیسی مخلوق کی سکونت کے قابل نہ رہنے دیتیں۔

یہ صرف چند وہ مناسبتیں ہیں جن کی بدولت زمین اپنی موجودہ آبادی کے لئے جائے قرار بنی ہے۔ کوئی شخص عقل رکھتا ہو اور ان امور کو نگاہ میں رکھ کر سوچے تو وہ ایک لمحہ کے لئے بھی نہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی خالق حکیم کی منصوبہ سازی کے بغیر یہ مناسبتیں محض ایک حادثہ کے نتیجے میں خود بخود قائم ہو گئی ہیں، اور نہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس عظیم الشان تخلیقی منصوبے کو بنانے اور رد و عمل لانے میں کسی بھی مخلوق کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ (ابوالاعلیٰ موودوی: تفہیم القرآن)

تو کشتی امید ڈبونے نہیں دیتا
سائے میں ترے رحم کے ہے مجھ سا گناہ گار
مایوس کسی حال میں ہونے نہیں دیتا
اے مالک و مختار دانا و خبردار

وجودِ باری تعالیٰ پر استدلال کا سلسلہ

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے ذرہ ذرہ میں اپنی ذات اور صفات پر علامات اور نشانیاں رکھیں، پھر انسان کی عقل میں ایسا نور پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ ان نشانیوں میں سے صاحب نشان تک پہنچ سکے۔ معرفت عقل کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی طرف عقل انسانی کی رہنمائی کی وجود باری پر ٹھوس شواہد اور ثبوت مہیا کیے۔ آسان، سادہ اور فطری دلیلوں سے انسانی ذہن کو مسخر کیا اور اعجاز آفرین بیان سے انسان کے دل و دماغ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بارگاہ الوہیت کے سامنے تصدیق و تسلیم کے سامنے بے اختیار جھک گیا۔

نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے کتب اور صحائف بھی نازل کیے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کی معرفت کے علاوہ انسان کی اخروی سعادت اور اس کی دنیاوی زندگی کے لئے ایک جامع اور مربوط نظام کے اصول اور قواعد بیان فرمائے۔

اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے اور قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کو شیطان کی زہر آفرینیوں سے ضائع کر دے۔ وہ ہر زاویے اور ہر رخ سے انسان کو اپنی طرف بلا تا ہے۔ سورج کی طلوع و غروب، گردش لیل و نہار، موت و حیات کے حدوث اور تکلیف و راحت کے توارد میں اس نے انسانی ذہن کی سوچ کے دھاروں کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑنے کے لئے ہدایت کا سامان کر رکھا ہے وہ آسمان و زمین کے حقائق و آثار اور بدلتے ہوئے حالات میں غور و فکر کی قوت دیتا ہے تاکہ کسی طور سے انسان کجروی سے باز آئے، اپنے خالق کو پہچانے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کے بے اندازہ لطف و کرم کے احسان سے ممنون ہو کر سجدہ سپاس بجالائے۔ ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر چند شواہد پیش کرتے ہیں۔

مجھ پہ باب کرم کھلے رکھنا
فاصلہ شرق و غرب کا رکھنا

اپنے در کا مجھے گدا رکھنا
اے خدا مجھ میں اور شیطان میں

استدلالات عقلیہ:

ہمارے مشاہدات اور تجربات سے یہ امر یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ ہر چیز اپنے وجود میں کسی علت اور سبب کی محتاج ہے

اور اس عالم آب و گل میں کوئی شے بغیر سبب کے ظہور پذیر نہیں ہوتی اور جب ہر ممکن کا ایک سبب ہوتا ہے اور اس سبب کا پھر کوئی سبب ہوتا ہے۔ علیٰ هذا القیاس۔ اگر یہ سلسلہ یونہی چلتا رہے تو اسباب اور مسببات کا ایک غیر متناہی سلسلہ لازم آئے گا، اور امور غیر متناہی کا سلسلہ عقلاً محال ہے۔ اس لئے لازماً ماننا پڑے گا کہ اسباب کا سلسلہ اخیر میں جا کر کسی ایسے سبب پر ختم ہو جاتا ہے جو اپنے وجود میں کسی اور سبب سے مستغنی ہے اور جب یہ وجود علت اور سبب سے مستغنی ہے تو ضروری ہوا کہ یہ وجود امکان اور احتیاج کے نقص سے پاک ہو کیونکہ ہر ممکن کسی سبب اور علت کا محتاج ہوتا ہے لہذا یہ وجود واجب قرار پایا جو بذاتہ موجود ہے اور تمام موجودات عالم کا موجد ہے۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اشیاء میں خواص ہوتے ہیں اور بغیر کسی سبب اور علت کے ان اشیاء سے وہ طبعی خواص اور آثار صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً پتھر کو اچھا لیے تو وہ بغیر کسی سبب اور علت کے اوپر سے نیچے کی طرف چلا آئے گا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کائنات اسی طرح بغیر کسی سبب کے اپنے طبعی تقاضوں سے وجود میں آئی ہو۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ آپ ایک درخت کی طرف دیکھیں اس کا تنا بھی لکڑی کا ہے اور جڑیں بھی لکڑی کی ہیں اور تنا اوپر کی طرف جاتا ہے اور جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ اب اگر لکڑی کی طبیعت کا تقاضا اوپر جانا ہے تو جڑیں نیچے کیوں جاتی ہیں اور اگر اس کا تقاضا نیچے جانا ہے تو تنا اوپر کیوں جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ لکڑی کی اپنی طبیعت کا تقاضا کچھ نہیں ہے بلکہ درخت کی لکڑی پر کسی اور ذات کا تصرف ہے اور اس قادر قیوم نے درخت کی ایک لکڑی کے جس حصہ کو چاہا اوپر اٹھا دیا اور جس حصہ کو چاہا نیچے جھکا دیا۔

مجھے ہی تو نے دیا اختیار لغزش بھی
مجھی پہ اپنی خلافت کا بوجھ بھی ڈالا
اتار کر میرے سینے میں آگہی کے چاند
بصیرتوں کا میرے گرد کھینچ دے ہالا

امام شافعی علیہ الرحمۃ کا عجیب استدلال:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہوت کے درخت کی سامنے کھڑے تھے۔ کسی نے ان سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے امام شافعی نے فرمایا: اس شہوت کے درخت کو دیکھ لو اس کے پتوں کو اگر بکریاں چریں تو دودھ حاصل ہوتا ہے اور شہد کی مکھی ان پتوں کو چاٹ لے تو شہد بنتا ہے۔ ریشم کا کیڑا ان پتوں کو کھالے تو اس سے ریشم حاصل ہوتا ہے اور اگر ہرن ان کو کھالے تو اس سے مشک حاصل ہوتا ہے اور ان چاروں چیزوں کے حقائق اور آثار مختلف ہیں اور شہوت کے پتوں کا تقاضا ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ طبیعت واحدہ کا تقاضا بھی واحد ہوتا ہے پس اگر ان پتوں کی طبیعت کا تقاضا دودھ ہے تو اس سے ریشم، شہد اور مشک کیسے حاصل ہوا اور اگر ان کی طبیعت کا تقاضا ریشم ہے تو ان سے مشک، شہد اور دودھ کس طرح حاصل ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ پتے اپنی ذات میں کسی چیز کا تقاضا نہیں رکھتے۔ اصل میں ان تمام اشیاء کا خالق اور موجد اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے وہ چاہے تو اس پتے کو بکریوں کے منہ میں ڈال کر ان سے دودھ نکال دے اور چاہے تو شہد کی مکھیوں سے ان پتوں کو چسوا کر ان کو شہد بنادے اور چاہے تو ہرن کو یہ پتے کھلا کر اس کو مہکتی ہوئی بباک میں تبدیل کر دے اور اگر چاہے تو ان پتوں کو ریشم کے کیڑوں کی خوراک بنا کر اس سے ریشم بنادے۔ اس کائنات کی حقیقتوں میں سے آپ جس حقیقت پر بھی غور کریں گے یہی منکشف

ہوگا کہ ہر حقیقت کے پیچھے اسی موثر حقیقی کا دستِ غیب کار فرما ہے اور بظاہر نظر آنے والے سارے اسباب ایک حجاب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔

☆ لیموں کو دیکھئے اس کا چھلکا گرم خشک ہوتا ہے اور اس کا گودا گرم تر ہوتا ہے اور اس کا عرق سرد خشک ہوتا ہے اور لیموں کے یہ تمام مختلف آثار اس کے واحد بیج میں ہوتے ہیں اور اس بیج کی طبیعت کا تقاضا بھی ایک ہونا چاہیے۔ لیکن اس بیج سے جب لیموں کا پھل پک کر سامنے آیا تو اس میں گرم خشک، گرم تر، اور سرد خشک سب قسم کے آثار موجود تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ موجودات طبعی آثار کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک زبردست حکیم مطلق اور قادرِ قیوم کی قدرت اور حکمت کا نتیجہ ہے کہ وہ چاہے تو گرم خشک بیج سے سرد تر پھل پیدا کر دے اور چاہے تو سرد تر بیج سے گرم خشک پھل کو وجود میں لے آئے۔

کس کی تعمیر و ترقی میں تیرا ہاتھ نہیں
لغزشِ پا کا تقاضا تو کوئی بات نہیں
روک لے گرتی فصیلوں کو سنبھالا تیرا
جو بہر حال نہ شا کر ہوں وہ کب ہیں تیرے
اور اندازِ کرم بھی ہے نرالا تیرا

پیداوار کا سلسلہ:

سلسلہ پیداوار کو دیکھئے ہم ایک دانہ گندم کو زمین میں دبا کر چلے آتے ہیں پھر وہ کون سی طاقت ہے جو اس دانہ گندم کو پھاڑ کر اس سے باریک کونہل نکالتی ہے اور وہ اس قدر باریک اور نازک ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو ہاتھ میں لے کر مسل ڈالیں تو ختم ہو جائے۔ پھر اس کونہل کو اس قدر شکتی اور قوت کون دیتا ہے کہ وہ سخت سے سخت زمین کا سینہ چیر کر زمین کے اندر جا کر اپنی مستحکم جڑیں بنا لیتی ہے۔ پھر شبنم کے قطرے اور نسیمِ سحر کے نرم و نازک جھونکے اس میں بالیدگی پیدا کرتے ہیں۔ سورج کی کرنیں اس میں پختگی لاتی ہیں اور وقت مقررہ پر ہونے والی بارشیں اس میں ہریالی پیدا کرتی ہیں۔ چاند کی کرنیں اس میں ذائقہ لاتی ہیں اور سورج کی تیز دھوپ اس فصل کا قوام تیار کر کے اسے مکمل کرتی ہے اور فصل کٹ جانے کے بعد تند و تیز آندھیاں دانہ کو بھوسہ سے الگ کرنے کے لئے اہم رول ادا کرتی ہیں۔

سو چئے زمین و آسمان کی یہ تمام قوتیں اگر ہماری فصلوں میں اپنا اپنا رول ادا نہ کرتیں تو کیا ہم زمین سے ایک دانہ گندم بھی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر بیج بونے سے لے کر فصل کی کٹائی تک اس مربوط نظام کو کون چلا رہا ہے۔ کیا کسی بے جان بت نے یہ نظام وضع کیا ہے یا نظامِ شمس کے پابند سیارے یہ نظام چلا رہے ہیں اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ عناصر کائنات میں سے کوئی چیز اس نظام کی واضع اور اس پیداوار کی خالق نہیں ہے اور نہ ہی یہ عقل باور کر سکتی ہے کہ کسی ناظم کے بغیر کوئی نظام عمل میں آجائے یا کسی مقنن کے بغیر کوئی قانون تشکیل پا جائے یا کسی خالق کے بغیر کوئی مخلوق وجود میں آجائے تو پھر کیوں نہیں مان لیتے کہ اس کائنات کے ماوراء ایک زبردست حکیم اور قادرِ قیوم کی ذات فرمانروا ہے جس کی عجیب و غریب حکمت اور زبردست طاقت سے زرعی پیداوار کا یہ سارا سلسلہ رواں دواں ہے۔ اسی لئے وہ فرماتا ہے۔

افرايتم ما تحرثون ء انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنہ حطاما فظلمت تفکھون انا لمغرمون بل نحن محرومون ○ (واقعہ: ۵۶)

”بھلا بتاؤ تو سہی تم جو کچھ زمین میں بو کر آتے ہو اس کو تم اُگاتے ہو یا ہم اُگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس فصل کو بالکل ملیا میٹ کر دیں اور تم کفِ افسوس مل کر یہ کہتے رہ جاؤ کہ ہم پر اچانک آفت آ پڑی یا ہم بالکل محروم ہو گئے۔“

ایک اور زاویہ سے دیکھئے کہ غلہ کی مختلف اجناس کا ہر سال ایک معین موسم میں پیدا ہونا اور پھلدار درختوں کی مختلف اقسام کا ہر سال اپنے اپنے موسم میں پھل لانا اور پھولوں سے لدے ہوئے پودوں اور درختوں میں ہمیشہ اپنے مقررہ ایام میں کلیوں کا کھلنا اور پھولوں کا مہکنا اور ہر نوع کے بیج سے اسی نوع کے پھل، پھول اور غلہ کا پیدا ہونا کیا ان تمام مقررہ اور منضبطہ امور سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ زرعی پیداوار کا یہ عظیم سلسلہ کوئی امر اتفاقی نہیں ہے اور نہ از خود بغیر کسی صانع کے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے اور نہ ہی یہ نظام وحدہ دشرکاء کی تخلیق کا مرہونِ منت ہے۔ بلکہ اس وسیع زرعی نظام کے پیچھے خلاقِ واحد کا دستِ قدرت کار فرما ہے جو فیاض اور جواد بھی ہے اور حکیم و قدر بھی۔

اگر کوئی شخص اس کے وجود یا اس کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ پھول ہمیشہ ایک موسم میں کیوں کھلتے ہیں۔ غلہ اور پھولوں کی پیداوار میں ہمیشہ ایک مخصوص موسم اور ماحول کا اعتبار کیوں ہوتا ہے اور گندم کے بیج سے چاول اخروٹ کے بیج سے انناس کیوں پیدا نہیں ہو جاتا۔ الحاد، شرک اور دہریت کی بنیاد پر کوئی شخص ان سوالوں کا معقول جواب نہیں دے سکتا اور جو شخص اپنی ذہنی توانائیوں کو ضائع نہیں کر چکا اس کو لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ زرعی پیداوار کے اس مربوط نظام میں تسلسل، انضباط اور باقاعدگی یونہی کوئی امر اتفاقی نہیں ہے۔ نہ متعدد شرکاء کی کوشش کا ثمرہ ہے۔ بلکہ زرعی پیداوار کا یہ وسیع اور پُر حکمت سلسلہ اس خلاقِ واحد کی قدرت، حکمت اور فیاضی کا منہ بولتا شاہکار ہے۔

اے عظیم العالمیں، اے قادرِ غیب و شہود
عالم کثرت ہے تیرے حُسن یکتا کی نمود

اے خدائے دو جہاں، اے مالکِ ہر ہست و بود
از مکاں تا لا مکاں، ہر سو تیرا عکس شہود

تخلیقِ انسانی اور اسرارِ پنہانی:

جب یہ ظاہر ہو چکا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا خود وہ انسان نہیں ہے۔ نہ اس کے ماں باپ اس کے موجد ہیں؛ کیونکہ دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ مردوزن کے اختلاط کے باوجود اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ دنیا کے دوسرے انسان اس کے موجد ہیں؛ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ آج تک کوئی انسان اپنے جیسا دوسرا انسان نہیں بنا سکا اور انسانی مراتب سے نیچے جو حیوانات اور اشجار اور دیگر اجسام کا عالم ہے وہ بھی اس کا موجد نہیں ہو سکتا؛ کیونکہ یہ عالم تو انسان سے ارذل اور اس کی اغراض کے تابع ہے، اور اسفل، اعلیٰ کا موجد کسی حال میں نہیں ہو سکتا اور انسان کے اوپر چاند سورج اور دیگر سیارگان کا جو عالم ہے وہ بھی اس کا موجد نہیں ہو سکتا؛ کیونکہ یہ تمام سیارے ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں اور ان کی گردش کی یہ یکسانیت بتلاتی ہے کہ یہ کسی کے بنائے ہوئے نظامِ عمل کے تابع ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس عالمِ امکان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے موجد ہونے کی

صالح اور دعویٰ دار ہو تو ضروری ہوا کہ انسان کا موجود جسم اور جسمانییت سے خارج اور امکان اور حدوث کے عیب سے پاک ہو۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس عالم اسباب میں انسان کی پیدائش مرد و زن کے اختلاط سے وجود میں آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہا السلام کو بغیر عورت کے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے انسان کی تخلیق کے لئے مرد اور عورت کے اختلاط کو ایک عام سبب ضرور بنایا ہے لیکن اس کی عظیم قدرت ان تمام اسباب سے بالاتر ہے وہ چاہے تو مٹی کے ایک ڈھیر سے حضرت آدم جیسے عظیم الشان نبی کی تخلیق کر دے اور وہ چاہے تو نطفہ کی ایک حقیر بوند سے انسانوں کی پیدائش کا ایک لامتناہی (یعنی لا تقف عند حد۔ جو دراصل متناہی بالفعل ہے) سلسلہ شروع کر دے۔

اب سوچئے کہ نطفہ کی ایک بے جان بوند سے یہ جیتا جاگتا انسان کس طرح وجود میں آ گیا۔ عملی تحقیقات اور سائنس کے روز افزوں تجربات کے باوجود سائنس دان آج تک کسی بے جان مادے سے کسی جاندار شے کو وجود میں نہیں لاسکے۔ اب تک جو ثابت ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ نطفہ جو ہر حیات تو ہے لیکن خود زندگی سے خالی ہے۔ پھر جو چیز خود حیات سے عاری ہو وہ ایک صاحب حیات کی موجود کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ بے جان نطفہ کی یہ بوند اپنے اندر علم و ادراک اور قوت و توانائی کا وہ جوہر رکھتی ہے جس سے وہ ایک مکمل انسان کی صورت گری پر قادر ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا انسان مکمل ہو جانے کے بعد اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے جسم کے بالوں میں سے کسی ایک بال کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کر سکے تو جب یہ انسان مکمل اور طاقت ور ہونے کے باوجود اپنے اندر تغیر و تبدل کی قدرت نہیں رکھتا تو جس وقت یہ ایک حقیر نطفہ کی بوند کی شکل میں تھا اس وقت یہ اپنے اندر تغیر اور نشوونما کی شکستگی کیسے رکھ سکتا تھا؟ اس لئے ماننا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق اور تصویر و تشکیل میں اسی خلاق واحد کا دستِ قدرت کار فرما ہے۔

دل کی دھڑکن کی طرح، احساس میں شامل ہے تو
سوچ کی پہنائیوں میں جلوہ فرما تو ہی تو

عشق کا مقصود و مقصد، حسن کا حاصل ہے تو
تو کتاب جاں کا عنوان، تو قلم کی آبرو

مقامِ غور ہے

انسان کی تخلیق اس کے نطفہ میں موجود ایک انتہائی باریک جراثیم سے ہوتی ہے اور جب مرد کا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچتا ہے تو یہ جراثیم عورت کے رحم میں کسی وقت اس نسوانی انڈے سے جا ملتا ہے جو اس جراثیم کی طرح انتہائی باریک ہوتا ہے پھر ان دونوں کے امتزاج سے ایک باریک خلیہ بن جاتا ہے اور یہی خلیہ حیاتِ انسانی کا نقطہ آغاز ہے اور اس خلیہ کا وجود میں آ جانا ہی استقرارِ حمل کی علامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس خلیے کو علقہ یعنی جے ہوئے خون کی شکل میں لاتا ہے پھر اس علقہ کو تدریجاً مضغہ یعنی گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل کرتا ہے پھر اس گوشت کے ٹکڑے کی صورت گری کی جاتی ہے اور گوشت کے اس ٹکڑے کو انسانی اعضاء کے قالب میں ڈھال دیا جاتا ہے اور اس کو مرد یا عورت کی ساخت عطا کی جاتی ہے۔ استقرارِ حمل کے چار ماہ بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے پھر عورت کے پیٹ میں اس کو غذا پہنچا کر اس کی جسامت بڑھائی جاتی ہے اور اس کے دماغ میں وہ تمام صلاحیتیں رکھی جاتی ہیں۔ جن کے سبب سے وہ آگے چل کر اپنی زندگی میں تعلیم و تربیت اور ماحول کے زیر اثر کسی ڈاکٹر، انجینئر،

سیاست دان، عالم دین، ولی کامل، تاجر یا ایک جاہل مزدور اور بد معاش غنڈے کی شخصیت میں معاشرے کے اندر ابھرتا ہے۔ انسانی تخلیق کے ان تمام مراحل میں انسان کا صرف اثنا کام ہے کہ وہ اپنے نطفہ کو عورت کے رحم تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نطفہ سے ایک خاص جرثومہ کونسووانی بیضہ سے کون ملاتا ہے پھر اس امتزاج کے نتیجہ کو پہلے علقہ پھر مضغہ کی شکل میں کون لاتا ہے۔ پھر اس مضغہ کو الگ الگ انسانی صورتوں کا لباس پہنا کر چار ماہ بعد اس میں روح کون پھونکتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے کہ اس شخص کو سلیم الاعضاء بنانا ہے یا محتاج اور اپاج پھر اس کے ذہن اور دماغ میں مختلف شعبوں کی الگ الگ صلاحیتوں کو کون رکھتا ہے اور نو ماہ تک ماں کے پیٹ میں اس کو مسلسل غذا اور نشوونما کا مادہ کون فراہم کرتا ہے کیا یہ تمام کام خود وہ عورت کرتی ہے یا کوئی ڈاکٹر اور حکیم اپنی ادویات سے اس عمل کو جاری رکھتا ہے یا پھر یہ کسی سائنسدان کا شاہکار ہے یا بے جان بت جو خود سے اہل بھی نہیں سکتے وہ نطفہ کی ایک بوند کو جیتا جاگتا انسان بنا دیتے ہیں پھر آخر یہ کس کا کارنامہ ہے کیا اب بھی عقل یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ خدائے واحد کے سوا ان افعال کا اور کوئی خالق نہیں ہے۔

اور اگر اب بھی کوئی شخص ڈھٹائی سے کہہ دے کہ خود بخود محض اتفاق سے یہ عمل ہو رہا ہے تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر تخلیق انسانی محض ایک اتفاقی حادثہ ہے تو اس میں ابتداء مرد اور عورت کے اختلاط کی قید کیوں ہے۔ محض ایک مرد یا صرف ایک عورت سے بچہ کیوں نہیں پیدا ہو جاتا اور تمام دنیا میں انسان کی پیدائش کے لئے ایک ہی ضابطہ کیوں مقرر ہے۔ ہمیشہ ایک مکمل بچہ پیدا ہونے کے لئے ایک مخصوص عرصہ کیوں درکار ہوتا ہے۔ لادینی اور دہریت کی بنیاد پر ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جا سکتا اس لئے اگر کوئی شخص عقل سے بالکل اندھا اور ہوش و حواس سے قطعاً عاری نہیں ہو چکا تو اسے لازماً کہنا پڑے گا کہ اس عالم کے ماوراء ایک قادر و قاہر ہستی ہے جو خلاق اور جواد ہے جس نے نسل انسانی کے ارتقاء کے لئے ایک سبب بنایا اور اس سبب میں اس قدر کشش رکھ دی کہ مرد اپنے شہوانی جذبات سے مغلوب ہو کر اپنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچا دے اور بس!

غور کیجئے جو بچہ پیٹ سے باہر آ کر ہوا کے ایک جھونکے اور دودھ کی چند چسکیوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ مسلسل نو ماہ تک ماں کے پیٹ میں ہوا، پانی اور خارجی غذا کے بغیر کیسے زندہ اور جیتا جاگتا رہا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور اس کی نشوونما کے لئے ہوا، پانی اور خارجی غذا مؤثر ہیں یا نہیں اگر ان چیزوں کا اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں تو دنیا میں انسان ان چیزوں کے بغیر کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ اور اگر یہ چیزیں اس کی حیات اور بقاء میں مؤثر ہیں تو ان کے بغیر وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح زندہ رہ سکا؟ معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق نہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ طبیعت اور فطرت کا تقاضا ہے بلکہ وہ خالصۃ اللہ عزوجل کا ساختہ پرداختہ ہے۔ ظاہری اسباب محض حجاب ہیں اور مؤثر حقیقی وہی خالق لم یزل ہے وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں خارجی ہوا اور غذا کے بغیر حیات اور روئیدگی دے دے اور چاہے تو پیٹ کے باہر خارجی ہوا اور غذا سے اس کو نشوونما عطا کر دے۔ وہ چاہے تو نطفہ کی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دے اور چاہے تو محض مٹی اور گارے سے ایک عظیم الشان انسان پیدا کر دے۔

کیا اس عالم رنگ و بو اور وسیع کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اپنی قدرت اور حکمت کے ایسے عجیب و غریب مظاہر دکھا سکے اور کیا اس صنایع فطرت کے ان عظیم کرشموں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ یونہی اتفاقاً

ہورہا ہے اور تو والد و تناسل کے اس باقاعدہ، متواتر اور مربوط نظام کے پیچھے کسی قادر و قیوم اور خلاق حقیقی کا ہاتھ کار فرما نہیں ہے۔

ضو فشاں تو دل بہ دل	موسم بہ موسم کو بہ کو
وجہ تسکین دلِ انساں	ہے تیری آرزو
نورِ نادیدہ ترا	پھر بھی نظر آتا ہے تو
لاکھ منکر ہو کوئی	روحوں میں در آتا ہے تو

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حیران کن استدلال:

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میں شطرنج کے کھیل سے بڑا متعجب ہوتا ہوں کہ یہ کھیل ایک مربع فٹ تختہ کے ۶۴ خانوں میں کھیلا جاتا ہے اور اگر ان خانوں میں لاکھ مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے تو ہر بار بازی مختلف ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اس سے کہیں زیادہ بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں کہ انسان کا چہرہ صرف باشت بھر کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارب ہا ارب بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ چہرے پیدا کیے لیکن کوئی چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا۔ کسی کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سے، ناک ناک سے، ہونٹ ہونٹ سے اور کان کان سے نہیں ملتے۔

اور میں کہتا ہوں کہ چہرہ تو بہت بڑا ہے انسان کے ہاتھ میں دو ڈھائی انچ کا انگوٹھا ہوتا ہے اور کسی ایک انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتیں بلکہ ایک ہی انسان کے دائیں انگوٹھے کی لکیریں بائیں انگوٹھے سے نہیں ملتیں۔ فتبارك الله احسن الخالقين۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سبحان ہے وہ ذات جس نے چربی کی ایک بوٹی سے دکھایا، نرم ہڈی سے سنوایا اور گوشت کے ایک ٹکڑے کو گویا کر دیا۔ جو لوگ انسان کو محض ایک اتفاقی حادثہ سمجھتے ہیں وہ اس بات کی کیا توجیہ کریں گے کہ انسان کے جسم میں ہر جگہ گوشت ہے۔ پھر بولنے کا خاصہ صرف زبان میں کیوں ہے اور کیوں ضروری ہے کہ دیکھنے کے لئے صرف آنکھیں مخصوص ہیں۔ جسم کے کسی اور حصہ کی چربی بینائی کا آلہ کیوں نہیں بن جاتی۔ اس لئے اگر کوئی شخص محض ہٹ دھرمی پر نہیں اتر آیا تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق نہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے۔ نہ کسی فطری ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے بلکہ وہ مکمل طور پر اس خلاق واحد کی قدرت اور حکمت کا حسین شاہکار ہے۔

تو وہی مسبودِ خلاق	تو ہی معبودِ حیات
تیرے پرتو سے فروزاں	ہے جمالِ کائنات
تیرے جلوے کے سوا	کس کو میسر ہے ثبات
حرف کے پیکر میں	ڈھل سکتے نہیں ترے صفات

شیر مادر سے استدلال:

جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے اور اس کی گود میں بچہ کھیلنے لگتا ہے تو اس کے سینے سے دودھ اتر آتا ہے جو غذا وہ پہلے کھاتی تھی اب بھی وہی غذا کھاتی ہے نہ غذا میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ کھانے والی میں کوئی تبدیلی ہوئی۔ پھر یہ دودھ کہاں سے آ گیا۔ اگر

یہ غذا کا اثر تھا تو کسی اور شخص کے کھانے سے اس کے سینے میں دودھ کیوں نہیں اُترتا اور اگر اس عورت کی خاصیت ہے تو بچہ کی پیدائش سے پہلے اس کے سینے سے دودھ کیوں نہیں نکلا۔ معلوم ہوا کہ یہ اثر نہ غذا کا ہے نہ غذا کھانے والی کا یہ صرف اس قادرِ مطلق کی کارفرمائی ہے جو رنگ برنگ ترکاریوں کو خون کی رنگت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس خون کو دودھ کی سفید دھاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی ایسا خارجی عمل نہیں جس کے ذریعہ ہم ماں کے سینے سے جاری ہونے والے دودھ کو روک سکیں۔ مبداءِ فیاض کے نزدیک جب تک بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کے سینے میں دودھ اتارتا رہتا ہے اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو دودھ کے جاری ہونے کا یہ سلسلہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے کیا انسان کے جسمانی نظام میں اللہ کی ذات اور اس کی حکمت اور قدرت کی یہ بہترین نشانیاں نہیں ہیں۔

جانوروں سے جو ہم دودھ حاصل کرتے ہیں یہ اس چارے سے حاصل ہوتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں۔ پھر جب جانوروں کی اوجھڑی میں یہ چارہ پہنچتا ہے تو اوجھڑی میں ہضم اول کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ اوجھڑی کے اوپر کے حصہ میں خون اور نچلے حصہ میں گوبر اور درمیانی حصہ میں دودھ کا قوام تیار ہوتا ہے اور اس کے قوام کو اللہ تعالیٰ ہضم کے مختلف مراحل سے گزارتا ہوا جانوروں کے تھنوں تک پہنچا دیتا ہے۔ دودھ کے نیچے گندگی اور غلاظت ہے اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا سیال خون دوڑ رہا ہے آخر وہ کون سی حقیقت ہی جو جانوروں کے پیٹ میں تصرف کر کے سرخ رنگ کے سیال خون اور بدبودار گوبر کے درمیان سے صاف سفید شیریں اور خوشبودار دودھ کو اس طرح باہر نکال لیتی ہے کہ نہ گوبر کا کوئی ذرہ اس میں داخل ہوتا ہے اور نہ خون کا کوئی قطرہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ کیا یہ صاف اور پاکیزہ دودھ اس خالق کائنات کی طرف اشارہ نہیں کرتا جو فرماتا ہے۔

ان لکم فی الانعام لعیبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغاً للشاربین ○

”ان جانوروں میں تمہارے لئے غور و فکر کا موقع ہے ہم تمہیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں

جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔“

دودھ کا یہ حصول چارہ کا طبعی خاصہ نہیں ہے ورنہ نہ جانور بھی یہی چارہ کھاتے ہیں اور ان سے دودھ کا کوئی قطرہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ یہ مادہ جانور ہی کی طبعی خصوصیت ہے ورنہ ایامِ حمل میں یا اس سے پہلے بھی وہ دودھ دیتی رہے نہ بچہ کی خصوصیت ہے کیونکہ بچہ کے مرجانے کے بعد بھی وہ ایک مدت معینہ تک دودھ دیتی رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں سے دودھ کے حصول کے نظام میں چارہ، جانور اور بچہ کوئی چیز مرکزی کردار ادا نہیں کرتی اس تمام مربوط نظام میں جو دودھ کے حصول کا سبب ہے وہ ایک ذات کار فرما ہے جو عالم کے ذرہ ذرہ میں اپنا تصرف فرما رہی ہے۔

تیری عظمت لفظ و معنی میں سما سکتی نہیں

اے کہ تیرے نور کا آئینہ ذاتِ مصطفیٰ

تو اگر چاہے تو ڈھل جائے اثر میں ہر دعا

کار ساز کار فرما ہر زخم کا مرہم ہے تو

عقل تیرے راز یکتائی کو پا سکتی نہیں

اے محبت کی تجلی اے محمد کے خدا

تو سوا سے ما سوا ہے تو وراء سے ما وراء

ہو نہ جن کا کوئی ان کا مونس و ہمدم ہے تو

جو غذا ہم کھاتے ہیں:

انسان جو غذا کھاتا ہے وہ اس کے معدہ میں چلی جاتی ہے اور وہاں اس کا ہضم اول شروع ہوتا ہے اس غذا کا جو صاف جوہر ہے وہ جگر کی طرف چلا جاتا ہے اور جو کثیف مادہ ہے وہ انٹریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر جگر میں ہضم ثانی ہوتا ہے اور صاف جوہر جگر میں جا کر سودا، صفراء، پانی اور خون بن جاتا ہے۔ پھر وہاں ان کی تقسیم شروع ہوتی ہے۔ صفراء پتہ کی طرف چلا جاتا ہے اور سودا تیلی کی طرف چلا جاتا ہے اور پانی گردہ کی طرف اور خون رگوں کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں ہضم ثالث کا عمل شروع ہوتا ہے اور حرارت غریزی سے اعضاء بدن کی جو صورت تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ خون ان اعضاء میں پہنچ کر اس کے عوض اس عضو کی نئی صورت مہیا کرتا ہے۔ سوچئے کیا یہ سب یونہی ہو رہا ہے۔ کھانے کے چند نوالوں سے جو خون گوشت اور ہڈیوں کی صورت نشوونما پارہی ہے کیا یہ کسی عظیم حکمت اور زبردست قدرت کے زیرِ انتظام نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح انسان کے جسم کی ساخت بنائی ہے اس میں متعدد کارآمد اعضاء رکھے ہیں پھر جو غذا ہم پانی اور کھانے کی شکل میں حاصل کرتے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ وہ ان تمام اعضاء کو ان کی مخصوص جگہوں پر پہنچاتا ہے اور جس عضو کو جتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو اتنی توانائی فراہم کرتا ہے اور اس طرح تدریجاً انسان کو اس کے طبعی ارتقاء تک پہنچاتا ہے آپ سوچئے کہ انسان کے جسم میں اس سارے نظام کو کون چلا رہا ہے کیا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا، یا کوئی مافوق الفطرت ہستی اس نظام کو چلا رہی ہے پھر وہ ہستی کیا سورج ہے، چاند ہے، پانی ہے، آگ ہے، پتھر ہے، جانور ہے انسان ہے کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خود کسی کے بنائے ہوئے نظام کے تحت سرگرم عمل ہیں اور اس نظام کی پابند ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ عناصر ہوں یا کواکب زمین کی پہنائیاں ہوں یا افلاک کی بلندیاں یہ سب ایک نپے تلے مقدر اور منضبط نظام کے تحت اپنے اپنے حصہ کا کام انجام دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس ذات نے ان تمام موجودات کو ایک نظام میں مربوط کیا ہوا ہے وہی ذات انسانی جسم کی ساخت اور اس کی نشوونما کی خالق اور مربی ہے۔ سورج اور چاند اسی کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں۔ دن اور رات کا سلسلہ اسی کے ارادے سے وجود میں آتا ہے۔ سمندروں میں طوفان اسی کے حکم سے اٹھتے ہیں اسی کے حکم سے بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی کے اذن سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں وہ نہ چاہے تو بادلوں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترے اور کھیتیاں ویران ہو جائیں اور زمین غلہ کا ایک دانہ بھی نہ اگا سکے اور انسانوں اور حیوانوں کو کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہ مل سکے اور یہ سب بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔

شان تیری سب سے اعلیٰ شان اللہ الصمد
المدد اے چارہ ساز نمگساراں المدد
اس وطن اس قوم اس ملت کا استحکام دے

تو ہی تنویر ازل ہے تو ہی تقدیر ابد
لمحے لمحے کا وظیفہ قل هو اللہ احد
اے خدائے جزو کل نصرت کا پھر پیغام دے

صحت و مرض، حیات و مرگ:

صحت اور بیماری زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اگر وہ کسی شخص کو بیمار کرنا چاہے تو ہم ہزار جتن کے

باوجود اس کی صحت واپس نہیں لاسکتے۔ جب کہ اس جیسی بیماری کے ہزاروں مریض معمولی علاج سے شفایاب ہو جاتے ہیں اور اس بیمار کے لئے بڑے سے بڑے ڈاکٹر اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کرنے کے باوجود اس کی صحت کو واپس نہیں لاسکتے اور بالآخر وہ شخص بیماری کے ایام گزارتا ہو اس عالم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی کی ایک میعاد مقرر کی ہے اور جب کوئی انسان اپنی زندگی کے سانس پورے کر لیتا ہے تو خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو یا ماہر طبیب، سائنسدان ہو یا فلسفی اسے بہر حال اس وقت مرنا ہی پڑتا ہے۔ بڑی سے بڑی کوشش اور اہم سے اہم سائنسی عمل ہزار جتن کے باوجود مدت حیات پوری ہونی کے بعد اسے موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ اگر اس عالم اسباب سے کوئی ماوراء ہستی نہیں ہے تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جو کسی بیمار کو تندرستی سے اور مرنے والے کو زندگی سے ہم کنار ہونے نہیں دیتی اس نظام کائنات میں تو ہر چیز خود ایک نظام کی پابند ہے وہ کیسے کسی کو صحت اور زندگی سے روک سکتی ہے۔

اس نظام کائنات پر غور کیجئے سورج ہر روز ایک مقررہ جہت سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مقررہ جہت میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، ہر سال اپنے اپنے موسموں میں کھیتیوں کا پروان چڑھان، پھولوں کا اپنے وقت میں کھلنا، تمام روئے زمین میں ایک خاص طریقہ سے انسانوں کا پیدا ہونا اور اس کے بعد ایک وقت مقررہ پر انسان کا مر جانا کیا یہ تمام سلسلہ کائنات ایک مقررہ اور مربوط نظام کے تحت جاری نہیں ہے۔ پھر کیا کوئی ہوشمند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تمام منضبط اور مربوط نظام بغیر کسی خالق اور ناظم کے خود بخود اپنے آپ عدم سے وجود میں آ گیا ہے۔ (دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ بے جان انڈے سے چوزہ پیدا ہوتا ہے اور پھر تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہوا کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ لیکن انڈے میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دو تو چوزہ نہیں بن سکے گا۔ پھر اس انڈے کو آپ توڑیں تو چوزہ نہیں نکلتا خدا توڑے گا تو چوزہ برآمد ہوگا۔ اس کی روح کس راستے سے گئی ہے۔ معلوم ہوا امر ربی ہے اور اتنا لطیف ہے کہ راستوں کا محتاج نہیں چونکہ روزمرہ ہوتا ہے اس لئے عادت بن گئی ہے اور عجیب نہیں لگتا۔ ورنہ یہی چوزہ اگر انڈے کی بجائے دیوار سے نکل آئے تو دھوم مچ جائے اخباریں اور ضمیمے چھپ جائیں اور معجزہ قرار دینے لگیں، کیا انڈے سے چوزہ نکلتا دیوار سے نکلنے سے کم حیران کن ہے پھر اسی مرغی کے نیچے بطن کے انڈے بھی رکھ دو تو ان انڈوں سے بطن کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں چھلانگ لگا دے گا جبکہ چوزے ایسے نہیں کریں گے یہ شعور چند لمحوں کے چوزوں کو کس نے دیا کہ ہم پانی میں ڈوب جائیں گے اور بطن کے بچے کو کس نے بتایا کہ تجھے پانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے)

جذبہ صدیق و فاروق و غنی کا واسطہ

خواجہ اجیر داتا سے ولی کا واسطہ

ہر مسلمان کے نفل کو تابع قرآن کر

یا خدا تجھ کو رسول ہاشمی کا واسطہ

حیدر و زہراء و سبطین نبی کا واسطہ

امت اسلامیہ کو یک دل و یک جان کر

(امید فاضلی)

جو پانی ہم پیتے ہیں:

پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر کا پانی اس قدر کڑوا ہوتا ہے کہ اس کے چند

گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارے جاسکتے۔ پھر یہی پانی جب بخارات کی شکل میں طبقہ زمہریہ تک پہنچتا ہے اور موسلا دھار بادلوں سے ٹھنڈا میٹھا اور شفاف پانی بن کر برستا ہے تو وہ کون ہے جو اس کڑوے پانی میں شکر گھول دیتا ہے۔ دریاؤں سے جو اکثر و بیشتر پانی حاصل ہوتا ہے وہ بھی بادل اور بارش کا فیضان ہوتا ہے اور پہاڑوں کی بلند بانگ چوٹیوں پر جو برف جمی ہوتی ہے وہاں اس برف کو ان چوٹیوں پر کون جماتا ہے کیا پہاڑوں کی چوٹیوں سے برفانی گھاٹیوں تک برف گرنے کا انتظام اور بادلوں کے ذریعہ پانی کی بہم رسانی کا انتظام یونہی خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ جب کارپوریشن کا ایک تل بھی ایک مستری اور چند مزدوروں کے بغیر نہیں لگ سکتا تو پانی کی اس قدر عظیم الشان ترسیل کا انتظام کسی ایڈمنسٹریٹر کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہوگی کہ کارپوریشن جو ایک محلہ کو ٹیکس لے کر پانی فراہم کرے۔ اس کی نظامت کو تو ہم تسلیم کر لیں اور جو ساری دنیا کو بغیر کسی ٹیکس کے پانی مہیا کر رہا ہے اس کے نظام اور اس کی قدرت کا ہم انکار کر دیں جیسی تو وہ فرماتا ہے:

افرائتم الماء الذي تشربون ا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا
فلولا تشكرون .

”پانی تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو اس قدر کڑوا کر دیں کہ تم پی بھی نہ سکو پھر تم کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔“

پانی کے حصول کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ زمین کے نیچے گہرائی میں پانی رکھا گیا ہے جس کو ہم ہینڈ پمپ اور ٹیوب ویل سے نکال کر اپنے کام میں لاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس پانی کو زمین کی تہہ میں کس نے رکھا ہے اور اتنے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں جا کر رکھ بھی کون سکتا ہے؟ یہ بات تو وہی شخص کہہ سکے گا جو عقل و فہم سے بالکل عاری ہو کہ وہ پانی خود بخود وہاں موجود تھا۔ اس دنیا کے ہزاروں تجربات اور مشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کنستریٹ میں بھی پانی خود بخود جمع نہیں ہوتا۔ زمین کی اتنا گہرائی میں ہزاروں مکعب فٹ پانی کس طرح جمع ہو سکتا ہے جن علاقوں میں دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کے اس پانی کو دریائی پانی کا بدل بنا دیا ہے اور خود فرماتا ہے:

افرائتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یاتیکم بماء معین ○

”اگر اللہ تعالیٰ زمین کے پانی کو نیچے گہرائی میں دھنسا دے تو بتلاؤ! پھر تمہارے لئے کون پانی لے کر آئے گا۔“

جس جگہ زمین کی گہرائیوں سے پانی نکالنے کی ضرورت تھی وہاں اسے زمین کے اندر گہرائیوں میں رکھا جہاں سخت پہاڑی اور پتھریلی زمینیں ہیں اور زمین کو کھودنا مشکل ہے اس نے وہاں پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ کہیں برفانی چوٹیوں اور بادلوں کو لگاتار برسات سے دریاؤں کو رواں دواں کر دیا کہیں کنوؤں اور ندیوں کا انتظام کر دیا غرض جس جگہ پانی کی بہم رسانی کی ضرورت جس طرح پوری ہو سکتی تھی اس طریقہ سے وہاں پانی کو پہنچایا گیا پانی کی یہ حکیمانہ ترسیل کسی جلیل القدر حکیم اور زبردست قادر اور عظیم خالق کے وجود کا تقاضا نہیں کرتی کیا اب بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ خلق خدا کی ضرورت اور مصلحت کے مطابق ہر جگہ ان کے مقام کے مناسب یہ پانی خود بخود بغیر کسی پہنچانے والے کے پہنچ رہا ہے۔

از عمل ہائے بدم شرمندہ ام
 کترین امتان مصطفیٰ
 درد و عالم حاجت ما کن روا
 عذر تقصیرات ما را کن قبول
 سوئے مکہ ہم مدینہ رہ نما
 در نظر آید دیار آں حبیب
 مدفن حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ
 آئیم بر روضہ خیر الانام
 می کنم عرض سلامش بار بار
 خفته اندر روضہ خیر البشر
 می شوم اندر دو عالم بامرام
 حشر و نشرم با محمد مصطفیٰ
 مستجاب از برکت خیر الانام
 رب زدنی من لدنک حکمة

یا الہی بندۂ زار توام
 بدترین بند گانم اے خدا
 از طفیل مصطفیٰ و مجتبیٰ
 بہر آل پاک و اصحاب رسول
 اے خدا! ایں بندۂ بے چارہ را
 آں چہ خوش وقت و چہ ساعات عجیب
 آں مدینہ مسکن خیر الوری
 آں چہ خوش وقتی کہ از بہر سلام
 بادل بریان و چشم اشکبار
 السلام اے خواجہ صدیق ﷺ و عمر ﷺ
 گر قبول افتد ز صدہا یک سلام
 موت خواہم در مدینہ اے خدا
 یا الہی کن دعائے ایں غلام
 رب ہب لی من لدنک رحمة

اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا:

اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر بھی ہے باطن بھی صفات کے لحاظ سے ظاہر ہے ذات کے لحاظ سے باطن ہے یا پھر شدت ظہور و عیاں کی وجہ سے ہم سے چھپا ہوا ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، جس طرح گرمیوں میں شدت تمازت اور کمال ظہور کی وجہ سے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ یہ اس کی ادنیٰ مخلوق ہے لہذا اس وجہ سے اس کی ذات کا انکار کرنا حماقت ہے، جس طرح چگا ڈردن کے وقت سورج کا انکار کرے تو کیا کہا جاسکتا ہے۔ یا پھر انتہائی قرب کے وجہ سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ دیکھنے کے لئے فاصلے کا ہونا ضروری ہے، آنکھ کی پتلی نظر کیوں نہیں آتی؟ انتہائی قرب کی وجہ سے اور جو اقرب من جبل السورید ہے وہ ذات کس طرح دکھائی دے، انتہائی قریب شے جس طرح پتلی؟ نظر تو آ سکتی ہے لیکن آئینے کے واسطے اور خدا کے جلووں کو دیکھنے کے لئے مصطفیٰ علیہ السلام آئینہ ہیں۔ من رانی فقد رای الحق۔

یاد رکھو! ہم اپنی بد عملیوں کی وجہ سے رب سے دور ہو گئے ہیں ورنہ وہ تو فرماتا ہے ”انی قریب“ اور یہ قرب صفاتی ہے اور نظر اس لئے بھی نہیں آتا کہ

ہے شدت ”ظہور“ سے آنکھوں سے رخصتی بے پردگی حجاب ہے اس بے حجاب کی
 یعنی غایت قرب کی وجہ سے وہ ذات ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرت سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

یار من نزدیک تر از من بمن این عجب تر کہ من ازوے دورم

(حضرت مفتی اعظم پاکستان سیدی ابوالبرکات کا بیان فرمایا ہوا نکتہ جو کیسٹ سے لکھا گیا ہے)

امام جعفر صادق اور ایک دہریہ:

امام جعفر صادق علیہ الرحمۃ کی ایک بار ایک دہریہ سے ملاقات ہوئی جو جو باری تعالیٰ کا انکار کرتا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا کبھی تم سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے پوچھا: کبھی طوفان کا سامنا بھی کیا؟ اس نے کہا: ہاں کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، ملاح ڈوب گیا اور لہروں کے تھپڑے مجھے ساحل تک لے آئے۔ آپ نے فرمایا: پہلے جب ٹوکشتی پر بیٹھا تھا تو تیرا اعتماد ملاح پر تھا اور جب کشتی ٹوٹ گئی اور تو ایک تختے کے سہارے بہنے لگا تو تیرا بھروسہ اس تختے پر تھا اور جب تختہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل گیا اور تو محض لہروں کے رحم و کرم پر بہ رہا تھا اور طوفانی لہریں تجھے غرقاب کر رہی تھیں اس وقت تیرا کیا خیال تھا کہ یہ لہریں تجھے غرق کر دیں گی یا اس وقت بھی تیرے دل میں اُمید کی کوئی ”کرن“ باقی تھی وہ کہنے لگا میں اس وقت بھی پُر امید تھا کہ شاید سلامتی سے نکل آؤں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اب جبکہ سارے مادی اور ظاہری سہارے ایک ایک کر کے چھوٹ چکے تھے اس وقت تو نے کس ذات کے ساتھ امید قائم کی ہوئی تھی کہ وہ تجھ کو بچالے۔ دہریہ خاموش رہا آپ نے فرمایا جس وقت کوئی مادی اور ظاہری سہارا نہ رہے اور سلامتی کے اسباب ایک ایک کر کے سارے ختم ہو جائیں اس وقت جس ذات سے امید قائم ہوتی ہے اور بیچارگی کے لامتناہی اندھیروں میں جس ذات سے مدد کی روشنی ملتی ہے وہی تیرا اور سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اسی نے تجھ کو غرق ہونے سے بچا لیا اسی کی یہ شان ہے کہ انسان جب چاروں طرف سے مایوسیوں میں گھر جاتا ہے اور اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ عنقریب مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھر کر ختم ہو جائے گا تو اچانک وہ غیب سے اس کی سلامتی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اسی لئے اس نے فرمایا ہے:

هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید .

”وہ ذات جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد اچانک موسلا دھار بارش نازل فرمادیتی ہے اور اپنی رحمت کو عام کر دیتی

ہے وہی لوگوں کے کام بنانے والی اور قابل ستائش ہے۔“

تری ذات ہے لائق ہر ثنا

الہی تو ہے خالق دوسرا

مکین و مکاں تیرے محتاج ہیں

زمین و زماں تیرے محتاج ہیں

ایک عقلمند دیہاتی کا استدلال:

عرب کے ایک دانش مند اعرابی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر صحرائے عرب میں سینکڑوں میل دور چلا گیا۔ ایک جگہ اونٹ سے اتر کر وہ اپنے دل ہی دل میں فخر کرنے لگا کہ میں صحرائے عرب میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ آج تک دنیا کا کوئی انسان اس لقمہ و دق سنان بیابان میں نہیں پہنچا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اس کارنامے کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہے کہ ریت پر اونٹ کی چند میٹگنیاں ہیں اور کسی انسان کے قدموں کے نشان لگے

ہوئے ہیں وہ فوراً چونکا اور بول اٹھا کہ افسوس میرا خیال غلط تھا۔ اس مقام پر تو مجھ سے پہلے بھی کوئی شتر سوار آچکا ہے۔ پھر اس اعرابی کے قلب میں اچانک خدا کی معرفت کا نور چمک اٹھا اور وہ چلا چلا کر زور زور سے یہ اعلان کرنے لگا کہ

البعرة تدل على البعير ○ واثر القدم على المسير ○ فالسماء ذات ابراج ○ والارض ذات

فجاج ○ والبحار ذات امواج ○ كيف لا تدل على العليم الخبير ○

”یعنی جب اونٹ کی میٹنیاں اس بات کا پتا دیتی ہیں کہ اس راستے سے اونٹ گیا ہے اور قدم کا نشان دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے تو پھر یہ برجوں والا آسمان اور یہ راستوں والی زمین اور یہ موجیں مارنے والے سمندر کیونکر ایک عظیم و خیر ذات کے موجود ہونے پر دلالت نہ کریں گے۔“

جب ہم نے میٹنی کو دیکھ کر اونٹ کو جان لیا۔ نشانِ قدم دیکھ کر انسان کو جان لیا تو ہم آسمانوں اور زمینوں اور سمندروں کو دیکھ کر یقیناً پہچان سکتے ہیں کہ ضرور ان مخلوقات کا کوئی خالق ہے اور یقیناً ان مصنوعات کا کوئی صانع ہے۔ جو طاقت و قدرت والا، علم و حکمت والا، سیوح و قدوس اور حی و قیوم ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔

سماء وارض وشم الجبال كذك البحار له شاهد

وفى كل شىء له اية تدل على انه واحد

یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سمندر، غرض تمام چیزیں خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر گواہ ہیں اور کائناتِ عالم کی ہر ہر چیز میں خدا کے وجود و ہستی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اہل زبان و بے زبان سب ایک زبان ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ خلاقِ عالم، صانعِ خلاق، جو واحد حقیقی و معبود حقیقی ہے۔ یقیناً موجود ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔

یہ ہفت آسمان تو نے پیدا کیے

زمین و زماں تو نے پیدا کیے

یہ قدرت کے مظہر یہ شجر و حجر

یہ ارض و سما اور شمس و قمر

حضرت امام ابوحنیفہ کا ایک مناظرانہ استدلال:

منقول ہے کہ ایک مرتبہ خدا کے منکروں نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر لیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کسی عقلی دلیل سے خدا کے وجود کو ثابت کیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اچھا! پہلے تم لوگ میری ایک بات سنو! پھر جو تمہارا جی چاہے کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا: میں نے آج دریا میں ایک ایسی کشتی دیکھی ہے جو مال و سامان سے لدی ہوئی تھی اور طوفان کی موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اس پر کوئی ملاح نہیں تھا وہ کشتی خود بخود ہر گھاٹ پر ٹھہرتی تھی اور مالکوں کا سامان اتار دیتی تھی اور پھر طوفان کی موجوں سے بچتی ہوئی آگے چلی جاتی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ منکرینِ خدا کی جماعت شور مچانے لگی غلط، غلط، بالکل غلط! یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ امام نے فرمایا: کیوں، کیوں؟ کیا غلط بات ہے؟ میری بات کیوں عقل کے خلاف ہے؟ منکرین کہنے لگے: اے امام! ہماری عقل کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی کشتی بغیر ملاح کے اس طرح طوفان کی موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلی جائے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا کہ سبحان اللہ! جب ایک

کشتی عقل کے نزدیک بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں آسکتی ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ حضرت امام کی اس نورانی تقریر سے منکرین کے دلوں میں معرفتِ الہی کا آفتاب و ماہتاب طلوع ہو گیا۔ سب کے سب رو پڑے اور بولے کہ اے امام! افسوس ہم آج تک غافل و جاہل رہے۔ آپ کی ملاقات ہمارے لئے خسر راہ بن گئی اور آپ کے یہ چند کلمات طیبات ہمارے لئے معرفتِ الہی کا دفتر بن گئے۔ سب کے سب بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار O لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ؐ کلمہ حق سے فضائے آسمانی گونجنے لگی اور تمام منکرین مشرف بہ اسلام ہو کر نعمت کونین سے سرفراز اور دولت دارین سے مالا مال ہو گئے۔

ہیں جلوے ترے ہر جگہ ہو بہو
ترا ذکر ہے ہر جگہ گو بہ گو
گلستاں کے مرغانِ رنگیں بیاں
سبھی ہیں تیرے ذکر میں تر زباں

ایک لطیفہ:

مجھے اس وقت ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک خدا کے منکر مغرور و متکبر نے کسی اللہ والے فقیر سے کہا کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم تو اس وقت تک خدا کو موجود نہیں مانتے گے جب تک ہم خدا کو آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ مسرت مولیٰ فقیر نے ایک پتھر اٹھا کر اس مغرور کے سر پر دے مارا خدا کا منکر پتھر کھا کر درد سے چیخ پڑا اور فقیر کو گھسیٹ کر قاضی کی کچھری میں لے گیا۔ قاضی نے پوچھا: کیوں میاں صاحب! تم نے اس کو پتھر کیوں مارا؟ فقیر بولا: حضور! میرے پتھر مارنے سے انہیں کیا ہو گیا۔ منکر خدا چلا کر بولا: میں درد سے بے چین ہو گیا اور کیا ہوا۔ فقیر نے جواب دیا: میں کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ تمہارے سر میں درد ہے۔ اگر واقعی درد موجود ہے تو مجھے دکھا دو! میں جب تک آنکھ سے درد کو نہ دیکھ لوں گا ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ درد موجود ہے۔ پھر فقیر قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ عزت مآب واقعہ یہ ہے کہ اس مغرور نے مجھ سے کہا کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں تو جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لوں کبھی نہیں مان سکتا کہ خدا موجود ہے۔ اسی مسئلے کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کے سر پر پتھر مارا اگر اس کی سر میں درد موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ میں تو جب تک درد کو آنکھ سے نہ دیکھ لوں ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ یہ مجھے اپنا درد دکھا دے تو میں بھی اس کو اپنے خدا کا دیدار کرادوں گا۔ فقیر کا جواب سن کر منکر خدا حیران رہ گیا۔ قاضی صاحب بھی ہنس کر کہنے لگے کہ واقعی ایسے سر پھروں کا علاج پتھر ہی ہے۔

اے رب العلیٰ خالق بحر و بر
بھروسہ مجھے ہے تیری ذات پر
نگاہیں ہیں لا تقنطوا پر مری
خطا کار پر ہو عنایت تیری

ایک حاضر جواب بڑھیا کا استدلال:

مجھے ایک بڑھیا کی کہانی یاد آ گئی یہ غریب بڑھیا چرخہ کات رہی تھی کہ ایک فلسفی آن پہنچا اور پوچھا کہ اے بڑھیا! تو یہ بتا کیا خدا موجود ہے بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، ہاں! بے شک خدا موجود ہے۔ فلسفی نے کہا: کوئی دلیل بھی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی ہاں، ہاں: یہی میرا چرخہ دلیل ہے کہ خدا موجود ہے کیوں کہ میرا یہ چرخہ جب تک میں اس کو چلاتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے اور جب چھوڑ

دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے تو جب میرا یہ ننھا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو بھلا زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظامِ عالم بغیر کسی چلانے والے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ پھر فلسفی نے سوال کیا کہ اچھا: اے بڑھیا! یہ تو بتا کہ خدا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا جذبہ ایمانی سے تڑپ کر بولی کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کی دلیل بھی میرا یہی چرخہ ہے کیونکہ اگر میرے اس چرخہ کو دو عورتیں مل کر چلائیں تو دو حال سے خالی نہیں اگر میں اور وہ دونوں ایک ہی طرف چرخے کو گھمائیں تو چرخے کی رفتار تیز ہو کر میرے دھاگے کو توڑ ڈالے گی اور اگر میں ایک جانب چرخے کو گھماؤں اور وہ دوسری جانب چرخے کو چلائے تو ظاہر ہے کہ چرخہ چلنے کے بجائے ٹوٹ پھوٹ کر لکڑیوں کا ڈھیر بن جائے گا تو اسی طرح اگر اس نظامِ عالم میں دو خداؤں کا عمل دخل ہوتا تو ہرگز یہ نظامِ عالم اس خوبی و سلامتی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا بلکہ سارا نظامِ عالم تہ و بالا ہو کر تمام کائنات برباد ہو جاتی۔

سبحان اللہ مسلمانو! یہ وہ ایمانی عقل ہے جس پر فلاسفوں اور سائنسدانوں کی عقلیں قربان ہیں ایک بے علم چرخہ کا تنے والی بڑھیا نے وجود باری اور توحید الہی کے مسائل کو اس طرح حل کر دیا کہ اس طرز استدلال پر ہزاروں اہل علم سر دھنتے رہ جائیں۔ یہی وہ مضمون و حکیمانی طرز استدلال ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے داعیانہ انداز میں پیش فرمایا: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. یعنی ”اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔“ (علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی مجددی۔ ایمانی تقریریں)

الہی میں لاچار و نادار ہوں
گناہ گار ہوں اور خطا کار ہوں
کرم کر اے رب رحیم و کریم
بخت محمد رؤف و رحیم

بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں نجات کون دیتا ہے؟

جب انسان مصیبتوں کے جنجال میں پھنس جاتا ہے اور اسے نجات کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس وقت کٹر سے کٹر کافر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ جب خشکی اور تری کے سفروں میں لوگ بتلائے آفات ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسی شدید صعوبتیں اور ہولناک طوفان پیش آتے ہیں جن سے ذہن پریشان، دل مضطرب اور بدن کا رُواں رُواں خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ ایسے ہولناک سفر میں بُت پرست اور ضدی سے ضدی مشرک بھی اپنے بتوں کو بھول جاتا ہے اور بڑے سے بڑا دہریہ بھی اپنے الحاد سے تو بہ کر لیتا ہے اور ان تمام لوگوں کو اس وقت اپنے عقیدہ سے تراشتے ہوئے سارے باطل خدا ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت انہیں خدائے واحد کے سوا کسی کے دامن میں پناہ نظر نہیں آتی اور چارو ناچار سب کے سب اسی اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور ہر شخص اس کی رحمت کے سامنے دامن پھیلا دیتا ہے اور رورور کر کہتا ہے: ”اے احکم الحاکمین! اور اے سارے جہان کے رب اگر تو نے اس بار ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو پھر ہم الحاد اور شرک کو چھوڑ کر صرف تیری بندگی بجلائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت کے اس بھنور سے سلامتی کے ساتھ نکال لاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یکسر فراموش کر کے پھر الحاد اور شرک کے گڑھوں میں جا گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے:

قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعاً وخفیة لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین ○ قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون ○ (الانعام)

”اے رسول آپ فرمائیے وہ کون ہے جو تمہیں جنگلات اور سمندروں کی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے جس کو تم آہستہ آہستہ اور گڑگڑا کر پکارتے ہو کہ اگر وہ اس مرتبہ ہمیں مصیبت کے اس گرداب سے نکال دے تو ہم ضرور اس کا احسان مانیں گے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو صرف اس مصیبت سے ہی نہیں ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے لیکن مصائب سے چھٹکارا پانے کے بعد پھر تم اس کا احسان فراموش کر کے شرک کی پستیوں میں جا گرتے ہیں۔“

کرم مجھ پہ ہو مالک کائنات
ہوں آسان سب امتحانِ حیات
بروزِ قیامت اے رب جہاں
ترا فضل ہو مجھ پہ سایہ کناں

انسان کا وجود گواہی دے رہا ہے:

مصائب اور پریشانیوں میں گھر جانے کے بعد ہر انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق ہوتی ہے۔ و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون۔
”یقین کر نیوالوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی کیا تم غور نہیں کرتے۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر شہادات اور دلیلیں موجود ہیں جن پر اس نے کفر الحاد اور شرک کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے۔ جب کسی اچانک حادثہ سے شرک اور الحاد کے یہ سارے حجاب اچانک اٹھ جاتے ہیں اور توحید کی شہادت بے نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حضور جھک جاتا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کی زندگی میں اسی شہادت سے انقلاب آیا جب حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو فتح کر لیا تو عکرمہ نے جدہ کا رخ کیا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر حبشہ جانے کا قصد کیا۔ راستہ میں سخت طوفان آیا اور کشتی طوفانی لہروں میں گھر گئی پہلے پہل تو تمام بت پرست اپنے اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو پکارتے رہے مگر جب طوفان کی ہولناکیاں بڑھنے لگیں اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ جب دیوتاؤں کی فریادری کا مان جاتا تو سب بے اختیار پکار اٹھے کہ اب سوائے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس خدائے واحد کے دروازہ رحمت پر دستک دی جائے پھر سب نے مل کر بیک آواز اس کی رحمت کو پکارا اور گڑگڑا کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں، عکرمہ کی زندگی میں یہ ایک انقلاب آفریں لمحہ تھا انہوں نے سوچا کہ ان کے تصور کے تراشے ہوئے سارے بت بے حقیقت ہیں ان کی بصیرت جاگی اور انہوں نے سوچا جو خدا یہاں ان کی کشتی کو طوفان کے گرداب سے نکال سکتا ہے وہ درحقیقت خشک وتر ہر جگہ بندوں کی فریاد سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت اور جہالت کے سارے پردے اٹھ گئے اور دل پر کفر و الحاد کے جس قدر حجاب پڑے ہوئے تھے یکنخت دُور ہو گئے اور ان کے نفس میں جو توحید کی شہادت مستور تھی وہ پورے قوت اور توانائی کے ساتھ ابھری اور انہوں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر یہ کشتی اس طوفان سے نکل گئی تو میں سیدھا محمد ﷺ کے قدموں میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور اس خدائے واحد پر ایمان لاؤں گا جس کی بحر و بر پر حکومت ہے

طوفانوں کے زُخ پھیر سکتا ہے ہر قسم کی مصیبت کو نال سکتا ہے اور جس کو اس عظیم کائنات کی لامحدود وسعتیں کہیں بھی کسی بے بس اور لاچار کی فریاد سننے سے روک نہیں سکتیں۔ چنانچہ سلامتی سے ساحل پر آنے کے بعد انہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور صدق دل سے مسلمان ہوئے اور بقیہ تمام عمر خدمتِ اسلام میں گزار دی۔

تو ہی غم کے ماروں کا غمخوار ہے
ہے انسان عابد تو معبود ہے

تو ہی بے کسوں کا مددگار ہے
ہے مخلوق ساجد تو مسجود ہے

دو متضاد چیزیں:

رات اور دن میں مکمل تضاد ہے اور دو متضاد چیزیں ہمیشہ فساد کا موجب ہوتی ہیں لیکن قدرت نے رات اور دن کے خوبصورت اور حسین تضاد میں مصالح اور منافع کی تحصیل کے لئے مکمل معاونت رکھی ہے دن بنایا تاکہ اس میں انسان ہو یا حیوان وہ اپنی معیشت کا سامان حاصل کر سکے اور رات پیدا کی تاکہ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان ہو یا حیوان وہ رات کی آغوش میں اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام پہنچا سکے اور رات میں اس کو ایسی میٹھی اور گہری نیند عطا کی جس کے سبب اس کا تھکا ہوا ذہن سکون حاصل کر سکے۔ فرض کیجئے یہ زمین گول نہ ہوتی اور اس پر ہمیشہ دن کا وجود مسلط رہتا تو کیا انسان کے اعصاب جواب نہ دے جاتے۔ کیا انسان کو آرام اور سکون کا کوئی لمحہ میسر ہوتا اور اگر زمین خواہ گول ہی ہوتی لیکن سورج نہ ہوتا تو اس کائنات پر ہمیشہ شب تاریک چھائی رہتی پھر کوئی ذی روح کس طرح اپنے لئے سامان معیشت حاصل کرتا۔ کھیتیاں کیسے پروان چڑھتیں اور کوئی جاندار کس طرح زندہ رہتا معلوم ہوا کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اور پھر ان میں کمی اور زیادتی کا تناسب اور تدریجاً اختلاف کسی ازلی اور ابدی قادر اور حکیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

قل اذیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمداً الی یوم القیامة من الہ غیر الله یتیکم بلیل تسکنون
فیہ افلا تبصرون ومن رحمته جعل لکم الیل والنهار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم
تشکرون۔ (۲۸/۷۳)

”آپ فرمائیے! یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن قائم رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون رات قائم کر سکتا تھا جس میں تم آرام پاتے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ محض اس کی رحمت ہے جس نے رات اور دن دونوں قائم کئے تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں معاش تلاش کرو۔“

اسی راہ پر پھر چلا دے مجھے
جو ہے تیرے اخلاص مندوں کی راہ

جو ہے راہ سیدھی دکھا دے مجھے
کہ جو ہے نیک بندوں کی راہ

کشتیوں اور جہازوں سے استدلال:

چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے لے کر دیوبیکر جہازوں تک جو دریاؤں اور سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں یہ سب انسانی عقل اور اس کے ہاتھوں کی تراش و خراش کا نتیجہ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی تیاری کے لئے

لکڑی، لوہا اور دوسرے میٹریل کو کس نے پیدا کیا۔ بادبانی کشتیوں کو متحرک رکھنے کے لئے ہوائیں کس نے چلائیں اور خلائی جہازوں کی حرکت کے لئے ایندھن کس نے پیدا کیا۔ لکڑی کی طبیعت میں یہ خاصہ کس نے رکھا کہ وہ ہزاروں ٹن بوجھ اٹھانے کے باوجود بھی سطح سمندر پر تیرتی رہتی ہے۔ لوہا اور لکڑی دونوں جسمیت میں متماثل ہیں پھر ان میں یہ فرق کس نے رکھا ہے کہ لوہا ایک تولہ بھی ہو تو پانی میں ڈوب جاتا ہے اور لکڑی ہزاروں ٹن کی بھی ہو تو سطح آب پر تیرتی رہتی ہے۔ پھر انسانوں کے دلوں میں یہ سکون اور طمانیت کس نے رکھی ہے کہ وہ بحری سفر کے لئے بے خوف و خطر تیار ہو جاتے ہیں پھر علاقہ کو کسی خاص جنس کے ساتھ کس نے خاص کیا جس کی وجہ سے بحری سفر کی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور جب غیظ و غضب سے بھر پور طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو ان طوفانوں سے جہازوں کو سلامتی کے ساتھ کون پار لے جاتا ہے اور جب جہاز خطرات سے گھر جاتا ہے تو مسافروں کی نگائیں کس کی طرف اٹھتی ہیں۔ دعاؤں کے لئے ہاتھ کس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں۔ ہم دن رات ایسے واقعات دیکھتے ہیں لیکن ان واقعات و حوادث کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا جو ہاتھ کار فرما ہے، اس کی طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ نقوش اور فطرت کے عجیب و غریب کرشمے شب و روز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن فاطر اور نقاش کی طرف ہماری نظریں نہیں اٹھتیں۔ صنعت و خلقت کے بہترین نمونے ہر وقت ہمارے پیش نظر رہتے ہیں لیکن صانع اور خالق کی طرف ہم ملتفت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ (۱۲/۳۵)

”اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ اس کی قدرت سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس ذریعہ سے ایک دوسرے سے ربط قائم رکھ سکو اور سامانِ معیشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکو اور اللہ کے اس فضل اور انعام کو دیکھ کر تمہارا دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہو اور تم اس کا شکر ادا کر سکو۔“

کہ جن پہ تیرے خاص انعام ہیں	ترے جن پہ الطاف و اکرام ہیں
تری بارگاہ اے سمیع الدعاء	ہے تابشِ قصوری کی یہ التجا
دکھا دے انہی کی رہ مستقیم	خدایا توئی ہے غفور و رحیم
ہوتا بش کو یوں شاد کامی عطا	کہ ہو دولت نیک نامی عطا

آسمانی بادلوں سے استدلال:

بادل بخارات کا ایک مجموعہ ہیں جو مختلف مقدارِ حجم میں فضاء کے اندر تیرتے پھرتے ہیں۔ یہ بخارات عموماً اپنے اندر پانی کو بسا اوقات برف اور اولوں کو اپنے اندر لئے پھرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ پانی ہو یا برف اور اولے ان کا طبعی تقاضا اوپر سے نیچے گرنا ہے یا یوں کہے لیجئے کہ کشش ثقل انہیں نیچے لانا چاہتی ہے پھر وہ کون سی طاقت ہے جو بادلوں کے اندر پانی کو جب تک چاہے روکے رکھتی ہے اور جب چاہے چھوڑ دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے میں پانی کے طبعی تقاضا کا دخل ہے نہ کشش زمین کا بلکہ ان تمام امور پر کوئی غالب و قابہر ہستی ہے جو جب چاہے بادلوں سے پانی برسا دے اور جب چاہے ان سے پانی روک لے۔ پھر اس کی قدرت کے ساتھ حکمت پر غور کیجئے کہ اگر وہ چاہتا تو تمام فضا پر بادلوں کو مسلط کر دیتا اور ہم سورج کی روشنی کو ترس جاتے اور

لگاتار بارش سے فصلیں برباد ہو جاتیں۔ مکانات منہدم ہو جاتے اور انسان کا روئے زمین پر زندہ رہنا دشوار ہو جاتا اور اگر وہ چاہتا تو سرے سے بادلوں کا وجود نہ ہوتا لوگ تپتی ہوئی دھوپ میں سائے کو ترس جاتے کھیتیاں پروان نہ چڑھتیں اور بعض علاقوں میں پینے تک کے لئے پانی میسر نہ ہوتا پھر وہ بادلوں کو کسی ایک جگہ معلق نہیں رکھتا بلکہ ہواؤں کے ساتھ ان کو رواں دواں رکھتا ہے اور جس وقت اور جس علاقہ میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پانی برسا دیتا ہے۔

اب سوچئے انسانوں اور زمینوں کی ضرورت کے مطابق بادلوں کا وجود اور علاقائی ضروریات کے مطابق بادلوں کی آمد و رفت کیا یہ سب خود بخود ہے یا کوئی اتفاقی حادثہ ہے۔ بعض زمینوں میں ”پٹ سن“ پان، چاول اور چائے کی کاشت ہوتی ہے جنہیں لگاتار بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض زمینوں میں غلہ کی دوسری اجناس کی کاشت ہوتی ہے جنہیں ایک خاص موسم میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے زمینوں کی ان مختلف صلاحیتوں اور مختلف جغرافیائی ضرورتوں کی مناسبت سے کہیں لگاتار اور کہیں ایک خاص وقت میں بارشیں برسانے والا کون ہے ان تمام امور پر غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ بارش کا یہ نظام کیا خود بخود چل رہا ہے یا کوئی ”اتفاقی“ حادثہ ہے یا کسی انسان، موہوم دیوتا اور خود تراشیدہ بت کی کوشش ہے یا اس قادر و قیوم، علام الغیوب اور قدیر و حکیم کی قدرت اور حکمت کا ثمرہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کی ضروریات کا متکفل ہے جو ہر علاقہ کی ضروریات کو جانتا ہے اور ہر زمین کی کیفیت، استعداد اور صلاحیت کا علم رکھتا ہے پھر ان تمام انسانوں، علاقوں اور زمینوں کی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق بادلوں کے ذریعہ بارش نازل کرنے کا نظام قائم فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

هو الذی ارسل الرياح بشراً بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماءً طهوراً لنحیی بہ بلدہً میتاً ونسقیہ، مما انعاماً وانا سى کثیراً۔ (۳۸/۲۵ تا ۳۹/۳۵)

”اور اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارانِ رحمت کی نوید دیتی ہیں اور ہم ہی نے آسمان سے بارش نازل کی تاکہ اس بارش سے ہم خشک اور ویران کھیتوں کو سبز اور شاداب کر دیں اور اسی بارش سے اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پانی پلائیں۔“

نیز فرمایا گیا ہے:

وارسلنا الريح لواقع فانزلنا من السماء ماءً فاسقینکم وہ وما انتم لہ بخازنین۔ (۲۲/۱۵)

”اور ہم نے بادلوں سے بارش برسانے والی ہوائیں بھیجیں پھر ہم نے بادلوں سے پانی اتارا پھر وہ پانی (نہروں اور دریاؤں کی صورت میں جمع کر کے) تم کو پلایا حالانکہ اس پانی کے نازل کرنے اور جمع کرنے میں تمہارا کوئی دخل نہ تھا۔“

آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ اس میں گویائی نہیں اور زباں گویا ہے لیکن اس میں بینائی نہیں ایسی حالت میں بھلا ہو کس طرح تیری ثناء اس میں گویائی نہیں اور اس میں بینائی نہیں

حاصل کلام اور خلاصہ بیان:

پھولوں کے چھوٹے پودے سے لے کر چنار کے درخت تک نباتات کی بے شمار اقسام ہیں ان میں سبزیاں، پھل اور پھول

سب ہی کچھ ہیں۔ ان کی روئیدگی زمین، پانی، ہوا، آفتاب کی شعاعوں اور چاند کی کرنوں سے ہوتی ہے لیکن کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ان سب کی روئیدگی کے اسباب ایک قسم کے ہونے کے باوجود ان اسباب کے آثار ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے جو پانی پھولوں کو ملتا ہے وہی سبزیوں کو جو ہوا پھولوں کو تازگی دیتی ہے وہی فصلوں کو اس کے باوجود کوئی پھول دوسرے پھول سے کوئی پھل دوسرے پھل سے کوئی فصل دوسری فصل سے نہیں ملتی۔ آخر ان میں فرق پیدا کر نیوالا کون ہے اور مانا کہ نباتات کی روئیدگی ان اسباب سے ہے لیکن ان اسباب کا خالق کون ہے؟

افلاک کی ان بلندیوں پر جہاں انسان کے وہم کی بھی رسائی نہیں ہے وہاں کروڑوں ستارے کس نے روشن کیے ہیں۔ اگر ایک چراغ سے تیل ختم ہو جائے تو وہ بجھ جاتا ہے۔ شہر کا بجلی گھر فیل ہو جائے تو پورا شہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو ان آسمانی روشنیوں کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے۔ جن کی روشنی میں آج تک کی نہیں ہوئی۔

کیکر کے درخت پہ کبھی سیب کیوں نہیں لگتا۔ کبوتر کے انڈے سے کبھی کوا کیوں نہیں نکلتا۔ انسان سے انسان ہی کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ذرہ سے لے کر آفتاب تک یہ تمام کائنات نظام واحد میں مربوط ہے۔ اس ربط اور نظم و ضبط کا خالق کون ہے؟ یہ دن اور رات کا تسلسل، یہ سورج کا طلوع اور غروب، یہ نباتات میں روئیدگی اور جانوروں اور انسانوں کی نسل میں باقاعدگی کا مربوط نظام، یہ نیلگوں فضائیں، یہ تاروں بھری روشن راتیں، یہ گھٹائیں یہ بلند کہسار اور سرسبز وادیاں، یہ ابلتے ہوئے چشمے اور بہتے ہوئے دریا، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اور مہکتے ہوئے باغات کیا یہ سب کے سب خدائے واحد کے موجود ہونے کی شہادت نہیں دیتے کیا اس کائنات کے نظام کی یکسانیت اور وحدت میں اس عظیم خالق کی وحدت نظر نہیں آتی اور ہمیں کہنے دیں کہ جس شخص کو اس حسین کائنات میں خدا کے حسن کا جلوہ نظر نہیں آتا اسے وہ جنت میں بھی نظر نہیں آئے گا۔

(علامہ غلام رسول سعیدی کے توحید باری تعالیٰ پہ بیان کیے ہوئے نکات)

یہی عرض تابشِ قصوری کی ہے	تمنا فقط قلبِ نوری کی ہے
الہی بحق محمد رسول	گزارشِ گناہ گار کی ہو قبول
دمِ واپس نام تیرا رہے	مری زندگی کا سویرا رہے
میرے لب پہ نغمہ توحید ہو	تو پھر موت میری بڑی عید ہو
الہی بحق شہِ انبیاء	ہو مقبول تابش کی یہ التجا

وجودِ باری تعالیٰ پہ دلائل کا تجزیہ:

بنیادی تصورات یا اصول خواہ ان کا تعلق لغت و زبان سے ہو یا کسی اور شعبہ سے وہاں دلائل کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی مثلاً کوئی لفظ الف کو الف نہ مانے یا اس کے الف ہونے کی دلیل مانگے تو ایسے شخص کو پاگل سمجھ کر معذور مانا جائے گا۔ کوئی پانی کو چائے اور میز کو کرسی کہہ دے تو آپ کسی عقلی دلیل سے اس کو منوائیں گے؟ سوائے اس کے کہ آپ کہیں، انسان جو لفظ جس چیز کے لئے وضع کرتا ہے بغیر دلیل ہی اس کو مانا جائے گا۔

تو جب معمولی اشیاء کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں تو خالق کائنات جیسی ہستی کو ماننے کے لئے اگرچہ لاکھوں دلائل موجود ہیں لیکن بے دلیل بھی اس ذات کو مانا جائے تو کیا حرج ہے کیونکہ عقل مخلوق کو تو سمجھ سکتی ہے خالق کو کیا سمجھے، جو نہ حواس ظاہری میں آ سکتا ہے اور نہ باطنی میں سما سکتا ہے۔

پانچ سکولوں میں اگر پانچ قسم کی مختلف وردیاں (یونیفارمز) ہوں تو آپ پرنسپل صاحبان سے کیا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس قانون کے تحت ہو اور اس سکول میں وہ وردی اور اس سکول میں یہ وردی کیوں ناجائز ہے؟ اگر پوچھیں گے تو جواب یہی آئے گا کہ اپنا ڈسپلن اور تشخص قائم رکھنے کے لئے۔ مذہب و انبیاء کرام کی ضرورت بھی اسی لئے ہے کہ دنیا کا نظام، ہمارا ایمان اور خدا کا کلام سلامت رہے۔

بد مذہب، بے دین، منکرِ خدا دہریے سے بھی پوچھو کہ ماں، بیٹی اور بہن بھی تو عورت ہے پھر اس سے نکاح کرنے میں کیا رکاوٹ ہے تو وہ کہے گا طبیعت نہیں مانتی، اس سے پوچھو کہ تیری طبیعت میں یہ چیز کس نے ڈالی؟ بس وہی تو اللہ ہے۔ ہر جگہ یہ اتفاق کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ انسان کی طبیعت اگر اس چیز کو نہیں مانتی اور جانور ایسا کر گزرتا ہے تو یہ تمیز پیدا کر نیوالی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ کی ذات وہ؟ ذات ہے جو ذہن میں آتی نہیں، فکر میں سماتی نہیں الفاظ اس کا احاطہ کر نہیں سکتے، طائر تخیل وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، نہ زمانی ہے نہ مکانی، نہ قابلِ تحلیل ہے نہ لائق اشارہ ہے نہ قابلِ تجزیہ، نہ اس کا حلول ممکن، نہ جہت میں گھرا ہوا نہ مکان میں سما یا ہوا۔ (نسیم عباس رضوی کا بیان کیا ہوا نکتہ)

تثلیث کا پردہ چاک ہو اوصنام سے کعب پاک ہوا جب تو نے فضائے عالم میں توحید کا پرچم لہرایا

ذاتِ مصطفیٰ دلیلِ وجودِ باری تعالیٰ:

حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے وجودِ باری پہ اپنی ذات کو پیش فرمایا:

فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون . (یونس)

مطلب یہ تھا کہ جب میں ایسا ہوں کہ تم دشمن ہو کر بھی مجھے صادق و امین کہتے ہو تو میرا بنانے والا کیسا ہوگا؟ وجودِ باری کونہ مان کر اگر کوئی کسی کو گولی مار کر جان سے مار دے تو اتفاق ہی سمجھنا چاہیے پھر سزا کیسی؟ اس طرح حق اور باطل کا تصور ہی ختم ہو جائے گا اور زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ حالانکہ باتفاق عقلاء زندگی بے مقصد نہیں ہے تو جب کسی ایک کی اسی توے سال کی زندگی بے مقصد نہیں تو اربوں کھربوں زندگیاں کیونکر بے مقصد سمجھی جائیں اور اگر کوئی اپنی زندگی کو بے مقصد مانے پھر کوئی اس کو فضول قسم کی بے مقصد گالی دے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ بے مقصد سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔

بارش ہوتی ہے، بیج بویا جاتا ہے کسان اہل چلاتا ہے، فصل اگتی ہے۔ لسنخرج به حبا و نباتا۔ یہ کتنا مضبوط اور مسلسل سلسلہ ہے کیا یہ سارا بے مقصد ہے۔ الفحسبتم انما خلقنکم عبداً وانکم الینا لا ترجعون۔ تو جب انسان کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی مقصد کے لئے ہے تو کیا یہ شعور عطا کرنے والی ذات پر یہی دلیل کافی نہیں؟

اگر قاتل کو سزا نہ ملے۔ نیکی کرنے والے کو جزا نہ ملے تو نیکی کرنے والے کو مشقت برداشت کرنے کا فائدہ؟ کیا یہ عدل

وانصاف ہوگا؟ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ جھوٹ، ظلم، وعدہ خلافی سے بچنا انسانیت کی خوبی و کمال سمجھتا ہے آخر یہ احساس پیدا کرنیوالی بھی تو کوئی ذات ہے۔ مکافات عمل کو ماننا اور سزا و جزا دینے والی ذات کا انکار کرنا کہاں کا انصاف ہے۔

ام حسب الذین اجترحوا السیات ان نجعلهم کالذین امنوا و عملوا الصلحت سواء محیاهم
ومماتہم ساء ما یحکمون۔ (الجاثیہ)

ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصلحت کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتفین کالفجار۔

(سورہ ص: ۲۸)

افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستون۔ (السجدہ: ۱۸) آیاتِ قرآنی اس تصور کو اجاگر کرنے کے لئے کافی ہیں۔

اے خداوندِ عالم مالکِ کون و مکان
ہے ثناء خواں ذرہ از زمین تا آسمان
میرے مالک میرے خالق اے میرے پروردگار
در پہ تیرے ہاتھ پھیلانے ہوئے آیا ہوں میں
تو بڑا ستار ہے غفار ہے رحمن ہے
اے رحم والے کرم والے شفیق دو جہاں
حمد تیری کر سکے کیا خاک کی چٹکی بیاں
جز تیرے کس کو دکھاؤں اپنا قلب داغدار
چند آنسو چند آہیں نذر کو لایا ہوں میں
دہر کا ہر ذرہ تیرے تابع فرمان ہے

سائنس نے انسان کو کہاں پہنچایا اور خدا نے اسے کیا سے کیا بنایا:

سائنس نے انسان کو سوشل اینمل (سماجی حیوان) کہا۔ خدا نے اس کو انسی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ اب انسان کو شتر بے مہار بن کر سب کچھ کر گزرنے کی بجائے وہی کچھ کرنا چاہیے جو وہ اس کو حکم دے جس کا یہ خلیفہ ہے، ہم خدا کے دین کو پرانا کہہ کر اگر ٹھکرادیں گے تو یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اس کو بھی ہمیں خیر باد کہہ دینا چاہیے، اس شمس و قمر سے بھی استفادہ ترک کر دینا چاہیے۔ (بلکہ اپنا کوئی دادا بھی پندرہ سال کا تلاش کرنا چاہیے)

محبت کو سمجھنا ہے تو ناصر! خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ طوفاں نہیں ہوتا

۱۸۷۲ء کے بنائے ہوئے ہمارے انگریزی قانون میں سینکڑوں تبدیلیاں ہو چکی ہیں جس میں یہ بھی تھا کہ بادشاہ عدالت میں نہیں جاسکتا کیونکہ وہ بادشاہ ہے لہذا اس کی غلطی غلطی نہیں ہے اور دین اسلام وہ ہے کہ جس میں اللہ کا محبوب اپنا سینہ کھول کر میدانِ جنگ میں اپنے آپ کو چھڑی مارنے کے بدلے میں پیش کر رہا ہے، ثابت ہوا کہ قانون پہ عمل کتابوں سے نہیں آتا ورنہ واشنگٹن کی لائبریری میں اسی لاکھ کتاب آج بھی موجود ہے، قانون پہ عمل کا جذبہ خوفِ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔

شیطانِ رشدی کو بھی یہ بات تسلیم کرنا پڑی اور اس نے اپنی بدنام زمانہ کتاب میں کسی غیر مسلم کا قول درج کیا:

الخالدون مائة اعظمهم محمد (ﷺ)

”سو شخصیات ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ان میں سب سے بڑا محمد (ﷺ) کی ذات ہے۔“

نیز یہ بھی لکھا کہ دنیا محمد (ﷺ) کی طرح کے کسی ایسے انسان کی محتاج ہے جو ساری دنیا کے مسائل قہوہ کی پیالی پینے کی دیر میں حل کر سکے۔

تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے خستہ سامانی میری
در پہ تیرے آ کے دامن اپنا پھیلاتا ہوں میں
خوفِ عصیاں سے پریشاں ہے میرا قلب و ضمیر
زندگی کے راستے میں دردِ دل سے چور ہوں
سیم و زر کے خواب دیوانہ بناتے ہیں مجھے

تجھ پہ روشن ہے خدا وندا پریشانی میری
بے سہارا ہوں، وفورِ غم سے گھبراتا ہوں میں
دنگیری چاہتا ہوں بے کسوں کے دستگیر
میں تیرا ناچیز بندہ ہوں، بہت مجبور ہوں
وسوسے دنیا کے ہر لمحہ ستاتے ہیں مجھے

لفظ اللہ میں توحید کا جلوہ:

دنیا میں اب تک کروڑوں مشرک ہوئے ایک ایک کے بیس بیس معبودانِ باطلہ ہوئے لیکن آج تک کسی کا نام ”اللہ“ نہ ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ اپنے نام میں شرکت برداشت نہیں کرتا وہ اپنے کام میں بھلا کب شرکت گوارا کرے گا لہذا کفار کا یہ قول باطل ٹھہرا کہ ما یقربونا الی اللہ زلفی۔ کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اہل اسلام کا اللہ کے اذن سے شفاعت کا عقیدہ حق ٹھہرا۔ (الا باذنه)

اسی طرح اللہ کا نام اپنے مادے کے اعتبار سے کافروں کی زبان پہ بھی جاری رہا کبھی الوہ کی شکل میں کبھی الہ اور کبھی الہیہ کے روپ میں تو جس کا نام نہیں بھلایا جاسکتا اس کی ذات کیسے بھلائی جاسکتی ہے؟ اور لفظ الہ پر جب الف لام لگا تو اللہ ہوا اور لفظ اللہ میں ہر باطل کی نفی موجود ہے کیونکہ معرف باللام ہونے کی وجہ سے خاص الہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

لفظ توحید باب تفعیل سے مصدر ہے یہ لفظ نہ خود اور نہ اس کا کوئی مشتق قرآن میں ہے اور غالباً پورے ذخیرہ حدیث میں بھی یہ لفظ نہیں ہے لیکن اس کو ماننے والے شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گویا توحید کی نعمت عطیہ خدا ہے مگر بوسیلہ مصطفیٰ ہے۔ (ﷺ)

پڑ گیا حسن محمد کا کچھ ایسا پرتو
سب کو ہم بھول گئے جوشِ جنوں میں لیکن
قبر میں جا کے بھی اس دل کی صفائی نہ گئی
اک تیری یاد تھی جو دل سے بھلائی نہ گئی

علامہ اقبال سے ایک فلاسفر نے سوال کیا کہ آپ اپنے والدین کے عقیدے کی پیروی میں خدا کو ایک مانتے ہیں یا معاشرے اور ماحول سے متاثر ہو کر؟ فرمایا: ان میں سے کوئی وجہ نہیں بلکہ اس وجہ سے خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ ایسی ہستی نے یہ عقیدہ دیا ہے جس کے دشمن بھی اسے صادق و امین کہتے تھے اور جو اتنا سچا ہوا اس کی بات مان لینا ہی انسانیت ہے۔

معمولی جانور اور چیونٹی سے ہاتھی تک کی مثال:

جانور گھاس بنولہ وغیرہ کھاتے ہیں تو ایک نالی میں خون بنتا ہے دوسری میں گوبر تیسری میں پیشاب پھر گوبر و پیشاب کس ہوتے ہیں تو دودھ بنتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائفا للشربین۔ (النحل) حالانکہ

خون کا رنگ اور ہے گوبر کا اور مگر دودھ سفید۔ کیا سائنس نے آج تک کوئی ایسی مشین تیار کی ہے کہ جس میں ایک طرف خون، گوبر ڈالا جائے تو دوسری طرف سے سفید دودھ برآمد ہو جائے؟ لیکن یہ مشین اللہ نے ہر دودھ دینے والے جانور کے اندر فٹ کر دی ہے۔

☆ اللہ نے ایک چیونٹی کو وہ سب کچھ دیا ہے جو ایک ہاتھی کو دیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں انتڑیاں معدہ سب کچھ ہے وہ زبان بھی رکھتی ہے بولتی بھی ہے۔ (قالت نملة یا ایہا النحل ادخلوا مسکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یשמعون۔ فتبسم صاحبکامن قولہا۔ النحل) پھر اس چیونٹی کو اللہ نے شعور بھی بخشا کہ چلتی چیونٹی کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو تو اس کے ساتھ نکلنے سے پہلے ہی راستہ بدل لیتی ہے اور اس کا شعور اتنا تیز ہے کہ کوئی میٹھی چیز کتنی ہی دور رکھ دی جائے خواہ وہ ایک ذرہ ہی ہو تو دیکھ لینا ایک لمحے میں سینکڑوں چیونٹیاں وہاں پہنچ جائیں گی۔ ان حقائق پہ غور کرنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں ایک لمحہ کائنات میں غور و فکر کرنا کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ خالی عبادت والا تو گمراہ ہو سکتا ہے لیکن فکر والا یقین کے اس درجے پہ فائز ہوتا ہے کہ گمراہی سے بچا رہتا ہے کیونکہ اللہ کی جو قدرتیں اس نے ملاحظہ کر لی ہیں اب ان سے بڑھ کر کوئی صاحب قدرت ہو تو اس کے ایمان میں کمزوری واقع ہو اور کائنات میں ایسی قدرت والی تو ایک ہی ذات ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب کوئی خدا کا منکر اپنے والدین کو مانتا ہے تو اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے والدین ہیں۔ ثابت ہوا کہ خدا کے منکر کو ہر چیز کا منکر ہونا پڑے گا، کیونکہ خدا کی گواہی دینے والے خدا کے نبی ہیں اور باقی ہر شے کی گواہی جس درجہ کی بھی ہوگی نبی کی گواہی کے برابر نہیں تو جو نبی کی گواہی نہیں مانتا وہ کسی دوسرے انسان کی گواہی پر کیوں کرا اعتبار کر لیتا ہے۔

ذکرِ الہی پر ایک تقریر

گر تو خواہی درد و عالم آبرو	یادِ او کن یادِ او کن یادِ او
مومن! ذکرِ خدا بسیار گو	تا بیابی درد و عالم آبرو
یادِ او گر مونسِ جانت بود	ہر دو عالم زیرِ فرمانت بود
یادِ او سرمایہ ایمان بود	ہر گدا از یادِ او سلطان بود
کار ساز ما بفکر کار ما	فکرِ مادرِ کارِ ما آزار ما

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: فاذا کرونی اذکرکم۔ ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“

تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے اللہ ہم تیرا کس طرح ذکر کریں؟ فرمایا:

واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلاً۔

”اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔“

اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرنے سے تمام صفاتی نام کی برکات بھی نصیب ہو جاتی ہیں جب کہ جس صفتی نام کا ذکر کیا جائے گا اس

کے معنی کے مطابق فائدہ حاصل ہوگا۔ مثلاً ”یا کریم“ کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے حقدار ہو جاؤ گے یا غفور کا ذکر کرنے سے اس کی بخشش کے مستحق قرار پاؤ گے۔ جب کسی کو تخی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر۔ اے اللہ! ہم تیرا کتنا ذکر کریں؟ فرمایا:

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسجوه بكرة واصيلا . (الاحزاب)
 ”اے ایمان والو! کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔“

مولا تیرا کرم ہے میں ہوں غلام تیرا
 بادِ صبا کے جھونکے لائیں پیام تیرا
 رکھتا ہے سر بسجود سب کو دوام تیرا
 شب کو سحر بنانا بے شک ہے کام تیرا
 میں اُس کا اُمّتی ہوں جس پر سلام تیرا
 ہونٹوں پہ ذکر جن کے تھا صبح و شام تیرا
 اُزیر ہو اُس کو سارا سچا کلام تیرا

آنکھوں میں خواب تیرے ہونٹوں پہ نام تیرا
 گن تیرے گارے ہیں طائر سروں میں اپنی
 اک تیری ذات باقی سارا جہاں فانی
 آلام زندگی سے دے دے مجھے رہائی
 رکھو سدا سلامت ایمان و جان میرے
 زندہ ہیں نام اُن کے تیری ثنا کے صدقے
 ازہر کی ہے تمنا لوح و قلم کے مالک

ذکر بالجہر کا جواز و استحباب:

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: فاذا قضيت الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم .

”(نماز حالانکہ خود ذکر ہے لیکن فرمایا) نماز سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ چاہے تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو۔“

(الفاء للتعقيب - یعنی سلام پھیرو تو فوراً ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور چونکہ نماز افضل عبادت ہے تو اس کے بعد افضل الذکر لا

الله الا الله کا ورد کرنے میں کیا حرج ہے؟)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بدانکہ جہر بذکر مطلقاً بعد از نماز مشروع است وارد شدہ است دروے

احادیث۔“ (امعة للمعات ۱/۲۱۸) نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کی کئی احادیث ہیں۔

فتاویٰ خیریہ میں ہے: والذکر فی الملاء لا یكون الا جہرا . (۱۸۱/۲)

”مجلس میں ذکر تو بالجہر ہی ہوگا۔“ (الحادی للفتاویٰ للسیوطی ۱/۵۸۹)

بلاعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلا کر اس مجلس میں

لے جاتے ہیں ذکر بھی سنتے ہیں اور ذکر میں آنے والوں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس ذکر کو فرشتے سنتے ہیں (ذکر بالجہر) وہ اس ذکر سے ستر گنا زیادہ فضیلت

رکھتا ہے کہ جس کو وہ نہیں سنتے اور فرماتے ہیں ذکر بالجہر سلسلہ چشتیہ قادریہ اویسیہ کا طریقہ ہے۔

وہمہ پیران ما اند۔ ”اور یہ تمام ہمارے بزرگ ہیں۔“

اگر کوئی سوال کرے کہ ذکر بالجہر میں ریا کاری ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ریا کاری کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص ذکر بالجہر کر رہا تھا، کسی نے کہا یہ ریا کار ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، نہیں انہ او اہ۔ یہ تو آہ و زاری کرنے والا ہے۔ (بیہقی) ورنہ ریا کاری تو ذکر خفی میں بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ اس نیت سے تسبیح پھرتا رہے کہ لوگ کہیں بڑا ذاکر ہے۔

صحیح بخاری میں ہے: ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم۔ فرضی اور باجماعت نماز کے بعد آواز بلند ذکر کرنا حضور ﷺ کے دور اقدس میں بھی تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں چونکہ چھوٹا تھا لہذا گھر میں ہوتا تو ذکر بالجہر کی آواز سن کر معلوم کر لیتا کہ نماز ہو چکی ہے۔ (باب الذکر بعد الصلوة بخاری شریف صفحہ ۱۱۶)

بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے لہذا ان کی بات کا اعتبار نہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ حدیث بیان کرتے وقت تو چھوٹے نہ تھے، ورنہ پھر ان کی تمام مرویات کا انکار کر دو۔

الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا
مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں
کہاں جائے جب کہ نہ ہو کوئی تجھ بن
خبر لیجیو! میری اس دم الہی!
نہ ڈر دشمنوں سے رہا مجھ کو جب سے
الہی! رہے وقت مرنے کے جاری
نہیں دونوں عالم سے کچھ مجھ کو مطلب
نہ ڈر فوج عصیاں سے گرچہ بہت ہے

ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فاذا قضيت الصلوة فاذا كروا الله کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

في السفر والحضر۔ في البر والبحر والليل والنهار والغنى والفقر والسقم والصحة والسرو
العلائية وعلى كل حال۔ (تفسیرات احمد یہ صفحہ ۲۰۷، احیاء العلوم صفحہ ۳۰۱)

”سفر و حضر میں، خشکی و تری میں، فقیری و مالداری میں، بیماری و تندرستی میں، آہستہ و اونچی آواز میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔“

قرآن مجید میں ہے کہ کفار و مشرکین حج کے موقع پر (ممبروں پر بیٹھ کر، مخفلیں سجا کر آواز بلند) اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تو اللہ

نے فرمایا: فاذا كروا الله كذا كركم اباؤكم او اشد ذكرا۔

”اللہ کا ذکر اپنے بڑوں کے ذکر کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا کرو۔“ (ظاہر ہے وہ آہستہ یا دل میں تو ان کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے)

حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو آہستہ آواز میں ذکر کر رہے تھے (جب انہوں نے عرض کیا کہ میں علیم بذات الصدور کو سنا رہا ہوں) ذرا اونچی آواز سے ذکر کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر جو بہت اونچی ذکر کر رہے تھے (تا کہ غافل جاگے اور شیطان بھاگے) ذرا آہستہ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ (کما فی الحدیث)

اس سے ثابت ہوا کہ اگر ممانعت ہے تو جہر مفطر (حد سے زیادہ اونچی آواز میں ذکر کرنے) کی نہ کہ سزی و متوسط کی۔ اسی لئے دونوں (سری و جہری) کی اجازت دیتے ہوئے ادعوا ربکم تضرعا و خفیه فرمایا اور مفطر سے انہ لا یحب المعتدین فرما کر منع کر دیا۔

مولوی اشرف علی تھانوی بیان القرآن ۱/۳۶۳ پر لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو (جہر مفطر سے بھی) تکلیف نہ ہوتی ہو یا بطور علاج جنگل میں جا کر کر لے تو جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ متوسط میں اگر تکلیف ہوتی بھی ہو تو کرتا رہے۔

باقی رہی نماز میں خلل کی بات تو وہ کیسی نماز ہے جس میں ذکر الہی سے خلل آتا ہے، ذکر الہی تو سولی پہ لٹکے ہوئے کو بھی سکون عطا کر دیتا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرو پھر ذکر سے خلل نہیں آئے گا بلکہ مزید ذوق پیدا ہوگا اور پھر ایام تشریق میں بھی تو یہی نماز ہوتی ہے یہی ذکر ہوتا ہے اس وقت خلل کا فتویٰ کیوں یاد نہیں رہتا۔ (پتہ چلا تم نماز نہیں پڑھتے ہو ایک سیڈنٹ کرتے ہو ورنہ) مومن کا کام ذکر سے روکنا تو نہیں بلکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبہم۔ اہل ایمان تو اللہ کا ذکر سن کر کانپ جاتے ہیں اگرچہ نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے لیکن ولذکر الله اکبر ہے۔

ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کوئی بہرہ ہے۔ (معاذ اللہ) جو اونچی آواز سے ذکر کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیا امین بالجہر کے وقت اور حج کے موقع پہ جب آواز بلند لیک اللہم لیک کہتے ہو تب اللہ بہرہ ہو جاتا ہے (نعوذ باللہ) اور کیا جب اونچی آواز میں رورو کر اجتماعات میں دعائیں مانگتے ہو تو یہی کہتے ہونا کہ بھائیو! جب تک بچہ روتا نہیں ماں بھی دودھ نہیں پلاتی لہذا جو روئے گا اسی کا نام ہوئے گا۔

لوک فریدا لوک توں را کھا جو یں جو ار جد تک ٹانڈا نہ پکے تو کروا رہ پکار

اور حضرت سلطان العارفين رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا:

کوک دلا متاں رب سن لئی درد منداں دیاں آہیں ہو

دنیا داروں کا ذکر کرنے سے امیری ملتی ہے خدا کا ذکر کرنے سے فقیری ملتی ہے اور کامیابی کا دار و مدار امیری پر نہیں فقیری پر

ہے، نہ امیر کامیاب نہ وزیر کامیاب، نہ سفیر کامیاب، نہ مشیر کامیاب، کامیاب ہے تو اللہ کی بارگاہ کا فقیر کامیاب ہے۔ (یسا ایہا

الناس انتم الفقراء الی اللہ) (مولانا اورنگزیب آف راولپنڈی کا بیان کیا ہوا نکتہ)

بادشاہاں دے ناں امیراں دے دیوے بلدے سدا فقیراں دے
یقین نہ آئے تو دیکھ لور اوی کے اُس پار شاہدرہ میں دنیا کے بادشاہ کا مزار ہے جہاں چڑیا بھی نہیں پر مارتی اگر جاتی ہے تو بیٹھ
کرنے کے لئے۔

بر مزار ما غریبے نے چراغ و نئے گلے نے پر پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے
اور راوی کے اِس پار بھائی گیٹ کے باہر فقیر مگر دین کے بادشاہ کا دربار ہے جہاں دنیا کے بادشاہ آ کر سلامی دے رہے ہیں
اور آدھی رات کو جاؤ تو بھی یوں لگتا ہے جیسے سارا لاهور داتا دربار میں آیا ہوا ہے۔

اے آبروئے ملت بیضا کے پاسبان لاهور تیرے دم سے عروس البلاد ہے
داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ قدموں کو تیرے چومنے آتا ہے زمانہ
الغرض! لوہے کو نرم کرنا ہو تو ہتھوڑے کی ضرب لگائی جاتی ہے اور دل کی سختی دور کرنی ہو تو اللہ کے نام کی ضرب لگانا ضروری
ہے۔

ہور دوانہ دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو ایتے اونتے دوئیں جہانیں کلمے میل اتاری ہو

ذکر سے روکنا:

مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں: قرآن پاک میں مساجد کے اندر ذکر الہی سے روکنے والے کو جو سب سے بڑا ظالم کہا گیا
ہے اور اس کو مساجد کی بربادی کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی
خرابہا۔ (البقرہ) منع بدوں اطلاع ممکن نہیں اور اطلاع بدوں جہر متصور نہیں۔ (فتاویٰ امدادیہ ۳/۳ مطبع مجتہائی)
یعنی روکے گا تبھی جب اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں ذکر کر رہا ہے اور معلوم تبھی ہوگا جب آواز سے ذکر کیا جائے گا؛ ذکر سے روکنے
والے مندرجہ ذیل آیات قرآنی پر غور فرمائیں۔

۱۔ و من اعرض عن ذکرى فان له معیشتہ ضنکاً ونحشرہ یوم القیمۃ اعمی..... و کذلک الیوم تنسی۔
(طہ: ۱۲۶-۱۲۳)

۲۔ و من یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذاباً صعداً۔ (الجن: ۱۷)

۳۔ و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطاناً فہو لہ قرین۔ (الزخرف: ۳۶)

۴۔ اسحوذ علیہم الشیطن فانہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطن الا ان حزب الشیطن ہم الخسرون۔
(المجادلہ: ۱۹)

۵۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلل مبین۔ (الزمر: ۲۲)

مساجد صرف نماز کے لئے نہیں اللہ کے ذکر کے لئے بھی بنائی گئی ہیں اور ایسی ہی مسجد کی فضیلت میں فرمایا کہ ایسی مسجد بنانے
والا جس میں اللہ کا ذکر ہو (نہ کہ ذکر سے روکا جائے) اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت میں محل بنایا ہے۔ من بسی مسجداً یذکر لہ

اسم الله بنى الله له بيتا فى الجنة . (ابن ماجه صفحه ۵۴)

کفار مکہ جب قرآن کی آواز سنتے من انزل (اللہ) اور ماجا عیبہ (حضرت جبریل) کو گالیاں دیتے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفیه۔ شور مچاتے تب اللہ نے فرمایا: لا تجهر بالقول ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سیلا۔ عجیب بات ہے وہاں (مکہ میں) وہ قرآن سن کر شور مچاتے تھے اور یہاں (پاکستان میں) کلمہ کا ذکر سن کر یہ تیخ پا ہو جاتے ہیں آخر تمہارا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ لہذا اے ذکر کے متوالے سنیو! کافروں کے شر سے صحابہ کو بچانے کے لئے اللہ نے وابتغ بین ذلك سیلا کا حکم دیا ہے تاکہ ان کا شور شرابا بند ہو، تم بھی ذکر پر شور کرنے والوں کے سامنے یہی راہ اپناؤ تاکہ ان کا بھی خون خرابہ بند ہو۔

قرآن پاک میں منافقین کی یہ سنت بیان فرمائی گئی ہے۔ ولا یذکرون الله الا قلیلا۔ کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں پس نماز پڑھی، جو تا اٹھایا (اپنا نہیں تو کسی کا) اور بھاگ گئے۔ (ذکر کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہوئے)۔
ذکر رو کے فضل کا لے نقص کا جو یاں رہے پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ

ذکر بالجہر کی فضیلت:

ذکر خفی کی فضیلت صرف ایک وجہ سے ہے کہ اس میں ریا کاری نہیں ہے جبکہ ذکر بالجہر کی فضیلت تقریباً پچھتر وجوہات کی بنا پر ہے (جن میں سے بعض کا بیان عنقریب آتا ہے) ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا جو بلند آواز سے قرات کیا کرتا تھا کسی نے اس کو ریا کار کہا تو حضور علیہ السلام نے اس کی وفات پر بڑے غم کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا۔ (یہ ریا کار نہ تھا بلکہ) انہ کان یحب الله ورسوله . ”یہ اللہ، رسول سے محبت کرنے والا تھا۔“ (ابن ماجہ صفحہ ۱۱۳)
عجیب حالت ہے کہ حکمرانوں کی آمد پہ کئی کئی گھنٹے سکول کے بچے سخت گرمی میں بھوکے پیاسے کھڑے رہتے ہیں، ان کی پڑھائی کا نقصان کر نیوالے اور آگے پیچھے کئی کئی گاڑیاں فضول چلانے والے حکمرانوں کو ریا کار نہیں کہا جاتا لیکن مساجد میں حلقے بنا کر بلند آواز سے ذکر کرنے والوں کو ریا کار گردانا جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون ۔

ہر عضو کا جدا گانہ ذکر:

آنکھ کا ذکر خوفِ خدا سے رونا اور آیاتِ قرآنی کی زیارت کرنا ہے۔
ذکر چشم از خوف حق بگریستن باز در آیات او نگریستن
ہاتھ پاؤں کا ذکر مجبور کی مدد کرنا اور نیکیوں کی زیارت کے لئے چل کر جانا ہے۔
یاری ہر عاجز آمد ذکر دست ذکر پا خویشاں زیارت کردن است
کان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کان دھرنا ہے۔
استماع قول رحماں ذکر گوش تا توانی روز و شب در ذکر گوش
دل کا ذکر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا ہے۔

اشتیاقِ حق بود ذکرِ دلت کوش تا این ذکرِ گردد حاصلت
اور زبان کا ذکرِ یادِ خدا اور تلاوتِ قرآن سے اس کو حرکت دینا ہے۔

خواندن قرآن بود ذکرِ لسان ہر کرا این نیست ہست از مفلسان

(پندنامہ: شیخ فرید الدین عطار غزنویؒ)

نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

ہر کوئی ہر حال میں ذکرِ الہی بجالاتا رہے:

تاجر تجارت بھی کرے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھے، دست بکا ردل بیار۔ ہتھ کاروتے دل یاروتے۔ ارشادِ ربانی ہے۔ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکرِ اللہ۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ فاذا قضیت الصلوٰۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل (رزقِ حلال) تلاش کرو لیکن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو تا کہ فلاح پا جاؤ۔ کیونکہ ذکر سے خالی تجارت وہ ہے کہ فرمایا: یوم لا بیع فیہ ولا خلة اور ذکر والی تجارت وہ ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ (العنق) ”جو تمہیں عذاب الیم سے بچالے گی۔“

مجاہد کے لئے حکم ہے کہ یا ایہا الذین امنوا اذا لقیتم فتنۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ (الانفال) دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور کامیابی کے لئے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھو۔

علماء و مبلغین کو فرمایا وعظ و نصیحت بھی کرو لیکن اللہ کا ذکر نہ چھوڑو چنانچہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم ہوا اذہب الی فرعون انہ طغی۔ اذہب انت و اخوک بایتی ولا تینیا فی ذکری۔ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ نافرمان ہو چکا ہے مگر میرے ذکر میں سستی نہ کرنا کیونکہ میرے ذکر کی برکت سے بڑے سے بڑے فرعون کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب کہ میرا ذکر نہ کرنے والا معمولی باتوں سے ڈرتا رہتا ہے۔

اور دیگر اہل ایمان کو فرمایا: لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکرِ اللہ۔ تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔

نفس کے بے رحم پختل سے چھڑالے مجھے اے خدا
اے خدا مجھ کو تیری نظر عنایت چاہے
اے خدا تیری محبت حاصل کونین ہو
اے خدا تیری رضا ہو مجھ کو ہر شے سے عزیز
اپنی رحمت سے عطا کر زندگی ایمان کی
تیرا عاصی تیرے ذکر و فکر سے دل شاد ہو
تو زمانے کی برائی سے بچالے اے خدا مجھے
ساری دنیا کے عوض تیری سرت چاہیے
مضطرب دل کو تیری حمد و ثناء سے چین ہو
میرے دل کو اب نہ بھائے تجھ سے زیادہ کوئی چیز
میں غلامی چاہتا ہوں سرورِ ذیشان کی
دل میں اس کے تیری الفت کا جہاں آباد ہو

تم جس حال میں اسے یاد کرو گے اللہ اسی کے مطابق تمہیں یاد کرے گا:

فاذکرونی علی ظہر الارض اذکر کم اذکنتم فی بطن الارض ۔

فاذکرونی فی الدنیا اذکر کم فی الاخرۃ ۔

فاذکرونی بالسؤال اذکر کم بالنوال ۔

فاذکرونی بالمعذرة اذکر کم بالمغفرة ۔

تم زمین کے اوپر مجھے یاد کرو میں تمہیں اس وقت یاد کروں گا جب تم زمین کے اندر (قبروں) میں ہو گے۔

تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔

تم مجھے سوال کر کے یاد کرو، میں تمہیں اپنے کرم سے عطا کر کے یاد کروں گا۔

تم مجھے جوانی میں یاد کرو میں تمہیں اس وقت یاد رکھوں گا جب تم بڑھاپے کی وجہ سے لاچار ہو جاؤ گے۔

تم گناہ کر کے مجھے یاد کرتے ہو تو میں عطا کر کے تمہیں یاد کرتا ہوں۔

جو کچھ ٹی وی اسٹیشن پہ ہوتا ہے وہی ہرٹی وی کی سکرین پر آتا ہے۔ دل اسٹیشن کی طرح ہے اور اعضائی وی کی سکرین کی مانند

ہیں۔ فرمایا: وذروا ظاہرا لائم وباطنہ۔ (اندر کا ٹی وی اسٹیشن ٹھیک کرو اور) باطنی گناہوں کو چھوڑ دو اور (اعضاء کی سکرین

صاف کر کے) ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ پھر دیکھو یار کی تصویر دل کی سکرین پہ کیسے آتی ہے۔

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

(ابوالنور سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر صاحب آف کوٹلی لوہاراں)

لکل شیء صقالة وصقالة القلب ذکر اللہ۔ ہر شیء کو روشن اور مجبلی کرنے والی قلعی ہوتی ہے اور دل ذکر الہی سے روشن

ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے: واصبر نفسك مع الذین یدعون ربہم..... ولا تعد عینک عنہم۔ محبوب میری

رضا کی خاطر صبح و شام ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہ اور ان سے اپنی نگاہ عنایت کو نہ ہٹانا۔ معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والوں کو ہر وقت

حضور کی روحانی صحبت حاصل ہوتی ہے اور حضور ﷺ ان کے پاس حاضر و ناظر رہتے ہیں۔

تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا

دنیا میں تو ہمیشہ بندوں کے کام آیا

یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی

یعقوب کو کرب میں تو نے دیا سنبھالا

پروردگارِ عالم تیرا ہی ہے سہارا

نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا

بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی

تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا

ذکر نہ کرنے کا نقصان:

فاعرض عنمن تولیٰ عن ذکرنا۔ (انجم) اے حبیب جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے آپ اس سے اپنا رخ انور پھیر

لیجئے۔ ذکر نہ کرنے والا حضور کی نظر کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا سکون لٹ جاتا ہے، دنیا و آخرت میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔

من اعرض عن ذکری فان له معیشتہ ضنکاً۔ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ونحشرہ یوم القیمة اعمی۔

☆ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ ذکر و اذکار کی مجلس میں نیند آ جاتی ہے جبکہ سینما میں کئی گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو نیند نہیں آتی۔ فرمایا: فلم ڈرامہ کانتوں کا بستر ہے اور کانتوں پر کس کو نیند آتی ہے؟ جبکہ محفل ذکر پھولوں کی بیج ہے اس پر نیند کیوں نہ آئے۔ باقی رہی یہ بات کہ گناہ میں وقتی لذت کیوں ہوتی ہے؟ تو اس لئے کہ دوزخ کو مرغوبات نے اور جنت کو مکروہات نے گھیر رکھا ہے، (حقت النار بالشہوات و حقت الجنة بالمکارہ) آج کی لذت چھوڑ دینے والا آخرت میں ہمیشہ کی لذت میں ہوگا اور دنیا کی لذتوں کو آخرت پہ ترجیح دینے والا آخرت کی لذت نہ چکھ سکے گا۔

☆ بوعلی سینا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا جبکہ آپ اسم اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ بوعلی سینا کے دل میں خیال آیا کہ جب تک پانی پیا نہ جائے خالی پانی پانی کہنے سے پیاس تو نہ بجھے گی اور پیٹ میں درد ہو تو دوائی کھانے سے ہی درد ٹھیک ہوگا نہ کہ دوائی دوائی کہنے سے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ کشف قلوب اس کے خیال کو جان لیا اور فرمایا: ”اے خر! تو چہ دانی کہ در اسم ذات چہ برکات اند“ یعنی اے گدھے! تو کیا جانے کہ اللہ کے نام میں کیا برکات ہیں۔ بوعلی سینا یہ سنتے ہی لال پیلا ہو گیا اور غصے سے پسینے میں نہا گیا کہ آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا ہے؟ فرمایا: میں نے تو صرف ایک لفظ ہی بولا ہے تو تیری یہ حالت ہو گئی جب ایک جانور (گدھے) کے دو حرفی نام میں اتنا اثر ہے تو نام خدا میں کیوں نہ اثر ہوگا؟

اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے

(عمر محمد عبداللہ جان، مرشد آ باد پشاور)

☆ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہتے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ بلکہ آپ کے سونے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائیں کروٹ لیٹتے کیونکہ دل بائیں سمت ہوتا ہے تاکہ دائیں کروٹ لیٹنے سے دل لٹکا رہے، غفلت قریب نہ آئے اور ذکر الہی جاری رہے۔ (عطاء اللہ شاہ بخاری)

یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا
ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا
پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا
الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا
داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارا
تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا

جانور بھی ذکر الہی بجالاتے ہیں

مرغ صبح اٹھ کر ”ککڑوں کوں“ نہیں کہتا بلکہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر سونے والی مخلوق کو شرم دلاتا ہے کہ میں ایک معمولی مخلوق ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور تم اشرف المخلوقات ہو کر غفلت میں سو رہے ہو۔ اذکرو اللہ ایہا الغافلون۔

”اے غافلوا! اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرو۔“

کسی کی بے وقوفی ظاہر کرنی ہو تو اس کو تیل کہا جاتا ہے لیکن کیا تجھے معلوم ہے کہ تیل ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔

سبحان الله وبحمده ۵۔

گھوڑے کی تسبیح یہ ہے: سبحان حافظی (پاک ہے وہ ذات جو میری حفاظت فرمانے والی ہے) اذا التقت الابطال - جب (لشکروں کے) بہادر آپس میں ٹکراتے ہیں۔ واشتغلت الرجال بالرجال اور جب لوگ کجاووں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اونٹ کی تسبیح یہ ہے: حسبى الله وكفى بالله وكيلا۔

مور کی تسبیح: الرحمن على العرش استوى۔

مینڈک کی تسبیح: سبحان المعبود فى البدارى والقفارى سبحان الملك الجبار۔

بلبل کی تسبیح یہ ہے: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے دعا کے قبول ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعائے مانگنے کی توفیق بخشی ہے۔

ہر منزل مقصد پر آسانی سے پہنچا دے
وہ نور عطا کر دے عالم کو جو چکا دے
وہ سوزِ محبت دے جو قلب کو گرما دے
وہ جذبہ صادق دے منزل پہ جو پہنچا دے

یا رب مجھے دنیا میں ہر کام پہ چمکا دے
وہ دولت ایمان دے باطل کو جو شرما دے
نالوں میں اثر وہ دے جو عرش کو لرزا دے
وہ عشق کی دولت دے جو روح کو تڑپا دے

ایک حدیث سے چھ نکات:

صحیح مسلم کی ایک حدیث جو پہلے بیان ہو چکی کہ فرشتے ذکر الہی کی مجالس کو تلاش کر کے ڈھانپ لیتے ہیں..... گناہ گار بھی اس مجلس میں آئے تو بخشا جائے کہ لا یشقى جلسہم ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہو سکتا۔..... (۳۴۴/۲) سے مندرجہ ذیل چھ امور ثابت ہوتے ہیں:

۱۔ فرشتے جماعتِ ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں ان فرشتوں کا سوائے اس کام کے اور کوئی کام نہیں ہوتا، معلوم ہوا جمع ہو کر ذکر کرنے کو فضیلت حاصل ہے بہ نسبت اکیلے ذکر کرنے کے۔ چنانچہ امام نووی اور ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

لا وظیفۃ لہم الا حلق الذکر وفيہ دلالة علی ان لله اجتماعاً علی الذکر مزیة ومرتبۃ۔ (مرقاۃ ۵/۵۶)۔
ان فرشتوں کا سوائے حلقہ ذکر تلاش کے اور کوئی کام نہیں ہوتا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنے کے لئے جمع ہونے کو شرف و فضیلت حاصل ہے۔

۲۔ جو ذکر جماعت کے ساتھ ہو وہ جہر بھی ہوتا ہے چنانچہ علامہ خیر الدین ربلی و جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہما لکھتے ہیں۔

والذکر فی الملاء لا یکون الاجہرا۔ (الحاوی للفتاویٰ ۱/۵۸۹)

”جماعت میں جو ذکر ہو وہ جہر ہوتا ہے۔“

۳۔ اسی حدیث میں ہے:

یسبحونک ویکبرونک ویهللونک ویحمدونک۔ یعنی جماعت کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ کہتے تھے یہ فرشتوں کو خبر ہے جو انہوں نے سنا اور یہ سننا جہر پر دلیل ہے کہ آہستہ میں تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں، کیا پڑھا ہے کب اور کہاں سے شروع کیا ہے، کب اور کہاں ختم کیا ہے نیز ان کلمات میں جمع والا معنی تب پیدا ہوگا جب اکٹھے ذکر کریں گے۔

۴۔ امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے۔ وخف بعضهم بعضا کے تحت لکھتے ہیں: ای حث علی الحضور والاستماع۔ (۳۴۴/۲)

یعنی بعض فرشتے بعض کو مجلس میں حاضر ہونے اور ذکر سننے پر براہِ یختہ کرتے ہیں۔

۵۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فلان عبد خطاء کے تحت لکھتے ہیں:

ای ما ذکر اللہ قصداً او اخلاصاً والاستماع الذکر ذکر۔ (مرقاۃ: ۵۹/۵)

یعنی اس شخص نے اللہ کا ذکر قصداً یا اخلاصاً نہیں کیا اور نہ ذکر کو سننا بھی ذکر ہوتا ہے یہ عبارت فرشتوں کے قول پر پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے فرشتوں نے کہا کہ ذاکرین میں ایک ایسا شخص ہے جو صرف ان کے پاس سے گزرا اور بیٹھ گیا یعنی اس نے ذکر نہیں کیا تو اس عبارت پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ذاکرین کا ذکر سنا اور ذکر سننا بھی ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں نے یہ کیسے کہا کہ اس نے ذکر نہیں کیا تو اس سوال کا جواب ملا علی قاری دیتے ہیں کہ اس کا ذکر سننا اخلاصاً اور قصداً نہیں تھا یونہی اتفاقی طور پر بیٹھ گیا۔

ملا علی قاری کے اس کلام سے خوب واضح ہوا کہ حدیث میں جن ذاکرین کا ذکر ہے ان کے ذکر کو فرشتے اور انسان سنتے ہیں اور سننا تب ہی ہوگا جبکہ آواز کے ساتھ ہو۔

۶۔ اس حدیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر کی تلقین اور ترغیب ہے۔

نور سے سینہ روشن کر	ہر دم اللہ اللہ کر
ہر دم اللہ اللہ کر	ہر دم اللہ اللہ کر
مرے تو اس کا ہو کر مر	جئے تو اس کا ہو کر جی
تیرا دل ہو اُس کا گھر	تیری زباں پر ہو اس کا نام
ہر دم اللہ اللہ کر	ہر دم اللہ اللہ کر
تیرا سر ہو اُس کا در	تیرے قدم ہوں اس کی راہ
صرف تو اک اللہ سے ڈر	ڈر کر بھاگیں سب شیطان
ہر دم اللہ اللہ کر	ہر دم اللہ اللہ کر

ایک حدیث اور چار نکات:

ترمذی شریف میں ہے:

”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو خوب چرو (یعنی ذکر کرو) صحابہ کرام نے عرض کیا: جنت کے باغ کیا (کہاں) ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ذکر الہی کے حلقے۔“

خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری
مصلیٰ ہے ہمارا تخت شاہی
ہماری فوج ہے اخلاق حسنة
ہمار حصن ہے ترکِ مناہی

معلوم ہوا:

۱۔ ذکر الہی کیلئے حلقے باندھنا مشروع ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: ودریں حدیث دلیل است بر آنکہ تخلیق برائے ذکر مشروع است۔ (اشعۃ اللمعات ۲/۱۸۷)

۲۔ ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا مستحب ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے:

قال النووی واعلم انه لما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق اهله . (مرقاۃ ۵/۲۳)

”امام نووی فرماتے ہیں جس طرح ذکر مستحب ہے اسی طرح ذکر والوں کے حلقوں میں بیٹھنا بھی مستحب ہے۔“

۳۔ ذکر بالجہر افضل ہے یہی نووی فرماتے ہیں:

وقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وافضل منهما ما كان بالقلب واللسان . (ایضاً)

”اور یہ ذکر کبھی دل کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی زبان کے ساتھ۔ افضل یہ ہے کہ زبان اور دل دونوں کے ساتھ ہو۔“

۴۔ جماعت والوں کی موافقت کرنی چاہیے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں:

وحاصل المعنى اذا مررتم بجماعة يذكرون الله تعالى فاذا كروه موافقة لهم فانهم في رياض الجنة . (ایضاً)

”حدیث کا حاصل معنی یہ ہے جب تم ایسی جماعت کے پاس سے گذرو جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو تو تم بھی ان کی موافقت میں اللہ کا ذکر کرو کیونکہ وہ جنت کے باغ میں ہے۔“

اس کو پیارے دیدہ تر

مانگ دعائیں شام و سحر

ہر دم اللہ اللہ کر

نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر

اس کے ہاتھ میں زیر و زبر

آس ہے اس کی رحمت پر

ہر دم اللہ اللہ کر

نور سے سینہ روشن کر

سب دکھیا اس کو محبوب

اس کو سوالی سے ہے پیار

ہر دم اللہ اللہ کر

اس کے اذن بغیر شفیع

مالک یوم الدین ہے وہ

اس عاصی گیلانی کو

ہر دم اللہ اللہ کر

ہر دم اللہ اللہ کر

دور و نزدیک سے حلقہائے ذکر میں آنا:

مختلف مقامات سے ذکرِ الہی کے لئے جمع ہونے کی فضیلت طبرانی شریف میں ہے:

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبعثن اللہ اقواماً یوم القیمة فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤء ویغبطہم الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء فحال اعرابی صفہم لنا نعرفہم قال ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتی یتجتمعون علی ذکر اللہ یدکرونہ۔ (طبرانی بحوالہ کنز العمال ۱/۲۳۸)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض قوموں کا حشر اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے حالانکہ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے ایک اعرابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ان کا حال بیان فرمائیے تاکہ انہیں پہچان لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف قبائل سے اور مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔

اس حدیث مبارکہ کی مزید وضاحت مصنف تبلیغی نصاب کے کلام سے ہوتی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

آج خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ بوریوں میں بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے جب وہ ان منبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ یہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے جن میں اللہ کی فضیلت ہے۔ (تبلیغی نصاب فضائل ذکر)

قرب کے زینے چڑھتا جا راہِ وفا میں بڑھتا جا

شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ

تیری نفی تیرا اثبات شیطان کے منہ پر ہے لات

شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ

جھوٹی دنیا سے منہ موڑ رب سے اپنا رشتہ جوڑ

توئی نہیں ہے اس کے سوا لا الہ الا اللہ

اہل ذکر پہ حضور علیہ السلام کی نواشات:

امام طبرانی اور ابن جریر طبری حضرت اہل بن حنیف رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں:

قال نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بعض یوتہ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی فخرج یلتمسہم فوجد قوماً یدکرون اللہ فیہم لائر الراس وجاف

الجلد وذو الثوب الواحد فلما راهم جلس معهم وقال الحمد لله الذي جعل في امتي من امرني ان اصبر نفسي معهم . (الحاوی للفتاویٰ للسیوطی ۳۹۲/۱)

”حضور ﷺ اپنے دولت کدہ میں تشریف فرماتے تھے جب یہ آیت کریمہ (جس کا ترجمہ یہ ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں) نازل ہوئی اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے اور خشک کھالوں والے ہیں اور بعض ایک کپڑے والے۔ جب حضور نبی کریم ﷺ نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔“

ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت و حیات

کل کا مالک وہ تھا لا الہ الا اللہ

غیروں سے تو مانگ نہ بھیک اس کا نہیں ہے کوئی شریک

سب منگتے ہیں اک ذاتا لا الہ الا اللہ

جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اسی کے آگے رو

منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ

حدیث سے ذکر بالجہر یہ خوبصورت استدلال:

امام حاکم اور بیہقی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

اکثر واذکر اللہ حتی یقولوا مجنون . (ایضاً)

”اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔“

ابن شاہین ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور امام بیہقی حضرت ابو جوز رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

اکثر واذکر اللہ حتی یقول المنافقون انکم مراؤن . (ایضاً ۳۹۰/۱)

”اللہ کا ذکر اس قدر کثرت کے ساتھ کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہیں۔“

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ووجه الدلالة من هذا والذي قبله ان ذلك انما يقال عند الجهر دون الاسرار . (ایضاً)

اس حدیث سے اور پہلی حدیث سے بھی ذکر بالجہر پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ مجنون اور ریاکار تب ہی کہا جائے گا جب ذکر بالجہر ہونہ کہ خفی ہو۔ تبلیغ نصاب میں ان دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے ریاکار کہنے سے ایسی بڑی دولت نہ چھوڑنی چاہیے بلکہ اس کثرت سے اور اہتمام سے ذکر کرنا چاہیے کہ لوگ تمہیں پاگل

سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور مجنوں تب ہی کہا جائے گا جب نہایت ہی زور سے ذکر کیا جائے۔ آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔

(بحوالہ کنز العمال ۱/۳۳۷)

قارئین کرام! اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ذکر بالجہر کرنے پر ریاکار کہنے والا منافق ہے۔ یاد رکھئے کسی کے ریاکار کہنے سے ذکر بالجہر کا چھوڑنا بھی ریا (دکھاوا) ہے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے:

و ینبغی لا یتروک الذکر باللسان مع القلب بالاخلاص خوفا من ان یظن بہ الریاء وقد نقل عن الفضیل ترک العمل لاجل الناس

”ذکر بالجہر جو خلوص سے ہو اس خوف سے کہ ذکر بالجہر پر ریاکار گمان کیا جائے گا (ترک نہ کیا جائے کیونکہ) کسی عمل کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑنا بھی ریا ہے۔“

غور سے سن تو میرے بھائی

شرک ہے دوزخ کی کھائی

دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ

گیلانی کیا ڈرنا ہے

آخر اک دن مرنا ہے

کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ الا اللہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

ذکر الہی کرنے سے پہاڑ آسمان اور زمین بھی خوش ہوتے ہیں:

امام بیہقی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

ان الجبل ینادی الجبل باسمہ یا فلان هل مر بک الیوم للہ ذاکر فان قال نعم استبشر۔

(الحاوی للفتاویٰ ۱/۳۹۱)

”ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پکارتا ہے، اے فلاں کیا آج تم پر کوئی اللہ کا ذکر کر نیوا لگدرا ہے اگر وہ پہاڑ

ہاں میں جواب دے تو یہ دوسرا پہاڑ خوش ہو جاتا ہے۔“

☆ ابن ابی الدنیا حضرت ابو عبیدہ سے روایت کرتے ہیں:

ان المؤمن اذا مات نادت بقاع الارض عبد اللہ المؤمن مات فتبکی علیہ الارض والسماء

فیقول الرحمن ما یبکیکما علی عبدی فیقولون ربنا لم یمش فی ناحیة منا قط الا و هو یدک رک۔

(ایضاً)

”جب کوئی بندہ مومن مر جاتا ہے زمین پکارتی ہے کہ اللہ کا بندہ وفات پا گیا تو زمین اور آسمان دونوں رو پڑتے ہیں تو

اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو زمین و آسمان جواب دیتے ہیں۔ اے اللہ! جب بھی یہ بندہ

کسی کو نے پر گزرتا تو تیرا ذکر کرتا۔“

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ووجه الدلالة من ذلك ان سماع الجبال والارض للذكر لا يكون الا عن الجهر به . (ايضاً)
ان احادیث سے ذکر بالجہر پر یوں استدلال کیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان تب ہی ذکر سنیں گے جب ذکر جہراً ہوگا۔

خدا ہم تیرے در پہ آئے ہوئے زمانے کے ہم ہیں ستائے ہوئے
تجھی سے ہیں بس لو لگائے ہوئے کرم ہم پہ کر دے تو رب کریم
کَرِيمٌ كَرِيمٌ كَرِيمٌ كَرِيمٌ

ذکر بالجہر پہ مزید حوالہ جات:

تفسیر روح المعانی میں ہے:

والذی علیہ نص الامام النووی فی فتاواہ ان الجہر حیث لا محذور شرعاً مشروع مندوب الیہ بل ہو افضل من الاخفاء من مذهب الامام الشافعی وهو ظاہر مذهب الامام احمد و احدی الروایتین عن مالک بنقل الحافظ ابن حجر فی فتح الباری وهو قول قاضی خان فی فتاواہ فی ترجمة مسائل كيفية القراءة وقوله فی غسل الميت ويكره رفع الصوت بالذكر فالظاهر انه لمن يمشى مع الجنائز كما هو مذهب الشافعية لا مطلقاً كما تفهمه عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الامامين فی تكبير عيد الفطر كما لا ضحى ورواية عن الامام ابى حنيفة نفسه رضى الله عنه بل فی مسنده رضى الله عنه ما ظاہر استحباب الجہر بالذكر مطلقاً . (۱۳۸/۱۶)

”امام نووی نے اپنے فتاویٰ میں جس بات پر تصریح کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مانع شرعی نہ ہو تو جہراً بالذکر نہ صرف مندوب بلکہ اخفاء سے افضل ہے جس طرح امام شافعی کا مذہب ہے اور یہی امام احمد کا مذہب ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں امام مالک کا یہی قول نقل کیا ہے اور قاضی خان نے بھی اپنے فتاویٰ میں یہی قول کیا ہے البتہ باب غسل الميت میں کہا ہے کہ ذکر بالجہر مکروہ ہے امام قاضی خان کا قول صرف جنازہ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے امام شافعی کا مذہب ہے اور انہوں نے مطلقاً ذکر بالجہر سے منع نہیں کیا جیسے صاحب بحر الرائق نے سمجھا ہے اور عید الفطر کی تکبیرات بھی عید الاضحیٰ کی طرح ہیں یہی امام یوسف اور محمد کا مذہب ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ ایک روایت میں یہی مذہب ہے بلکہ مسند امام اعظم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر بالجہر کو مطلقاً مستحب قرار دیتے ہیں۔“ معلوم ہوا کہ:

- ۱۔ چاروں آئمہ ذکر بالجہر کے قائل ہیں۔
- ۲۔ امام اعظم مطلقاً ذکر بالجہر کو مستحب قرار دیتے ہیں۔
- ۳۔ قاضی خان مطلقاً ذکر بالجہر کو مکروہ نہیں کہتے۔
- ۴۔ امام یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہما عیدین میں جہراً تکبیر کے قائل ہیں اور امام اعظم کا بھی ایک قول یہی ہے۔

پڑھیں علم دیں ہم بڑے شوق سے
 کریں محنتیں ہم بڑے ذوق سے
 رہیں بچتے ہم جہل کے طوق سے
 ہمیں دولت علم دے اے علیم
 عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ

عبارات فقہاء اور ذکر بالجہر:

قاضی خان فقہاء احناف میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ طبقہ ثالثہ سے یعنی مجتہد فی المسائل تھے وہ فرماتے ہیں:

ولا بأس بالتسبیح والتہلیل وان رفع صوتہ بذلك . (فتاویٰ قاضی خان)
 کلمہ اور تسبیح کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

☆ فتاویٰ عالمگیری فقہ حنفی کی وہ مستند کتاب ہے جس کو ہندوستان کے تین یا پانچ سو جدید علماء کرام نے ملا نظام الدین کی قیادت میں مرتب کیا۔ ان تمام احناف علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ان لا یرفع فیہ الصوت من غیر ذکر اللہ (عالمگیری ۳۸۱/۵) مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کوئی آواز بلند نہ کی جائے۔

کریں عمر بھر ہم اطاعت تیری
 رہے دل میں قائم جلالت تیری
 ہمہ وقت ہو بس عنایت تیری
 حفاظت میں رکھ اپنے ہم کو حفیظ
 حَفِیْظٌ حَفِیْظٌ حَفِیْظٌ حَفِیْظٌ

صاحب فتاویٰ شامی کے استاد اور ذکر بالجہر:

فاما حلق الذکر والجہر بہ وانشاد القصائد فقد جاء فی الحدیث ما اقتضی طلب الجہر نحو
 وان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منه رواہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن
 ماجہ رواہ احمد بنحوہ باسناد صحیح وزاد فی اخرہ قال قتادہ والیہ اسرع والذکر فی ملاء لا
 یكون الا عن جہر وكذا حلق الذکر وطواف الملائکة بہا وما ورد فیہا من الاحادیث فان ذلك
 انما یكون فی الجہر بالذکر وهناك احادیث اقتضت طالب الاسرار والجمع بینہما بان ذلك
 یختلف باختلاف الأشخاص والاحوال كما جمع بین الاحادیث الطالبة للجہر بالقراءة والطالبة
 للاسرار بہا ولا یعارض ذلك خیر الذکر الخفی لانه حیث خیف الریاء او تأدی المسلمین
 او النیام ذکر بعض اهل العلم انه افضل حیث خلا مما ذکر لانه اکثر عملا ولتعدی فائدته الی
 السامعین ویوقظ قلب الذاکر فیجمع ہمہ الی الفکر ویصرف سمعہ الیہ ویطرد النوم ویزید
 النشاط . (الحاوی للفتاویٰ: ۳۸۹/۱)

”ذکر کے لئے حلقہ باندھنا اور ذکر بالجہر کرنا اور انشاد قصائد پڑھنا بہر حال جائز ہے کیونکہ اس میں وہ احادیث وارد
 ہیں جو جہر کا اقتضاء کرتی ہیں۔ جیسے بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی و ابن ماجہ اور احمد نے اسناد صحیح سے روایت کیا کہ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں اور جماعت کے ساتھ ذکر بغیر جہر کے متصور نہیں اسی طرح ذکر کے لئے حلقہ بنانا اور ملائکہ کا اس کے گرد طواف کرنا سوا جہر کے متصور و ممکن نہیں، اور سر کے بارے میں بھی حدیثیں وارد ہیں اور ان احادیث میں تطبیق اسی طرح ہے کہ سر اور جہر اشخاص اور اوقات کے اختلاف نے مختلف ہوتا ہے جس طرح سر اور جہر کی قراۃ کی حدیثوں میں تطبیق دی گئی ہے اور اس کے معارض وہ حدیث نہیں ہے جس میں ہے کہ بہترین ذکر بالترہ ہوتا ہے۔

کیونکہ اس کا محمل یہ ہے کہ جب ریاء کا خوف ہو یا مسلمانوں کو ایذا ہو یا نیند میں خلل ہو اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ جب ان امور سے خالی ہو تو ذکر بالجہر افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ سامعین تک پہنچتا ہے اور ذاکر کے دل کو بیدار کرتا ہے اور اس کے ذہن کو فکر کی طرف راجع کرتا ہے اور سرور کو زیادہ کرتا ہے۔“

خطا کار ہیں اور گناہگار بھی سیاہ کار ہیں اور بدکار بھی
معافی کے ہیں ہم طلب گار بھی تو کر رحم ہم پر کہ تو ہے رحیم

رَحِيمٌ رَحِيمٌ رَحِيمٌ رَحِيمٌ

فتاویٰ بزازیہ اور ذکر بالجہر:

قال فی الفتاویٰ لا یمنع من الجہر بالذکر فی المساجد احترازا عن دخول تحت قولہ تعالیٰ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ کذا فی البزازیة ونص الشعرانی فی ذکر الذاکر المذکور والشاکر للمشکور واجمع العلماء سلفا وخلفا علی استحباب ذکر اللہ جماعۃ فی المساجد وغیرہا من غیر نکیر الا ان یشوش جہرہم بالذکر علی نائم او مصل او قارئ للقرآن کما فی کتب الفقہ . (الشیخ احمد طوطاری، طحطاوی شرح مراقی الفلاح صفحہ ۱۷۴)

”فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ مساجد میں ذکر سے نہ روکا جائے تاکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ (ترجمہ) اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے کے تحت داخل ہونا لازم نہ آئے امام شعرانی نے ذکر الذاکر میں تصریح فرمائی ہے کہ تمام اگلے اور پچھلے علماء کا اس پر اجتماع ہے کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر بغیر کسی انکار کے مستحب ہے سوائے اس کے کہ جہر سے کسی کی نیند نماز اور قرأت میں خلل پڑے۔ اسی طرح کتب فقہ میں ہے۔“

مفسرین کرام اور ذکر بالجہر:

تفسیر روح البیان میں ہے:

الذکر برفع الصوت جائز بل مستحب اذ لم یکن عن ریاء یفتم الناس باظهار الدین ووسون بركة الذکر الی السامعین فی الدور والبیوت والحوانیت ویوافق الذاکر من سمع صوته

وشهدتہ يوم القيمة كل رطب ويابس سمع صوتہ (الی) وان كان من العوام فالجهر فی حقہ
اولیٰ واذا كانوا مجتمعین علی الذکر فالاولیٰ فی حقہم رفع الصوت بالذکر فلکل واحد ثواب
ذکر نفسه وسماع ذکر رفقاءہ . (۱۳۷/۲)

”لند آواز سے ذکر کرنا جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ ریاء سے نہ ہوتا کہ دین کو ظاہر کرنے والے لوگ زیادہ ہوں اور ذکر کی
برکت سامعین تک گھروں اور دکانوں میں پہنچ جائے اور جو بھی ذکر کو سنے وہ ذکر کرنے والوں کی موافقت بھی کرتا ہے
اور قیامت کے دن ہر تر اور خشک چیز ذکر کی آواز سننے پر گواہی دے گی۔ اگر ذاکر عوام الناس میں سے ہو تو ذکر بالجہر
اس کے حق میں اولیٰ ہے اور اگر لوگ جمع ہوں تو ان کے حق میں بلند آواز سے اور پوری قوت سے ذکر اولیٰ ہے کیونکہ
ذکر بالجہر کو پردہ ہٹانے میں زیادہ تاثیر ہے اور ثواب کے لحاظ سے ہر ایک ذکر کر نیوالے کے لئے دو ثواب ہیں۔ ایک
ذکر کرنے کا اور دوسرا سننے کا۔“

معاوی سے ہم کو بچا عمر بھر	خطاؤں گناہوں سے کر در گزر
تجھے یہ سب حاصل ہے قدرت قدیر	بھٹکتے رہیں اب نہ ہم در بدر
	قَدِيرٌ قَدِيرٌ قَدِيرٌ قَدِيرٌ
میں آپ کے حکم و فرمان پر	رہیں ہم عمل پیرا قرآن پر
معاوی ہیں وارث کے بے حد غفور	تو کر سب کا خاتمہ ایمان پر
	عَفُورٌ عَفُورٌ عَفُورٌ عَفُورٌ

تفسیر صاوی کا حوالہ

وہل الافضل الذکر مع الناس او الذکر فی خلوة والحق التفصیل وهو ان كان الانسان ينشط
وحده ولم یکن مدعوا من اللہ لهدایة الناس فالخلوة فی حقہ افضل والافذکرہ مع الناس افضل
اما ينشطه او لتقتدی الناس نسال اللہ ان یجعلنا من اهل ذکرہ . (صاوی)

”کیا لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا افضل ہے یا خلوت میں ذکر کرنا افضل ہے حق یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اگر اسے
خلوت میں سرور آتا ہے اور لوگوں کی ہدایت پر مامور نہ ہو تو خلوت میں ذکر کرنا افضل ہے ورنہ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا
افضل ہے تاکہ سرور حاصل ہو اور لوگ اقتداء کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذاکرین میں سے بنا
لے۔“

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نتیجۃ الفکر فی الذکر“ کے نام سے ذکر بالجہر کے جواز و استحباب پر تقریباً آج
سے پانچ سو سال پہلے ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔ اس رسالہ میں علامہ سیوطی نے ۱۲۵ احادیث سے ذکر بالجہر کے جواز و استحباب پر
استدلال کیا ہے اور ساتھ ساتھ منکرین کو جن آیات سے شبہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیا ہے میں صرف علامہ سیوطی کے رسالہ سے

ذکر بالجہر کے سوال و جواب کو قارئین کی خدمت میں فائدہ کے لئے لکھ دیتا ہوں۔

سوال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سالت اكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل وهل ذلك مكروه ام لا .

الجواب: انه لا كراهة في شيء من ذلك يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص كما جمع النووي بمثل ذلك بين الاحاديث الواردة باستحباب الجهر بقراءة القرآن والاحاديث الواردة باستحباب الاسرار بهما - (جلال الدين سيوطي الحاوي للفتاوى ۱/۳۸۹)

”سوال: حمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ آپ سے یہ سوال ہے کہ صوفیاء کرام کا معمول یہ ہے کہ وہ مساجد میں حلقہ بنا کر بلند آواز سے کلمہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں کیا یہ مکروہ ہے یا نہیں؟

جواب: ذکر بالجہر میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے کیونکہ بعض احادیث ذکر بالجہر کا تقاضا کرتی ہیں اور بعض ذکر باسرا۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ مختلف احوال اور اشخاص کے لحاظ سے حکم ہوتا ہے جس طرح امام نووی نے قرآن کریم کے سر اور جہر پڑھنے کے احکام میں تطبیق فرمائی ہے۔“

جس راہ پہ چلنے سے حاصل ہو ظفر مندی وہ راہ صداقت کا یا رب مجھے دکھلا دے

تفسیر روح المعانی کا حوالہ:

و اختار بعض المحققين ان المراد دون الجهر البالغ او اللزائد على قدر الحاجة فيكون الجهر المعتدل والجهر على قدر الحاجة فيكون الجهر المعتدل والجهر بقدر الحاجة داخل في المأمور به فقد صح ما يزيد على عشرين حديثا في انه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يجهر بالذکر . (۱۲۸/۱۶)

”اور بعض محققین کا مسلک ہے کہ قرآن کریم میں جہر مفروض یا ضرورت سے زائد جہر سے منع کیا گیا ہے پس جہر متوسط اور بقدر ضرورت جہر شرعاً مأمور بہ ہوگا“ کیونکہ بیس سے زائد احادیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ ذکر بالجہر کثرت سے کرتے۔“

قال بعض اهل العلم ان الجهر افضل لانه اكثر عملا لتعدى فائدته الى السامعين . ويوظف قلب الذاكر فيجمع همه الى الفكر ويصرف سمعه اليه ويطرد النوم ويزيد النشاط .

”بعض اہل علم نے کہا ہے ذکر بالجہر افضل ہے اور اس کا فائدہ سامعین تک پہنچتا ہے اور ذاکر کے قلب کو بیدار کرتا ہے اور اس کی ہمت فکر کی طرف راجع کرتا ہے اور اس کی سماعت کو ذکر کی طرف پھیلتا ہے اور نیند کو دور کرتا ہے سرور کو زیادہ کرتا ہے۔“ (فتاویٰ شامی: ابن عابدین شامی ۱/۶۱۸)

جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے
در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے
خوبی دارین کر ہم کو عطا
اور قربانی میری تیرے لیے
تو ہی مالک تو ہی رازق تو ہی پالنے والا ہے

تو وہ مالک ہے جو چاہے سو کرنے
تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے
اے ہمارے پالنے والے خدا
ہے ہماری بندگی تیرے لیے
میں تیرا عاجز ہوں بندہ تو میرا غمخوار ہے

بزرگانِ دین اور ذکر بالجہر:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات ۲/۸۷ پر لکھتے ہیں:

دیگر بدانکہ جہر مذکور مشروع است بے شبہ چنانچہ در حدیث آمدہ است کہ من ذکرنی فی ملاء مقابل من ذکرنی فی
لسنہ۔ از ادلہ آن است قول حق سبحانہ و تعالیٰ کذکر کم اباہ کم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میگوید نبی شامت من برگشتم مردم راز
نماز در عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بذر۔

ذکر بالجہر بے شک مشروع ہے جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو مجھے جماعت میں یاد کرے
(حدیث کا یہ ٹکڑا) مقابل ہے (حدیث شریف کے ان الفاظ کا) جو مجھے نفس (دل) میں یاد کرے۔ ذکر بالجہر کے دلائل میں ہے اللہ
تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے (اللہ کو یاد کرو) جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا تذکرہ کرتے ہو اور ذکر بالجہر کے دلائل میں سے یہ حدیث
شریف بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں زمانہ نبوی میں لوگوں کی نماز سے فراغت کو بلند آواز کے ساتھ ذکر
کرنے سے پہچانتا تھا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں:

بہ تحقیق جہر کردہ است آنحضرت باذکار و ادعیہ در موطن کثیرہ چنانچہ در حفر خندق و حمل سنگ و خشت برائے مسجد و جز آن ہمیں
آنچہ آمدہ است از سلف صحابہ و من بعد ہم وہمہ ایہ نہاد لالت دارد بر جواز جہر و اجتماع برائے ذکر۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر مقامات پر ذکر بالجہر کیا ہے جس طرح خندق کھودنے پر مسجد کے لئے پتھر اور اینٹ اٹھانے کے
موقع پر اور اس کے علاوہ بھی، اسی طرح صحابہ اور تابعین سے بھی جہر منقول ہے اور یہ تمام دلائل ذکر بالجہر کے جواز اور
ذکر کے لئے اجتماع کے جواز پر دلالت کرتے ہیں۔“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں: حقیقت ذکر جہر حق آں است کہ انکار آں سفاہت واضح است:

و کنا نعرف انقضاء صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذکر۔ (فتاویٰ عزیز یہ صفحہ ۱۷۰)
”اور حق یہ ہے کہ ذکر بالجہر سے انکار جہالت ہے (کیونکہ حدیث میں ہے) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو
ذکر سے پہچانتے تھے۔“

شاہ عبدالعزیز مزید لکھتے ہیں:

و دیگر حقیقت ذکر جبر و حق آں است کہ انکار آں سفاہت واضح است و قرآن ذکر صریح است ما اذن اللہ لشیء ما اذن یعنی تعنی بالقرآن بحکمیہ و در تلبیہ حج آمدہ الحج العج والشج ای رفع الصوت بالتلبیہ و اراقۃ الدم و قرآن و انضیلت معروف است و کنا نعرف استقضاء صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذکر و فضل الذکر الذی یسمعه الحفظۃ بسبعین ضعفاً۔ و بناطریقہ چشتیہ اویسیہ و قادریہ کہ ہمہ پیران ما اندر ذکر جبر است۔

(حضرت شاہ عبدالعزیز فتاویٰ عزیز یہ صفحہ ۱۷۰)

”حق یہ ہے کہ ذکر بالجبر سے انکار جہالت ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں صریح ذکر بالجبر ہے اور اس باب میں اللہ تعالیٰ نے نذو اجازت دی ہے وہ کسی باب میں نہیں دی یعنی اس میں تعنی بھی جائز ہے اور تلبیہ اور حج کے بارے میں حدیث وارد الحج والعمرة والعمرة والعمرة کے ساتھ آواز بلند کرنا۔ نیز حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی نماز کے اختتام کو ذکر بالجبر سے پہچانتے تھے اور جس ذکر کو فرشتے سنیں اس کی فضیلت اس ذکر پر ستر درجہ ہے جس کو وہ نہ سنیں اور طریقہ چشتیہ، اویسیہ اور قادریہ کی بناء ذکر بالجبر پر ہے۔ یہ سب ہمارے پیر ہیں۔“

پار کر بیڑا ہمارا دو جہاں میں اے الہ
دولت دنیا ہو نہ ہو کر دین کی دولت عطا
ہم غلام ان کے ہیں جن کی ذات پردہ پوش ہے
صدق پیغمبر اور ان کی آن کا
زندہ رکھ اسلام پر ہو خاتمہ ایمان پر
معاف کر اس کے گناہ اور نار دوزخ سے بچا

بے کسوں اور بے بسوں کو ہے تیرا ہی آسرا
ہم تیرے در کے گدا ہیں تو ہمارا بادشاہ
ہم گناہ گاروں کا پردہ حشر میں رہ جائے گا
صدق تیری عزت و اجلال کا
بخش دے خطائیں ہماری اور اپنا رحم
تیرے عاصی کی ہے ہر دم تجھ سے یہ التجا

مخالفین اور ذکر بالجبر (بعد الصلوٰۃ)

تیسیر الباری شرح بخاری میں علامہ وحید الزمان (غیر مقلد) لکھتے ہیں:

نماز کے بعد جبر کے ساتھ ذکر الہی بدعت نہیں کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی ہے کہ فرض نماز کے بعد آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ذکر جبر کے ساتھ کرنا جاری تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مجھ کو تو لوگوں کا نماز سے فارغ ہونا اسی ذکر کی آواز سن معلوم ہوتا۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پکار کر یعنی جبر کے ساتھ ذکر الہی کرنا بدعت نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔

(تیسیر الباری شرح)

فتاویٰ دیوبند اور علماء دیوبند کے چند فتاویٰ ذکر بالجبر کے متعلق ملاحظہ ہوں۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲/۱۶۹ پر مفتی عزیز الزمیں سے سوال کیا گیا:

سوال: بعد جماعت فرضوں کے سلام پھیرتے ہی لا الہ الا اللہ یا واز بلند کہنا ایسا ہے؟

جواب: یہ بھی جائز ہے لیکن خفیہ پڑھنا افضل ہے۔

اسی فتاویٰ کے محشی جواز پر مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کرتے ہیں:

و عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له - (الحدیث)

”مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہر فرض نماز کے بعد لا اله الا الله (تا آخر) کا ذکر کرتے تھے۔“

۶۱ مفتی کفایت اللہ دیوبندی (صدر جمعیت علماء ہند) سے سوال کیا گیا۔

سوال: جماعت کے ختم ہوتے ہی کلمہ طیبہ کا ذکر بالجہر کیا کرتے ہیں تین مرتبہ اس طرح لا اله الا الله محمد رسول الله یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس طرح نماز کے بعد کلمہ طیبہ کو بلند آواز سے پڑھنے کی رسم درست نہیں مگر اتنی آواز سے کہ کسی کی نماز میں خلل نہ

آئے۔ (کفایت المفتی ۲/۲۸) ایک اور جگہ یہی مفتی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال: زید کہتا ہے ذکر جلی حرام ہے اور عمر کہتا ہے ذکر جلی جائز ہے۔

جواب: ذکر جلی (بالجہر) جائز ہے اور مشائخ صوفیہ کا معمول و متواتر ہے احادیث کثیرہ سے اس کا ثبوت ہوتا ہے جس موقع

میں کہ شریعت نے خود ذکر جلی مقرر فرمایا ہے اس کے اندر تو کلام ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے اذان، تکبیر، تلبیہ، حج، تکبیر تشریق وغیرہ کہ سب اذکار ہیں اور جہر سے ہی ثابت ہیں ہاں جن مواقع میں کہ شریعت سے ثبوت نہیں وہاں اگر کوئی وجہ عارضی مانع نہ ہو تو نفس حکم یہ ہے کہ جائز ہے اگر کوئی عارضی مانع موجود ہو تو ناجائز ہو جائے گا۔ موانع عارضیہ کی مثال یہ ہے کہ ذکر کے جہر سے کسی سونے والوں کو تکلیف ہو یا کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل پڑتا ہو یہ ذکر کرنے والا جہر کو ضروری یا لازم سمجھے وغیرہ۔ (کفایت المفتی ۲/۲۸)

اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے

ہاتھ اپنی عقیدت کے آگے میرے پھیلائے

جو طالب جنت ہو وہ جنت کی طلب لائے

وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے

میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے

قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے

میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے

میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر

آئی تھی صدا پیہم جو مانگنے والا ہو

جو رزق کا طالب ہو میں رزق اُسے دوں گا

جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو

وہ مائل نوبہ ہو میں مائل بخشش ہوں

یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو

آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر

”حکیم الامت اور مجدد الملت“ کا فتویٰ

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا علماء و عوام دیوبند میں جو مرتبہ و مقام ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کے نزدیک حکیم

الامت اور مجدد الملت مانے جاتے ہیں ذکر بالجہر کے بارے میں ان کی تفسیرات ملاحظہ فرمائیں:

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث (ان رفع الصوت بالذکر... بخاری) سے مشروعیت جہر واضح و لا ریح ہے۔“ (امداد الفتاویٰ ۳/۲۷۱)

ان سے سوال کیا گیا:

سوال: طریقہ شاذلیہ میں ذکر جلی بافراط لوگوں کو لے کر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ذکر دو قسم پر ہے ماثور و غیر ماثور: ماثور وہ ہے جس کو شارع علیہ السلام نے بالجہر یا بالاختفاء معین کر دیا ہے۔ مثل اذان، اقامت و تکبیرات و قرآءة فی الصلوٰۃ و تشہد و تسبیحات وغیرہا اس کا حکم تو اتفاقاً یہ ہے کہ جس طور پر معین کر دیا اسی طرح چاہیے غیر ماثور دو نوع ہے۔ جہر و خفی۔ خفی بالاتفاق جائز ہے جہر میں دو قول ہے بعض کے نزدیک مشروع بعض کے نزدیک غیر مشروع۔ غیر مشروع کہنے والوں کے دو قول ہیں بعض کے نزدیک حرام اور بعض کے نزدیک مکروہ۔ مشروع کہنے والوں کے تین قول ہیں۔ بعض کے نزدیک جہر افضل ہے بعض کے نزدیک خفی رخصت اور بعض کے نزدیک خفی عزیمت اور افضل، جہر رخصت۔ بعض کے نزدیک دونوں فی نفسہ مساوی لیکن بعض وجوہ سے بعض موقع پر جہر افضل ہے اور بعض مواقع پر اختفاء اولیٰ ہے۔ دلائل قائلین خیرت و کراہت کے یہ ہیں۔

قال الله ادعوا ربکم تضرعاً و خفیةً . (الایة)

و عن ابی موسیٰ اشعری قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر فجعل الناس یجھرون بالتکبیر فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایہا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم و غائباً .

آیت اور حدیث میں صیغہ امر ہے اور مطلق امر و واجب کیلئے ہے اور ضد واجب حرام یا مکروہ ہوتی ہے معی اختلاف اس اصول فی الدر المختار فی بحث الجہر بالتکبیر و عدمہ یوم الفطر ہکذا: وجہ الاول ان رفع الصوت بالذکر بدعة فیقصر علی مورد الشرع .
دلائل مجوزین کے یہ ہیں:

قال الله تعالیٰ و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یدکر فیہا اسمہ و سعی فی خرابہا . (الایة)
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے اور ان کو ویران کرنے میں کوشش کرے طاعت ہے کہ مساجد کو بے اطلاع ذکر ممکن نہیں اور اطلاع بدون جہر غیر متصور ہے۔

و عن عبد الله بن الزبیر کان رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم ادا سنم من الصلوٰۃ یقول بصوتہ الا علی لا الہ الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد و هو علی کل شیء قدير اسی حدیث . (رواہ مسلم)

حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ آخراً

پڑھتے۔

و فی روایۃ للنسائی عن عبد الرحمن ابن ابزی عن ابیہ قال کان یقول اذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثاً ویرفع صوتہ بالثالثۃ . (مشکوٰۃ)

حضرت عبد الرحمن ابن ابزی رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے سلام پھیرنے کے بعد سبحان الملك القدوس پڑھتے اور تیسری مرتبہ آواز بلند فرماتے۔

و عن ابن عباس ان رفع الصوت بالذکر حين ینصرف الناس من المكتوبۃ کان علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم . (رواہ البخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کا معمول تھا۔

ان احادیث سے مشروعیت جہر واضح و لائح ہے پھر علماء اصول کے اختلاف کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ادنیٰ درجہ اباحت یا استحباب اس میں مختلف ہوئے۔ بعض نے ثبوت عن الشارع کو دلیل اباحت ٹھہرایا اور بوجہ حدیث خیر الذکر خفی خفی کو افضل کہا بعض نے نفس ثبوت عن الشارع کو دلیل استحباب افضلیت ٹھہرایا۔ (امداد الفتاویٰ صفحہ ۱۵۵)

تیرے کرم سے گلشن کن پر نکھار ہے
تیرے جمال و حسن کا آئینہ دار ہے
قائم تجھی سے گردش لیل و نہار ہے
تو بزم کائنات میں ذی اختیار ہے
اور تیرا ذکر وجہ سکون و قرار ہے
بخشش کا تجھ سے حشر میں امیدوار ہے

یا رب تو دو جہاں کا پروردگار ہے
رعنائی چمن یہ بہاروں کا بانک پن
ہر ذرہ تیری قدرتِ کامل کا شاہکار
شہ کو گدا کرے تو گدا گر کو بادشاہ
روشن ہیں تیرے نور سے قلب و نظر میرے
عاصی ہے پر خطا ہے گناہ گار ہے قمر

گنگوہی صاحب کا فتویٰ

مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا:

سوال: ذکر بالجہر مذہب حنفیہ میں جائز ہے یا نہیں مدلل ارقام فرمائیں۔

جواب: ذکر جہر میں حنفیہ کی کتب میں روایات مختلفہ ہیں کسی سے کراہت ثابت ہے غیر محل ثبوت میں اور بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور یہی راجح ہے اور اس کی دلیل طلب کرنا بے سود ہے کیونکہ مجتہدین کے خلاف ہے سواب کون فیصلہ کر سکتا ہے۔ مگر جواز کی دلیل یہ ہے:

قال اللہ تعالیٰ اذکر ربک تضرعاً و خیفۃ و دون الجہر من القول . دون الجہر بھی جہر ہے کہ ادنیٰ درجہ

ہے۔

قال علیہ السلام اربعوا علی انفسکم الحدیث اور یہ ذکر بھی جہر ہے رفق کو فرمایا گلہ پھاڑنے سے منع کیا ہے

آیات اور حدیث بہت جواز پر دال ہیں۔ دوسری جگہ ہے:

سوال: ذکر جہر افضل ہے یا خفی بادلائل ارقام فرمائیں؟

جواب: دونوں میں فضیلت ہے کسی وجہ سے جہر افضل ہی اور بعض وجہ سے خفی افضل ہے اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

مطلق ذکر فرمایا ہے۔ اذکر واللہ ذکراً کثیراً مطلق کی زد میں جو ہو مامور ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ صفحہ ۲۵۲)

وہ قدرت ہے خزاں کو تو بہارِ جاوداں کر دے
تو چاہے تو ابھی پل میں زمین کو آسماں کر دے
تو چاہے تو یہاں بھی دودھ کی نہریں رواں کر دے
جسے چاہے تو جب چاہے امیرِ کارواں کر دے

یہ طاقت بگلیوں کو آشیاں کا پاسباں کر دے
نہیں تیرے سوا کوئی جو بدلے نظمِ عالم کو
تری جنت کا کیا کہنا وہاں تسنیم و کوثر ہیں
تو چاہے تو گرا دے پل میں عالی شانِ ہستی کو

مفتی محمد شفیع دیوبندی کا فتویٰ

مفتی محمد شفیع دیوبندی اپنے فتاویٰ امداد المقتنین ۲/۲۵۰ پہ

(وہ عبارات لکھنے کے بعد جن کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بھی نقل کر چکے ہیں ہم نے طوالت کے خوف سے یہاں ترک کر دی ہیں) لکھتے ہیں: عبارات مرقوم سے معلوم ہوا کہ روایات حدیث ذکر جہر کے متعلق بظاہر متعارض ہیں اور یہی سب علماء اور مشائخ کے اختلاف کا ہوا ہے اور اہل تحقیق نے روایات مختلفہ کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ اگر ریاء کا اندیشہ ہو یا سونے والوں کے آرام میں خلل یا نمازیوں کی تشویش کا سبب ہو تو ذکر جہر ممنوع ہے اور روایات منع ایسے ہی مواقع پر محمول ہیں اور جس کسی نے ذکر جہر کو بدعت کہا ہے وہ بھی مطلق نہیں بلکہ خاص قسم کے التزامات کے ساتھ ہو تو وہ بدعت ہے۔ مطلق جہر بالذکر کو بدعت کہنے کے کوئی معنی نہیں۔ جب روایات صحیح میں اس کا جواز اور استحسان ثابت ہے جیسے حدیث: ان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منہم۔ ”جب بندہ مجھے جماعت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے اچھی جماعت میں یاد کروں گا۔“

اور جب ذکر جہر ان عوامل ریاء و تشویش مصلئیں و نامئیں وغیرہ سے خالی ہو تو وہ جائز ہے اور نصوص جواز اسی صورت پر محمول ہیں رہا افضل و غیر افضل کا سوال سو وہ احوال و اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے کسی کے لئے جہر افضل ہے کسی کے لئے سزا افضل ہے اور کسی وقت جہر افضل ہے اور کسی وقت سزا افضل، تعین اس کا عوام کو خود نہیں کرنا چاہیے کسی شیخ کامل سے کرانا چاہیے۔ تقریباً یہی مضمون اس مسئلہ کے متعلق حضرت مرزا مظہر جان جاناں نے بھی اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے اور حد جہر مفراط اور متوسط کی عرفی امر ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ عرفاً جس کو جہر مفراط سمجھا جائے وہ مفراط ہے جسے متوسط سمجھا جائے وہ متوسط ہے اور مختار ہمارے مشائخ کا یہ ہے کہ جس کے لئے اس کا شیخ جہر کو تجویز کرے اس کو اتنا جہر کرنا چاہیے جس سے قلب پر اثر پہنچ سکے اور دماغ پریشان نہ ہو اس سے زیادہ جہر فضول ہے البتہ کسی وقت غیر اختیاری طور پر جہر میں شدت پیدا ہو جائے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں اور یہ امر ہر حالت میں قابلِ نظر ہے کہ اس کے جہر سے دوسروں کی نماز، تسبیح یا نیند میں خلل بغیر ان کی اجازت کے نہ آئے۔

مشیت تیری گر چاہے تو پیدا یہ سماں کر دے

چٹائیں آب بن جائیں یہ صحرا پھول برسائیں

زباں کو گنگ کر دے بے زباں کو بازباں کر دے
جو دیکھا ہے تیری نظروں نے حقیقی وہ بیاں کر دے

کرشمہ تیری قدرت کا الہی یوں بھی دیکھا ہے
وہ کانٹوں میں وہ پھولوں میں نظر آتا ہے ہر شے میں

تبلیغی نصاب و صراطِ مستقیم

تبلیغی نصاب صفحہ ۳۹ فضائل ذکر میں مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں:

بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے ایک رسالہ سباحتہ الفکر اسی مسئلہ (یعنی ذکر بالجہر) میں تصنیف فرمایا ہے جس میں تقریباً پچاس حدیثیں ایسی ذکر فرمائی ہیں۔ جن سے جبراً (پکار کر ذکر کرنا) ثابت ہوتا ہے۔

☆ مولوی اسماعیل دہلوی (غیر مقلدین اور مقلدین (دیوبند) کے یکساں امام و پیشوا، ممدوح و مقتداء) صراطِ مستقیم صفحہ ۱۱۱ پر لکھتے ہیں:

اولاً ذکر کر نیوالے کو چاہیے کہ با وضو دو زانو بیٹھے اور اکابرین سلسلہ چشتیہ خواجہ غریب نواز اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہما اللہ کے ارواح مقدسہ کو ایصالِ ثواب کے لئے فاتحہ پڑھے پھر ان کے وسیلہ سے دعائے مانگے۔ اس کے بعد وضو کر کے شروع کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسمِ جلالت یعنی لفظ (اللہ) کو دس مرتبہ ملا کر پڑھے اور ملانے کے لئے اول اسمِ جلالت کے آخر پر پیش پڑھے یعنی اللہ اللہ اور سینہ کی پوری قوت کے ساتھ پکار لو عذہ و مد سے لفظ اللہ کا ذکر کرے اور پھر اسی طرح پکار کر عذہ و مد سے الا اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اسی طرح نفی و اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ (ملخصاً)

اشرف علی تھانوی صاحب ایک جگہ ذکر بالجہر کی فضیلت میں لکھتے ہیں:

اپنی نماز میں نہ زیادہ جہر کیجئے اور نہ ہی زیادہ پست آواز رکھیں۔ بلکہ درمیانی آواز رکھیں۔ تفسیر مدارک میں یہاں صلوة بمعنی دعا ہے ترمذی شریف میں ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنے والا علی الاعلان صدقہ کر نیوالے کی طرح ہے اور آہستہ پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کر نیوالے کی طرح ہے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر کے بارے صاحب بزازیہ کا کلام مضطرب ہے ایک جگہ حرام لکھتے ہیں اور دوسری جگہ جائز اور حاشیہ جموی میں امام شعرانی سے منقول ہے:

کہ تمام اگلے پچھلے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر سننا مستحب ہے الا یہ کہ جہر سے کسی کی نماز، نیند یا قرأت میں خلل واقع ہو اور دلائل مانعین کے جواب یہ ہیں آیت: (ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة) کا جواب یہ ہے کہ خفیہ مشترک ہے درمیان اعلان و اسرار کے چنانچہ منہی الادب میں ہے۔ خفاہ نظیا پنہاں کر دو آشکارا کر دو۔ چھپانا اور ظاہر کرنا پس آیت محتمل ہوئی، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ ”جب احتمال پیدا ہو جائے استدلال کرنا باطل ہو جاتا ہے۔“

رزق تجھ سے جہان پاتا ہے

یا الہی تو سب کا داتا ہے

قسمتوں کو سنوارتا ہے تو
ہر طرف گل کھلائے ہیں تو نے
تیری موجیں ہیں تیری لہریں ہیں
تیرے غصے کا خوف طاری ہے
شانِ اپنی نئی دکھاتا ہے
کیوں نہ حاصل سرور ہو جائے

زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو
چاند سورج بنائے ہیں تو نے
تیرے دریا ہیں تیری نہریں ہیں
تیری رحمت کا فیض جاری ہے
روز تو انقلاب لاتا ہے
یاد تیری دلوں کو گرمائے

علی سبیل التقرول

اگر ہم مان بھی لیں کہ خفیہ بمعنی اسرار ہے لیکن بوجہ تعارض اولہ امر کو اباحت یا استحباب پر حمل کرنا ضروری ہے اور حدیث کا جواب لمعات میں دیا گیا کہ نرمی کے لئے جہر سے منع فرمایا نہ اس وجہ سے کہ جہر نامشروع ہے اور اقوال بعض فقہاء کے بعض پر حجت نہیں ہوتے۔ یہ خلاصہ ہے اختلاف اقوال کا۔ (اور آخر میں یوں فیصلہ کرتے ہیں)

راقم کی رائے ناقص میں قول مجوزین صحیح ہے اور ان میں مفصلین کا قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ سب آیات و احادیث و اقوال علماء کے جمع ہوتے ہیں۔ پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق اولہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر یا صف یا کسی اور صورت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی قوم اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہوں اور جب وہ جماعت کے ساتھ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔

ابوداؤد شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میں کسی جماعت کے ساتھ عصر سے غروب آفتاب تک ذکر کروں تو یہ مجھے چار غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل تفسیرات احمدیہ میں ہے ہمارے زمانہ میں جہر اور اخفاء کے بارے میں کافی اختلاف ہے اور اس بحث میں پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہر فریق اللہ کو پہنچتا ہے خواہ کسی طریقہ سے ہو۔ پس ثابت ہوا کہ ذکر جہر ہر طور سے جائز ہے کسی کو کسی طور سے منع نہ کریں۔ یہی ارجح واضح بلکہ اگر عدم مشروعیت کو بھی ترجیح دی جائے تب بھی عوام کو منع نہ کریں چنانچہ مانعین نے خود اس امر کی تصریح کر دی ہے۔ جس طرح در مختار میں منع کرنے کے بعد فرمایا لیکن عوام کو بالکل منع نہ کیا جائے کیونکہ عوام کی نیکی کرنے میں رغبت کم ہوتی ہے۔

سوال: السلام علیکم ورحمة اللہ اگرچہ ہم ذکر برابر کیے جا رہے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے

ذکر جہر ارشاد فرمایا ہے یا کیا اور ہم ابھی تک برابر ذکر کیے جا رہے ہیں۔

جواب: ذکر دونوں طرح مفید ہے لیکن جہرا چھا معلوم ہوتا ہے آپ بھی جہر کریں۔ (امداد الفتاویٰ صفحہ ۱۵۵)

سوال: ذکر جلی (جہر) کی حد کیا ہے؟

جواب: ادنیٰ کی حد تو معلوم ہے اصطلاح اول پر تحریک لسان اور اصطلاح ثانی پر اسماع نفس خود لیکن اکثر کی کوئی حد نہیں اپنی نشاط پر موقوف ہے۔ (ایضاً ۱۶۰/۵) اس فیصلے سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔

۱۔ ذکر بالجہر بوجہ ادلہ مطلق علی الاطلاق مشروع ہے اور کسی قید کے ساتھ مقید نہیں حلقہ باندھ کر صف باندھ کر کھڑے ہو کر سب حالتوں میں جائز ہے۔

۲۔ ارجح اور اصح یہی ہے کہ ذکر بالجہر ہر طرح جائز ہے کسی کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔

۳۔ جن فقہاء نے منع کیا ان کا منع کرنا خواص کے لئے ہے عوام کو منع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی فقہاء نے عوام کے حق میں مکروہ کا قول کیا۔

۴۔ ذکر دونوں طرح مفید ہے لیکن جہرا چھا معلوم ہوتا ہے۔

۵۔ جن مخصوص مواقع پر شارع علیہ السلام سے ذکر ثابت ہے اس کے علاوہ ذکر بالجہر میں علماء حنفیہ کا اختلاف ہی لیکن صحیح قول انہیں لوگوں کا ہے جو علی العموم ذکر بالجہر کو جائز کہتے ہیں۔

۶۔ جن فقہاء نے جہر سے منع کیا ہے ان کا منع چیخ و پکار پر محمول ہے۔

۷۔ جب ذکر بالجہر سے کسی کی عبادت یا نیند میں خلل واقع نہ ہو تو جہر مفروض بھی جائز ہے۔

۸۔ جن فقہاء نے جہر سے منع کیا ہے ان کے اقوال حجت نہیں ہو سکتے، کیونکہ دوسرے فقہاء اسے جائز کہتے ہیں اور بعض کے اقوال بعض پر حجت نہیں۔

اس ڈرے کو آفتاب دے دے
بے تابوں کو وہ تاب دے دے
دے دے مجھے بے حساب دے دے
آنکھوں کو حسین خواب دے دے
پھر اذن مجھے شتاب دے دے

یا رب! دل مستجاب دے دے
ہر سنگ کو سمجھوں حسرتِ دل
کیا ظرف سے کام تجھ کو مولا!
دل خوف زدہ ہے جاگنے سے
کیا چاہتا ہوں تو جانتا ہے

مانعین کے لیے وعید شدید

تفسیر روح البیان ۲/۳۷۳ پر علامہ اسمعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

و من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یدکر فیہا اسمہ .

”اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام سے روکے۔“

یہ آیت کریمہ مساجد میں ذکر بالجہر سے منع کرنے والوں کے حق میں واضح وعید ہے تفسیر روح البیان میں ہے:

لمخالفة النصوص القرآنية قال الله تعالى 'ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه .
کیونکہ ذکر بالجہر سے روکنا قرآن پاک کی نصوص کی مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:
"اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام سے روکے۔"
فتاویٰ بزازیہ فتاویٰ خیریہ اور طحاوی شرح مراقی الفلاح میں ہے۔

ان الذکر بالجہر ولو فی المسجد لا یمنع احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالیٰ 'ومن اظلم
ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه .

(فتاویٰ خیریہ ۱۸۱/۲، بزازیہ علی ہاشم عالمگیری ۶/۳۷۸، طحاوی شرح مراقی الفلاح صفحہ ۱۷۴)

"مسجد میں ذکر بالجہر سے منع نہیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وعید (اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام سے روکے) کے تحت داخل نہ ہو جائے۔" شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:
"ایک دفعہ ایک فقیہ عالم بادشاہ روم کی طرف سے امیر حج مقرر ہوئے اور مدینہ منورہ میں شیخ ابراہیم کردی سے ملاقات ہوئی اس عالم نے کہا میں نے اس سفر میں ایک عظیم بدعت لوگوں سے دور کر دی۔ انہوں نے فرمایا: کون سی بدعت؟ کہا: ذکر بالجہر جس کو میں نے شہر بیت المقدس سے موقوف کر دیا۔ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام سے روکے۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں: لہذا ذکر بالجہر سے انکار جہالت ہے۔" (فتاویٰ عزیزی صفحہ ۱۷۷)

یا رب تیری شان نرالی ہے
ہر بستی پر راج ہے تیرا
بگڑے کام بناتا ہے تو
دامن خوشیوں سے بھرتا ہے
برکت ہے ہر نام میں تیرے
غیر سے کب ہیں ڈرنے والے
اس نے سرور کی دولت پائی

یا رب تو سب کا والی ہے
ہر بندہ محتاج ہے تیرا
کشتی پار لگاتا ہے تو
مشکل تو آسان کرتا ہے
حکمت ہے ہر کام میں تیرے
تیری عبادت کرنے والے
جس نے بھی لو تجھ سے لگائی

ذکر بالجہر کے فوائد:

- ۱۔ ذکر بالجہر حضور ﷺ کو پسند تھا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو فرمایا: "ارفع من صوتک شیاً"۔
- ۲۔ ذکر بالجہر صحابہ کرام کا معمول ہے۔
- ۳۔ ذکر بالجہر کرنیوالوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں۔
- ۴۔ ذکر بالجہر کرنیوالوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔

- ۵- ذکر بالجہر کرنیوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدکاروں کو بخش دیتا ہے۔
- ۶- ذکر بالجہر کو لے جانے پر فرشتے مامور ہیں۔
- ۷- ذکر بالجہر سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔
- ۸- ذکر بالجہر کی برکتیں ان تمام جگہوں پر پہنچ جاتی ہیں جہاں تک ذکر کرنیوالے کی آواز جاتی ہے۔
- ۹- ذکر بالجہر کا نفع متعدی ہے کیونکہ سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔
- ۱۰- ذکر بالجہر سے عام لوگوں کو ذکر کی تعلیم ہوتی ہے۔
- ۱۱- ذکر نہ کرنیوالوں کو ذکر کا شوق اور اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔
- ۱۲- ذکر بالجہر سے ذاکرا و نگھ اور نیند اور سستی سے بیدار ہوتا ہے۔
- ۱۳- بدعتی کو بھگانے کے لئے ذکر بالجہر کا وظیفہ بڑا مجرب ہے۔
- ۱۴- ذکر بالجہر سے غلط وسواس اور کیفیات نفسانیہ دفع ہو جاتی ہیں۔
- ۱۵- ذکر بالجہر ذکر خفی پہ ستر درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ (ذکر بالجہر علامہ غلام رسول سعیدی)

بولی	الا	اللہ	دی	بول	بولی	الا	اللہ	دی	بول
اوس	ویلے	توں	کی	کریں	گا	جدوں	کچھ	نہ	ہویا
بولی	الا	اللہ	دی	بول	دنیا	جان	مسافر	خانہ	اور
جھوٹے	جگ	دا	جھوٹا	بانناں	اڑک	پنچھی	نے	اڈ	جانا
جھوٹی	دولت	جھوٹے	بندے	جھوٹا	جگ	جھوٹے	دھندے	گورکھ	دھندے
تکڑی	ہتھ	گھٹ	عملاں	والی	نیکي	دا	دھن	تول	عمر
بولی	الا	اللہ	دی	بول	غافل	بندیا	فانی	جگ	وچ
گڈریا	ویلا	ہتھ	نہ	آوے	بولی	الا	اللہ	دی	بول
نیکي	دی	راہ	ٹول	چار	دھاڑے	رہن	بیرا	نہ	جگ
نیکي	والے	سچے	موتی	نہ	وچ	خاک	دے	رول	نہ
بولی	الا	اللہ	دی	بول	سارے	ڈکڑے	مک	جاون	گے
غم	جندڑی	دے	ٹٹ	جاون	گے				

گل وچ پا کے پیار دی مالا
 بولی الا اللہ دی بول
 کالی کملی والا ماہی
 اُس ماہی دے درتے چل کے
 بولی الا اللہ دی بول
 لا الہ دی بین و جا کے
 رسولاں والی جوت جگا کے
 بولی الا اللہ دی بول
 جس دن وقت اخیر آئے گا
 ناداں بندیا مورکھ بندیا
 بولی الا اللہ دی بول
 ویکھے نہ رب ظاہر صورت
 حشر دھاڑے کھل جانا این
 بولی الا اللہ دی بول

کلمہ طیبہ کے فضائل:

عن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ علیہ السلام یا رب علمنی شیئا اذ کرک بہ فقال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ فقال یا رب کل عبادک یقولون هذا انما ارید شیئا تخصنی بہ قال یا موسیٰ لو ان السموات السبع و عامرہن غیری والا رضین السبع و ضعن فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ لمالت بہن لا الہ الا اللہ .

(مشکوٰۃ صفحہ ۲۰۱)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے اللہ! مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ (علیہ السلام) لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ! یہ تو ساری دنیا ہی پڑھتی ہے میرا مطلب تو یہ تھا کہ کوئی خصوصی وظیفہ مجھے بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ: (یہ چند الفاظ اتنی فضیلت والے ہیں کہ) اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں مخلوق بستی ہے اور ساتوں زمینیں اور جتنی مخلوق ان میں رہتی ہے ترازو کی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کے الفاظ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ

والا پڑا جھک جائے گا۔“

اس کلمے دے راز نیارے میں اس ڈبڈے بیڑے تارے میں
سانوں دیا نبی پیارے میں پڑھو لا الہ الا اللہ
ایہ کلمہ عرشوں آیا اے جبریل امین لیا اے
نبی پاک نے خود فرمایا اے کہو لا الہ الا اللہ

قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا: (بخاری شریف) ”لا الہ الا اللہ پڑھو گا میاب ہو جاؤ گے۔“

☆ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ (متفق علیہ: مشکوٰۃ صفحہ ۱۲)
” (حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے (درجے) ہیں اور سب سے افضل و اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔“

☆ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

سمعت رب العالمین يقول لا الہ الا اللہ حصنی امن من عذابی (من قال لا الہ الا اللہ) لقنوا
موتاکم لا الہ الا اللہ۔ (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ صفحہ ۱۲)

میں نے اللہ رب العالمین جل شانہ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے جو کوئی (لا الہ الا اللہ پڑھ کر) میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن پا گیا۔ اپنے مردوں کو (بوقتِ وفات مجازاً، بعد الوفاً حقیقتاً) لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔

یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے
تو کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے حق لا الہ الا اللہ

جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من کان اخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة۔ (ابوداؤد۔ مشکوٰۃ صفحہ ۱۲۰)

جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے: من قال لا الہ الا اللہ فدخل

الجنة۔ (او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

☆ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلك الا دخل الجنة۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ (بالآخر) جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قلت وان زنی وان سرق۔ میں نے عرض کیا: حضور! اگرچہ بدکاری اور چوری کرتا پھرے۔ قال وان زنی وان سرق۔ ہاں اگرچہ بدکاری اور چوری کرتا رہے۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں: میں نے تین بار یہی سوال دہرایا اور آپ (ﷺ) نے تینوں بار یہی جواب ارشاد فرمایا اور

تیسری بار فرمایا: وان زنی وان سرق علی رغم ابی ذر۔ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ (یستعمل مجازاً بمعنی کمرہ او ذل) وکان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابی ذر۔ حضرت ابو ذر جب بھی یہ حدیث بیان فرماتے یہ لفظ ضرور کہتے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان فصل اول صفحہ ۱۲)

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: مفتاح الجنة شهادة ان لا اله الا الله۔ جنت کی چابیاں لا اله الا الله کی گواہی دینا ہے۔ (رواہ احمد۔ مشکوٰۃ صفحہ ۱۵)

ہمارے بعض بے عمل اور عبادت چور مسلمان اس طرح کی احادیث پڑھ کر یاسن کر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے تو کیا ضرورت ہے نماز روزے کی، یہ مولوی تو لوگوں کو خواہ مخواہ ڈراتے ہی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان عقل کے اندھوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے مہربان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے نافرمان ہو جائیں؟ جب وہ اتنا مہربان ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو حیا کرنی چاہیے اور اس کے کرم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جو اتنا مہربان ہو وفا کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمارا سر جھکا رہے۔ اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ زندگی میں ایک بار لا اله الا الله پڑھ لیا جائے تو قرآن نازل کرنے کی اور دیگر احکامات کی کیا ضرورت تھی؟

زباں سے کہہ بھی دیا لا اله الا الله تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

جیسے بسم اللہ یا الحمد للہ پڑھنے کو کہا جائے تو پوری بسم اللہ شریف اور پوری سورۃ فاتحہ پڑھنا مراد ہوتا ہے اسی طرح لا اله الا الله کہنے سے پورا کلمہ اور کلمے کے تمام تقاضے پورے کرنا مراد ہے۔

چابی کے دندانے

چنانچہ اس ذہن کے ایک شخص نے حضرت ذہب بن منہ سے کہا: ایس لا اله الا الله مفتاح الجنة۔ کیا لا اله الا الله جنت کے دروازے کی چابی نہیں ہے؟ قال بلی ولكن ليس مفتاح الا وله اسنان۔ فرمایا: ہاں! مگر کیا کوئی ایسی چابی ہوتی ہے جس کے دندانے نہ ہوں۔ فان جنت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم تفتح لك۔ اگر دندانوں والی چابی لائے گا تو تیرے لیے دروازہ کھل جائے گا ورنہ نہیں۔ (رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب ۱/۱۶۵، مشکوٰۃ باب اول فصل سوم)

گویا نماز روزہ بڑے دندانے ہیں اور باقی نیکیاں چھوٹے دندانے ہیں اور چابی کے لئے چھوٹا دندانہ بھی ضروری ہے اور بڑا بھی۔ جب تم اپنی چھوٹی سی دوکان کو اتنا بڑا بلکہ کئی تالے لگاتے ہو تو اللہ کی جنت جس کی گھاس کا ایک تنکا ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اس کو کتنا بڑا تالا ہوگا۔ اس لیے مغرور نہ ہو جائے اور عمل کر کے لا اله الا الله کی چابی پہ دندانے بنالے۔

عاقبت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا
یوں تو تو دنیا میں کرتا ہی رہا لے سفر گھر سے چل کر گور تک چھوٹا سفر کیسا لگا
ہنتے ہنتے تو نے دنیا میں گزاری زندگی اب نیا زیر زمین یہ تنگ گھر کیسا لگا
طاقت و دولت کے بل بوتے پہ تو مغرور تھا چھن گیا تجھ سے یہ تیرا مال و زر کیسا لگا

دیکھتا تھا تو جھروکوں سے مناظر دل نشیں
آگے پیچھے گھوما کرتے تھے تیرے حلقہ بگوش
دفن کر کے قبر میں سب بے تعلق چل دیئے
تو ہنسا کرتا تھا اوروں کو پریشاں دیکھ کر
اب نہ وہ تکیہ ملائم اور نہ بستر مخملی
جسم پر دو گز کفن مٹی پہ سر کیسا لگا

ہاں یہ بات ہے کہ عبادات کلمہ کی محتاج ہیں کہ کلمہ ہوگا تو عبادات مقبول ورنہ مردود۔

ذرا کلمہ کی شان تو دیکھو کہ چودہ سو سال کے بعد پاکستان کا وجود بھی اگر معرض وجود میں آتا ہے تو اس کلمہ والے نعرے کی

برکت سے۔ پاکستان کا مطلب کیا: لا الہ الا اللہ

اگر نعرہ نہ ہوتا تو ہزار تحریکیں اور ہزار قائد اعظم بھی پاکستان نہ بنا سکتے۔ پاکستان بنا بھی کلمہ کی برکت سے ہے اور بچا بھی کلمہ کی

برکت سے ہوا ہے، قوم مسلم کو اسی کلمہ پر اکٹھا کیا جاسکتا ہے اور اسی کلمہ کے زور سے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جاسکتا ہے۔

یہ آب و ہوا، ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے
کچھ پاس مسیحا کے اگر ہو تو بتاؤ
شامل نہ ہونور اس کا، تو بے معنی و بے نام
جب سوچ اسے شعلہ ہوئی فکر کی پرواز
اس قادرِ مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے
بخشے نہ شفا وہ تو دوا کچھ بھی نہیں ہے
یہ چاند یہ سورج یہ دیا کچھ بھی نہیں ہے
یہ فہم یہ ادراک ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے

اعتراف حقیقت:

۱۴ اگست ۱۹۸۶ء بروز پیر روزنامہ جنگ لاہور میں ایک خبر چھپی کہ واشنگٹن سے آمدہ اطلاع کے مطابق ایک امریکی سائنسدان نے تحقیق کے ذریعے بتایا ہے کہ مراقبے میں یکسوئی کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ اور ہائی بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے، سانس اور دل کی دھڑکن مناسب مقدار پہ آ جاتی ہے، شوگر اور دے کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور جسم کا مدافعتی نظام طاقتور ہوتا ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ مالدار اور فاسق و فاجر لوگ جو ذکر و اذکار کے قریب نہیں آتے وہ زیادہ تر ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بہ نسبت ان کے جو ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں اور یہ فوائد تو ایک انگریز کی نظر میں ہیں آئے ذرا اس ذکر سے بھی کلمہ کے فضائل و فوائد پوچھیں جو ساری عمر ہو کر تے رہے اور آج دنیا نہیں سلطان باہو کے نام سے جانتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

کلمے لکھ کر وڑاں تارے، ولی کہتے سے راہیں ہو
کلمے نال بہشتیں جانا جتہ نعمت سنجھ صباہیں ہو
کلمے نال بھائے دوزخ جتہ آگ بے از گاہیں ہو
کلمے جیہی نہ نعمت کوئی اندر دوئیں سرائیں ہو

کلمے نال میں نہاتی دعوتی، کلمے نال ویاہی ہو
کلمہ میرا پڑھے جنازہ، کلمے گور سہائی ہو

اندر جتنا نقصان ہوا اب صرف ایک گھنٹے میں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ کیا یہ انسانیت کے سچے خیر خواہ ہو سکتے ہیں کہ جن کی اپنی (اقوام متحدہ کی) رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کی نصف آبادی علاج معالجہ اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اور یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لئے صرف اسلحہ پہ اس قدر رقم خرچ کر رہے ہیں۔ (مولوی شمس الحق افغانی سابق وزیر بلوچستان کی ایک تقریر سے اقتباس)

وہ راہ سے بھٹکا نہ کبھی ' جس نے یہ جانا
وہ راہ سے بھٹکا نہ کبھی جس نے یہ جانا
مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے
حمد اس کی ثنا اس کی بیاں کیجئے اختر

(اختر لکھنوی)

خدائی شان کے رنگ اور جلوے:

۱۹۸۰ء مارچ کے نوائے وقت میں یہ خبر شائع ہوئی کہ فلمبرٹ بنز امریکی قاتل کو سات مرتبہ کمرے میں بند کر کے گیس کے ذریعے مارنے کی کوشش کی گئی مگر وہ ہر بار سانس بند کر کے زندہ بچ نکلتا آخر کار مجبور ہو کر اس کو معاف کر دیا گیا اور رہائی کے چھ ماہ بعد سزا سنانے والے گورنر نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے سینٹ کا الیکشن لڑا جس میں وہ جیت گیا اور ٹھیک دس سال بعد امریکہ کا صدر بن گیا۔ (و تعز من تشاء)

☆ ۳ مئی ۱۹۸۵ء کے جنگ میگزین میں ایک شخص کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ دو مرتبہ بغداد کا حکمران بنا آخر اس کی بھتیجی نے اس پر فتح پائی اور اس کو جیل بھیج دیا چند سالوں بعد رہا ہوا تو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ (و تذل من تشاء)

☆ ایک مرتبہ لوگوں نے محمود غزنوی کے محبوب غلام کو دیکھا کہ ہاتھی پر سوار ہے گلے میں پھولوں کے ہار اور بڑی شان و شوکت سے بہت بڑے جلوس میں آ رہا ہے چند ہی دنوں بعد وہی ایاز ہے گلے میں جوتوں کے ہار تھے اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے کسی نے یہ دونوں مناظر دیکھ کر پوچھا وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ہونا کیا ہے وہ و تعز من تشاء کا اظہار تھا اور یہ و تذل من تشاء کا جلوہ ہے۔ اس دن کوئی اچھی بات منہ سے نکل گئی تھی آج کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ (تفسیر نعیمی پارہ ۲ صفحہ ۵۷)

حق علی اللہ تعالیٰ لا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ۔ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ جو اپنے آپ کو اونچا جانے اس کو نیچا کر کے چھوڑے اور من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ جو اپنے آپ کو نیچا سمجھے گا اللہ اس کو اونچا کر کے چھوڑے گا۔

☆ تفاسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ بڑی عجیب بات ہے کہ تیری شان ہے۔ لا تاخذہ سے ولا نوم۔ نہ تو سوتا ہے نہ تجھے اونگھ آتی ہے۔ میں اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں اور علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین چاہتا ہوں۔ فرمایا: دو شیشیاں ہاتھوں میں پکڑ لو۔ آپ نے پکڑ لیں، اونگھ آئی تو دونوں گر کر ٹوٹ گئیں۔ فرمایا: تجھے اونگھ آئی تو دو شیشیاں نہ سنبھال سکا میں سو جاؤں تو اتنی بڑی کائنات کون سنبھالے۔ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ بذات خود خدا کے ہونے کی خاموش مگر واضح دلیل ہے۔ (تفسیر نعیمی)

کیا میرے غمِ دل کی دوا کچھ بھی نہیں ہے
ظلمت میں ستاروں کی ضیا کچھ بھی نہیں ہے
اب اپنی زمانے میں ہوا کچھ بھی نہیں ہے
یہ نالہٴ شب، آہِ رساں کچھ بھی نہیں ہے
ہم بندوں کی تقصیر و خطا کچھ بھی نہیں ہے
اب خلق، کرم، مہر و وفا کچھ بھی نہیں ہے
افسر ترے خامے نے لکھا کچھ بھی نہیں ہے

یا رب تیری رحمت سے گلہ کچھ بھی نہیں ہے
جب تک نہ فروزاں ہو تری یاد کی مشعل
رسوا سر بازار ہیں ہم تیرے فدائی
اللہ کی مرضی پہ اثر کچھ نہیں ہوتا
اے بخششے والے تیری بخشش کے مقابل
یہ طرفہ تماشا ہے تری بزمِ جہاں میں
جزا اس کے جو اللہ نے تحریر کرایا

(افسر ماہ پوری)

روس نے کہا: ہم نے سیارہ چھوڑا ہے جس نے ہمیں فضاؤں سے بھی آگے جا کر بتایا کہ خدا نہیں ہے۔ یہی حال امریکہ کا ہے۔ ہم نے کہا: ہمارا نبی خود دیکھ کر آیا ہے کہ خدا ہے اور ایسا کہ راہبِ رسی فی احسن صورة۔ دنیا کے کئی ممالک ہم نے نہیں دیکھے۔ مگر مانے جاتے ہیں کہ جغرافیہ بتاتا ہے وہ ہیں تو پھر تو جغرافیہ کے بتانے پہ سب کچھ مان رہا ہے اور ہم قرآن و صاحب قرآن کے بتانے پہ خدا کو مان رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بحرِ توحید میں فنا کر لو اگر بقا چاہتے ہو، جب تک انسان پانی میں زندہ رہے ڈوبتا اور غوطے کھاتا رہتا ہے اور جب پانی میں فنا ہو جائے تو پانی اس کو ڈبو تا نہیں ترادیتا ہے بحرِ توحید میں غرق ہونے والا ہمیشہ کے لئے تر جاتا ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ (صاحبزادہ فیض الحسن ریسید آلو بہار شریف)

نمازوں کے بعد کے اذکار

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ (نماز کا) سلام پھرنے کے بعد اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ پڑھنے کی مقدار کے برابر تشریف فرما رہتے تھے۔

(مسلم شریف، ۱/۴۱۳، رقم: ۵۹۲، ترمذی، ۲/۹۶، ۹۵، رقم: ۲۹۸، ۲۹۹)

حضور علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شى قدير اللهم
لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجند منك الجند .

(اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے بادشاہی ہے اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر شے پر قدرت لکھتا ہے، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہ دے گی)

بعض روایات میں ”قدر“ کے بعد یہ الفاظ ہیں

لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل واله الشاء الحسن لا

إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون "وقال" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يهلل بهن دبر كل صلوة . (اخرجه مسلم في الصحيح كتاب المساجد، ۱/۳۱۵، الرقم ۵۹۳)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات کہتے، "نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کے لئے تمام نعمتیں ہیں اور اس کے لئے فضل اور تمام اعلیٰ تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا دین خالص ہے اگرچہ کافروں کو ناگوار گذرے (امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ان کلمات کو حضور ﷺ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ادا فرماتے تھے)۔"

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے بیان فرماتے ہیں

"جس شخص نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ بناوے

مرتبہ ہو اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على

کل شیء قدير۔ پڑھا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں (غفرت

خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر)" (مسلم شریف، ۱/۳۱۸، ۵۹۷)

☆ ایک روایت میں جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا:

"جب تم فرض نماز ادا کر لو تو کیا تم نہیں چاہتے کہ ہر نماز کے بعد ایک غلام آزاد کرو؟ عرض کی یا رسول! ہم میں اس کی

طاقت نہیں فرمایا ہر نماز کے بعد یہ کلمات (مذکورہ) دس مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یکتب له من الاحر کما نعتق

رقبة۔ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اس کے لئے لکھ دیا جائے گا۔ (اخرجه القزوينی فی التذوین فی اخبار القزوين ۱۱۸/۲)

حضور ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ (ﷺ) سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھا کرتے سبحان ربك رب العزة عما

یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین . (ایضاً، ابن ماجہ فی السنن کتاب القامہ الصلوۃ والسنة فیہا

باب ما یقال بعد التسليم، ۱/۲۹۸، رقم ۹۲۳)

خزاں بھی تیری ہے دشتِ تپاں بھی تیرا ہے

یہ کہکشاں بھی ترا آسماں بھی تیرا ہے

وہ لامکاں بھی ترا یہ مکاں بھی تیرا ہے

زمیں تیری ہے یا رب زماں بھی تیرا ہے

یہ دھوپ بھی ہے تری سائباں بھی تیرا ہے

یہ حسن صوت یہ سحر ہیاں بھی تیرا ہے

یہ آنکھ بھی ہے تری یہ سماں بھی تیرا ہے

یہ فصلِ گل بھی تری گلستان بھی تیرا ہے

یہ مہر و ماہ درخشاں یہ انجم و پرویں

محیطِ عرش سے تا فرش ہیں ترے جلوے

یہ گردِ راہ کے ذرے یہ پُرفشاں لمحے

یہ تپتی راہ گزر یہ شجر شجر سایہ

ہزار نغموں سے بہتر تلاوتِ قرآن

کہاں نہیں تیری آیت ہے برمِ گیتی میں

یہ بے کنار سمندر یہ کشتی ہستی
یہ ناخدا ترا بادباں بھی تیرا ہے
یہ حمد بھی ہے تری حمد خواں بھی تیرا

(افسر ماہ پوری)

دعا و استغفار

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر تین مرتبہ استغفار کرتے اور یہ الفاظ ادا فرماتے اللھم انت السلام ومنک السلام تبارک ذالجلال والاکرام۔ راوی حضرت ولید کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی سے پوچھا کیف الاستغفار۔ استغفار کیسے کیا کرتے؟ انہوں نے فرمایا: یوں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ (مسلم شریف، ۱/۴۱۳، رقم: ۵۹۱)

☆ حضرت عون بن عبد اللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز ادا کی تو اس نے آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنانا السلام ومنک السلام تبارک ذالجلال والاکرام۔ پھر اس نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز پڑھی اور انہیں بھی اس طرح کی دعا مانگتے ہوئے سنا تو وہ شخص ہنس پڑا حضرت ابن عمر نے اس سے ہنسنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز پڑھی تو انہوں نے بھی وہی کلمات کہے جو آپ نے کہے ہیں فرمایا کان رسول اللہ یقول ذلك۔ حضور علیہ السلام بھی یہ کلمات پڑھتے تھے۔ (اخرجہ التسانی فی السنن الکبریٰ کتاب عمل ایوم والمیلۃ، ۶/۹۸، ۱۰۱۹۷)

حضرت عبد اللہ بن ابی الہذیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا یحبون وفی روایۃ کانوا یستحبون اذا قضی الرجل الصلوۃ ان یقول اللھم انت السلام..... الخ۔ صحابہ کرام پسند کرتے یا مستحب جانتے تھے کہ نماز کے بعد ان کلمات کو ادا کیا جائے (اخرجہ ابو یعلیٰ فی المسند، ۸/۱۶۷، رقم: ۴۷۲۰)

☆ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا۔ حضور علیہ السلام (نماز کے بعد) تین مرتبہ دعا کرنا اور تین مرتبہ استغفار کرنا پسند فرماتے تھے۔

(اخرجہ ابو داؤد فی السنن، کتاب الصلوۃ، باب فی الاستغفار، ۲/۸۶، ۱۵۲۳)

☆ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: معقباب لا یخیب قائلھن او فاعلھن دبر کل صلوۃ مکتوبہ..... فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ہیں جس کا پڑھنے یا کر نیوالا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر (مسلم شریف، ۱/۴۱۸، ۵۹۶)

یا رب ترے حبیب کے در کا فقیر
منہ رکھ کے جالیوں پر حرم کی میں سو گیا
محتاج کر کسی کا نہ، اس کے سوا مجھے
جنت کی، ان جھروکوں سے آئی ہو مجھے
رسوا نہ کر ذلیل نہ کر اے خدا مجھے
اس وقت ہے کرم کا ترے، آسرا مجھے
اعضاء نے بھی جواب دیا، اے میرے کریم

آپچی ہے قریب سواری حضور کی تھوڑی سی فرصت اور بھی دے اے قضا مجھے

(امیریتائی)

دعائے نور

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نماز یا سجدوں میں یہ دعا کرتے۔

اللهم اجعل فی قلبی نوراً و فی سمعی نوراً و فی بصری نوراً و عن یمینی نوراً و عن شمالی نوراً و امامی نوراً و خلفی نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً و اجعل لی نوراً او قال و اجعلنی نوراً۔ (متفق علیہ و اللفظ لمسلم)

”اے اللہ! میرے دل میں نور بھر دے۔، میرے کانوں میں نور بھر دے، میری آنکھوں میں نور بھر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے لئے نور کر دے یا یوں کہا مجھے (سرتاپا) نور بنا دے۔

ایک روایت میں ہے و فی لسانی نوراً اور میری زبان میں نور کر دے، اور امامی کی جگہ ومن بین یدی نوراً۔ و اجعل فی نفسی نوراً و اعظم لی نوراً اور میرے سامنے نور کر دے اور میری جان میں نور کر دے اور میرے لئے نور کو عظیم کر دے (مسلم، ترمذی، نسائی)

ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے و نوراً فی قبری۔ و نوراً فی شعری و نوراً فی بشری و نوراً فی لحمی و نوراً فی دمی و نوراً فی عظامی و اعطنی نوراً اور میری قبر میں نور بھر دے اور میرے بالوں میں نور بھر دے اور میرے چہرے یا کھال میں نور بھر دے اور میرے گوشت میں نور بھر دے اور میرے خون میں نور بھر دے اور میری ہڈیوں میں نور بھر دے اور مجھے نور عطا کر دے۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

و فی روایۃ عن کریب و لحمی نوراً۔ حضرت کریب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ایک شخص سے ملا تو انہوں نے دیگر اعضاء کے ساتھ عصی یعنی پٹھوں کا ذکر بھی فرمایا (بخاری، ۵۰/۲۳۲۷، ۵۹۵۷)

حق نے اپنے نور سے محبوب کو پیدا کیا ہے تیرا اُجالا شام و سحر اے نور مجسم سیدنا حضور علیہ السلام کی دعا سے میں نے نور دیکھ لیا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ گھر سے مسجد کی طرف نکلا (دیکھا تو) مسجد میں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اہل نری مساری ہا یدی القوم؟ کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں میں دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کی حضور آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں: فرمایا: نور۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ نور دکھا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہما بیان کرتے

ہیں کہ آپ (ﷺ) نے دعا فرمائی تو میں نے بھی وہ نور دیکھا پھر آپ نے فرمایا: یا انس استعجل بنا حتی نشرک القوم۔ اے انس! جلدی کرو تا کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں۔ لہذا میں آپ (ﷺ) کے ساتھ ان لوگوں کی طرف گیا پھر ہم نے بھی (ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر) دعا کے لئے ہاتھ اٹھالیے۔ (اخرجه البخاری فی التاريخ الكبير، ۲۰۲/۳،

الرقم: ۶۹۲، والطبرنی فی کتاب الدعاء، ۸۵/۱، الرقم ۲۰۶)

جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے
پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تماشا دے
دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے
اس محملِ خاکی کو پھر شاہدِ لیلیٰ دے
وہ داغِ محبت دے جو چاند کو شرما دے
خود وادیِ ساحل دے آزادیِ دریا دے
سینوں میں اُجالا کر دل صورتِ مینا دے
تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے

یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
پھر وادیِ فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے
محروم تماشا کو پھر دیدہ مینا دے
بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوائے حرم لے چل
پیدا دل ویراں میں پھر شورشِ محشر کر
اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو
رفعت میں مقاصد کو ہمدوشِ ثریا کر
بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو
میں بلبلِ نالاں ہوں اک اُجڑے گلستان کا

دعا میں تین مرتبہ یا رب کہا جائے

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نماز (نفلی) دو دو رکعتیں ہیں، ہر دو رکعت کے بعد تشہد پڑھ، خشوع و خضوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا کر پھر اپنے رب کی طرف ہاتھوں کو (دعا میں) اس طرح بلند کر کہ ان کا اندرونی حصہ منہ کی طرف رہے اور پھریوں کہہ۔

اے رب، اے رب، اے رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا اور جس نے (دعا میں) ایسا نہ کیا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے (رواہ الترمذی والنسائی واحمد والطبرانی) ایک روایت میں تین مرتبہ یا رب کی بجائے دو مرتبہ اللهم کے الفاظ ہیں اور آخر میں فرمایا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج۔ جو ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔

امام ابن خزیمہ "اصح" میں اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں "اس حدیث میں دعا کے اندر ہاتھ اٹھانے کی مزید شرح ہے اور یہ کہ دعا مانگنے والے کو کہنا چاہیے اے اللہ اے اللہ، اور لیٹ کی روایت میں ہے کہ دعا مانگنے والا اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے اور انہیں اپنے چہرے کے سامنے رکھے اور یہ کہے اے پروردگار، اے میرے رب اور رفع یدین اور سلام سے پہلے تشہد سنت نماز میں سے نہیں ہے اور یہ اس بات پہ دلالت ہے کہ رفع یدین، دعا اور سوال کرنا سلام کے بعد ہے یعنی دونوں طرف سلام پھرنے کے (اور نماز مکمل کرنے کے) بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحييات والممات ومن شر المسيح الدجال

جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے (۱) دوزخ کے عذاب سے (۲) قبر کے عذاب سے (۳) زندگی اور موت کی آزمائش سے (۴) مسیح دجال کے فتنے سے (اخر جہ

البخاری فی الصحيح کتاب الجنائز، ۴۶۳/۱، ۱۳۱۱)

اور امام عسقلانی نے فتح الباری میں فرمایا: اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کیا آپ ﷺ ایسا سلام سے پہلے فرماتے یا سلام پھیرنے کے بعد۔ پس امام مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر آخری چیز جو آپ ﷺ تشہد اور سلام کے درمیان فرماتے وہ یہ ہے: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت (اے میرے اللہ وہ گناہ جو میں نے آگے بھیج دئے اور جو گناہ میں نے پیچھے چھوڑے اور جو گناہ میں نے چھپ کر کئے اور جن میں حد سے بڑھ گیا اور جو گناہ میں نے اعلانیہ کیے اور وہ گناہ جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے (سب) بخش دے۔ بے شک تو ہی آگے لانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور (تیرے سوا کوئی معبود نہیں) اور امام مسلم ہی کی ایک روایت ہے جب آپ ﷺ سلام پھیر لیتے تو یوں دعا فرماتے اللهم اغفر لي ما قدمت الخ ان دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق دوسری روایت کے ارادہ سلام پر محمول کر کے کی جائے گی کیونکہ دونوں طرق کا مخرج (رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس) ایک ہی ہے اور اسی حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ وارد کیا ہے کہ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو جاتے اور سلام پھیر لیتے (تو یہ دُعا کرتے) اور یہ اس چیز میں ظاہر ہے کہ یہ سلام کے بعد ہے اور یہاں اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ ایسا سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کرتے۔“

(فتح الباری، ۱۹۸/۱۱، وقال نحوه الصنعاني في سبل السلام، ۳۲۳/۳)

حاجتیں بر لا مری تو قاضی الحاجات ہے
تو کرم کر دے تو بیڑا پار ہے
جو محمد کو عطا کی تھی وہ دولت چاہئے
مصطفیٰ والی قناعت دے مجھے
لب پہ تیرا ذکر ہو تیرے نبی کا نام ہو
جان دوں اسلام پر قرآن پر
دیکھ کر اعمال اپنے شرم آتی ہے مجھے
روسیا ہوں منہ دکھاؤں کس طرح
ہاتھ خالی لے کے آیا ہوں ترے دربار میں

یا الہی قادر و قیوم تیری ذات ہے
مشکلوں کا حل مجھے دشوار ہے
مال و زر درکار ہیں یارب نہ حشمت چاہئے
صبر و استغنا کی دولت دے مجھے
زندگی کا مرے دم اللہ نیک انجام ہو
خاتمہ ہو دین پر ایمان پر
داغ عصیاں کی ندامت کھائے جاتی ہے مجھے
سامنے تیرے میں آؤں کس طرح
شرم سے گردن جھکی ہے اس لیے سرکار میں

زُہد رکھتا ہوں نہ تقویٰ پاس ہے ہے تو اک تیرے کرم کی آس ہے
اے فلاں فلاں کے معبود میری دعا قبول فرما

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ (ﷺ) نے فرمایا: جب کوئی بندہ (مومن) ہر نماز کے بعد اپنی ہتھیلیاں (دعا کے لئے) پھیلا کر یہ کہتا ہے۔

اللهم الهی والہ ابراہیم واسحاق ويعقوب والہ جبریل ومیکائیل واسرافیل اسئالک ان
تستجیب دعوتی فانی مضطر وتعصمنی فی دینی فانی مبتلی وتنا لنی برحمتک فانی مذنب
وتنفی عنی الفقر فانی متمسکن .

”اے میرے اللہ، میرے معبود اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا قبول فرما، کیونکہ میں مجبور ہوں اور تو مجھے میرے دین میں محفوظ رکھ کیونکہ میں آزمائش میں ہوں اور تو مجھے اپنی رحمت سے وافر حصہ عطا فرما کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور مجھ سے فقر کو دور فرما کیونکہ میں مسکین ہوں“
الا کان حقا علی اللہ ان لا یرد یدیه خائبین

(حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان الفاظ سے دعا کرتا ہے) اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لازم کر لیتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹائے۔ (اخرجہ ابن السنی فی عمل الیوم واللیلۃ / ۵۲، الرقم، ۱۳۹، وابن عساکر فی تاریخ مدینۃ دمشق، ۳۸۳/۱۶، والدہلمی فی مسند الفردوس، ۳۸۱/۱، الرقم، ۱۹۷۰، والہندی فی کنز العمال، ۱۳۳/۲، الرقم، ۳۳۷۵)
☆ حضرت عبدالرحمن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیر لیتے تو تین مرتبہ یہ کلمات کہتے اور تیسری مرتبہ آواز کو بلند فرماتے۔

سبحان الملك القدوس . (اخرجہ النسائی فی السنن الکبریٰ باب ما یقول اذا فرغ من وتره، ۱۸۳/۶، الرقم، ۱۰۵۷۳، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳۰۶/۳، الرقم، ۱۵۳۹۵، والحاکم فی المستدرک، ۳۰۶/۱، الرقم، ۱۰۰۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

اتانی اللیلۃ ربی تبارک وتعالیٰ فی احسن صورۃ . وقال یا محمد اذا صلیت فقل اللهم انی
اسئلك فعل الخیرات وترك المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک
غیر مفتون .

”آج رات میرا رب میرے پاس (اپنی شان کے مطابق) نہایت احسن صورت میں آیا اور اس نے مجھے فرمایا اے پیارے محمد! جب نماز ادا کر لو تو یوں دعا مانگا کرو“

اے اللہ! میں تجھ سے اچھے اعمال اپنانے، بُرے اعمال کو چھوڑنے، مساکین کے ساتھ محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ فرمائے تو مجھے آزمائے بغیر ہی اپنے پاس بلا لے (اخرجہ الترمذی فی

السنن کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة ص ۵/۳۶۶، ۳۶۸، الرقم ۳۲۲۳، ۳۲۲۵

یقین در یقین یہ نشانِ جبین ہے
یقین جس کا جتنا وہ اتنا حسین ہے
مناظر تو ہر آنکھ دیکھے ہے لیکن
نگاہِ عقیدت بڑی دور میں ہے
زماں و مکاں کا تعین کریں کیا
وہ محدود کب ہے کہاں وہ مکیں ہے
سنا تو یقین کر لیا پھر جو دیکھا
وہ علمِ یقین تھا یہ عینِ یقین ہے
قدم رکھ دیا ہے جہاں پر نبی نے
زمیں کا وہ ٹکڑا تو خلدِ بریں ہے
کریبی بجز آپ کے میرے آقا
کسی کا نہیں ہے کسی کا نہیں ہے

(آفتابِ کریبی)

ستر فرشتوں کا بندے کی دعا کے ساتھ آمین کہنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اس (رکنِ یمانی) کے ساتھ ستر فرشتے متعین ہیں جو شخص (اس کے پاس) یہ دعا کرے

اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى الدنيا والاخرة ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة
وقنا عذاب النار .

”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں امن و سلامتی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذابِ جہنم سے بچا۔“ قالوا امین۔ فرشتے (اس کی اس دعا پر) امین کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ (ابن ماجہ، ۹۸۵/۲، ۲۹۵۷، المعجم الاوسط للطبرانی، ۲۰۱/۸، ۸۳۰۰)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر یہی دعا فرمایا کرتے ربنا اتنا فى الدنيا وقنا عذاب

النار (بخاری ۵/۲۳۳۷، ۶۰۲۶، مسلم، ۲۰۷/۳، ۲۶۹۰)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے

اللهم اصلح لى دىنى الذى هو عصمة امرى واصلح لى دنياى التى فيها معاشى واصلح لى
اخرتى التى فيها معادى واجعل الحىاة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل
شر . (مسلم شريف، ۲۰۸۷/۳، ۲۷۲۰، مجمع الزوائد، ۱۰/۱۸۱)

اے اللہ میرے دین کو درست فرما دے جو میرے معاملہ کا محافظ ہے اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری روزی ہے اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا تیری طرف لوٹنا ہے اور میری زندگی کو ہر خیر میں میری زیادتی کا سبب بنا دے اور میری وفات کو ہر شر سے میرے لئے راحت بنا دے

☆ حضرت عمرو بن میمون اودی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اپنے بیٹوں کو مندرجہ ذیل کلمات کی یوں تعلیم دیتے تھے جیسے استاد اپنے شاگردوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ بے شک حضور علیہ السلام ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے

اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان اردالی ارضل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا
واعوذ بک من عذاب القبر

اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور میں ذلت کی زندگی کی طرف لوٹائے جانے یعنی بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذابِ قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ (اخرجہ البخاری فی الصحیح، کتاب الجہاد والسر باب ما یتعوذ من الجبن، ۱۰۳۸/۳، الرقم ۲۶۶۷، والترمذی فی السنن کتاب الدعوات، ۵۶۲/۵، الرقم ۳۵۶۷، والنسائی فی السنن کتاب الاستعاذہ، ۲۶۷/۸، ۵۲۳۷)

یہ مہر و ماہ ترے ' آسماں بھی تیرا ہے
کہاں ہے میرے ٹھکانے پہ اختیار مرے
دھنک کے رنگ سبھی بزم کائنات میں ہیں
یہ بحر و بر یہ جبل اور یہ مسجد و منبر
جبیں کے ساتھ جھکاتے ہیں دل بھی اہل نظر
نماز کیوں نہ پڑھیں ذوق و شوق سے ہم سب
رضی کو ناز رہے کیوں نہ تیری بخشش پر

یہ فصل گل بھی تری ' گلستاں بھی تیرا ہے
یہ گلستاں بھی ترا ' آشیاں بھی تیرا ہے
خدایا تیری زمین آسماں بھی تیرا ہے
ترا ہی ذکر بھی ہر سو ' نشاں بھی تیرا ہے
سجود بھی ہیں تیرے آستاں بھی تیرا ہے
کہ پانچ وقت میں حکم ازاں بھی تیرا ہے
کرم بھی تیرا ' شفیع زماں بھی تیرا ہے

(رضی عظیم آبادی)

سارے انسانوں کے قلوب کا حال

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے انسانوں کے دل (اللہ تعالیٰ) رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے پھر حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی

اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ! اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ (مسلم شریف، ۲۰۳۵/۴، رقم ۲۶۵۴، مسند احمد، ۱۶۸/۲، رقم ۶۵۶۹)

ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی آسمان کی طرف سر انور اٹھاتے تو عرض کرتے۔

یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف

پھیر دے (ایضاً)

ایک روایت میں حضرت ابو ہلال رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوتے اور (مجلس سے) اٹھنے کا ارادہ کرتے تو یوں دعا کرتے۔

اللهم تری قلوبنا من الشرك والكبر والنفاق والرياء والسمعة والريبة والشك في دينك يا مقلب
القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجعل ديننا الاسلام القيم . (ایضاً)

اے اللہ تو ہمارے دلوں کو شرک، تکبر، نفاق، ریاء، شہرت، شک و شبہ میں (بتلا) دیکھتا ہے۔ (ہمیں ان سے بچا) اے
دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، ہمارا دین (ہمیشہ) دینِ قیمِ اسلام کو ہی بنا۔

ایک روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی
علیٰ دینک۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ۔ ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے کیا آپ کو اب بھی خطرہ ہم پر
ہے (کہ ہم دین سے پھر جائیں گے) فرمایا: ہاں، بے شک انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان (اس
کے قبضہ قدرت میں) ہیں وہ جس طرف چاہے انہیں پھیر دے۔

خود وہ جلوہ ہے خود تماشائی
خود مہکنے لگی ہے گویائی
گل بہ گل اس کی جلوہ آرائی
ہر تجلی وجود میں آئی
انقلاب اس کی اک انگڑائی
ڈھونڈتی رہ گئی ہے بینائی
یہ محمد کی تھی پذیرائی
خود سے ہوتی نہیں شناسائی

ہے عجب ان کی شانِ یکتائی
لب پہ وہ نام جب بھی آیا ہے
انجمن ، انجمن چراغ ہے وہ
اس کی اک جنبش نگاہ کے ساتھ
موج ہستی میں اس سے ٹھہراؤ
اس کے ادنیٰ سے اک اشارے پر
حکم سجدے کا اور آدم کو
جب تک اس کا کرم نہ ہو امید

(امید فاضلی)

استقامت، ہدایت اور عزیمت کا سوال

عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی صلاحہ:
اللهم انی اسألك الثبات فی الامر، والعزيمة علی الرشد، واسألك شکر نعمتك وحسن
عبادتک، واسألك قلبا سلیمًا، ولسانا صادقًا واسألك من خیر ما تعلم، واعوذ بک من شر ما تعلم
واستغفرک لما تعلم .

”حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں (یہ) دعا فرماتے: (اللهم انی اسألك

الثبات في الامر، والعزيمة على الرشد، واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسألك قلباً
سليماً، ولساناً صادقاً واسألك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم
اے میرے پروردگار! میں ہر کام میں تجھ سے استقامت اور ہدایت پر عزیمت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیری نعمت
پر شکر ادا کرنے اور تیری احسن طریقے سے تیری عبادت کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے قلبِ سلیم اور سچ
بولنے والی زبان کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور ہر اس برائی سے بھی تیری
پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور میں تجھ سے ہی مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے۔“ (اخرجه الترمذی
فی السنن، کتاب الدعوات، باب (۲۳) منه، ۴۷۶/۵، الرقم: ۳۴۰۷، والنسائی فی السنن، کتاب السهو، باب نوع
آخر من الدعاء، ۵۳/۳، الرقم: ۱۳۰۳، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱۲۵/۴، الرقم: ۱۷۱۷۳، وابن ابی شیبہ فی
المصنف، ۴۶/۶، الرقم: ۲۹۳۵۸)

☆ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بيده يوم مات
قال: يا معاذ، اني لا احبك . فقال له معاذ: بابي انت وامي يا رسول الله، وانا، والله، احبك . قال:
اوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول: اللهم، اعني على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك .

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! میں تم
سے محبت کرتا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بخدا! میں بھی
آپ سے (اپنی جان سے بڑھ کر) محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ
ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز نہ چھوڑنا: (اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) (اے اللہ! اپنا
شکر اور احسن طریقے سے اپنی عبادت کی ادائیگی میں میری مدد فرما)۔“ (اخرجه ابوداؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب
فی الامتغفار، ۱۶/۲، الرقم: ۱۵۲۲، والنسائی فی السنن الكبرى، ۳۲/۶، الرقم: ۹۹۳۷، وايضاً فی عمل اليوم
والليلة، ۱۸۷/۱، الرقم: ۱۰۹، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲۴۴/۵، الرقم: ۲۲۱۷۲، والبزار فی المسند،
۱۰۳/۷، الرقم: ۲۶۶۱، وابن حبان فی الصحيح، ۳۶۵/۵، الرقم: ۲۰۲۱، والطبرانی فی المعجم الكبير، ۶۰/۲۰،
الرقم: ۱۱۰ والحاكم في المستدرک، ۳۰۷/۱، الرقم: ۱۰۱۰)

تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا	کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا
پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی	اور سر پہ لاجوردی اک سائبان بنایا
مٹی سے نیل بوٹے کیا خوشمنا اگائے	پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا
خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے	اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا

میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ ریلے چکھنے سے جن کے مجھ کو شیریں دہاں بنایا
سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا
سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکاں بنایا

ابن خطاب کو صحیح بات کہنے کی توفیق ملی

عن الارزق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: صلی بنا امام لنا یکنی ابا رمثہ فقال: صلیت هذه الصلاة او مثل هذه الصلاة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: وکان ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما یقومان فی الصف المقدم عن یمینہ وکان رجل قدشهد التکبیرة الاولى من الصلاة فصلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی رابنا بیاض خدیہ، ثم انفتل کانتقال ابی رمثہ یعنی نفسه فقال الرجل الذی ادرك معه التکبیرة الاولى من الصلاة یشفع، فوثب الیہ عمر فاخذ بمنکبه فهزه ثم قال: اجلس فانه لم یهلك اهل الكتاب الا انه لم یکن بین صلواتهم فصل فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ فقال: اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب .

”حضرت ارزق بن قیس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک (صحابی) امام نے ہمیں نماز پڑھائی جن کی کنیت حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے فرمایا: میں نے یہ نماز یا اس جیسی نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ (پھر انہوں نے اس نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے) فرمایا: حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہلی صف میں دائیں جانب کھڑے تھے اور ایک آدمی نماز کی تکبیر اولیٰ میں آ شامل ہوا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی دائیں جانب سلام پھیرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی ہم نے دیکھی۔ پھر ایسے ہی مڑے جیسے ابو رمثہ مڑے ہیں یعنی وہ خود۔ پس جو شخص تکبیر اولیٰ میں آ کر شامل ہوا تھا کھڑا ہو کر دوگانہ پڑھنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا پھر فرمایا: بیٹھ جاؤ کیونکہ اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک اٹھا کر انہیں دیکھا اور فرمایا: اے ابن خطاب! اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔“ (اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب فی الرجل یتطوع فی مکانہ الذی صلی فیہ المکتوبہ، ۲۶۳/۱، الرقم: ۱۰۰۷، والحاکم فی المستدرک، ۴۰۳/۱، الرقم: ۹۹۶، والطبرانی فی المعجم الاوسط، ۳۱۶/۲، الرقم: ۲۰۸۸، والبیہقی فی السنن الصغری، ۳۹۵/۱، الرقم: ۶۷۵، وایضاً فی السنن الکبری، ۱۹۰/۲، الرقم: ۲۸۶۷)

ہم کو یا رب ترا سہارا ہے
ساتھ دیتا ہے تو مصیبت میں
رزق پہنچا رہا ہے تو سب کو
تو ہی سچا خدا ہمارا ہے
تو مدد گار ہے حقیقت میں
شان دکھلا رہا ہے تو سب کو

تو ہی سارے جہاں کا داتا ہے
نام ہیں تیرے برکتوں والے
رات دن سے عیاں ہے تیرا نظام
وہ ہمیشہ سرور پاتا ہے

ہر کوئی تیرے گیت گاتا ہے
کام ہیں تیرے حکمتوں والے
تیرے بس میں ہے کائنات تمام
جو تیری یاد کو بساتا ہے

(سرور بجنوری)

ہم بھی تقریباً اس طرح کی دعا کرتے ہیں

عن ابی صالح عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل : کیف تقول فی الصلاة؟ قال : اتشهد واقول : اللہم انی اسألك الجنة واعوذ بك من النار اما انی لا احسن دندنتک ولا دندنة قال ابن خزيمة : (قال ابوبکر : الدندنة : الکلام الذی لا يفهم معاذ) فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : حولها ندندن .

”حضرت ابوصالح نے حضور نبی اکرم ﷺ کے ایک صحابی سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا: تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا: میں تشهد پڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں: (اللہم انی اسألك الجنة واعوذ بك من النار) (اے اللہ! میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں)۔ لیکن مجھے آپ کی اور حضرت معاذ کی دعا کا پتہ نہیں لگتا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم بھی اسی کے ارد گرد دعا مانگتے ہیں۔“

(اخرجه ابوداؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب فی تخفیف الصلاة، ۱/۲۱۰، الرقم: ۷۹۲، وابن ماجہ فی السنن، کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها، باب ما یقال بعد التشهد والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۱/۲۹۵، الرقم: ۹۱۰، وایضاً فی کتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء، ۲/۱۲۶۳، الرقم: ۳۸۴، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳/۴۷۳، الرقم: ۱۵۳۹۳، وابن خزيمة فی الصحيح، ۱/۳۵۸، الرقم: ۷۲۵، وابن حبان فی الصحيح، ۳/۱۳۹، الرقم: ۸۶۸،

والبیہقی فی السنن الصغری، ۱/۲۸۲، الرقم: ۳۶۷، والکنانی فی مصباح الزجاجة، ۱/۱۱۲، الرقم: ۳۳۵)

گو بجتے ہیں تیرے نام سے کاخ و کو
شہر ہوں یا کہ بن ہر جگہ تو ہی تو
دیتے تیرا پتہ دشت و کہسار ہیں
بخشتا ہے تو ہی ہر نفس کو نمو
ہر شجر کو دیا نو بہ نو پیرہن
چاک دامن کے تو نے کئے سب رفو
طائران چمن ہیں تیرے نغمہ خواں
آسمان وزمین بحر و بر چار سو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
خشک و تر سب ہی تیرے آئینہ دار ہیں
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
مشکو کر دیئے سب گل و یاسمین
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
ہیں تیرے ذکر سے ہی وہ رطب اللسان

مست رکھتی ہے سب کو تیری جستجو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
مہر و مہ سے جہاں کو درخشاں کیا
تقموں سے فلک پہ چراغاں کیا
روشنی روشنی ہو گئی سو بہ سو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

(ضیائر)

کائنات فرماتے ہیں

۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاة قال: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم المؤخر لا الہ الا انت .

”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو (یہ) دعا کرتے: (اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم المؤخر لا الہ الا انت) (اے اللہ! بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو بعد میں کروں گا اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو اعلانیہ کیا اور جو میں نے اسراف کیا جسے تو میری نسبت زیادہ جانتا ہے تو آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

(اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب ما یقول الرجل اذا سلم، ۸۳/۲، الرقم: ۱۵۰۹، واحمد بن حنبل فی المسند، ۹۳/۱، الرقم: ۱۰۲، الرقم: ۷۲۹، ۸۰۳، وابن خزیمہ فی الصحیح، ۳۵۸/۱، الرقم: ۳۶۶، الرقم: ۷۲۳-۷۲۴، وابن حبان فی الصحیح، ۲۹۷/۵، الرقم: ۱۹۶۶، ۲۰۲۵، والطیالسی فی المسند، ۲۲/۱، الرقم: ۱۵۲، والبزار فی المسند، ۱۶۸/۲، الرقم: ۵۳۶، والدارقطنی فی السنن، ۲۹۶/۱، الرقم: ۱، والبیہقی فی السنن الکبریٰ، ۳۲/۲، الرقم: ۱۸۵، الرقم: ۲۱۷۲، ۲۸۳۲)

وہی جلوہ فگن ہے رات دن اور چاند تاروں میں
شجر کی گود میں خاموش، سب پروان چڑھتے ہیں
زمین و آسماں شام و سحر، دم اس کا بھرتے ہیں
عطا کرتا ہے وہ رنگینیاں دلکش بہاروں کو
محافظ ہے شب تاریک میں روشن ستاروں کا
سرت سے غریبوں کی نگاہیں مسکراتی ہیں
گناہوں کا زبان اشک سے اقبال کرتی ہیں

وہ جس کے حکم سے بہتی ہے چاندی آبشاروں میں
اسی کے حکم سے کانٹے گلوں کے ساتھ بڑھتے ہیں
اسی کے حکم کی تعمیل صبح و شام کرتے ہیں
وہی سرسبز کر دیتا ہے بے جاں کوہساروں کو
وہی خالق ہے صبح و شام کی رنگیں نظاروں کا
جب اس کے رحم کر کر نہیں دلوں کو جگمگاتی ہیں
یہ فوقانی، دعائیں اس سے عرض جال کرتی ہیں

حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا

عن ابی مروان ان کعب (الاحبار) رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلف لہ باللہ الذی فلق البحر لموسیٰ

عليه السلام انا لنجد في التوراة ان داؤد نبي الله عليه السلام كان اذا انصرف من صلاته قال: اللهم، اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بعفوك من نقمك واعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثني كعب ان صهيبا رضى الله عنه حدثه ان محمداً صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته.

”ابو مروان سے روایت ہے کہ ان کی موجودگی میں حضرت کعب (احبارِ نبویؐ) نے حلف اٹھایا کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کو چیر دیا! ہم نے تورات میں (یہ لکھا) پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو یوں دعا فرماتے: (اللهم، اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بعفوك من نقمك واعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (اے اللہ! وہ دین جس سے میرا بچاؤ ہے اسے درست فرما دے اور میری دنیا، جس میں میرا رزق ہے اس کی اصلاح فرما۔ اے اللہ! میں تیرے غضب سے تیری رضا مندی کی پناہ طلب کرتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیری بخشش کی پناہ مانگتا ہوں، تو جو کچھ عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے اور مال دار کا مال تیرے نزدیک کسی کام نہ آئے گا۔ مروان نے کہا کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب نماز ادا فرماتے تو آپ ﷺ بھی یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔“ (اخرجه النسائي في السنن، كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء وعن الانصراف من الصلاة، ۴۳/۳، الرقم: ۱۳۳۶، وايضاً في السنن الكبرى، ۴۰۰/۱، الرقم: ۱۲۶۹، وابن خزيمة في الصحيح، ۳۶۶/۱، الرقم: ۴۳۵، والطبراني في المعجم الكبير، ۳۳/۸، الرقم: ۴۲۹۸، والمقدسي في الاحاديث المختارة، ۶۵/۸، الرقم: ۵۹)

میرے غم و الم کی بھلا کیا بساط ہے اس کو تو سوچنا سراپا نشاط ہے
منہ اس سے موڑنا ہے پکڑنا زوال کا در اس کا چھوڑنا سبب انحطاط ہے
سرزد نہ ہو بے ادبی اس کی شان میں پیش نظر ہر آن رہ احتیاط ہے
ذات و صفات حق کی دلاتا ہے خوب یاد روح اور تن کے بیچ میں جو ارتباط ہے
فیضانِ فکر حمد ہے اس درجہ کیف زا ہر موئے تن خوشی سے رگِ انبساط ہے

(پروفیسر فیض رسول فیضان)

ہلکی پھلکی نماز اور اس میں طویل دعا

عن عطاء بن السائب عن ابيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضى الله عنهما صلاة فاجز فيها

فقال له بعض القوم: لقد خففت او اوجزت (الا يجاز: التخفيف) الصلاة فقال: اما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو ابي غير انه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيراً لي؛ اللهم واسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، واسألك القصد التوسط في الامور بلا افراط او تفريط في الفقر والغنى، واسألك نعيماً لا ينفد (ينتهي) واسألك قرة عين لا ينقطع، واسألك الرضاء بعد القضاء، واسألك برد العيش بعد الموت، واسألك لذة النظر الى وجهك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين .

”حضرت عطا بن سائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے مختصر نماز پڑھائی بعض لوگوں نے عرض کیا: آپ نے ہلکی یا مختصر نماز ادا کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: اس کے باوجود کہ میں نے اپنی نماز میں بعض دعائیں پڑھیں جنہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو ایک شخص ان کے پیچھے گیا عطانے کہا وہ میرے والد تھے لیکن انہوں نے اپنا نام پوشیدہ رکھا اور ان سے وہ دعا دریافت کی پھر واپس آئے اور لوگوں کو بتایا کہ وہ دعا یہ تھی: (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم واسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، واسألك القصد التوسط في الامور بلا افراط او تفريط في الفقر والغنى، واسألك نعيماً لا ينفد واسألك قرة عين لا ينقطع، واسألك الرضاء بعد القضاء، واسألك برد العيش بعد الموت، واسألك لذة النظر الى وجهك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين) (اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم غیب اور تیری قدرت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تجھے مخلوقات پر ہے تو جب تک میرے لئے زندگی کو اچھا اور بہتر سمجھے مجھے زندہ رکھ اور جب تو میرے لئے موت کو بہتر سمجھے تو مجھے موت عطا کر دے۔ یا اللہ! میں تجھ سے ظاہر اور باطن میں تیری خشیت کا طلب گار ہوں اور تجھ سے خوشی اور غمی ہر دو حالتوں میں حکمت سے لبریز سچ بولنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے فقر اور غنا ہر دو حالتوں میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور میں تجھ سے تیرے فیصلوں پر تیری رضا مندی کا طالب ہوں اور تجھ سے موت کے بعد راحت اور آسائش کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے بغیر نقصان اور گمراہ کن فتنہ کے تیرے دیدار کی لذت اور شوقی ملاقات و حاضری کا طلب گار ہوں اور اے اللہ! میں اس مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں جس پر صبر نہ ہو سکے اور اس فساد سے جو انسان کو گمراہ کر دے۔ اے اللہ! ہمیں

ایمان کی زیبائش سے آراستہ فرما اور ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔“

(اخرجه النسائی فی السنن، کتاب السہو، باب (۶۲) نوع آخر، ۵۳/۳، الرقم: ۱۳۰۵، ۱۳۰۱۶، وایضاً فی السنن الکبری، ۳۸۸/۱، الرقم: ۱۲۲۹، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲۶۲/۳، الرقم: ۱۸۳۵۱، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۲۵/۶، الرقم: ۲۹۳۲۸، وابن حبان فی الصحيح، ۳۰۲/۵، الرقم: ۱۹۷۱، والبزار فی المسند، ۲۲۸/۳-۲۳۰، الرقم: ۱۳۹۲-۱۳۹۳، والحاکم فی المستدرک، ۷۰۵/۱، الرقم: ۱۹۲۳، والطبرانی فی الدعاء، ۱۹۹/۱، الرقم: ۶۲۳، والشوکانی فی نیل الارطار، ۳۳۳/۲)

تیری مدحت اور میں معذور سر تا پا قصور
صرف تیرے آسرے پر لب کُشا ہوتا ہوں میں
غنچہ و گل آئینہ تیرے جمالِ قدس کا
ہے رواں تیرے اشارے پر نظامِ کائنات
ذره ذره خاکداں کا تیری عظمت کا نقیب
سرخرو ہیں تیری رحمت سے ترے سجدہ گزار
مل چکا اقبال کو سب کچھ تیری سرکار سے
میں کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ اتنا شعور
اس سعادت کی مجھے توفیق دے رب غفور
ماہ و انجم سے عیاں تیری تجلی تیرا نور
گردشِ افلاک بھی سجدہ کناں تیرے حضور
ہونا ہونا گلستان کا تیری قدرت کا ظہور
سرتلوں ہے تیرے آگے کفر و باطل کا غرور
بخش دے اس کی خطائیں بھی میرے رب غفور

(اقبالِ عظیم)

مغفرت، وسعتِ رزق اور علمِ نافع کی مقبول دعائیں

عن زاذان قال: حدثني رجل من الانصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
دبر الصلاة: اللهم اغفر لي، وتب علي، انك انت التواب الرحيم. حتى بلغ مائة مرة.
”حضرت زاذان بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری شخص نے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرض نماز کے
بعد یہ دعا کرتے ہوئے سنا: (اللهم اغفر لي، وتب علي، انك انت التواب الرحيم) (اے اللہ مجھے بخش
دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک توبہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے
سو مرتبہ یہ کلمات ادا فرمائے۔“ (اخرجه النسائی فی السنن، کتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من قرا آية الكرسي
دبر كل صلاة، ۳۱/۶، الرقم: ۹۹۳۱)

☆ عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اذا صلى الصبح حين
يسلم: اللهم، اني اسالك علما نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً.

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز کے بعد یہ دعا فرماتے: (اللهم، اني اسالك
علما نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً) (اے اللہ! میں تجھ سے علمِ نافع، رزقِ حلال اور عملِ مقبول کے حوال
کرتا ہوں)۔“ (اخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقال بعد التسليم، ۲۹۸/۱)

الرقم: ۹۲۵، والنسائی فی السنن الكبرى، ۳۱/۶، الرقم: ۹۹۳۰، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲۹۴/۶، الرقم:

۲۶۵۶۴، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۳۳/۶، الرقم: ۲۹۲۶۵

اے خدا اے مقتدر اے ذوالجلال
تیری ہر قدرت ابد آثار ہے
تو جو خود تخلیق پر مائل ہوا
کہہ کہ ”کن“ کون و مکان پیدا کئے
حضرت آدم کو بخشی زندگی
خود بنا ڈالی ہے اک ایجاد کی
آدمیوں کی ہدایت کے لئے
سب سے آخری سرور دین مصطفیٰ
اے خدا تیری رضا کا واسطہ
اے خدا بہر حسن بہر حسین
رب الرحماں! سن ہماری التجا
تو بے شک ہے لم یزل لایزال
نور تیرا مطلع انوار ہے
اشرف المخلوق انساں کو کیا
یہ زمین و آسمان پیدا کئے
تیرے جلووں کی ہوئی تابندگی
نسل انساں سے زمیں آباد کی
انبیاء و مرسلین پیدا کئے
بزم ہستی میں ہوئے جلوہ نما
تیرے پیارے مصطفیٰ کا واسطہ
بحر عرفاں امام المشرقیں
اک حقیقت ہے مناجات ضیاء

(حضرت مولانا ضیاء مصطفیٰ)

تعلیم امت کے لئے دعائیں

عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: ما صلیت خلف نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم الا سمعته
حین ینصرف یقول: اللہم، اغفر لی خطایای وذنوبی کلہا، اللہم وانعشنی واجبرنی واهدنی
لصالح الاعمال والاخلاق، انه لا یهدی لصالحہا، ولا یصرف سینہا الا انت .

”حضرت ابو ایوب (انصاری) رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی
(تو دیکھا کہ) آپ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو میں آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنتا: (اللہم، اغفر لی
خطایای وذنوبی کلہا، اللہم وانعشنی واجبرنی واهدنی لصالح الاعمال والاخلاق، انه لا
یهدی لصالحہا، ولا یصرف سینہا الا انت) اے میرے اللہ! میری تمام خطائیں اور گناہ بخش دے، اے
میرے اللہ! مجھے (اپنی عبادت و اطاعت کے لئے) ہشاش بشاش رکھ اور مجھے اپنی آزمائش سے محفوظ رکھ اور مجھے نیک
اعمال و اخلاق کی طرف رہنمائی عطا فرما، بیشک نیک اعمال و اخلاق کی طرف ہدایت حیرے سوا کوئی نہیں دیتا اور بُرے
اعمال و اخلاق سے تیرے سوا کوئی نہیں بچاتا۔“ (اخرجہ الطبرانی فی المعجم الصغیر، ۳۶۵/۱، الرقم: ۶۱۰، وایضاً
فی المعجم الاوسط، ۳۶۲/۳، الرقم: ۳۳۳۲، وایضاً فی المعجم الکبیر، ۱۲۵/۳، الرقم: ۳۸۷۵، ۲۲۷/۸، الرقم:

۷۸۹۳، والحاكم في المستدرک، ۵۲۲/۳، الرقم: ۵۹۳۲، وابن السنی فی عمل اليوم والليلة، ۳۵/۱، الرقم: ۱۱۷،
والدیلمی فی مسند الفردوس، ۳۷۵/۱، الرقم: ۱۹۳۵)

☆ عن ابی امامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: ما دنوت من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة
مکتوبة او تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات الدعوات لا یزید فیهن ولا ینقص منهن:
اللهم اغفر لی ذنوبی وخطایای، اللهم انعشنی واجبرنی واهدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانه
لا یهدی لصالحها ولا یصرف سینها الا انت۔

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی فرض نماز یا نفل نماز میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پیچھے کھڑا ہوا تو
میں نے آپ ﷺ کو ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا جن میں آپ ﷺ کوئی کمی بیشی نہیں فرماتے تھے (وہ
کلمات یہ ہیں: (اللهم اغفر لی ذنوبی وخطایای، اللهم انعشنی واجبرنی واهدنی لصالح الاعمال
والاخلاق فانه لا یهدی لصالحها ولا یصرف سینها الا انت) اے میرے اللہ! میری خطائیں اور گناہ
بخش دے، اے میرے اللہ! مجھے (اپنی عبادت و اطاعت کے لئے) ہشاش بشاش کر دے اور مجھے اپنی آزمائش سے
محفوظ رکھ اور مجھے نیک اعمال و اخلاق کی رہنمائی عطا فرما۔ پس بیشک تیرے سوا ان نیک اعمال کی رہنمائی کوئی نہیں کرتا
اور نہ ہی تیرے سوا برے اعمال و اخلاق سے کوئی بچاتا ہے۔“ (اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، ۲۰۰/۸،
۲۵۱، الرقم: ۷۸۱۱، ۷۹۸۲، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۳۷۵/۱، الرقم: ۱۹۳۵، والہیثمی فی مجمع الزوائد،
۱۱۲/۱۰، وقال: رواه الطبرانی ورجالہ رجال الزبیر بن خریق وهو ثقة، والقزوينی فی التدوین، ۲۵۲۳
والمبارکفوری فی تحفة الاحوذی، ۱۷۰/۲)

اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ بردا
کام تمام میسر ہوندے نام اوہدا چت دھریاں رحموں سکے ساوے کردا قہروں ساڑے بریاں
حکم اوہدے بن لکھ نہ ہلدا واہ قدرت دا والی جیا جون نگاہ اوہدی وچہ ہر پتہ ہر ڈالی
جو جو رزق کے دا کیتوس لکھیا کدی نہ ٹالے لکھ کڑوڑ تکے بریاں پھر بھی اونویں پالے
واہ واہ صاحب بخش ہارا تک تک ایڈ گناہاں عزت رزق نہ کھسے ساڈا دیندا پھیر پناہاں
جے اوہ قہر کماون لگدا کون کوئی جو چھوڑا رحمت اس دی جگ وساوے ہر ایک نعمت لُدا
عیب میرے پرپلا دیندا ہنر کریندا ظاہر جدوں کرم دا واڑا کردا کوئی نہ رہندا باہر
اے اللہ اپنی ملاقات کا دن بہترین کر دے

☆ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان مقامی بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فکان اذا سلم قال: اللهم اجعل خیر عمری آخرہ، اللهم اجعل خواتیم عملی رضوانک۔

اللهم اجعل خیر ایامی یوم القاک .

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں (نماز میں) حضور نبی اکرم ﷺ کے عین پیچھے کھڑا ہوا کرتا تھا۔ پس جب آپ ﷺ سلام پھیرتے تو یوں دعا کرتے: (اللهم اجعل خیر عمری آخرہ، اللهم اجعل خواتیم عملی رضوانک . اللهم اجعل خیر ایامی یوم القاک) اے میرے اللہ! میری عمر کا آخری حصہ بہترین بنا دے، اے میرے اللہ! میرے اعمال کا خاتمہ اپنی رضا پر کر، اے میرے اللہ! میرے دنوں میں سے بہترین دن اسے بنا جس دن میں تیرے ساتھ ملاقات کروں۔“ (اخرجه الطبرانی فی المعجم الاوسط، ۱۵۷/۹، الرقم: ۹۳۱۱، وابن السنی فی عمل الیوم واللیة، ۳۶/۱، الرقم: ۱۲۲، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۳۸۰/۱، الرقم: ۱۹۶۲، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۱۰/۱۰)

اے مستعانِ خلق ہمارا کوئی نہیں
میں بندگی میں تیرا وفا دار گو نہیں
تیرے کرم پہ حق میرا زہار گو نہیں
اے مستعانِ خلق ہمارا کوئی نہیں
عاصی ہوں میں تو مغفرتِ عام تیرا کام
بے چین ہوں تو کہتی ہے خلقت تجھے سلام
اے مستعانِ خلق ہمارا کوئی نہیں
صدقہ تیرے رسول علیہ السلام کا
چھوٹا تو ہوں مگر وسیلہ میرا بڑا
وردِ زباں ہمارا ہے ایاک نستعین
تیری عنایتوں کا سزا وار گو نہیں
کہتا یہی ہوں لائق گفتار گو نہیں
وردِ زباں ہمارا ہے ایاک نستعین
بیمار ہوں تو شافعِ امراض تیرا نام
چپتا ہوں تیرا نام یہ رثا ہوں صبح شام
وردِ زباں ہمارا ہے ایاک نستعین
دیتا ہوں غوث وخواجہ واشرف کا واسطہ
سید کے حال زار پہ اب رحم ہو ذرا!

(حدیثِ اعظم ہند کچھ چھوی)

ہر نیکی کے اجر اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه انه كان يقول اذا فرغ من الصلاة: اللهم انى اسالك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك واسالك الغنيمة من كل برو السلامة من كل اثم، اللهم انى اسالك الفوز بالجنة والجواز من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها .

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے: (اللهم انى اسالك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك واسالك الغنيمة من كل برو السلامة من كل اثم، اللهم انى اسالك الفوز بالجنة والجواز من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا

فرجته ولا حاجة الا قضيتها) اے اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو ثابت کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہر نیکی کے اجر اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے جنت میں کامیابی اور (دوزخ کی) آگ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرا کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر یہ کہ تو نے اسے بخش دیا ہو اور نہ ہی کوئی غم چھوڑ مگر یہ کہ تو نے اس سے نجات دلا دی ہو اور کوئی ایسی حاجت نہ چھوڑ جسے تو نے پورا نہ کر دیا ہو۔ (اخرجه ابن ابی شیبہ فی المصنف، کتاب الصلوات، باب ماذا يقول الرجل اذا انصرف، ۲۶۹/۱، ۲۷۰، الرقم: ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۱)

وفی روایة: عن علی رضی اللہ عنہ انه قال حين سلم: لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه .
 ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے: (لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔“ (رواہ ابن ابی شیبہ)
 ☆ وفی روایة: عن مغیرہ قال: کان ابراهیم رضی اللہ عنہ اذا سلم اقبل علينا بوجهه وهو يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له .

”حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب سلام پھیرتے تو اپنا رخ ہماری طرف موڑ کر فرماتے: (لا اله الا الله وحده لا شريك له) اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔“ (ایضاً)
 ہیں فیضِ رساں دن تو ملے رات اجالے
 میں لاکھ سیاہ کار سہی اے مرے معبود
 اے خالقِ کل! ہیں تری سوغات اجالے
 تو چاہے تو پل میں مرے جذبات اجالے
 کرتے ہیں جو آنکھوں کی مدارات اجالے
 ہر ایک کو دیتی ہے تیری ذات اجالے
 کب دیکھئے بخشش مرے حالات اجالے
 کرتے رہے الفاظ کی برسات اجالے
 رہتے ہیں کھڑے باندھے جہاں ہاتھ اجالے
 کر بندہ ناچیز کو خیرات اجالے
 خورشید درخشاں ہو کہ ہو ماہِ منور
 دل کو بڑا ارمان ہے کعبے کے سفر کا
 جب میں نے تری ذات کو موضوع بنایا
 مولا مرے تقدیر کر اس در کی گدائی
 ہے تیرا ثنا خواں سخن تیرہ مقدر

(سجاد سخن)

جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو

وقد اخرج عبد بن حمید، وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالیٰ: (فاذا فرغت فانصب) (الم نشرح، ۸: ۹۴) قال: اذا فرغت من الصلاة فانصب فی الدعاء واسأل الله وارغب اليه .

”امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: (فاذا فرغت فانصب) کی تفسیر میں متعدد طرق سے یہ روایت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے: اے محبوب! جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعائیں مشغول ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور اسی کی طرف (کامل یکسوئی سے) راغب ہوا کریں۔“ (اخرجه ابن جریر الطبری فی جامع البیان، ۲۳۶/۳، والسیوطی فی الدر المنثور، ۵۵۱/۸، والبیضاوی فی انوار التنزیل، ۵۰۶/۵، والشوکانی فی فتح القدیر، ۴۶۳/۵، وابن الجوزی فی زاد المسیر، ۱۶۶/۹، والآلوسی فی روح المعانی، ۱۷۲/۳)

☆ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (فاذا فرغت) من الصلاة (فانصب) الى الدعاء (و الى ربك فارغب) (الم نشرح، ۹۳: ۷-۸) في المسألة. ذكره السيوطي وقال: اخرج ابن ابي الدنيا في الذكر... حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (فاذا فرغت) یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں (فانصب) تو دعائیں مشغول ہو جائیں (والی ربك فارغب) اور سوال کرنے میں اپنے رب کی طرف ہی راغب ہوا کریں۔“ (اخرجه السيوطي في الدر المنثور، ۵۵۱/۸، والشوکانی فی فتح القدیر ۴۶۳/۵)

☆ و اخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة: (فاذا فرغت فانصب) (الم نشرح، ۹۳: ۷-۸) قال: اذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء. ذكره السيوطي والجصاص.

”امام عبد الرزاق اور امام عبد بن حمید، امام ابن جریر اور امام ابن منذر نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: (فاذا فرغت فانصب) سے مراد یہ ہے کہ جب اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں تو خود کو دعائیں مشغول کر لیں۔“ (اخرجه السيوطي في الدر المنثور، ۵۵۲/۸، والنحاس في النسخ والمنسوخ)

يا رب غفور تو رحیم ہے تو کریم ہے رزق حلال دینے والا تو ہی تو ہے
تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو ہی تو ہے جس نے گلش بنائے مہکے مہکے
زمین و آسماں سب بنائے تو نے تو نے ہی جگ کو روشن کیا ہے
ہر ایک تیرے نغمے پڑھتا پڑھاتا ہے ہر اک تیرے نام پہ جھوم جاتا ہے
نہیں کوئی ایسی شخصیت جو تجھ سے بڑی ہو نہیں کوئی چیز جو تجھ سے چھپی ہو

فرض نماز کے بعد اور دیگر اوقات میں کیے جانے والے اذکار

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح في دهر كل صلاة عشراً ويحمد عشراً ويكبر عشراً، فذلك خمسون ومائة باللسان والالف وخمسة مائة في

المیزان، ويكبر اربعا وثلاثين اذا اخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان واللف في الميزان، فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي احدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل ان يقوله ويأتيه في صلاته فيذكروه حاجة قبل ان يقولها .

”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: دو وظیفے ایسے ہیں کہ جو بندہ مسلمان ان کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ پڑھنے میں نہایت آسان ہیں لیکن انہیں پڑھنے والے تھوڑے ہیں یعنی ہر فرض نماز کے بعد دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمد للہ اور دس دفعہ اللہ اکبر پڑھے۔ یہ زبان پر تو ڈیڑھ سوا اور میزان میں ڈیڑھ ہزار ہیں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ۳۳ دفعہ اللہ اکبر پڑھے جبکہ سونے لگے اور ۳۳ دفعہ الحمد للہ اور ۳۳ دفعہ سبحان اللہ پڑھے۔ یہ زبان پر تو سوا اور میزان میں ایک ہزار ہیں۔ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ انہیں انگلیوں پر شمار فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کا پڑھنا تو اتنا آسان ہے پھر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سونے لگتا ہے تو ان کلمات کے کہنے سے پہلے شیطان اسے سلا دیتا ہے اور اس کی نماز کے اندر آتا ہے اور انہیں پڑھنے سے پہلے (اسے یہ اذکار بھلا کر) کوئی دوسرا کام یاد کروا دیتا ہے۔“

(اخرجه ابو نعیم فی مسند ابی حنیفة، ۱/۱۲۳، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب (۲۵) منه، ۵/۳۷۸، الرقم: ۳۲۱۰، وابو داؤد فی السنن، کتاب الادب، باب فی التسبیح عند النوم، ۲/۳۱۶، الرقم: ۵۰۶۵، وابن ماجہ فی السنن، کتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقال بعد التسليم، ۱/۲۹۹، الرقم: ۹۲۶، والنسائی فی السنن الكبرى، ۲/۲۰۳، الرقم: ۱۰۶۲۹، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲/۲۰۳، الرقم: ۶۹۱۰، وعبد الرزاق فی المصنف، ۲/۲۳۳، الرقم: ۳۱۸۹، وابن حبان فی الصحيح، ۵/۳۵۴، الرقم: ۲۰۱۲)

گلشن میں اگر گل ہیں تو گردوں پہ ستارے
تو پل میں لگا دیتا ہے کشتی کو کنارے
جو شخص مصیبت میں ترا نام پکارے
کام آتے نہیں وقت پہ یہ جھوٹے سہارے
جو تیری عبادت میں شب و روز گزارے
پوشیدہ کسی سے نہیں اب تیرے اشارے

ہر سمت نظر آتے ہیں بس تیرے نظارے
قربان میں جاؤں تیری قدرت کے خدایا
امداد کو تو اس کی پہنچ جاتا ہے فوراً
کہنے کو تو دنیا میں بہت دوست ہیں لیکن
بندہ وہی تعریف کے لائق ہے جہاں میں
قرآن کی تعلیم کا ہر گھر میں ہے چرچا

مال خرچ کرنے سے بڑھ کر ثواب

عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا: یا رسول اللہ، ذهب اهل الدثور بالدرجات والنعيم

المقیم قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وانفقوا من فضول اموالهم، وليست لنا اموال قال: افلا اخبركم بامر تدر کون من كان قبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا ياتي احد بمثل ما جئتم به الا من جاء بمثله؟ تسبحون في دبر كل صلاة عشراً، وتحمدون عشراً، وتكبرون عشراً.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں بازی لے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا: جس طرح انہوں نے نماز پڑھی تو اسی طرح ہم نے بھی پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا ویسے ہی ہم نے بھی جہاد کیا لیکن انہوں نے اپنا دوا فرمال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر وہی جو تمہاری طرح کا عمل کرے (وہ عمل یہ ہے کہ) تم اپنی ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔“ (اخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب الدعوات، باب فضل التسبیح، ۲۳۵۲/۵، الرقم: ۶۰۳۳، وايضاً فی کتاب الايمان والتدور، باب اذا قال: والله لا اتكلم اليوم، فصلی اوقراً، او سبح او كبر، او حمد، او هلل، فهو على نيته، ۲۳۵۹/۶، الرقم: ۶۳۰۳، وايضاً فی کتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط، (الانبياء، ۲۱: ۴۷)، ۲۷۴۹/۶، الرقم: ۷۱۲۳، ومسلم فی الصحيح، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، ۲۰۷۲/۳، الرقم: ۲۶۹۳، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۶۰)، ۵۱۲/۵، الرقم: ۳۴۶۷)

تو آپ خالق آپ ہی چاہے خطا معاف آخربشر بشرھی تو ہے کیوں نہ آئے دل
جو چاہتا ہو یہ کہ خدا سے لگائے دل وہ پیشتر حبیب خدا سے لگائے دل

تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر احادیث میں

☆ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: امرنا ان نسبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبره اربعا وثلاثين قال: فرأى رجل من الانصار في المنام فقال: امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدوا الله ثلاثا وثلاثين وتكبروا اربعا وثلاثين قال: نعم، قال: فاجعلوا خمسا وعشرين واجعلوا التهليل معهن ففدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال: افعلوا.

”حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہمیں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو) ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ تسبیح (یعنی سبحان اللہ)، تینتیس مرتبہ تحمید (یعنی الحمد للہ) اور چونتیس مرتبہ تکبیر (یعنی اللہ اکبر) پڑھنے کا حکم

صادر فرمایا گیا۔ پھر ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہا: حضور نبی اکرم ﷺ نے تمہیں ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، اس نے کہا: تم ہر ایک کلمہ کو پچیس پچیس بار پڑھو اور ان کے ساتھ پچیس بار تہلیل (یعنی لا الہ الا اللہ) کو شامل کر لو (یہ ملا کر کل تعداد سو ہو جائے گی)۔ صبح کے وقت انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اسی طرح کرو۔“

(اخرجہ الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب منه (۲۵)، ۴۷۹/۵، الرقم: ۳۲۱۳، والنسائی فی السنن، کتاب السہو، باب نوع آخر من عدد التسبیح، ۷۶/۳، الرقم: ۱۳۵۰، وایضاً فی السنن الکبریٰ، ۲۰۱/۱، الرقم: ۱۲۷۳، وایضاً، ۴۷/۶، الرقم: ۹۹۸۵، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱۸۲/۵، ۱۹۰، الرقم: ۲۱۶۳۰، ۲۱۷۰۲، والدارمی فی السنن، ۳۶۰/۱، الرقم: ۱۳۵۲، وابن خزیمہ فی الصحیح، ۳۷۰/۱، الرقم: ۷۵۲، وابن حبان فی الصحیح، ۳۶۰/۵، الرقم: ۲۰۱۷، وابن المبارک فی الزہد، ۳۰۷/۱، الرقم: ۱۱۶۰، والحاکم فی المستدرک، ۳۸۳/۱، الرقم: ۹۲۸، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۱۳۵/۵، الرقم: ۳۸۹۸، وایضاً فی الدعاء، ۲۳۲/۱، الرقم: ۷۳۱، والمقدمی فی فضائل الاعمال، ۲۲/۱، الرقم: ۸۴)

ہر حال میں رہا ہے ترا اے خدا خیال
ہر معصیت سے مجھ کو بچایا ہے روز و شب
یا رب ترے کرم کی کوئی انتہا نہیں
قدرت کے تیری لاکھوں نمونے ہیں چار سو
دشوار موڑ بھی رہ ہستی میں آئے ہیں
ماں باپ بھی نہ رکھ سکیں اتنی توجہات
عابد کا سر جھکے ترے در پرھی اے خدا
اک آن بھی نہ محو ہوا ہے ترا خیال
تیرا کرم ہی بن کے رہا ہے صدا خیال
ہم عاصیوں پہ لطف کا ہر دم رکھا خیال
تخلیق ہو گئی وہ شے جسکا کیا خیال
رہبر بنا رہا ترے الطاف کا خیال
خالق کو اپنے بندوں کا جتنا رہا خیال
تیرے سوا نہ آئے کسی غیر کا خیال

(پروفیسر عابد سلطانی برہانپوری)

کون ہے جو دن میں پچیس سو گناہ کرتا ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: من قال فی دبر کل صلاة: عشر تسبیحات وعشر تکبیرات وعشر تحمیدات فی خمس صلوات فتلك خمسون ومائة باللسان واللف فی المیزان واذا اخذ مضجعه مائة باللسان واللف فی المیزان فایکم یصیب فی یوم الفین وخمسمائة سیئة۔
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے پانچ نمازوں میں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر اور دس مرتبہ الحمد للہ پڑھا تو یہ زبان پر ۱۵۰ اور میزان میں ۱۵۰۰ ہیں، اور جب سونے کے لئے اپنے بستر پر جا کر

یہ کلمات سو مرتبہ زبان سے پڑھے تو یہ میزان میں ہزار ہیں۔ پس تم میں سے کون ہے جو دن میں ۲۵۰۰ گناہ کرتا ہے۔“

(اخرجه النسائی فی السنن الكبرى، کتاب عمل الیوم والليلة، باب التسیب والتکبیر والتهلل والتحمید دبر الصلوات، ۳۶/۶، الرقم: ۹۹۸۲، والطبرانی فی المعجم الاوسط، ۲۷۵/۷، الرقم: ۷۲۸۵، وابن حبان فی طبقات المحدثین باصبهان، ۴۳/۳)

☆ عن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما یمنع احدکم ان یشیح دبر کل صلاة عشرًا ویکبر عشرًا ویحمد عشرًا فذالك فی خمس صلوات خمسون ومائة باللسان والالف وخمسمائة فی المیزان واذا اوی الی فراشه سبح ثلاثا وثلاثین وحمد ثلاثا وثلاثین وکبر اربعاً وثلاثین فذالك مائة باللسان والالف بالمیزان، فایکم یعمل فی یوم وليلة الفین وخمسمائة سینه .

”حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ اللہ اکبر اور دس مرتبہ الحمد للہ پڑھنے سے کیا چیز مانع ہے؟ اور یہ پانچ نمازوں میں ۱۵۰ مرتبہ زبان پر اور میزان پر ایک ہزار کے برابر ہے اور جب کوئی آدمی اپنے بستر میں جا کر ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ زبان پر ۱۰۰ مرتبہ اور میزان میں ۱۰۰۰ نیکیوں کے برابر ہے۔ پس تم میں سے کون ہے جو دن رات میں ۲۵۰۰ گناہ کرتا ہے۔“

(اخرجه النسائی فی السنن الكبرى، کتاب عمل الیوم والليلة، باب التسیب والتکبیر والتهلل والتحمید دبر الصلوات، ۳۶/۶، الرقم: ۹۹۸۱، والخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد، ۲۱۶/۱۳، الرقم: ۷۱۸۲، والذہبی فی سیر اعلام النبلاء، ۵۵۱/۱۱، والشوکانی فی نیل الاوطار، ۳۲۸/۲، والعینی فی عمدة القاری، ۱۳۱/۶)

اے رب ارتقائے شب وروز و ماہ و سال
کیونکر کوئی ورق پہ سجائے دھنک کے رنگ
فریاد سن! کہ ہنچہ آفات میں ہوں میں
بجز زمین جسم کی مانگے گھٹا کا لس
آسودگی اگا مری آنکھوں میں بھی کبھی
خیمہ تنہا ہوا ہے ہواؤں کا شہر میں
روسیگی کا حد نظر تک نہیں نشان
اے لا شریک وقادر ورحمان و بے نیاز

محمودیوں کے عہد پریشاں کو دے زوال
زخموں سے چور چور ہے رعنائی خیال
شہ رگ سے بھی قریب ہے تو رب ذوالجلال
شاداب ساعتوں سے بھرے آرزو کا تھال
آلام ورنج و درد کے طوفان سے نکال
کیسے کوئی چراغ جلائے شب وصال
اُترے مری زمیں پہ بھی شبی سی شال
کیوں تیری ذات ہی سے نہ کرتا رہوں سوال

(رباعی حسین چوہدری)

اے ام مالک یہ برکت ہے

عن ام مالك الانصارية جاءت ام مالك رضى الله عنها بعكة سمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فعصرها ثم رفعها اليها فرجعت فاذا هي مملوءة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: نزل في شيء يا رسول الله، قال: وما ذاك يا ام مالك، قالت: رددت على هديتي قال: فدعا بلالا فسأله عن ذلك فقال: والذي بعثك بالحق، لقد عصرتها حتى استحيت فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هنيالك يا ام مالك هذه بركة عجل الله ثوابها ثم علمها ان في دبر كل صلاة: سبحان الله عشراً، والحمد لله عشراً، والله اكبر عشراً.

”حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ (بطور ہدیہ) گھی کا مشکیزہ لے کر حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ ﷺ نے حضرت بلال کو حکم فرمایا (کہ وہ اس میں سے گھی نکال لیں)۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس مشکیزے کو نچوڑ کر وہ مشکیزہ حضرت ام مالک کو واپس لوٹا دیا۔ وہ گھر لوٹ آئیں اچانک دیکھا تو مشکیزہ (پہلے کی طرح گھی سے) بھرا ہوا تھا، وہ پھر حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: اے ام مالک! کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا: آپ نے میرا ہدیہ واپس لوٹا دیا ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت بلال کو بلایا اور اس بارے میں پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے تو اس مشکیزے کو اتنا نچوڑا تھا کہ مجھے شرم آنے لگی تھی تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ام مالک! تمہیں مبارک ہو یہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جلدی عطا کر دیا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں سکھایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ، اور دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں۔“ (اخرجه ابن ابی شیبہ فی المصنف، کتاب الفضائل، باب ما اعطى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، ۳۲۲/۶، الرقم: ۳۱۷۶۰، وابن ابی عاصم فی الاحاد والمثنى، ۱/۷۷، الرقم: ۳۳۰۵، والطبرانی فی المعجم الكبير، ۱۳۵/۲۵، الرقم: ۳۵۱، والهشمي فی مجمع الزوائد، ۳۰۹/۸، وايضاً، ۱۰۲/۱۰، وابن عبد البر فی الاستيعاب، ۱۹۵۶/۳، الرقم: ۳۲۰۶، والعسقلاني فی الاصابة، ۲۹۸/۸، والعيني فی عمدة القاری، ۱۳۱/۶)

(امام ہیثمی نے فرمایا ہے اس حدیث کی سند میں عطاء بن سائب ہیں جو آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے اور باقی تمام

رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں)

تری قدرت تو جب چاہے زمیں کو آسماں کر دے
تجھے زیبا ہے پھر تازہ حدیثِ قدسیاں کر دے
تو رشکِ قدسیاں وصفِ ضمیر کن فکاں کر دے

ہے ممکن کن سے پیدا پھر کوئی تازہ جہاں کر دے
ہو مسجد ملائک پھر کوئی انگارہ خاکی
بنی نوع انساں میں ہوں بو بکر و علی پیدا

خدایا شانِ خلاق سے تیری یہ بھی ممکن ہے
نہ ہوگی خلق میں چوں اور حیراں کی کوئی گنجائش
اشارہ ہو اگر سمومِ گرد کا جھونکا
کمی کس چیز کی یارب ہے تیرے کارخانے میں

فنا کے دشت سے پھر زندگی کو نغمہ خواں کر دے
تری قدرت سراپوں سے اگر دریا رواں کر دے
فضائے دشت و صحرا کو بہارِ بے خزاں کر دے
بس اب اعجازِ احمد کو بھی تو معجز بیاں کر دے

(پروفیسر اعجاز احمد خاں اعجاز)

اپنی لختِ جگر کو خدمت گزار دینے کی بجائے وظیفہ عطا فرما دیا

عن عطاء بن السائب عن ابیہ قال: اتی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عند فاطمة رضی اللہ
عنها فقال: انی اشتکی صدري مما اجد بالقرب قالت: وانا واللہ انی اشتکی بدی مما اطحن
الرحا فقال لها: اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد اتاه سبی ائتیہ لعلہ یخدمک خادما فانطلقت
الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتاهما فقال: انکما جنتمانی لا خدمکما خادما وانی ساخبر
کما بما هو خیر لکما من الخادم فان شتتما اخبرتکما بما هو خیر لکما من الخادم: تسبحانه
دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثین وتحمدانه ثلاثا وثلاثین وتکبرانه اربعا وثلاثین واذا اخذتما
مضاجعکما من اللیل فلتک مائة قال علی رضی اللہ عنہ: فما اعلمنی ترکتها بعد قال له ابن
الکواء: ولا لیلۃ صفین؟ فقال له علی رضی اللہ عنہ: قاتلکم اللہ یا اهل العراق ولا لیلۃ الصفین .

”حضرت عطا بن سائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے
پاس آئے اور کہا کہ مشکیزے اٹھانے کی وجہ سے میرے سینے میں درد کی شکایت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:
چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں کا بھی برا حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: آپ حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے ہیں تو شاید آپ کو بھی خدمت کے لئے کوئی قیدی دے
دیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی، پھر وہ دونوں (حضرت علی اور حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تم دونوں میرے پاس اس لئے آئے
ہو کہ میں تمہیں کوئی خدمتگار دے دوں اور یقیناً میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو تم دونوں کے لئے خدمتگار سے بھی بہتر
ہے۔ (یا فرمایا:) اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔ آپ دونوں ہر نماز
کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ، اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اور جب رات تم دونوں سونے
لگو تو اس وقت بھی یہ اذکار پڑھو جن کی تعداد سو بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جہاں تک
میں جانتا ہوں میں نے یہ اذکار کبھی نہیں چھوڑے، ابن الکواء نے دریافت کیا کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اہل عراق! اللہ تعالیٰ تم سے جنگ کرے، جنگ صفین کی رات بھی نہیں۔“ (العصر جہ ابن

ابی شیبہ فی المصنف، کتاب الدعاء، باب ما یقال فی دبر الصلوات، ۳۳/۶، الرقم: ۲۹۲۶۳، والنسانی فی السنن

الکبری، ۲۰۳/۶، الرقم: ۱۰۲۵۰، والبزار فی المسند، ۱۰/۳

توحید کے نغمے گانے لگے
اللہ مرا رحمن بھی ہے
پھر کیسے کوئی جھٹلانے لگے
اُس دن سے مرا معمول ہوا
وہ ذکر مرا فرمانے لگا
کچھ سامنے ظاہر کچھ ہیں نہاں
خلوت کو مری مہکانے لگے
مکہ سے ملے یا اقصیٰ سے
پتھر جو مرے سرہانے لگے
وہ کرتا رہا ہر آن عطا
توحید کے نغمے گانے لگے

ہم قالوا بلی دہرانے لگے
حنان بھی ہے منان بھی ہے
ہر روز زالی شان بھی ہے
فرمانِ خدا منقول ہوا
میں ذکر میں جب مشغول ہوا
ہر سمت ہیں جلوے تیرے عیاں
اذکار ترے اے رب جہاں
ہے میری دعا یہ مولا سے
یا گرد و نواح طیبہ سے
ہم کرتے رہے ہر روز خطا
ہم قالوا بلی دہرانے لگے

باب مدیۃ العلم رضی اللہ عنہ:

یہ روایت قدرے تفصیل کے ساتھ خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے جو اس طرح ہے:

☆ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انه قال: قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی فقال علی لفاطمة: انتی اباک فسلیہ خادما تقی بہ العمل، فانت اباہا حین امست، فقال لها: مالک یا بنیۃ؟ قالت: لا شیء جنت لا سلم علیک واستحیت ان تسأل شیئا، فلما رجعت قال لها علی: ما فعلت؟ قالت: لم اسأله شیئا واستحیت منه حتی اذا كانت اللیلۃ القابله، قال لها: انتی اباک فسلیہ خادما تقین بہ العمل، فانت اباہا فاستحیت ان تسأله شیئا حتی اذا كانت اللیلۃ الثالثۃ مساء خرجنا جمیعنا حتی اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: ما اتی بکما، فقال علی: یا رسول اللہ، شق علینا العمل فاردنا ان تعطينا خادما تقی بہ العمل، فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: هل ادلکما علی خیر لکما من حمر النعم؟ قال علی: یا رسول اللہ، نعم! قال: تکبیرات وتسیحات وتحمیدات مائة حین تریدان ان تنا ما فتبتا علی الفی حسنة ومثلها حین تصبحان فتقومان علی الف حسنة فقال علی: فما فاتنی منذ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لیلۃ صفتین، فانی نسیتها حتی ذکرتها من آخر

اللیل فقلتها ۔

”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ قیدی حضور ﷺ کی خدمت میں لائے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے ایک قیدی مانگ لاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شام کے وقت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے میری بیٹی! کیا بات ہے؟ آپ نے عرض کیا: کوئی بات نہیں، میں صرف آپ کو سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی۔ لہذا حیا کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا نے کوئی سوال نہ کیا، پھر جب آپ واپس گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا: کیا بنا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں نے آپ ﷺ سے کوئی چیز نہیں مانگی، کیونکہ مجھے آپ سے مانگتے ہوئے شرم آرہی تھی۔ یہاں تک کہ اگلی رات پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اپنے بابا کے پاس جاؤ اور ان سے ایک خادم مانگ لو تا کہ خود کام کاج سے بچ سکو۔ آپ رضی اللہ عنہا پھر حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آئیں، لیکن مارے حیا کے کچھ نہ مانگا، یہاں تک کہ جب تیسری رات ہوئی شام کے وقت ہم دونوں حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس گئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم دونوں کو کیا چیز لائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر (گھر کا) کام کاج گراں ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک خادم عنایت فرمادیں جس کی وجہ سے ہم کام کی مشقت سے بچ سکیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں تمہارے لئے ایسی بہترین چیز نہ بتاؤں جو سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی بہتر ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ہاں، یا رسول اللہ! بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم سونے کا ارادہ کرو تو سومرتبہ تکبیرات، تسبیحات اور تحمیدات (یعنی بترتیب ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس طرح کل عدد ۱۰۰ بنتے ہیں) پڑھ کر سونا تو تم دو ہزار نیکیوں پر رات بسر کرو گے، اور اسی طرح جب تم صبح کرو، تو دو ہزار نیکیوں پر تم بیدار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے یہ سنا مجھ سے یہ عمل نہیں چھوٹا سوائے صغیرین والی رات، پس میں اسے بھول گیا تھا یہاں تک کہ رات کے آخری پہر مجھے یاد آیا تو میں نے یہ عمل کیا۔“

(اخرجه البزار فی المسند، ۱۰۷/۳، الرقم: ۸۹۲، والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۲۰۴/۶، الرقم: ۱۰۶۵۲، وابو

نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۶۹/۱، والطبرانی فی الدعاء، ۹۱/۱، الرقم: ۲۲۳)

جو بھی ملتا ہے ہمیں رب علیٰ دیتا ہے
رزق پتھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے
اور گمراہ کو وہ راہ دکھا دیتا ہے
وہی ہر شخص کو توفیق دعا دیتا ہے
موت کی نیند بھی جب چاہے سلا دیتا ہے

وہی ہوتا ہے جو فرمان خدا دیتا ہے
کوئی ذی روح بھی رہتا نہیں بھوکا ہرگز
شب نصیبوں کو سحر کا وہ اجالا بخشے
وہی دیتا ہے دعاؤں کو اجابت کا شرف
زندگی سے جسے آراستہ کرتا ہے اُسے

(جلسہ محراب)

دیگر اذکار و وظائف

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرء بالمعوذتین فی دبر کل صلوة .
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذتین ”قرآن پاک کی آخری دو سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔“

(ترمذی، ۱۷۱/۵، ۲۰۳، ابو داؤد، ۸۶/۲، ۱۵۲۳)

☆ حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

من قرء آية الكرسي في دبر كل صلوة مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت .

(نسائی، ۳۰/۶، ۹۹۲۸)

☆ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من قرء آية الكرسي في دبر الصلوة المكتوبة كان في ذمة الله الى الصلوة الاخرى .

جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو وہ دوسری نماز کا وقت آنے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا

(المعجم الكبير للطبرانی، ۸۳/۳، ۲۷۳۳، وايضاً، ۲۱۲/۱، ۶۷۳)

وفي رواية اخرج ابن النجار في تاريخ بغداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة اعطاه الله قلوب الشاكرين
واعمال الصديقين وثواب النبيين وبسط عليه يمينه بالرحمة ولم يمنعه من دخول الجنة الا ان
يموت فيدخلها .

”امام ابن نجار نے تاریخ بغداد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس
شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے شکر گزاروں کے دل، صدیقین کے اعمال اور انبیاء کا
ثواب عطا فرمائے گا، اور اس پر اپنا دستِ رحمت دراز فرمائے گا اور اس شخص کو سوائے موت کے جنت میں داخل ہونے

سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔“ (اخرجه السيوطي في الدر المنثور، ۶/۲، وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق، ۱۰۶/۶۱)

وہ بڑا مہربان رازق ہے

وہ بڑا مہربان خالق ہے

ساری دنیا کو پالتا ہے وہ

جسم میں جان ڈالتا ہے وہ

وہ مددگار بن کے آتا ہے

آدمی جب اُسے بلاتا ہے

سب کے دل کو نہال کرتی ہے

اس کی رحمت کمال کرتی ہے

شاد رہتا ہے عیش کرتا ہے

جو خدا سے سرور ڈرتا ہے

(سرور بجنوری)

اللہ بہت بڑا ہے

☆ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وقال سلیمان: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دبر صلاتہ (اللہم، ربنا ورب کل شیءٍ انا شہید انک انت الرب وحدک لا شریک لک، اللہم ربنا ورب کل شیءٍ انا شہید ان محمداً عبدک ورسولک، اللہم ربنا ورب کل شیءٍ انا شہید ان العباد کلہم اخوة، اللہم ربنا ورب کل شیءٍ اجعلنی مخلصالک واهلی فی کل ساعة فی الدنیا والآخرة یا ذا الجلال والاکرام اسمع واستجب اللہ اکبر الاکبر اللہم نور السموات والارض (قال سلیمان بن داؤد) رب السموات والارض اللہ اکبر الاکبر حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اکبر الاکبر)

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: (اور سلمان کی روایت میں ہے کہ) حضور نبی اکرم ﷺ ہر نماز کے بعد یوں دعا کرتے: اے اللہ! ہمارے اور ہر ایک شے کے رب! میں گواہ کہ رب صرف تو ہے، تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ! ہمارے اور ہر ایک شے کے رب! میں گواہ ہوں کہ محمد (ﷺ) تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! ہمارے اور ہر ایک شے کے رب! میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں۔ اے اللہ! ہمارے اور ہر ایک شے کے رب! مجھے اور میرے اہل خانہ کو دنیا و آخرت میں ہر وقت اپنے لئے خاص کر لے۔ اے بزرگی اور کرم والے! میری دعا سن اور قبول فرما۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا ہے۔ اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے نور (سلیمان بن داؤد کی روایت میں ہے:) آسمانوں اور زمین کے رب! اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ میرے لئے اللہ کافی ہے اور اچھا کام بنانے والا اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔“ (اخرجہ ابو داؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب ما یقول الرجل اذا سلم، ۸۳/۲، الرقم: ۱۵۰۸، والنسائی فی السنن الکبریٰ، باب من قرا آية الكرسي دبر كل صلاة، ۳۰/۶، الرقم: ۹۹۲۹، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳۶۹/۳، الرقم: ۱۹۳۱۲، وابو یعلیٰ فی المسند، ۱۷۸/۱۳، الرقم: ۷۲۱۶، والبیہقی فی شعب الایمان، ۳۳۳/۱، الرقم: ۶۲۲، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۳۵۰/۱، الرقم: ۱۸۳۰، وابن سیرا فی سلاح المؤمن فی الدعاء، ۳۳۱/۱، الرقم: ۶۳۳، والسیوطی فی الدر المنثور، ۱۹۶/۶، والصنعانی فی سبل السلام، ۱۹۹/۱، والشوکانی فی نیل الاوطار، ۳۵۱/۲)

آتا ہے ہر زباں پہ تیرا نام بار بار
خالق بھی تو ہے مالک و مولا بھی تو ہے
ہر دور ابتلا میں ہدایت کے واسطے
یا رب تیرے کرم کی حدیں ہیں نہ کچھ شمار
وہ سر بلند ہے جو تیرے در پہ جھک گیا
یا رب سنو ارتا ہے تو ہر کام بار بار
کرتا ہے اپنے بندوں پہ انعام بار بار
نبیوں پہ تیرے آتے تھے پیغام بار بار
دیتا ہے مخلصین کو اکرام بار بار
ملتا رہا ہے تیرا یہ پیغام بار بار

نمرد ہے کہاں کہاں فرعون اور یزید دکھلایا تو نے باغی کا انجام بار بار
عابد کی آرزو کی تکمیل اے خدا جی چاہتا ہے باندھوں میں احرام بار بار

(پروفیسر صوفی عابد سلطانی برہانپوری)

اے اللہ! غم و حزن دور کر دے

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضی صلاتہ مسح جہتہ بیدہ الیمنی، ثم یقول: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذهب عنی الہم والحزن۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مبارک کو چھوتے اور یوں کہتے: (بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذهب عنی الہم والحزن) (اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ! میرے غم و حزن کو دور فرما دے)۔“ (اخرجه الطبرانی فی المعجم الاوسط، ۶۶/۳، ۲۸۹، الرقم: ۲۳۹۹، ۳۱۷۸، وایضاً فی الدعاء، ۲۰۹/۱، الرقم: ۶۵۸، وابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۳۰۱/۲، وایضاً فی تاریخ اصہبان، ۶۶/۲، الرقم: ۱۱۰۵، وابن السنی فی عمل الیوم اللیلۃ، ۱۰۱/۱، الرقم: ۱۱۲، والواسطی فی تاریخ واسط، ۱۳۰/۱، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۱۰/۱۰)

وہم و خیال و فکر سے بالا ترا وجود تیری صفات لکھ سکے کیسے مرا قلم
تیرے ہی لفظ کن سے ہے تشکیل ہست و بود اغیار پر بھی دیکھا ہے تیرا ہی لطف و جود
انہوں پہ ہی تو ہوتا نہیں ہے ترا کرم غفار ہے کریم ہے خلاق این و آن
تیرا مقام پایا ہے اس سے بھی ماوراء تیرا کرم کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ دیئے
امت ترے حبیب کی غفلت میں کھو گئی گرچہ رضا کی آنکھ سے پہاں ہے تیری ذات
ان پر اور ان کی آل پر ہر آن ہو درود اپنے کرم سے توڑ دے طاری ہے جو جمود
پائی ہے اپنے قلب میں اس نے تری نمود

(پروفیسر محمد اکرم رضا)

تمام رسولوں پہ سلامتی ہو علیہم الصلوٰۃ والسلام

عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قال فی دبر کل صلاة: سبحان ربك رب العزة عما یصفون ○ وسلام علی المرسلین ○ والحمد لله رب

العالمین ○ (الصافات، ۱۸۱:۳۷) ثلاث مرات فقد اکتال بالجریب الاوفی من الاجر .
 ”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد (سبحان ربك رب العزة عما يصفون ○ وسلام على المرسلين ○ والحمد لله رب العالمين ○) (آپ کا رب، جو عزت کا مالک ہے اُن (باتوں) سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ○ اور (تمام) رسولوں پر سلام ہو ○ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ○) تین مرتبہ پڑھے تو اسے پورے بارہ صاع کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔“

(اخرجه الطبرانی فی المعجم الكبير، ۲۱۱/۵، الرقم: ۵۱۲۳، والمنذرى فی الترغيب والترهيب، ۳۳۰/۲، الرقم: ۲۳۷۱، والهيثمى فی مجمع الزوائد، ۱۰۲/۱۰، والهندي فی كنز العمال، ۱۳۵/۲، الرقم: ۳۳۸۲، وابن كثير فی تفسير القرآن العظيم، ۲۶/۳، والسيوطى فی الدر المنثور، ۱۳۱/۷)

وفى رواية: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ○ وسلام على المرسلين ○ والحمد لله رب العالمين ○

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی نماز کے ختم ہو جانے کو آپ ﷺ کی اس دعا: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون ○ وسلام على المرسلين ○ والحمد لله رب العالمين ○) (آپ کا رب، جو عزت کا مالک ہے اُن (باتوں) سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ○ اور (تمام) رسولوں پر سلام ہو ○ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ○) کے پڑھنے سے جانتے تھے۔

(ترمذی، ۹۶/۲، ۳۹۹)

☆ وفى رواية: عن ابي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة يقول فى آخر صلواته عند انصرافه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ○ وسلام على المرسلين ○ والحمد لله رب العالمين ○ (الصافات، ۱۸۱، ۳۷)

”ایک روایت میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو متعدد بار اپنی نماز کے آخر میں سلام پھیرتے وقت یہ دعا پڑھتے سنا: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون ○ وسلام على المرسلين ○ والحمد لله رب العالمين ○) (آپ کا رب، جو عزت کا مالک ہے اُن (باتوں) سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ○ اور (تمام) رسولوں پر سلام ہو ○ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ○) (اخرجه ابن ابي شيبة فى المصنف، كتاب الصلوات، باب ماذا يقول الرجل اذا انصرف، ۲۶۹/۱، الرقم: ۳۰۹۷، والعسقلانى فى المطالب العالى، ۲۲۷/۳، الرقم: (۵۳۳) ۲)

☆ عن انس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر

الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله، قام مغفورا له .
 ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے نماز کے بعد یہ پڑھا: (سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله) (اللہ تعالیٰ جو کہ عظمت والا ہے اس کی ذات (ہر عیب و نقص سے) پاک ہے، اور اسی کی حمد کے ساتھ (ہر چیز کا وجود ہے) اور نیکی کرنے کی طاقت اور توفیق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے) تو وہ بخشا ہوا (اپنی مجلس سے) کھڑا ہوگا۔“ (الترغیب والترہیب، ۲/۳۰۰، ۲۳۷۲، کنز العمال، ۲/۱۳۵، ۳۲۸۳،) (اس حدیث کو ابن سنی نے روایت کیا ہے اور ”تین مرتبہ“ کے لفاظ کا اضافہ کیا ہے)

صرف خالق کی رضا کی جستجو کرتے رہو
 ہو گیا راضی اگر رب پھر تو راضی سب کے سب
 دونوں عالم میں فلاح درکار ہے گر آپ کو
 دامن امید چاک ہونے نہ پائے دوستو!
 کاسہ دل میں مئے عشق الہی چاہیے
 یادِ حق سرمایہ ایمان ہے ایقان ہے
 عابد اس کی شان ہر شے سے عیاں ہے چارنو
 یعنی ہر لمحہ خدا کی گفتگو کرتے رہو
 تم تو بس حق کی رضا کی آرزو کرتے رہو
 مرضی رب پر عمل بس ہو بہو کرتے رہو
 اور اگر ہو جائے تو اس کو رفو کرتے رہو
 اس لئے متروک ہر جام و صبو کرتے رہو
 رات دن اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو
 اپنے احساس آشنائے رنگ و بو کرتے رہو

(صوفی سید عابد میر قادری سلطانی)

حضور علیہ السلام کی شفاعت اس کے لئے حلال ہو گئی

عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من دعا بهولاء الدعوات فی دبر کل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة منی یوم القیامة: اللهم اعط محمد بن الوسیلة واجعله فی المصطفین محبته و فی العالمین درجته و فی المقربین ذکر دراه .
 ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعائیں مانگیں، روز قیامت اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی: (اللهم اعط محمد بن الوسیلة واجعله فی المصطفین محبته و فی العالمین درجته و فی المقربین ذکر دراه)
 (اے اللہ! محمد مصطفیٰ ﷺ کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور اپنے برگزیدہ بندوں میں ان کی محبت رکھ دے اور تمام جہانوں میں ان کا درجہ قائم فرما اور مقربین میں ان کے گھر کا ذکر جاری فرما دے) (آمین)۔“

(اخرجه الطبرانی فی المعجم الكبير، ۲۳۷/۸، الرقم: ۷۹۲۶، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۲/۳۰۰، الرقم:

۲۳۷۳، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۱۱۲، والہندی فی کنز العمال، ۲/۱۳۳، الرقم: ۳۳۸، ۳۳۷۹)

☆ وقال ابن کثیر: وقال: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) و من الیل فسبحه وادبار السجود (ق، ۵۰: ۳۹-۴۰) ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبیح

والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير -

”ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے (اس آیت مبارکہ میں) فرمایا: (و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) و من الیل فسبحه وادبار السجود (سو آپ اُن باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی) اسی لئے سنت میں فرض نمازوں کے بعد تسبیح، تحمید اور تکبیر کے مستحب ہونے کا بیان ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تکبیر کی (بلند) آوازوں سے ہمیں معلوم ہو جاتا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نماز ختم فرما چکے ہیں۔“ (ذکرہ ابن کثیر فی تفسیر القرآن العظیم، ۲۱۸/۱)

دنیا ساری تیری ہے مولا، ساری دنیا تیری ہے ہوتا ہے دن رات تماشا، ساری لیلیا تیری ہے سورج تیرا، چاند بھی تیرا، تیرے سارے تارے ہیں بجلی چمکے، بادل گرجے، سب تیرے ہی اشارے ہیں سورج نکلا، دن کہلایا، سورج ڈوبا، رات ہوئی مسجد تیری، گرجا تیرا، مندر اور شوالے بھی تو نے ہمیں انساں بنایا، اُنس ہمارا کام ہوا اس دنیا کی نگری میں، ہر سمت ہمارا نام ہوا مل جل کر رہنے کی ہم سب انسانوں کو عادت دی دنیا کے صدے بھی مل کر نہ لینے کی طاقت دی عقل ہمیں کچھ ایسی بخشی، جس سے ہم اپنے کام بنائیں ہاتھ اور پاؤں دیئے کچھ ایسے جن سے کام کریں سکھ پائیں تجھ سے دعا ہے، دل میں ہمارے پیر نہ رہنے پائے ذرا بغض و حسد کی آگ نہ یارب، سینوں کو گرمائے ذرا وہ بھی فرض اپنا پہچانے پورا اُس کو کر کے دکھائے

ایک نہایت ہی اہم نکتہ

حافظ ابن القیم الجوزی نے ذکر کے موضوع پہ اپنی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب میں لکھا ہے ”آخرت کے لئے عمل کرنے والے لوگ دو قسم کے ہیں بعض تو اجر و ثواب کی غرض سے عمل کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو محض خدا تعالیٰ کے ہاں درجہ و منزلت اور قرب حاصل کرنے کی بنا پر عمل و تقییل بجالاتے ہیں اس لئے ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے ہاں قرب و منزلت اور وسیلہ کی طلب میں دوسرے فریق سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کے قرب و جوار کے حصول کی خاطر جان و دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اللہ عزوجل نے سورہ حدید میں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا:

ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم اجر كريم (حدیث ۵۷۰ - ۲۴) صدقہ کر نیوالے مردوں اور عورتوں اور خدا قرض حسنہ دینے والوں کے صدقہ و قرض کو دو چند کر دیا جائے گا اور ان کے لئے بہترین اجر ہے۔

یہ پہلا فریق ہے جو اجر و ثواب کی غرض سے عمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا:

والذین امنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون (حدیث ۵۷ - ۲۴)
جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ صدیق ہیں۔
یہ اصحاب قرب و منزلت ہیں۔ پھر فرمایا:

و الشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم (حدیث ۵۷ - ۲۴)
اور شہداء اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے انہیں اجر بھی ملے گا اور نور بھی عنایت ہوگا۔

اس جملہ میں اختلاف ہے، بعض نے الذین امنوا باللہ ورسلہ پر اس کا عطف ڈال کر یہ مطلب لیا ہے کہ اللہ عزوجل مومنین کے متعلق یہ خبر دینا چاہتا ہے کہ یہی صدیق ہیں اور یہی شاہد۔ جو قیامت کو تمام امتوں پر شاہد ہوں گے اور شہادت دیں گے۔ ان کے متعلق یہ خبر دی کہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہم اجرہم ونورہم تو (گویا) اللہ عزوجل نے ان کے متعلق چار چیزوں کی خبر دی ہے جن میں ایک یہ ہے کہ وہ صدیقین و شہداء ہیں اور یہی قرب مرتبت و قرب منزلت ہے۔

دوسرا فریق کہتا ہے کہ عطف نہیں بلکہ الصدیقون کے بعد از سر نو ابتداء شہداء کی حالت بیان فرمائی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قرب و حضور میں ہوں گے اور انہیں ان کا اجر و ثواب اور نور عنایت ہوگا، تو پہلے نیکو کار و اہل احسان متصدقین کا تذکرہ فرمایا، پھر مومنین کا ذکر فرمایا جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو کر جڑیں مار چکا ہے اور شربت ایمان سے لبالب بھر چکے ہیں لہذا یہ لوگ صدیق اور اہل علم و عمل ٹھہرے اور پہلا فریق اہل البر و الاحسان یعنی نیکو کار محسنین ہوا لیکن پھر بھی صدیق لوگ محسنین و نیکو کاروں سے صدیقیت میں کامل بلکہ اکمل ہیں ان کے بعد پھر شہداء امت اور ان پر نازل کردہ انعامات کا ذکر فرمایا کہ انہیں رزق ملے گا اور نور حاصل ہوگا کیونکہ جب انہوں نے اپنی جان تک خدا کے راہ میں قربان کر دی تو اللہ عزوجل نے اس کے عوض ان پر یہ انعام فرمایا کہ انہیں زندہ فرما کر رزق عنایت کیا انہیں رزق بھی ملتا ہے اور نور بھی ملے گا۔ یہ تھا سعید و نیک بخت لوگوں کا تذکرہ۔

اس کے بعد شقی و بد بخت لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا: والذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولئک اصحاب الجحیم (حدیث ۵۷ - ۲۴) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلادیا وہ دوزخی ہیں۔

اے خدائے لم یزل اے خالق ارض و سما
نور سے تیرے منور ہیں زمین و آسماں
تو ہے معبودِ حقیقی ہم سمجھوں کا بالیقین
ذکر کرتے ہیں تیرا جن و بشر شام و سحر
اے خدا پھر فکرِ محشر کیوں ہو انور کو بھلا
ذات ہے تیری احد ثانی نہیں کوئی تیرا
تیری قدرت کی نہیں پائی کسی نے انتہا
کوئی بھی لائق عبادت کے نہیں تیرے سوا
نعمتیں دارین کی کرتا ہے تو سب کو عطا
گر کرے تیری عبادت روز و شب صبح و مسا

(حافظ نور محمد انور)

اجر و ثواب کے طالب اور قرب کے متلاشی

غرضیکہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ عزوجل نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اول اصحاب اجور دوم اصحاب منزلت و مراتب اور انہیں چیزوں (اجر و منزلت) کا فرعون نے جادو گروں سے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ کی صورت میں

انہیں انعام ملے گا، چنانچہ قرآن حکیم میں ہے کہ جادوگروں نے کہا۔

ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين . (اعراف ۱۳۷)

اگر ہم غالب آجائیں تو کیا کچھ اجر بھی ملے گا تو فرعون نے جواب دیا کیوں نہیں یقیناً مزید براں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔

یعنی تمہیں دونوں چیزیں انعام کروں گا، اجر بھی دوں گا اور اپنی بارگاہ میں قرب منزلت بھی بخشوں گا۔

بہر صورت اعمال کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اجر ملے گا مگر عارف لوگ اس لئے عمل کرتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اللہ عزوجل کے ہاں مرتبہ و منزلت بڑھے اور قلبیہ (اہل دل عارفین) کے اعمال بدنیہ (اہل ظاہر) کے اعمال سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اگرچہ بدنیہ (اہل ظاہر) کے اعمال بھی بعض دفعہ اہل دل اور عارف لوگوں کے اعمال سے زیادہ ہو جایا کرتے ہیں۔

وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے
جہاں ہم کو دکھاتا ہے اجلی صبحوں کا
یہی جو شام کی دہلیز پر سویرے تک
صبح ہم کو تجسس کی روشنی دے کر

قرب رہتا ہے سازِ نفس میں بولتا ہے
وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے
چراغِ ماہ جلاتا ہے نجوم رولتا ہے
وہ ہم پہ اپنی خدائی کے بھید کھولتا ہے

(صبحِ رحمانی)

اللہ عزوجل اور موسیٰ علیہ السلام کا سوال و جواب

بیہقی رضی اللہ عنہ نے محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ محمد علیہ الرحمۃ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: میرے پروردگار! کون آدمی تیرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و معزز اور برگزیدہ ہے؟ اللہ عزوجل نے جواب دیا جو ہر وقت میرے ذکر میں رطب اللسان رہے، پھر کہا: زیادہ عالم کون ہے؟ جواب ملا جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ دوسروں کا علم بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ پھر عرض کی: زیادہ عادل کون ہے؟ جواب آیا جو شخص خود اپنی ذات پر وہی فیصلہ صادر کرے جو غیروں پر صادر کرتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے اپنی یا غیر کسی کی رعایت نہ کرے پھر دریافت کیا زیادہ گنہگار کون ہے؟ فرمایا جو مجھے تہمت لگائے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: مولا! تجھے بھی کوئی متہم کر سکتا ہے؟ فرمایا جو مجھ سے خیر و برکت طلب کرے مگر میری تقدیر سے منہ چڑھائے۔

☆ نیز بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لئے گئے تو دریافت کیا کہ مولا! تجھے کون زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جو مجھے ہر وقت یاد رکھے، اور کسی وقت نہ بھولے۔

☆ کعب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا میرے مالک تو قریب ہے؟ کہ تجھے آہستہ بلاؤں اور مناجات کروں یا بعید کہ تجھے زور سے بلاؤں؟ اللہ عزوجل نے فرمایا موسیٰ جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم جلیس و ہم مجلس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: مولا! میں تو بعض دفعہ ایسی حالت میں ہوتا ہوں کہ اس وقت تیرا ذکر کرنا بالکل نامناسب ہے اللہ عزوجل نے فرمایا: وہ کون سی حالت؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: قضاء حاجت یا جنابت کی حالت فرمایا کوئی حرج نہیں ہر حالت میں یاد رکھے اور خدا کا ذکر بجلائے۔

عبید بن عمیر نے فرمایا: مومن کے نامہ اعمال میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ کا موجود ہونا روئے زمین کے پہاڑوں

برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔

☆ حسن فرماتے ہیں قیامت کے دن منادی آواز دیگا۔ (لوگ کہتے ہیں فلاں اہل کرم اور برگزیدہ لوگ ہیں)، آج دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ اہل کرم و برگزیدہ ہیں؟ پھر آواز دے گا کہاں ہیں وہ لوگ، جو نرم و گرم بستروں کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کو خوف ورجا کے ساتھ پکارتے اور دعائیں مانگا کرتے اور خدا کے عطا کردہ مال سے خیرات کیا کرتے تھے جلدی چلے آئیں تو وہ انہیں گے اور تمام لوگوں کو پھاندتے کودتے اعلا نچی کے ہاں پہنچ جائینگے پھر دوبارہ آواز دیگا! دنیا دیکھ لے گی کہ کرم و بزرگی کے قابل کون ہے؟ پھر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں خدا تعالیٰ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کر سکتی ہے نہ خرید و فروخت روک سکتی تھی تو وہ سب لوگوں کو پھاندتے منادی کے پاس جا پہنچیں گے اسی طرح ہر ساعت و ہر حالت ہر پہلو و ہر کروٹ پر خدا تعالیٰ کی تعریف و حمد کرنے والوں کو آواز پڑے گی تو وہ پرے کے پرے باندھ کر دوڑے دوڑے منادی کے پاس چلے آئیں گے اور بے شمار تعداد میں آ موجود ہوں گے بعد ازاں باقی بچے کھچے لوگوں کو منادی ہوگی اور حساب شروع ہوگا۔

(اس حدیث کے پہلے قطعہ کو جو قیام اللیل میں ہے بیہقی نے حضرت اسما بنت یزید سے مرفوعاً ذکر کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے سورہ سجدہ کی ایک آیت میں اسے ابن ابی حاتم سے ذکر کرتے ہوئے اپنی سند سے اسما تک پہنچایا ہے۔)

☆ حضرت ابو مسلم خولانی کے ہاں ایک شخص آیا کہنے لگا کوئی وصیت فرمائیے فرمایا ہر جنگل ہر شہر، ہر بستی میں بلکہ ہر شجر و حجر کے پاس بھی خدا تعالیٰ کا ذکر کیجئے، پھر کہا کچھ اور فرمائیے ابو مسلم نے فرمایا خدا کا اس قدر ذکر کیجئے کہ لوگ پاگل کہنے لگ جائیں وہ شخص کہتا ہے۔ ابو مسلم بے حد ذکر کیا کرتے تھے کسی آدمی نے آپ کو ذکر کرتے دیکھا اور لوگوں سے کہنے لگا یہ تمہارا آدمی پاگل و بیوقوف تو نہیں؟ ابو مسلم نے بھی سن لیا اور جواب دیا کہ یہ فعل تو جنون نہیں البتہ یہ ذکر (ابو مسلم) ضرور مجنون ہی ہے۔

(اخرجه البيهقي في شعب الايمان، ۳۵۵/۱، الرقم: ۱۹۶)

ذکر کے بارے میں اہل ذکر کے اقوال:

☆ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

انبروا بيو تكم بذكر الله كما تنبرون قلوبكم به .

اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح کہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو۔

(اخرجه الشعراني في الطبقات الكبرى: ۷۰)

☆ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الغفلة عن الله تعالى اشد من دخول النار

اللہ تعالیٰ (کے ذکر) سے غفلت دوزخ میں داخل ہونے سے بدتر ہے۔ (اخرجه السلمي في الطبقات الصوفية: ۱۵۹)

☆ سنال سفیان الثوری ذالنون المصری رحمہما اللہ عن الذکر . فقال الذکر هو غيبة

الذاکر عن الذکر

حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمۃ نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ سے ذکر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: ذکر یہ

ہے کہ ذاکر (معرفت الہی میں) اس قدر محو ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۲۲۳)

☆ حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

من علامة سخط الله تعالى على العبد خوفه من الفقر و كان يقول لكل شيء علامة و علامة طرد العارف عن حضرة الله تعالى انقطاعه عن ذكر الله عزوجل .

بندے پر خدا تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فقر سے ڈرے آپ فرماتے تھے۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے کسی عارف کے مسترد ہونے کی علامت اس کا ذکر الہی سے تعلق توڑ لینا ہے۔

(اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى ۱۰۷)

دل لہو ہو کے جب تک نہ آنسو بنے	نعت ہوتی نہیں حمد بنتی نہیں
آنکھ رو رو کے جب تک نہ سجدہ کرے	نعت ہوتی نہیں حمد بنتی نہیں
جب تلک آپ کی ہو نہ چشم کرم	اور توفیق ایزد نہ ہو ہر قدم
بندرہتے ہیں سب سلسلے جذب کے	نعت ہوتی نہیں حمد بنتی نہیں
کام آتا نہیں کوئی علم و عمل	بے ثمریوں ہی رہتی ہے شاخ اہل
ہاتھ آتے نہیں عشق بن یہ صلے	نعت ہوتی نہیں حمد بنتی نہیں
خالق دو جہاں رب کون و مکان	اے حبیب خدا سید انس و جاں
شوق گفتار کو اب تو رخصت ملے	نعت ہوتی نہیں حمد بنتی نہیں

(منیر الحق کس)

مردہ دلوں کی زندگی:

حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

حياة القلوب التي تموت بذكر الحي الذي لا يموت

مردہ دلوں کی حیات اسی ہستی کے ذکر سے ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

(اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى: ۱۱۹)

☆ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

اذا ترك العارف الذكر على وجه الغفلة نفساً او نفسين قبض الله تعالى له شيطاناً فهو له قرين .

عارف جب غفلت کی وجہ سے ایک یا دو سانسوں کے لئے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط فرما دیتا ہے جو کہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ (اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى ۳۰۶)

☆ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا .

انسان کا شمار اس وقت تک کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں میں نہیں ہوتا جب وہ کھڑے، بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ (اخرجه ابن المبارك فی کتاب الزهد: ۲۸۰ و ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۳/۲۸۳)

☆ حضرت ابو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

المؤمن بقوی بذکر اللہ والمنافق بقوی بالاکل
مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ قوی ہوتا ہے اور منافق کھانے کے ساتھ قوی ہوتا ہے۔

(اخرجه السلمی فی طبقات الصوفیة: ۲۳۰)

☆ محمد بن فضل رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ذکر اللسان کفارات و درجات و ذکر القلب زلف و قربات
زبان سے ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات ہے اور دل کا ذکر قرب الہی کا سبب ہے۔

(اخرجه السلمی فی طبقات الصوفیة: ۲۱۶)

ہر ایک امکان کا عنوان ہیں ترے رنگ اور تیری خوشبو
ہر اک صورت سے ظاہر ہو رہی ہیں صورتیں کیا کیا
کہاں ہے راز، ہر اک آنکھ روشن کیسے ہوتی ہے
مسلسل پھوٹی رہتی ہیں شاخیں زندگانی کی
وگرنہ کچھ ثبوت اپنے بھی ہونے کا نہیں ملتا
زمیں و آسماں میں ہے پیا اک جشن موسیقی

بڑے تخلیق سماں ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو
عجب صورت پریشاں ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو
بہر سو نور افشاں ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو
فروغ باغ امکان ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو
جواز اصل ایماں ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو
ازل سے زمزمہ خواں ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو

(روحی کجایی)

اے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا

حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مامن یوم الاو الجلیل سبحانہ ینادی یا عبدی ما انصفتنی اذ کرک و تنسانی، و ادعوک الی و تذهب
الی غیر ی، و اذهب عنک البلیا و انت معتکف علی الخطایا، یا ابن آدم ما ذا تقول غدا اذا جئتنی؟
جو دن گزرتا ہی حق تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندے! تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا۔ میں تمہیں یاد کرتا ہوں لیکن تو
مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں لیکن تو دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ میں تیرے مصائب دور کرتا
ہوں مگر تو خطا کاری پر ڈٹا رہتا ہے۔ اے ابن آدم! کل قیامت کو جب تو میرے پاس آئے گا تو اپنی اس غفلت اور

کو تا ہی پر کیا عذر پیش کرے گا؟ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۲۲۳)

☆ حضرت محاسبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

علامة المحیین کثرة الذکر للمحبوب علی طریق الدوام، لا یقطعون ولا یملون ولا یفترون،

وقد اجمع الحكماء على ان من احب شيئا اكثر من ذكره، فذكر المحبوب هو الغالب على قلوب المحبين لا يريدون به بدلاً ولا يبغون عنه حولاً ولو قطعوا عن ذكر محبوبهم لفسد عيشهم وما تلذذ المتلذذون بشئى الذ من ذكر المحبوب .

محبت کرنے والوں کی علامت محبوب کا ہمیشہ اور کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کہ نہ وہ اسے منقطع کریں نہ تھکاوٹ محسوس کریں اور نہ اکتائیں۔ دانا لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کرے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے دلوں پر محبوب کا ذکر ہی غالب ہوتا ہے۔ وہ اس کے بدلے یا اس سے پھر جانے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اگر وہ محبوب کے ذکر کو چھوڑ دیں تو ان کی زندگی پریشانی کا شکار ہو جائے اور لذت حاصل کرنے والے محبوب کے ذکر سے زیادہ کسی چیز سے لذت حاصل نہیں کرتے۔

(اخرجه الامام القسطلانى فى المواهب اللدنية بالمنع المحمدية ۲/۳۹۵)

کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو	کون جانے کہاں کہاں ہے تو
گم ازل سے تری تلاش میں ہوں	مجھ کو آواز دے کہاں ہے تو
لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری	یہ بھی ظاہر ہے بے نشان ہے تو
تو درخشاں مہ و نجوم میں ہے	تابش روئے کہکشاں ہے تو
سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے	کس قدر ہم پہ مہرباں ہے تو
کیا ٹھکانہ ہے وسعتوں کا تری	بحر ذخار و بیکراں ہے تو
اک تری ذات لائق سجدہ	ایک معبود دو جہاں ہے تو
ماہ ہو مہر ہو کہ انجم ہو	ذرے ذرے میں ضوفشاں ہے تو
خود ہی جادہ نشان منزل خود	اور خود میر کارواں ہے تو
حمد میں تیری کیا کہئے نیز	رونق بزم دو جہاں ہے تو

(سید شریف الدین نیر)

زباں اور دل کا ذکر

☆ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

الذکر على النوعين ذكر اللسان وذكر القلب فذكر اللسان يصل به العبد الى استدامة ذكر القلب والتأثير لذكر القلب فاذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقلبه، فهو الكامل فى وصفه فى حال سلوكه .

ذکر کی دو قسمیں ہیں: زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعے ہی انسان دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے۔ مگر (شخصیت پر) تاثیر دل کے ذکر کی ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہو تو اس کی حالت

سلوک اوصاف کاملہ کی حامل ہے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۲۲۱)

☆ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ان رجلا اعتق مائة رقبة في ماله، فذكر ذلك بعض جلساء ابن مسعود له، فدعاه بخير، وقال: الا اخبركم، بافضل من ذلك ايمان ملزوم بالليل والنهار، وان لا يزال لسان احدكم رطبا من ذكر الله .
ایک آدمی نے اپنے مال میں سے سو غلام آزاد کئے، اس کے ہم نشینوں میں کسی نے یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں دن رات ایمان کو لازم پکڑنا اور یہ کہ تم میں سے ہر ایک کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ (اخرجه ابن المبارک فی کتاب الزهد: ۲۸۷)

☆ سنن ابو یزید البسطامی رحمہ اللہ: ما علامة العارف؟ فقال الا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، ولا يستانس بغيره .

حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ عارف کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے اور اس کے حق سے اچاٹ نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی سے اُنس حاصل نہ کرے۔

(اخرجه السلمی فی طبقات الصوفية: ۷۲)

ذات ہے اس کی عظیم اور نام رحمٰن ورحیم
اس نے لفظ کن سے پیدا کی یہ ساری کائنات
اس کے فیضان کرم سے ہے منور آفتاب
وہ چمک دیتا ہے ہر شب انجم و مہتاب کو
وسعت کون و مکاں بھی تنگ ہے جس کے لئے
ایک ہی وہ ذات ہے بس جس کو ہے سجدہ روا
ہم کو اپنے لطف سے محروم وہ رکھے گا کیوں
بھیجی اک امی پر اس نے آخری اپنی کتاب
آخری پیغامبر کو یہ شرف اس نے دیا
مانگتے ہیں سب اسی سے اس کے سب محتاج ہیں

لطف ہے اس کا فراواں فضل ہے اس کا عمیم
کیا زمین کیا آسمان کیا بحر کیا عرش عظیم
لطف سے پائی ہے اس کے غنچہ و گل نے شمیم
وہ چلاتا ہے چمن میں صبحدم باد نسیم
وہ الہ العالمین ہے دل میں بندوں کے مقیم
جان سکتی ہے مگر اس بات کو عقل سلیم
جب کہ اس کی ذات ہے منان و وہاب و کریم
ہو گیا سلطان عرش و فرش کا در یتیم
حکم سے جس کے ہوا ماہ درخشاں بھی دو نیم
جھکتے ہیں سب اس کے آگے جاہ و حشمت کے زعمیم

(خواجہ عابد نظامی)

غفلت و معصیت کی بجلی ڈاکر پر نہیں گرتی

☆ امام ابو جعفر محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ان الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر الله عز وجل .
(غفلت اور معصیت کی) بجلیاں مومن اور غیر مومن دونوں پر گرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے پر نہیں

گرتیں۔ (اخرجه الشعرانی فی طبقات الكبرى: ۵۰)

☆ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ان الرحمة تنزل عند ذکر الصالحین۔

نیکوکاروں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ (اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى: ۹۱)

☆ حضرت احمد نوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لکل شیء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذکر۔

ہر چیز کے لئے سزا ہے اور عارف کی سزا یہ ہے کہ وہ ذکر (الہی) سے منقطع ہو جائے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۳۲۵)

☆ حضرت بشرحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

صحبة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار وصحبة الاخيار تورث حسن الظن بالاشرار۔
بروں کی صحبت نیکوں کے ساتھ بدگمانی کا سبب بنتی ہے۔ جبکہ نیکوں کی صحبت بروں کے متعلق اچھا گمان دیتی ہے۔

(اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى: ۱۱۱)

☆ حضرت بشر بن الحارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

بحسبك ان قوما موتی، تحيا القلوب بذكرهم، وان قوما احياء تقسو القلوب برؤيتهم۔
تیرے لئے یہی (نصیحت) کافی ہے کہ بعض مردہ لوگوں کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں اور بعض زندہ (لیکن بے

عمل) لوگوں کی رویت سے دل سخت ہوتے ہیں۔ (اخرجه السلمی فی طبقات الصوفیة: ۴۶)

☆ حضرت ابو زکریا رازی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

جالسوا الذاکرین فانهم ملازمون باب الملك۔

ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھو کیونکہ انہوں نے بادشاہ کا دروازہ تھام رکھا ہے۔ (اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى: ۱۲۳)

☆ امام قشیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

جاء فی الانجیل: اذ کرنی حین تغضب اذ کرک حین اغضب وارض بنصرتی لك، فان نصرتی

لك خیر لك من نصرتك لنفسك۔

انجیل میں مذکور ہے کہ تو مجھے اس وقت یاد رکھ جب تو غصہ میں ہو میں بھی تجھے اس وقت یاد رکھوں گا جب میں غصہ میں

ہوں گا اور میں جو تمہاری مدد کروں اس پر راضی رہوں کیونکہ میری مدد کرنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی مدد آپ کرے۔

(اخرجه القشیری فی الرسالة: ۲۲۵)

کہاں طاقت زباں میں جو کرے حمد و ثناء تیری کہ خالق دو عالم ذات ہے رب العلی تیری

چمن کے غنچہ و گل سبز و شمر تیرے چمن تیرا چمن کی پر نضا تیری صبا تیری

تیری رحمت بچا لے گی گنہگار ان امت کو دوزخ سے واپس لائے گی شان عطا تیری

یہ میرے بد نصیبی ہے کہ تجھ کو بھول بیٹھا ہوں
یہ تیرے پیغمبر کا مدعا کہ تو پوجا گیا ورنہ
بروز حشر یہ راز مجھ پر منکشف ہو گا
فضاء دہر میں ہر آن رہتی تیرگی غالب
مجلس ذکر کی برکات

☆ حضرت ابوعلیٰ روزباری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
من علامة مقت الله للعبد ان يتقلق من مجلس الذكر اذا طال لا نه لو احبه لكان الالف سنة في
حضرتہ کلمح البصر۔

بندے پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہے کہ مجلس ذکر اگر طویل ہو جائے تو وہ اکتا جائے کیونکہ اگر اللہ اس بندے سے محبت
فرماتا ہوتا تو اس کی بارگاہ میں ہزار برس ایک پلک جھپکنے کی طرح ہوتا۔ (الطبقات الكبرى للشعرانی: ۱۵۹)

☆ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:
يا بني اذا كنت في قوم يذكرون الله فبذت لك حاجة فسلم عليهم حين تقوم فانك لا تزال لهم
شريكاً ما داموا جلوساً۔ (كتاب الزهد لآحمد بن حنبل: ۲۲۲)

اے میرے بیٹے جب تو ایسے لوگوں میں ہو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو پھر تمہیں کوئی کام یاد آ جائے تو جاتے وقت
انہیں سلام کہا کر بے شک تو اس وقت تک ان کے ساتھ شریک رہے گا جب تک وہ بیٹھے ذکر کرتے رہیں گے۔
☆ حضرت عطاء بن ابی رباح علیہ الرحمہ نے فرمایا:

من جلس مجلس ذكر كفر الله تعالى عنه بذلك المجلس عشر مجالس من مجالس الباطل
(الطبقات الكبرى للشعرانی: ۶۱)

جو شخص ذکر کی مجلس میں بیٹھے اس مجلس کی برکت سے دس باطل مجلسوں میں بیٹھنے کا کفارہ ہو جائے گا۔
برکتیں توحید کی جب جزو ایمان ہو گئیں
جب سپاہ غم بڑھی مجھ کو مٹانے کے لئے
خار زار زندگی میں جب ہوا چلنا محال
یا الہ العالمین! امداد کا ہنگام ہے
رحمت حق کی مجھے حاصل ہے ہر لمحہ پناہ
صحن گلشن میں تھی کانٹوں کی زبان پر تیری حمد
آئی تھیں مجھ پر بھی بخت نارسا کی وحشتیں
اپنے عابد پر بھی اے معبود کل لطف و کرم
مشکلات زندگی سب مجھ پہ آساں ہو گئیں
ہر قدم پر رحمتیں حق کی نمایاں ہو گئیں
رحمتیں میرے خدا کی مجھ پہ ارزاں ہو گئیں
سازشیں اغیار کی آفت مسلمان ہو گئیں
آفتیں جتنی بھی آئیں سب گریزاں ہو گئیں
پتیاں غنچوں سے پھوٹیں اور ثنا خواں ہو گئیں
تیری رحمت سے مگر یکسر گلستان ہو گئیں
تلخیاں اب زندگی کی حشر ساماں ہو گئیں

شانِ خدا (جل و علا) باستغفارِ المصطفیٰ (علیہ التحیۃ و الثناء)

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یكثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ قالت فقلت یا رسول اللہ اراک تكثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ فقال اخبرنی ربی انی ساری علامۃ فی امتی فاذا رايتها اکثرت من قول سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ فقد رايتها (اذا جاء نصر اللہ والفتح) فتح مکة) ورايت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسیح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ" کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! میں آپ کو "سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ" کثرت سے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں (یعنی کیا وجہ ہے)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے رب عزوجل نے مجھے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت اور نشانی دیکھوں گا پس جب میں وہ علامت دیکھوں تو "سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ" بکثرت پڑھوں چونکہ میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے (اس لئے یہ پڑھتا ہوں)۔ (وہ نشانی یہ ہے) جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو اور تم (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک اور روایت میں یہ لفظ زیادہ ہیں "اللهم اغفر لی" (اے اللہ! مجھے بخش دے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے تھے)۔ (مسلم، کتاب الصلاة: باب ما یقال فی الركوع والسجود (۳۸۳) ابو داؤد (۸۷۷) نسائی فی

السنن الکبریٰ (۷۰۹/۱) ابن ماجہ (۸۸۹) ابن حبان (۱۹۲۹) بیہقی (۸۶/۲) طبرانی اوسط (۳۹۳) شرح السنہ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

جو شخص کسی (بڑی) مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے بہت سی لغو و بیہودہ باتیں کیں تو اٹھنے سے پہلے یہ (مندرجہ ذیل)

کلمات پڑھ لینے سے ان لغو باتوں کی مغفرت ہو جائے گی۔

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك .

یا اللہ میں تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے

بخشش مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ (ترمذی، ۳۴۳۳، ۳۹۳/۵، مسند احمد بن حنبل، ۲/۳۹۳، ۱۰۳۳۰)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی ”اشھد“ کے لفظ کے علاوہ یہی الفاظ تین بار پڑھنا اسی مقصد کے لئے مروی

ہیں اور یہ کہ اگر کوئی یہ الفاظ کسی مجلس خیر یا مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے تصدیق کی مہر ہو جاتی ہے جیسے کسی تحریر پہ مہر۔ (ابو داؤد

شریف، ۳/۲۶۳، ۳۸۵۷)

اک ذات ہے تیری لافانی دے اپنی محبت یا اللہ
توفیق سے تیری رہ جائے ایمان سلامت یا اللہ
ہے شان مگر یہ بخشش کی ہوتی ہے جو رحمت یا اللہ
ہو کس پہ بھروسہ ایسے میں لیس کس کی حمایت یا اللہ
آسان ہو منزل عرفاں کی، کر ہم پہ عنایت یا اللہ
روشن ہو تجلی سے تیری ہر چشم بصیرت یا اللہ
پائیں نہ کسی سے عالم میں ہم کوئی اذیت یا اللہ
بھٹکے ہوئے جتنے رہو ہیں، دے ان کو ہدایت یا اللہ

(صدر الدین صدر)

لازم ہے فنا جب ہر شے کو کس سے ہو رغبت یا اللہ
قربان ہوں تجھ پر جان و دل باشوق و ارادت یا اللہ
عصیاں پہ مجھے اپنے بیحد ہوتی ہے ندامت یا اللہ
رفتار زماں ہے بے ڈھنگی، ہے خوف کا اک عالم طاری
ہے راہ جو سیدھی ایماں کی تو اپنے کرم سے دکھلا دے
حائل ہیں جو پردے غفلت کے اٹھ جائیں دلوں سے لوگوں کے
تو چاہے اگر تو ہستی میں مجبور نہ ہوں مقہور نہ ہوں
ہے صدر حزیں کی دل سے دعا ارباب وفا کی آس بندھا

مجلس کے گناہوں کا کفارہ

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے (انہی الفاظ کے بارے میں فرمایا) مجلس ذکر پہ مہر تصدیق کا

کام دیتے ہیں اور بُری مجلس کے بیہودہ کلمات کا کفارہ ہو جاتے ہیں (اخرجه النسائی فی السنن الکبریٰ، ۲/۱۱۲، الرقم: ۱۰۲۵۷،

والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۲/۱۳۸، الرقم: ۱۵۸۶، والحاکم فی المستدرک، ۱/۷۲۰، الرقم: ۱۹۷۰)

حضرت رافع پہ حدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس

میں یہ (مندرجہ بالا الفاظ اس اضافے کے ساتھ) پڑھے:

عملت سوءً وظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت .

(یعنی تعلیم امت کے لئے ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ میرا متی رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرے) میں نے غلطی کی ہے اور

میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے پس مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔

صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ! ان هذه الكلمات احدثهن۔ ان کلمات

کے ساتھ آپ نے پہلی بار دعا کی ہے: فرمایا: اجل جاء نی جبریل فقال یا محمد هن کفارات المجلس۔ ہاں، میرے

پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعا مجلس (کے گناہوں) کا کفارہ ہیں۔ (اخرجه النسائی فی السنن الكبرى ۱۱۳/۶، الرقم: ۱۰۶۶۰، والحاکم فی المستدرک، ۷۲۱/۱، الرقم: ۱۹۷۲)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی

اللهم انى اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
يا الله! میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے اور تیری عافیت کے بدل جانے سے اور تیری اچانک ناراضگی سے اور تیرے غیظ و غضب سے۔ (اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۹۷/۳، حدیث رقم: ۹۶، ۲۷۳۹، و ابو داؤد فی السنن، ۹۱/۲، حدیث رقم: ۱۵۳۵، مشکوٰۃ)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام یوں کہا کرتے تھے:

اللهم انى اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل
يا الله! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کئے کی برائی سے اور نہ کئے کی برائی سے (اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۵/۳، حدیث رقم ۹۵-۹۶، ۲۷۱۶، و ابو داؤد فی السنن ۹۳/۲، حدیث رقم: ۱۵۵۰، واحمد فی المسند، ۱۳۹/۶، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یوں کہا کرتے:

اللهم لك اسلمت وبك امنت و عليك توكلت و اليك انبت و بك خاصمت اللهم انى اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلنى انت الحى الذى لا يموت والجن والانس يموتون
يا الله! میں تیرا مطیع ہوں تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیرے ہی بھروسے پر کفار سے جھگڑا کیا یا اللہ! میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں تیری سوا کوئی معبود نہیں اس سے (پناہ) کہ تو مجھے گمراہ کرے تو وہ زندہ ہے جسے موت نہیں اور تمام جن اور انسان مر جائیں گے (اخرجه البخارى فی صحیحہ، ۱۱۶/۱۱، حدیث رقم: ۶۳۱۷، و مسلم ۲۰۸۶/۳، حدیث رقم: ۶۷-۶۸، ۲۷۱۷، مشکوٰۃ)

ہر شے میں وہی جلوہ نما کیسا لگا ہے
اللہ کے اسماء کے علاوہ مجھے لوگو!
جو لفظ بھی فرما دیا سرکار نے میرے
ہے دین کی بنیاد یہی کلمہ طیب
ایمان و یقین جس میں نظر آئے کر تہی

میں دن میں سو بار سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں

☆ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

والله الى لا يستغفر الله والتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة . (رواه البخارى، مشکوٰۃ باب الاستغفار)

اللہ کی قسم! میں ایک دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
توبہ استغفار بھی چونکہ نماز روزے کی طرح عبادت ہے اس لئے حضور علیہ السلام اس پر عامل تھے یا یہ عمل ہم گناہ گاروں کی تعلیم کے لئے ہے ورنہ تو حضور علیہ السلام معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آسکتا صوفیاء فرماتے ہیں ”ہم لوگ تو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور عرفاء عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں۔“

زاهدان از گناہ توبہ کنند عارفاں از عبادت استغفار
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے دنیا میں دو امن ہیں ایک نے پردہ فرمایا اور دوسری قیامت تک ہمارے پاس ہے یعنی نبی پاک ﷺ اور استغفار۔ (مرآة شرح مشکوٰۃ)

ذکر ان کا حیات ہے میری اس میں مضمحل نجات ہے میری
رفتہ ذکر مصطفیٰ کی قسم یہی کل کائنات ہے میری

پانچ چیزوں سے خدا کی پناہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے:
(۱) بزولی، (۲) بخل، (۳) بُری عمر، ارذل العمر (بڑھاپے کی وہ حالت جب اعضاء جواب دے دیں اور انسان اپنی ذمہ داریاں بھی نہ نبھاسکے بلکہ اُلٹا گھر والوں پہ بوجھ بن جائے)، (۴) سینوں کے فتنوں (برے عقیدہ اور برے اخلاق حسد، بغض، کینہ وغیرہ یہ تمام اس میں شامل ہیں) (۵) قبر کے عذاب سے (اخرجہ ابو داؤد ۹۲/۲ حدیث ۱۵۳۰، ابن ماجہ ۲/۱۲۶۳، حدیث رقم ۳۸۳۳، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے:

اللهم انى اعوذ بك من الفقر والقله والذلة واعوذ بك من ان اظلم او اظلم -
اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تنگدستی، کمی (ہر نعمت کی) اور ذلت سے اور اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے۔ (اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۹۱/۲ حدیث رقم: ۱۵۳۷، ابن ماجہ ۲/۱۲۶۳ حدیث رقم: ۳۸۳۳۔ مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یوں کہا کرتے:

اللهم انى اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق
اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں عداوت، منافقت اور بد خلقی سے (اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۹۱/۲ حدیث رقم: ۱۵۳۶۔ مشکوٰۃ)
☆ انہی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے:

اللهم انى اعوذ بك من الجوع فانه يشس الضجيع واعوذ بك من الخيانه فانها بثست البطانه
اے اللہ! میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ بری بستر کی ساتھی ہے (عبادت سے روک دیتی ہے) اور خیانت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ یہ بدترین مشیر کار ہے۔ (ابو داؤد، ۹۱۱/۲، حدیث رقم: ۱۵۳۷، ابن ماجہ

۱۱۱۳/۲، حدیث رقم: ۳۳۵۴، مشکوٰۃ

پابندِ شریعت کی تقدیر میں جنت ہے
مجھ کو جو مدینے کی گلیوں سے محبت ہے
پڑھنا بھی عبادت ہے سنا بھی عبادت ہے
لے جائیں مدینے ہم ہر سال یہ حسرت ہے
یہ کلمہ شہادت کا بخشش کی ضمانت ہے

وحدت کا رسالت کا اقرار شریعت ہے
محرابِ محبت میں اک شمع عقیدت ہے
اُترا ہے نبی پر جو واللہ کلام اللہ
کچھ ہار دردوں کے کچھ ہار سلاموں کے
دیتے ہیں گواہی بھی ہم دل کی صداقت ہے

(آفتابِ کریمی)

دل پہ پردے سے کیا مراد ہے؟

حضرت اغرا المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انه ليغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم مائة مرة (رواه مسلم، مشکوٰۃ باب الاستغفار) میرے دل پہ پردے آجاتا ہے اور میں ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ انہی سے ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ایہا الناس توبوا الی اللہ، فانی اتوب الیہ فی الیوم مائة مرة (ایضاً)

اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو بے شک میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ مرآۃ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

یغان غین سے ہے بمعنی پردہ، اسی لئے سفید بادل کو غین کہتے ہیں اس پردے کے متعلق شارحین نے بہت خامہ فرسائی کی ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد حضور علیہ السلام کی دنیا میں مشغولیت ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے سونا (نیند) مراد ہے، بعض کے خیال میں اس سے مراد اجتہادی خطائیں ہیں مگر حق یہ ہے کہ یہاں غین سے مراد اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر غم فرمانا ہے اور استغفار سے مراد ان گناہ گاروں کے لئے استغفار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام تا قیامت اپنی امت کے سارے حالات پہ مطلع ہیں، ان گناہوں کو دیکھتے ہیں تو دل کو صدمہ ہوتا ہے، اس صدمہ کے جوش میں انہیں دعائیں دیتے ہیں (لمعات، مرقات، اشعہ وغیرہ) اس کی تائید قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے عزیز علیہ ما عنتم (التوبہ) اے مسلمانو! تمہاری تکلیفیں ان پہ گراں ہیں۔

آنچہ تو کر دی کے باخود نہ کرد روح پاک مصطفیٰ آمد بدرد

اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمۃ نے اس موقع کے لئے کہا ہے۔

بد ہنسیں تم ان کی خاطر رات بھر رو رو کر اهو

بد کریں ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا هو

میرے آقا دو عالم کی خبر رکھتے ہیں

قیام ہند کے دوران ایک دفعہ فقیر العصر علامہ یار محمد بندیا لوی صاحب علیہ الرحمۃ کی مولوی اشرف علی تھانوی سے ملاقات ہوئی

تو اثنائے گفتگو آپ نے مولوی اشرف علی تھانوی کو مخاطب ہو کر فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے تو اس آیت کریمہ میں الاسماء جمع معرف
 باللام مفید استغراق ہے اور اس کی تاکید ہے اور اس کا عموم قطعی ہے اور اس کی تخصیص ناممکن ہے اور یہی علم کلی ہے پھر عام انبیاء علیہم
 السلام خصوصاً امام الانبیاء ﷺ کے لئے علم کلی ماننے کو شرک و کفر کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔

مولوی اشرف علی نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اسماء سکھائے گئے تھے اور مسمیات اور ذاتیں نہیں
 سکھائی گئی تھیں لہذا علم مسمیات ثابت نہ ہوا جس سے علم کلی کی نفی ہو گئی۔

حضرت قبلہ فقیہ العصر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کی یہ تفسیر تو خود قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبؤنی باسماءہو لاء۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے مسمیات کو فرشتوں پر
 پیش کر کے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام مسمیات کو پہچانتے تھے تب ہی تو ان کے
 ناموں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف اسماء پیش کئے گئے تھے اور پوچھا گیا کہ ان کے نام بتاؤ تو یہ بالکل اسی
 طرح ہوگا کہ کوئی پوچھے بتاؤ زید کا نام کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لغو اور بے معنی بات ہے اور قرآن مجید اس کا متحمل کسی صورت
 میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مولوی صاحب لگے دائیں بائیں دیکھنے اور بغلیں جھانکنے لگے اور ایسے مبہوت ہو گئے کہ شاید
 ہی زندگی میں انہوں نے اس طرح ندامت محسوس کی ہو۔ ناظرین انصاف فرمائیں کہ ان کے حکیم الامت کا یہ علمی کارنامہ ہے کہ
 قرآن پاک کے مفہیم کو سمجھ نہ سکا اور توہمات اہلیہ میں مبتلا ہو کر حواس کھو بیٹھا۔

☆ اللہ قدوس نے نبی مختار ﷺ کے صدقہ حضرت فقیہ العصر استاذ العلماء کو وہ جلالت علم اور وجاہت فضل عطا کی تھی کہ
 مخالف میدان میں آتے ہی جھجک محسوس کرتا تھا۔ موضع ملتان ضلع کیمیل پور کے مولوی محمد سعید صاحب جو کہ حضرت قبلہ فقیہ العصر کے
 شاگرد رشید ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی حسین علی واں بھجروی ہمارے گاؤں میں تقریر کرنے کے لئے آیا تقریر کے دوران
 اپنی چھڑی حاضرین جلسہ کو دکھا کر کہنے لگا کہ یہ تو کسی کو نفع یا نقصان دے سکتی ہے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وصال کے بعد کوئی نفع
 یا نقصان نہیں دے سکتے۔ (معاذ اللہ) مولانا محمد سعید فرماتے ہیں کہ میں نے مجلس میں کھڑے ہو کر کہا کہ مولوی صاحب: میں استاذ
 العلماء فقیہ العصر کو لینے جا رہا ہوں اگر تم میں کچھ حقانیت اور جرات ایمانی ہے تو کل تک ہماری انتظار کرنا میں یہ کہہ کر بندیاں آیا اور
 قبلہ حضرت فقیہ العصر استاذ العلماء رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گاؤں ملتان پہنچا جب مولوی حسین علی کو قبلہ استاذ العلماء کی آمد کا
 علم ہوا تو وہ اپنا بستر بوریا سمیٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت قبلہ نے بانگ دہل اعلان فرمایا کہ میں تین دن تک یہیں
 ہوں مولوی حسین علی اور اس کے معتقدین کو لائیں مگر کون ہے جو آپ کی علمی وجاہت کے سامنے دم مارے۔ ذلک فضل اللہ
 یوتیہ من یشاء آپ کے علم کا لوہا اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں۔

☆ مولانا محمد سعید فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں حضرت قبلہ فقیہ العصر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہا تھا کہ واں بھجراں کے ملک احمد
 یار صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ فاتحہ خوانی کے لئے حضرت قبلہ فقیہ العصر بھی تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا

بد قسمتی سے اس علاقہ کا ایک مشہور و معروف دیوبندی مولوی بھی اس فاتحہ خوانی میں آ گیا اور آتے ہی اس نے مسئلہ علم غیب پر بحث شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے جو شخص انبیاء کرام و اولیاء عظام کے لئے علم غیب کا قائل ہے وہ مشرک ہے۔ اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت علم میں شریک ٹھہرایا۔ حضرت قبلہ فقیہ العصر نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے لئے علم غیب کا قائل ہے اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم میں شریک ٹھہرایا۔ تم اللہ تعالیٰ کا علم متعین کرو کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے لہذا اگر یہی علم دوسرے کے لئے تسلیم کیا تو شرک لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کا قبل از وقت ایجا علم تھا۔ آپ بیان فرمائیں کہ علم باری تعالیٰ کی کیا کیفیت تھی اور اس میں ۳۶۰ مذہب ہیں ان میں سے کون سے مذہب حق ہیں اور کون سے باطل ہیں؟ جب تم نے اللہ تعالیٰ کا علم متعین کر لیا تو پھر کہا جاسکتا ہے کہ یہ علم اگر غیر اللہ کے لئے مانا گیا تو شرک لازم آئے گا اس فاتحہ خوانی میں ہزاروں معززین علاقہ شامل تھے۔ ملک امیر خان صاحب جو کہ مجلس فاتحہ خوانی میں موجود تھے اٹھے اور مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب تم پر قسم ہوگی اگر تم نے جواب نہ دیا لیکن مولوی صاحب کی بلا جانے کہ اللہ تعالیٰ کو قبل از ایجا مخلوقات کا علم کس طرح ہے اور اس میں کتنے مذہب ہیں۔ فالحمد علیٰ ذلک حمداً کثیراً۔

☆ آپ علیہ الرحمۃ میاں اکبر علی صاحب مرحوم کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے آپ نے وہاں اپنے مخصوص انداز میں تقریر فرمائی تو مولوی غلام یسین صاحب جو کہ قبلہ فقیہ العصر رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم مولانا بركات احمد صاحب ٹولکوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا لیکن اس وقت دیوبندیت کی طرف قدرے مائل تھا وہ بھی وہیں تقریر میں موجود تھا۔ دوران تقریر مسئلہ مغیبات خمسہ پر آپ نے کثیر براہین کافیہ اور دلائل شافیہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مقبولان رب قدوس ان مغیبات کو جانتے ہیں۔ جب آپ عصر کی نماز کے بعد سیر کے لئے باہر تشریف لے گئے تو مولوی غلام یسین اور دیگر احباب آپ کے ساتھ تھے دوران سیر مولوی صاحب نے مغیبات خمسہ کے متعلق چند شبہات پیش کئے حضرت قبلہ فقیہ العصر کا بحر علمی یہ تھا کہ آپ نے وہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر دلائل بیان کرنا شروع کر دیئے اور حوالہ کے لئے کتابوں کے نام لئے جاتے۔ مولوی غلام یسین صاحب نے چند اعتراض کئے مگر آپ نے جوابات مسکتہ دے کر خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر آپ سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا کہ جناب میر نے یہ کتابیں نہیں دیکھی تھیں المختصر حضرت قبلہ فقیہ العصر نے دلائل دے کر مسئلہ کو ثابت کر دیا اور مولوی غلام یسین کو آپ کی علمی وجاہت کا اعتراف کرنا پڑا۔

☆ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فرقہ باطلہ دیوبندیہ کا خود ساختہ شیخ القرآن مولوی غلام خان خطیب راولپنڈی طالب علم کے بھیس میں حضرت فقیہ العصر استاذ العلماء کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسائل پوچھنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے بخوشی اجازت مرحمت فرمائی۔ مولوی غلام خان کہنے لگا کہ آج کل اکثر لوگوں کے اعتقاد مشرکین مکہ کی طرح ہو گئے ہیں حضرت قبلہ فقیہ العصر نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ مشرکین مکہ بھی بتوں کو سفارشی سمجھ کر غائبانہ طور پر پکارتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے "ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی" اور آج کل کے بھی عام لوگ انبیاء اور اولیاء کو سفارشی سمجھ کر پکارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر تو نعبدهم ہے یعنی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں پکارنے کی یہاں کون سی بات ہے وہ تو

اپنے بتوں کو معبود سمجھتے تھے آج کون انبیاء اور اولیاء کو معبود سمجھتا ہے۔ جواب میں کہنے لگا کہ مشرکین بتوں کو الہ کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے تھے۔ حضرت قبلہ فقیہ العصر استاذ العلماء نے اس سے پوچھا کہ الہ اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگا ہاں بہت بڑا فرق ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے تو صرف بہائی بھی نہیں آتی۔ اللہ کی اصل الہ ہی تو ہے پھر آپ نے فرمایا: الہ کون سا صیغہ ہے؟ کبھی مبالغہ کا بتانا اور کبھی کہتا کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ بہت داؤ پیچ کھائے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے مگر کوئی صورت نکل نہ سکی اور ان کا خود ساختہ شیخ القرآن خرافات اہلیہ اور توہمات شیطانیہ کے تاریک راہوں میں بھٹکتا رہا آخر کار راہ فرار اختیار کیا۔ المختصر بعد میں معلوم ہوا کہ طالب علم کے بہروپ میں آنے والا امت نجدیہ وہابیہ کا خود ساختہ شیخ القرآن ہے۔

(قرة عيون الاقبال في تذكرة فضلاء البندیال)

زمیں پہ کوئی نہیں آسماں میں کوئی نہیں
کہ جس کا ثانی مکاں لا مکاں میں کوئی نہیں
اس ایک اسم سا نطق و بیاں میں کوئی نہیں
وظیفہ ایسا مرے قلب و جاں میں کوئی نہیں
کہ نقش دوسرا اُن سا گماں میں کوئی نہیں
وہ ذکر اور کسی داستاں میں کوئی نہیں
نہیں ہے بالیقین اس خاکداں میں کوئی نہیں

(ضیائیر)

مرے حضور سا دونوں جہاں میں کوئی نہیں
وہ دستِ قدرتِ مولا کا شاہکارِ حسین
وہ ایک اسمِ محمد ائیس جاں ٹھہرا
بجز درود و صلوة و سلام ہر لحظہ
وہی تو حرفِ یقین ہیں گماں کی دنیا میں
حلاوت آشنا کرتا ہے جو دل و جاں کو
ہے کون ہمسر سرکارِ دو جہاں نیر

اگر تم گناہ نہ کرو.....

☆ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

و الذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر لہم۔ (رواہ مسلم)
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لائے جو گناہ کریں پھر معافی مانگیں تو اللہ انہیں بخشے۔

اس حدیث کا مقصد لوگوں کو گناہ پر دلیر کرنا نہیں بلکہ توبہ کی طرف مائل کرنا ہے۔ یعنی اے انسانو اگر تم بھی فرشتوں کی طرح سارے معصوم ہوتے تو کوئی قوم ایسی پیدا کی جاتی جو غلطی اور خطا سے گناہ کر لیا کرتی۔ پھر توبہ کرتی۔ اسے رب تعالیٰ معاف کرتا کیونکہ خلقت رب تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے اور جیسے رب کی صفت رازق ہے ایسے ہی اس کی صفت غفار بھی ہے۔ رازقیت کا ظہور رزق اور مرزق سے ہوتا ہے۔ غفاریت کی جلوہ گری گناہ اور گناہ گار سے ہوتی ہے۔ جو یہ حدیث دیکھ کر گناہ پر دلیر ہو اور پھر گناہ کرے تو کافر ہو اور یہاں ذکر گناہ کا ہے نہ کہ کفر کا۔ خلاصہ یہ ہے اے گناہ گار! رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ توبہ کر لے وہ غفور و رحیم تجھ سے گناہ کا صدور تقاضائے حکمتِ الہی ہے۔ تم سے کوئی گناہ نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ یہاں لے جانے سے مراد ہلاک کرنا نہیں

ہے۔ بلکہ انہیں آسمانوں تک پہنچا دینا، فرشتوں کے ساتھ رکھنا اور زمین پر دوسری قوم قابل گناہ کو بسا نافراد ہے۔ (مرآة)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه

بندہ جب اقرار گناہ کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے (متفق علیہ مشکوٰۃ باب الاستغفار)

☆ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى يطلع

الشمس من مغربها . (رواه مسلم . مشکوٰۃ)

اللہ تعالیٰ اپنا دست کرم (اپنی شان کے مطابق) رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے اور دن کو پھیلاتا ہے

کہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے اور یہ کرم نوازی قائم رہے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے۔

ایک روایت میں ہے:

من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه . (رواه مسلم، مشکوٰۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

جو سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔

گرچہ غرق بحر عصیانیم ما	آیت لا تقنطوا خوانیم ما
کن بشایان درت ما را قبول	حضرت را گر نظایانیم ما
بر زمین عجز بہر وصلت	عمر باشد جبہ سایانیم ما
گر نہ باشد لام لطفت دستگیر	در خجالت تا ابد مانیم ما
عقل کل عاجز بماندہ در صفات	کنہ ذاتت را کجا دانیم ما
مور لکیم . وضعیف ومضطرب	چوں نظر افتد سلیمانیم ما
خواجہ ما رحم بر جمع ضعیف	بر درت اللہ گویانیم ما
گر نباشی رہنما در وصل خویش	ہچنماں اعلیٰ و کورانیم ما
مے کنم در یوزہ وصل ترا	شیئا لہ از گدا یا نیم ما
مے کند مہر علی از سوز دل	نالہ ہاکہ وصل جویانیم ما

(حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی)

برے کاموں اور بری خواہشوں سے اللہ کی پناہ

☆ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے:

اللهم الى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بُری عادتوں سے، بڑے کاموں سے اور بُری خواہشوں سے۔

(اخرجه الترمذی فی السنن ۵/۵۷۵، الحدیث رقم ۳۵۹۱)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ یوں کہا کرتے:

اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سینی لاسقام۔

اے اللہ میں برص سے، کوڑھ سے، دیوانگی اور بُری بیماریوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ (ابو داؤد، ۹۱۱/۲)

حدیث رقم ۱۵۳۷، مشکوٰۃ)

☆ حضرت قتیر بن شکر بن حمید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی تعویذ سکھائیے جس سے میں تعویذ کروں (اللہ کی پناہ لوں) فرمایا کہو۔

اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی۔

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان، آنکھ، زبان، دل اور منی کے شر سے (بعض نے کہا منی مدینہ کی جمع بمعنی موت یا مدینہ کی جمع ہے جس کا معنی تمنا و آرزو ہے۔ یعنی بری موت یا دنیوی آرزوں سے)۔

(ابو داؤد ۹۲/۲ حدیث رقم ۱۵۵۱، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابوالیسر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے:

اللهم انی اعوذ بک من الهمم واعوذ بک من الردی ومن الفرق والحرق والهرم واعوذ بک من ان یتخبطنی

الشیطن عند الموت واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبراً واعوذ بک من ان اموت لدیغاً۔

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں عمارت کے نیچے دب کر مرنے، ڈوب جانے، بڑھاپے، شیطانی دوسے موت کے وقت، تیری راہ میں پیٹھ پھیر کر مرنے اور سانپ کے ڈسنے سے مرنے سے۔ (مفہوم)

(ابو داؤد ۹۲/۲، حدیث رقم: ۱۵۵۲، مشکوٰۃ)

نظر پھیرے تو محروم سکونِ آسماں کر دے
نوازش ہو تو سنگِ رہ کو میسر کارواں کر دے
مرے معبود دریائے تخیل کو رواں کر دے
تو چاہے تو غبارِ دشت کو سیلِ رواں کر دے
وہ چاہے تو بس اک پل میں زمیں کو آسماں کر دے
یہ تیرے نام لیوا ہیں انہیں تو شادماں کر دے
انہیں الفاظِ بنے مایہ کو یارب کہکشاں کر دے

(رحمتی عظیم آبادی)

وہ قادر ہے تمام آلام کو آرامِ جاں کر دے
زمانہ اس کی قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھے
قلم ہے ہاتھ میں بس جستجو حرفِ ثناء کی ہے
نظر آتا نہیں تیری لغت میں حرفِ ناممکن
اسی کو زیب دیتا ہے وہی مختار و مالک ہے
رسولِ پاک کی امت بہت پستی میں ہے یارب
رحمتی کے پاس ان محدود لفظوں کے سوا کیا ہے

بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے؟

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بارض قفر ليس بها طعام ولا شراب
وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذع شجرة فتعلق زمامها فوجدها
متعلقة به .

تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جسکی اونٹنی کسی سنان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل گئی ایسی
سرزمین پہ جہاں نہ کچھ کھانے کو ہو اور نہ ہی پینے کو اور اس اونٹنی پر ہی اس کا کھانے پینے کا سامان ہو وہ شخص اس اونٹنی کو
ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی نکیل اس درخت کے
تنے کے ساتھ اٹک جائے اور وہ شخص اس کو پالے۔ (تو اس شخص کی خوشی و مسرت کا عالم کیا ہوگا)۔

ہم نے عرض کی یا رسول اللہ۔ وہ شخص تو بہت خوش ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اما والله لاشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته .

اللہ کی قسم! غور سے سن لو، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے (جتنی اس شخص کو ان حالات

میں سواری ملنے پہ خوشی ہوگی) (متفق علیہ وهذا لفظ مسلم . ۲۰۷۶/۳، ۲۷۰۳)

ایک روایت میں ہے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ بندہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال دیتا ہے اللهم انت عبدی وانا

ربك . حالانکہ کہنا چاہتا تھا اللهم انت ربی وانا عبدك۔ (مسلم، مشکوٰۃ باب الاستغفار)

یہ کلام انتہائی خوشی بیان فرمانے کے لئے ہے نہ کہ تشبیہ کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ خطا سے پاک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
خطا، منہ سے کلمہ کفر یہ نکل جائے پر بندہ کافر نہیں ہوتا نہ اس سے اس کی بیوی نکاح سے نکلتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس شخص
کے بارے میں نہ فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ اس خطا پہ اطلاع نہ ہو اور اطلاع ہونے پہ فوراً توبہ کر لے، طلاق کا یہ
حکم نہیں۔ (مراۃ)

چاند کے شرک و قرض سے اللہ کی پناہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور مجھے فرمایا: اے عائشہ اس کے شر سے اللہ کی

پناہ مانگو یہ وہی ہے غائب ہو جانے والا گرہن لگے وقت (الغاسق اذا وقب)

(اخرجه الترمذی فی السنن ۵/۴۲۱، حدیث رقم ۳۳۶۶، مشکوٰۃ)

☆ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی پناہ مانگو اس طمع سے جو مہر لگ جانے تک پہنچا

دے (کہ انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہی نہ رہے) (اخرجه احمد فی المسند ۵/۲۳۲، مشکوٰۃ)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت مانگے تو جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنة۔ اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے اور جو بندہ تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ عرض کرتی ہے اللہم اجرہ من النار۔ اے اللہ اس کو آگ سے پناہ عطا فرما۔

☆ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ان الفاظ سے استغفار کرتے سنا

اعوذ باللہ من الکفر والبدین

اے اللہ! میں تجھ سے کفر اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔

میں نے عرض کی حضور! آپ کفر کو قرض کے برابر سمجھتے ہیں: فرمایا: ہاں اسی روایت میں ہے:

اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقیر۔

اے اللہ میں کفر اور تنگدستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں ایک بندے نے کہا حضور کیا یہ (کفر و فقر) برابر ہیں؟ فرمایا: ہاں۔

(اخرجه النسائی فی السنن ۲۶۷/۸، حدیث رقم: ۵۴۸۵، مشکوٰۃ)

تھا قابل امداد مرا حال پریشاں کر ہی نہ سکا کوئی بھی مشکل میری آساں

کام آئے مصیبت میں مرے ”ہادی دوراں“ سرکار کی امداد مجھے یاد رہے گی

دیوانے کی دنیا ہے یہ آباد رہے گی

اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں

عرض کرتا ہے

رب اذنبت فاغفرہ۔ اے اللہ! مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا

یغفر الذنب ویاخذہ غفرت لعبدی۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ

سے پکڑ بھی لیتا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے ”میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا“ پھر جتنا اللہ چاہے وہ بندہ گناہ سے بچا رہتا ہے ثم

اذنب ذنبا۔ پھر گناہ کر لیتا ہے اور وہی عرض کرتا ہے جو گذر چکا اللہ تعالیٰ بھی وہی مندرجہ بالا جواب دیتا ہے پھر اسی طرح تیسری

مرتبہ بھی ہوتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لعبدی فلیفعل ماشاء۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے اب جو

چاہے کرتا پھرے۔ (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ۔ باب الاستغفار)

یعنی یہ گناہ کرنے کا عادی ہے تو میں بخشنے کا عادی ہوں، جب یہ برائی کرنے سے باز نہیں آتا تو میں اچھائی کرنے سے باز

کیوں آؤں، یہ گناہ کرتا رہے گا تو میں بخشا رہوں گا، یہ فرمان گناہوں کی اجازت دینے کے لئے نہیں بلکہ وسعت مغفرت کے اظہار

کے لئے ہے یعنی اس طرح بندہ اگر لاکھوں بار گناہ کر کے توبہ کرے گا تو میں لاکھوں بار بخشوں گا۔ یاد رہے: توبہ کے ارادے سے گناہ

کرنا کفر ہے کہ چلو گناہ میں حرج ہی کیا ہے کل توبہ کر لیں گے یہ توبہ نہیں بلکہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہر

بار آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے پھر نفس کی شرارت سے گناہ کر بیٹھتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو جو گناہ کر کے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی امان میں لے لیتا ہے کہ پھر اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں پھر فرمایا جاتا ہے کہ جو چاہے کہ جس طرح پرندے کے پر کاٹ کر کہا جائے ”جاڑتا پھر“۔

مجھ کو مسجود ملائک بھی بنایا تو نے
مری سوچوں کو نیا رنگ دکھایا تو نے
میرے افکار کی کرنوں کو جلایا تو نے
عرش و کرسی کو ستاروں سے سجایا تو نے
پردہ راز بھد ناز اٹھایا تو نے
راز ہستی کا بھی مفہوم بتایا تو نے

نور اپنا مرے پیکر میں سجایا تو نے
مجھ کو ادراک کی نعمت بھی عطا کی لیکن
اپنے محبوب کی رحمت کے وسیلہ کے طفیل
دشت و گلزار کو پھولوں سے مزین کرنے کے
اور جو تخلیق کے اظہار کا لمحہ آیا
ظلمت دہر میں کی نور کی مشعل روشن

(عدم نیازی)

اگر میں یہ وظیفہ نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے

حضرت قعقاع سے روایت ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں یہ کلمات نہ کہتا ہوتا تو یہودی مجھے (جادو کے زور سے) گدھا بنا دیتے، کہا گیا وہ کلمات کون سے ہیں: فرمایا:

اعوذ بوجه اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منه وبکلمات اللہ التامات الی لا یجاوزہن برو لا
فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما عملت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذراؤ برأ .
پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی عظمت والی ذات کی جس سے بڑی کوئی ذات نہیں اور اللہ کے پورے کلموں کی جن سے کوئی
نیک کار و بدکار آگے نہیں بڑھ سکتا اور اللہ کے اچھے ناموں کی جو مجھے معلوم ہیں اور اور جو معلوم نہیں ان تمام کے شر سے
جنہیں رب نے پیدا کیا، پھیلا یا اور ٹھیک کیا۔

(اخرجه مالک فی الموطا ۲/۹۵۱، حدیث رقم: ۱۲، من کتاب السفر مشکوٰۃ)

نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ
یعنی ہو چکے جلوہ نما لا الہ الا اللہ
جسم میں جاں میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ
رکھ لی جس نے بات وہی لا الہ الا اللہ
گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ
دل سے کوئی اک بار کہے لا الہ الا اللہ

جسی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ
دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپہنچے محبوب خدا
کون و مکاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ
اعلیٰ جس کی ذات وہی اعلیٰ جس کی صفات وہی
جسی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا
کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے

عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہوں ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ

بھریا اس کا جائیے جس کا توڑ چڑھے

حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ایک شخص نے کہا

واللہ لا یغفر اللہ لفلان۔ اللہ کی قسم! اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من ذالذی یتاتی علی انی لا اغفر لفلان یہ کون ہوتا ہے جو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا فانی قد عفرت لفلان واحبطت عملک او کما قال۔ میں نے فلاں کو تو بخش دیا اور تیرے عمل ضبط کر لیے یا جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا (یہ شک راوی کی طرف سے ہے یعنی حضور علیہ السلام نے الفاظ یہی کہے یا ان کے ساتھ ملتے جلتے کوئی اور تھے مگر مفہوم یہی تھا یہ روایت بالمعنی ہے جو کہ جائز ہے) (رواہ

مسلم، مشکوٰۃ باب الاستغفار)

غور کرو کہ ایک شخص کی شیخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت کا دریا جوش میں آ گیا اور اللہ نے فاسق کو نیک بننے کی توفیق دے کر بخش دیا اور متکبر زاہد سے نیکی کی توفیق سلب کر لی اور وہ کافر ہو کر مرا، لہذا کوئی شخص کسی کے انجام کے متعلق اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرے کہ فلاں دوزخی ہے۔

او گنہاریاں عجز کماون قرب حضوری پاون عملاں والیاں ناز وکھاون دور نکالیاں جاون

☆ حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء ﷺ نے ان (مندرجہ ذیل) الفاظ کو سید الاستغفار قرار دیا۔

اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک

من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت

”اے اللہ! تو ہی میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا ہی بندہ ہوں اور بقدر

طاقت تیرے عہد و پیمانہ پہ قائم ہوں، میں اپنے کئے کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے

اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی۔ مجھے بخش دے تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں بخش سکتا“

حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یقین قلبی کے ساتھ دن میں یہ کہہ لے پھر اگر اسی دن شام سے پہلے مر جائے گا تو وہ جنتی ہوگا اور

جو یقین کے ساتھ رات کو پڑھ لے پھر صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے (رواہ البخاری، مشکوٰۃ باب الاستغفار)

کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے

سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندے کا تیرے سوا کون ہے

کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر! کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے

جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے

کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی

رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسند آرائے بزم عطا کون ہے

اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے میرا مالک مری سن رہا ہے فغانِ جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں اب مری رہ میں کوئی جاہل نہ ہو نامہ بر کیا بلا ہے صبا کون ہے ہے خبر بھی وہی مبتدا بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس احد کے سوا دوسرا کون ہے وہ حقائق ہوں اشیا کے یا خشک وتر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر ما سوا ایک اس ذات بے رنگ کے فہم و ادراک سے ماورئی کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی ﷺ تابعین و صحابہ پہ جب آہنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے

(نصیر الدین نصیر از گوڑہ شریف)

ما ایم پر گناہ تو دریائے رحمتی

سبحان اللہ! کیسی پیاری عرض و معروض ہے یعنی اے اللہ میں اقراری ہوں کہ کانٹے میرے پاس ہیں اور پھول تیرے پاس خطائیں میری طرف سے ہیں اور عطائیں تیری طرف سے بحکم قرآن ظلوم و جھول میں ہوں اور غفور و رحیم تو ہے۔ جس لائق میں تھا وہ میں نے کر لیا اور جو تیری شان کے لائق ہے وہ تو کر بدکاری میں نے کر لی ستاری تو کر، گناہ کاری میں نے کی ہے تو غفاری تو کر دے۔

تیرے اکیلے کے ایک ہی چھٹے سے ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا

ما ایم پر گناہ تو دریائے رحمتی آنجا کہ فضل تست چہ باشد گناہ ما

☆ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

قال الله تعالى من علم انى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا ابالى مال من يشرك به شيئا .

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص جان لے کہ میں گناہ بخش دینے پہ قادر ہوں تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں

جب تک کہ وہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے۔ (رواہ فی شرح السنة . مشکوٰۃ)

گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگر چہ لاکھوں سے ہیں سوا مگر اے کریم تیرے غنوکا نہ حساب ہے نہ شمار ہے

☆ انہی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا

یحتسب

جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے چھٹکارا، ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دے گا اور اس

کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الاستغفار)

نور افشاں ہے میرا دیدہ تر تو دیکھو ظلمتوں میں بھی نمایاں ہے سحر تو دیکھو
ان کی الفت ہے تو سب کچھ ہے میرے دامن میں کتنا پیارا ہے میرا زادِ سفر تو دیکھو

☆ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرة

توبہ و استغفار کر لینے والا گناہ پہ اڑیل نہیں اگرچہ دن میں ستر بار گناہ کرے۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد و مشکوٰۃ)

یعنی قرآن پاک میں جو آتا ہے ولم یصروا علی ما فعلوا وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ اصرار سے مراد یہ ہے

کہ بار بار گناہ تو کرے مگر توبہ نہ کرے۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

کل بنی ادم خطاء وخیر الخطائین التوابون .

ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ (ترمذی باب (۴۹) ۳، ۶۵۹، ۲۴۹۹)

جب گروں میں تو کوئی مجھ کو اٹھا دیتا ہے
جان و دل، ہوش و خرد تیری عطائیں مولیٰ
تیری قدرت کے ہیں ہر سمت سہانے منظر
جب بھی گستاخ کوئی آئے مقابل تیرے
تو جو چاہے کسی مجبور پہ احساں کرنا
تیرے ہی در کے بھکاری ہیں سبھی شاہ و گدا
میرے مولیٰ ترے ہر حکم کو ٹالا میں نے
تجھ کو چاہا تو کسی اور کو چاہا نہ گیا
کیا ہی اعزاز ہے کیا میرا نصیبیا یارب
تیری تجید مرے لب پہ ہو ہر دم جاری
یہ تصور تری ہستی کا پتا دیتا ہے
سب جہانوں کو ترا حسن جلا دیتا ہے
اپنی عظمت پہ گواہی تو بجا دیتا ہے
نام اس کا تو زمانے سے مٹا دیتا ہے
فاصلے عمر کے لحوں پہ اٹھا دیتا ہے
تیرا ہی عشق ہمیں جوش نیا دیتا ہے
پھر بھی تو مجھ کو مری حد سے سوا دیتا ہے
تیرا ایقان عجب صبر و رضا دیتا ہے
اپنا محبوب مجھے راہ نما دیتا ہے
دل مہجور ترے در پہ صدا دیتا ہے

(عارف مہجور)

جب دلوں پہ سیاہی چھا جاتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان المؤمن اذا اذنب كانت نكته سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلاب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . (المطفين: ۱۴)

بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے اور (گناہ سے) ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جائے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے (پورے) دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یہی وہ ”ران“ (زنگ) ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں فرمایا ہے ”ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ ان کے اعمال کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔“

(ترمذی، ۴۳۷/۵، ۴۳۳۲)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . جب تک بندے کی روح حلق میں پہنچ کر غرغرہ نہیں کرتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے (حالت نزع کو غرغرہ کہا گیا ہے اور غرغرے سے پہلے پہلے کی گئی توبہ قبول ہے، یاد رہے کہ اس حالت میں کفر سے توبہ قبول نہیں کیونکہ ایمان کے لئے ضروری ہے یومنون بالغیب اور اب مشاہدہ آ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ غرق ہوتے ہوئے فرعون کی توبہ قبول نہ ہوئی، لیکن گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہے، اگر توبہ کا خیال آ جائے اور الفاظ توبہ بن پڑیں۔ اسی لئے مرقات میں ہے کہ یہاں عبد سے مراد کافر ہے قرآن پاک میں ہے:

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت النساء)

(ترمذی، ۵۳۷/۵، ۳۵۳۷)

خوف کیوں دل میں بٹھائیں رب ہمارے ساتھ ہے
دل کو نہ غمگیں بنائیں رب ہمارے ساتھ ہے
غم کو نہ دل میں بسائیں رب ہمارے ساتھ ہے
بخش دیں ساری خطائیں رب ہمارے ساتھ ہے
پھر نہ وہ کیوں گنگنائیں رب ہمارے ساتھ ہے
نزع میں ہم مسکرائیں رب ہمارے ساتھ ہے
مر کے بھی دیں گے صدائیں رب ہمارے ساتھ ہے

ہم جہاں بھی آئیں جائیں رب ہمارے ساتھ ہے
مومنوں مژدہ ملا ہے اتم الاعلون کا
یہ نبی فرما رہے ہیں غار میں صدیق سے
جو نبی کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا
جن کو آقا مل گئے اللہ ان کو مل گیا
ہو رخ زیبا نظر میں اور زباں پر یا رسول
جان دیں گے عشق احمد میں جو حافظ دیکھنا

(ملفوظی احمد میاں حافظ البرکاتی)

مجھے اپنی عزت و جلالت اور بلندی درجات کی قسم

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم .
بے شک شیطان نے عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکا تا رہوں گا جب تک
ان کی جانیں ان کے جسموں میں رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازل اغفر لهم ما استغفرونی .
مجھے اپنی عزت و جلالت اور بلند درجات کی قسم ہے میں انہیں اس وقت تک بخشا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بخشش
مانگتے رہیں گے (رواہ احمد . مشکوٰۃ باب الاستغفار)

☆ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لئے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی ستر سال کی راہ ہے وہ دروازہ اس وقت تک بند نہ
ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیشان اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔

یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن امنّت من قبل
جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی ایسے نفس کو ایمان مفید نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا۔

(ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

یہ دروازہ مدینہ منورہ سے جانب مغرب آسمان پہ ہے جب اس کی چوڑائی اتنی ہے تو اونچائی لمبائی کتنی ہوگی خدا ہی جانتا ہے
اس نے اپنے بندوں کی بخشش کے کیسے کیسے انتظام فرما رکھے ہیں۔ یہ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پہ ہے، کسی تاویل یا توجیہ کی
ضرورت نہیں ہے، آسمان کے دروازے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وفتح السماء فكانت ابوابا (القرآن)

اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء (بخاری شریف) اس سے علم نبوت کی وسعتوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔

اے مظہر یکتائی، دنیا ہو کہ دیں تو ہے
جلوؤں کا جو محور ہے وہ حسن و حسین تو ہے
اے جلوۂ نا دیدہ اعزازِ جبیں تو ہے
جو چھپ کے ہویدا ہے وہ پردہ نشیں تو ہے
احساس یہ کہتا ہے مجھ میں کہیں تو ہے
امید کی بینائی اے عرش نشیں تو ہے

(امید فاضلی)

محبود گماں تو ہے، محبوب یقیں تو ہے
کثرت کے مظاہر بھی وحدت میں تری گم ہیں
سجدوں کی بصیرت سے ادراک ہے رخشندہ
تیری ہی تجلی سے آئینے دیکتے ہیں
ادراک یہ کہتا ہے، ملنا ترا ناممکن
ما یوی ظلمت میں تو اس کا سورج ہے

علم نبوت کے بارے میں ایک منطقی نکتہ

استاذ العرب و العجم الاستاذ المطلق عین المحققین رئیس المدققین حضرت قبلہ علامہ عطا محمد چشتی گولڑوی بندیا لوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ ایک دفعہ حضرت قبلہ فقیہ العصر استاذ العلماء حضرت مولانا یار محمد بند یا لوی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے جا رہے تھے میں بھی ہمراہ تھا۔ دوران سفر گاڑی میں ہی بحث شروع ہو گئی کہ اگر حضور سید عالم کو کائنات کا علم دائمی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی دائمی ہے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ شرک لازم نہیں آتا کیونکہ ایک ضرورت ہے اور ایک دوام ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے ضرورت کا معنی یہ ہے کہ انفکاک محال اور ناممکن ہو اور دوام کا یہ معنی ہے کہ انفکاک تو نہیں ہوتا عام ازیں انفکاک ممکن ہو یا ناممکن ہو تو اللہ تعالیٰ کا علم ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے علم کا انفکاک ناممکن اور محال ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم اگر چہ دائمی ہے لیکن انفکاک ممکن ہے تو اب اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم میں ممکن اور ناممکن نقیضوں جیسا فرق ہے تو مساوات کیسے لازم آئے گا یہ تحقیق سن کر حاضرین بہت محظوظ ہوئے۔

چونکہ معقولات اور منقولات میں تلازم ہے یعنی معقولات کے بغیر منقولات کا سمجھنا امر دشوار ہے۔ معقولات، منقولات کے لئے بحیثیت موقوف علیہ کے ہیں جو شخص معقولات کے قواعد و ضوابط سے نا آشنا ہے وہ اپنے انظار و افکار کو خطا فی الفکر سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔

ضرورت اور دوام کی مزید توضیح کے لئے ہم قارئین کی خدمت میں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کی تعریف نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔
الضروریۃ المطلقۃ بانہا التی تحکم فیہا بضرورۃ ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع موجودۃ (ضیاء النجوم شرح سلم العلوم ص ۱۲۸، مطبوعۃ شرکت علیہ)
ضروریہ مطلقہ ایسے قضیہ سے موسوم کیا جاتا ہے کہ اس میں حکم کیا جاتا ہے محمول کا ثبوت موضوع کے لئے یا سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے۔

الدائمہ المطلقہ ما حکم فیہا بدوام النسبۃ ما دام ذات الموضوع موجودۃ (ایضاً ص ۱۵۲)
دائمہ مطلقہ ایسے قضیہ کا نام ہے کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لئے یا محمول کی نفی موضوع سے ہمیشہ ہو جب تک موضوع کی ذات موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرورت مطلقہ ہوا کرتی ہے جیسا کہ ذیل کی عبارت سے تصریح ہو رہی ہے۔

فلان الشیخ قال فی الاشارات الضرورۃ قد تكون علی الاطلاق کقولنا اللہ تعالیٰ حی۔
شیخ اشارات میں کہتے ہیں کہ ضرورت کبھی مطلقہ ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ حی ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ دوام اور ضرورت میں نسبت عموم و خصوص مطلق کی ہے اس نسبت میں مزید وضاحت اس طرح ہے کہ جہاں ضرورت کا تحقق ہوگا وہاں دوام کا بھی ہوگا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں دوام کا ہو تو وہاں ضرورت کا بھی ہو الغرض! دوام عام ہے اور ضرورت خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم پر قضیہ ضروریہ سچا آتا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر قضیہ دائمہ سچا آتا ہے۔

(تذکرہ فضلاء بنگلہ)

یاد رکھو! علم وہی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو جو علم ان کی جناب کا گستاخ بنا دے وہ علم نہیں بلکہ

جہل مرکب ہے کیا ابو جہل کو ابو الحکم نہیں کہا جاتا تھا مگر اس کی حکمت و دانائی کس کام آئی؟ آج لوگ اس کے اصل نام و کنیت سے بھی واقف نہیں

علم سے ہے قلب روشن اے عزیز	علم سے ہے حق و باطل کی تمیز
علم سے راضی خدا و مصطفیٰ	علم ہے لا ریب گنج بے بہا
علم ہے واللہ فضل ذوالجلال	علم ہے بے شک متاع لازوال
علم سے تاریک شب پر نور ہے	علم سے ہر ذرہ شمع طور ہے
علم سے قائم ہے عالم کا نظام	علم سے بالا ہے انساں کا مقام
علم ہے آرام جاں نور نظر	علم سے بڑھتی ہے پرواز بشر
علم ہے سر چشمہ رشد و ہدیٰ	علم معراج کمال ارتقاء
علم دکھلاتا ہے راہ مستقیم	علم ہے سر چشمہ عقل سلیم
علم سے بڑھتا ہے انسان کا وقار	علم سے حاصل جہاں پر اختیار
علم سے حاصل ہے قرب کبریا	علم سے بے شک وراثت انبیاء
علم رکھتا ہے گناہوں سے جدا	علم سے سنتے ہیں نیک اور پارسا
علم سے ملتا ہے منزل کا نشان	علم ہے اسرارِ حق کا راز داں
علم سے خلق خدا محکوم ہے	علم کی کون و مکاں میں دھوم ہے
علم سے بڑھتا ہے ذوقِ بندگی	علم سے ہے شمس روشن زندگی

(حاجی شمس الحق)

ہجرت توبہ رحمت

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ (رواہ احمد

وابو داؤد والدارمی . مشکوٰۃ)

ہجرت بند نہ ہوگی حتیٰ کہ توبہ ختم ہو اور توبہ کا سلسلہ ختم نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔

ہجرت کا معنی چھوڑنا اور منتقل ہونا ہے یہاں اس سے مراد ہے کفر سے اسلام کی طرف، دارِ شرک سے دارِ السلام کی طرف، گناہوں سے توبہ کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور کفران سے غفران کی طرف آنا یہ ہجرتیں قیامت تک ہوتی رہیں گی۔

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی

يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان ان الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى -

اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں (یعنی اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو آن واحد میں بخش دے)۔ (رواہ احمد و الترمذی، مشکوٰۃ)

بندۂ خود خواند احمد در رشاد جملہ عالم را بخوان قل يعباد

☆ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ما احب ان لى الدنيا بهذه الاية يعبادى الذين اسرفوا..... مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھے اس آیت کے بدلے ساری دنیا مل جائے۔ یعنی ساری دنیا بڑھ کر مجھے یہ آیت پسند ہے جس میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمة الله۔ ایک شخص نے عرض کی حضور جو شرک کر بیٹھے؟ حضور علیہ السلام یہ سن کر خاموش رہے پھر تین مرتبہ فرمایا الا ومن اشرك۔ خبردار یقیناً جو شرک کرے۔ یعنی اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ (رواہ احمد والبیہقی الاخير فى كتاب البعث والنشور، مشکوٰۃ)

☆ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان العبد المؤمن المفتن التواب .

اللہ تعالیٰ اس مومن کو پسند فرماتا ہے جو فتنوں میں گھر کر توبہ کرے (ایضاً)

☆ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا: ان الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو (اس وقت تک) بخشتا ہے کہ حجاب واقع نہ ہو عرض کی گئی یا رسول اللہ حجاب کیا ہے؟ فرمایا: ان تموت النفس وهي مشرکة۔ یہ کہ کوئی شخص شرک کرتے ہوئے مرجائے (ایضاً)

☆ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

گناہ سے (پچی) توبہ کرنے والا ایسے شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں (ابن ماجہ، ۱۴۱۹/۲، ۴۲۵۰، وقال

الهيثمى رجاله رجال الصحيح)

سب کا اللہ سب کا آقا تو ہی مالک تو ہی مولیٰ
تیری شان الحمد سے آگے سارے عالم کا تورب ہے
تیری رحمت سے مایوسی مومن کو کب جائز ہے؟
تیری عطا میں مضمر ہے بدلہ ذرے ذرے کا
سب کا حامی سب کا داتا تو ہی مالک تو ہی مولیٰ
تو ہی رحمان سب کا شاہا تو ہی مالک تو ہی مولیٰ
تو ہی رحیم دارِ آخری تو ہی مالک تو ہی مولیٰ
یوم الدین کا کون ہے داتا تو ہی مالک تو ہی مولیٰ

(ملتی احمد میاں مانفہ البرکاتی)

گناہ گار بخشا گیا، نیکو کار پکڑا گیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو آپس میں محبت کرنے والے دوست تھے جن میں سے ایک تو بہت عبادت گزار تھا اور دوسرے کے بارے میں ہے کہ وہ گناہ گار تھا، عبادت گزار جو تھا وہ گناہ گار کو کہتا تھا کہ جن گناہوں میں تو پھنسا ہوا ہے ان کو چھوڑ دے۔ ایک دن عابد نے اس کو بہت بڑے گناہ پہ پایا اور بولا۔ افسر۔ باز آ جا اس نے جواب میں کہا۔ خلنی وزبی ابعت علی رقیبا، تو مجھے میرے رب کے حوالے کر دے کیا تو مجھ پہ داروغہ مقرر کیا گیا ہے؟ عابد نے کہا: واللہ لا یغفر الله لك ابدا ولا یدخلک الجنة۔ اللہ کی قسم! اللہ نہ تو تجھے بخشے گا اور نہ ہی جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کی روئیں قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے گناہ گار سے فرمایا ادخل الجنة برحمتی، تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور عابد صاحب سے فرمایا استطيع ان تخطر علی عبدی رحمتی۔ کیا تو میرے بندے پہ میری رحمت کو روک سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اے اللہ! اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اذہبوا بہ الی النار۔ اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ (رواہ احمد، مشکوٰۃ باب الاستغفار)

پیا سی زمیں کے منہ میں مینہ کا چوایا پانی	اور بادلوں کو تو نے مینہ کا نشاں بنایا
یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی	قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا
تینکے اٹھا اٹھا کے لائیں کہاں کہاں سے	کس خوبصورتی سے پھر آشیاں بنایا
اوپھی اڑیں ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولیں	ان بے پروں کا اُن کو روزی رساں بنایا
کیا دوسرے دینے والی گائیں بنائیں تو نے	چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش عنان بنایا
رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر	ان نعمتوں کا مجھ کو ہے قدر داں بنایا
آبِ رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے	مچھلی کے تیرنے کو آبِ رواں بنایا
ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی	یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا

کون ہے وہ جس کی لغزشیں نہ ہوں!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (الا اللہم) کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ ان تغفر اللہم تغفر جما وای عبدک لا الما۔

الہی تو اگر بخشے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ بخش دے۔ بھلا گناہ صغیرہ (اللہم) کس بندے نے نہ کئے ہوں گے

(ترمذی، مشکوٰۃ)

یہ لفظ سورۃ النجم کی اس آیت میں ہے والذین یجتنون کبائرا لائم والفواحش الا اللہم۔ یعنی جو لوگ گناہ کبیرہ اور بے حیائیوں سے بچے رہتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ علماء فرماتے ہیں جن گناہوں پہ حد شرعی مقرر ہے وہ کبیرہ ہیں اور

جن پہ کوئی وعید نازل ہوئی وہ قاحشہ ہیں اور جن پہ ان دونوں میں سے کچھ وارد نہ ہو صرف ممانعت ہے وہ کم یعنی گناہ صغیرہ ہیں۔

(مرآة)

وہ خدا پاک ہے عالم کو بنانے والا
وہ خدا جس نے نبی پاک کو دولت بخشی
وہ خدا مانتے کھڑے ہے جو چاہے بخشے
وہ خدا قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے
وہ خدا جس نے ہدایت کا بنایا ساحل
بالیقین روز قیامت میں وہ ماموں ہوگا
اے غلام شہ ذی شاں ہو مبارک تجھ کو
یہ نبی پاک ہے عالم کو بسانے والا
یہ نبی اس کو جہاں بھر میں لٹانے والا
یہ نبی حشر میں گرتوں کو اٹھانے والا
یہ نبی جلوۂ قدرت ہے دکھانے والا
یہ نبی ڈوبتے انساں کو بچانے والا
اس کی دامن کے تلے خود کو چھپانے والا
تیرا آقا ہے لگی دل کی بھانے والا

(غلام مصطفیٰ مجددی، شکر گزہ)

جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے بخش دوں گا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے (سورۃ المدثر کی) آیت ہو اهل التقویٰ و اهل المغفرة
یاد فرمایا:

قال ربکم انا اهل ان اتقی فمن اتقانی فانا اهل ان اغفر له

تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے پھر جو مجھ سے ڈرے گا تو میں اس لائق ہوں کہ اسے
بخش دوں۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو ایک ایک مجلس میں سو سو مرتبہ شمار کرتے: رب
اغفر و تب علی انک انت التواب الغفور۔

یارب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما یقیناً توبہ قبول فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

☆ روایت ہے حضرت بلال بن یسار بن زید سے جو کہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے
میرے دادا سے روایت کی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، جو شخص یہ (مندرجہ ذیل) کلمات پڑھ لے تو اس کی بخشش کر دی
جائے گی اگرچہ وہ جہاد سے ہی بھاگا ہوا ہو۔

استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

میں اس سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ
کرتا ہوں۔ (ترمذی، ابوداؤد، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد

الصالح في الجنة - اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں (اچانک) بلند فرمادیتا ہے، بندہ سوال کرتا ہے یا رب انی لی ہذہ - یہ درجہ میرے لئے کہاں سے آگیا، (کوئی عمل تو کیا نہیں میں تو سو رہا تھا یہ اچانک درجہ کیسے بلند ہو گیا) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باستغفار ولدك لك - تیرے بیٹے نے تیرے لئے استغفار کی ہے اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے (رواہ احمد . مشکوٰۃ)

میرا خدا کریم، مرے مصطفیٰ کریم
 کس قدر پیارے نام ہیں رب کریم کے
 میرے حبیب پاک ہیں سب سے بڑا کرم
 سرکار پہ خدا کا ہے بے انتہا کرم
 وابستہ ہے ظہور کرم ان کی ذات سے
 جان کرم جہان کرامت حضور ہیں
 عالم تمام دولت سرائے حبیب ہے
 ہر لمحہ یا خدا کہو ہر لحظہ یا رسول
 جوش عطا پہ آگیا اللہ کا کرم
 جو دور ہے حضور سے خالق سے دور ہے
 آتی ہوئی وسیلہ شیخ کریم سے
 بالذات وہ کریم ہے یہ بالعطا کریم
 وہاب، نور، رب الوری، ذوالعطا، کریم
 میرا خدائے پاک ہے سب سے بڑا کریم
 بے انتہا کرم سے یہ بے انتہا کریم -
 مقصود کن فکاں ہیں مرے مصطفیٰ کریم
 ہر ہر سخن ستودہ ہے ہر ہر ادا کریم
 اللہ کے کرم سے ہے ہر جا مرا کریم
 وہ بھی سدا کریم ہے یہ بھی سدا کریم
 میں نے نبی سے عرض کیا جب بھی یا کریم
 ان کا گدا جو ہو گیا، وہ ہو گیا کریم
 میری دعا کریم، مری التجا کریم

(پروفیسر محمد حسین آسی)

میت کا قبر میں حال

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ما الميت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صديق -

میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں، باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو ثواب کے پہاڑ دیتا ہے وان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم - یقیناً زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے استغفار ہے (رواہ البیہقی فی شعب الایمان . مشکوٰۃ)

☆ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفار اکثیرا - (رواہ ابن ماجہ . مشکوٰۃ)

خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے:

اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا ساءوا استغفروا .

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکیاں کریں تو خوش ہوں اور گناہ کریں تو معافی مانگیں۔ (رواہ ابن ماجہ .

والبیہقی فی الدعوات الکبیر . مشکوٰۃ)

☆ حضرت حارث بن سوید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو حدیثیں سنائیں۔ ایک تو رسول ﷺ کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے فرمایا: مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ ڈر رہا ہے کہ اس پر گر جائے اور بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ جو اس کی ناک پر گزرے تو یوں کر دے یعنی اپنے ہاتھ سے اسے اڑا دے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جانوروں والی ہلاکت کی زمین میں اترے اس کے ساتھ سواری ہے۔ جس پر اس کا کھانا پانی ہے۔ اس نے سر رکھا کچھ سو گیا۔ جاگا تو اس کی سواری جا چکی تھی اسے بہت ڈھونڈ رہا تھا حتیٰ کہ جب اس پر دھوپ یا پیاس یا جو اللہ نے چاہا غالب آگئی تو بولا کہ میں اپنی اس ہی جگہ لوٹ جاؤں جہاں تھا۔ وہاں سو جاؤں حتیٰ کہ مر جاؤں اپنے بازوؤں پر مرنے کے لئے سر رکھ دیا۔ پھر جاگا تو اس کی سواری اس کے پاس تھی جس پر اس کا توشہ پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو یہ سوار سواری ملنے پر خوش ہوا مسلم نے صرف وہ ہی روایت نقل کی جو رسول اللہ ﷺ تک ابن مسعود سے مرفوع ہے اور بخاری نے ابن مسعود پر موقوف حدیث بھی روایت کی۔ (مشکوٰۃ باب الاستغفار)

اللہ نے بنایا فلک بھی زمین بھی	صدقہ حضور کا ہے مکاں بھی مکین بھی
جھکتی ہے جو خلوص سے اللہ کے حضور	رشک جبیں ماہ ہے ایسی جبیں بھی
بن کے وہ آئے دہر میں برہان کبریا	صادق بھی جن کو کہتے تھے اعدا امین بھی
توحید کبریا پہ ہے پکا یقین جسے	سمجھے نبی کی دین ہے ایسا یقین بھی
روح القدس بلند ہیں ہر اعتبار سے	خادم حضور کے بھی ہیں سدرہ نشین بھی
ان سے نہیں ہے پیار تو مردود ہر عمل	توحید بھی، جہاد بھی، ایمان بھی، دین بھی
حیرت ہے اس کو شرک سمجھتے ہیں کم نظر	پیارا ہے کیوں خدا کا مجھے نازنین بھی
اللہ نے جس کو کیا مسجود قدسیاں	اس کے حضور جھک گئے روح الامین بھی
اللہ نے جنہیں کیا مختار دو جہاں	کیونکر نہ ان سے مانگئے دنیا بھی دین بھی
زینت ہے آل پاک کی واللہ میرا شیخ	اور آل پاک آسی ہے جل اہتین بھی

(پروفیسر محمد حسین آسی)

ایک دن میں سو بار توبہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة (رواه ابو حنيفة)

بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا: (گناہ پہ) نادم ہونا ہی توبہ ہے (اخرجه احمد بن حنبل فی المسند، ۳۷۶/۱،

وابن حبان فی الصحيح، ۳۷۷/۲، الرقم: ۶۱۲)

☆ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں حضور علیہ السلام تشریف لائے اس حال میں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ (ﷺ) نے فرمایا:

ما أصبحت غداة قط الا استغفرت الله فيها مائة مرة

کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۷۲/۷، ۳۵۰۷۵،

النسائی، سنن کبریٰ، ۱۱۵/۶، ۱۰۲۷۵)

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان للقلوب صدا كصدء الحديد وجلاءها الاستغفار .

لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی پالش استغفار ہے۔

(اخرجه الطبرانی فی المعجم الصغير، ۳۰۷/۱، الرقم: ۵۰۹، وفی المعجم الاوسط، ۷/۷، الرقم: ۶۸۹۳،

والمندری فی الترغیب والتریب، ۳۱۰/۲، الرقم: ۲۵۰۷)

سر وحدت را نداند بہ کے اگرچہ بنی در جہاں عاقل بے
دانہ او را آں کہ قلبش پاک گشت وز محبت سینہ اش صد چاک گشت
محرم این راز بس آنکہ شوی چوں خیال غیر از دل برکنی
در تقید ما وتو گفتن رواست لیک در اطلاق این گفتن خطاست
منطقی و فلسفی در حیرت اند آنچہ گوید عقل بروے کار بند
بشنواز من اے برادر یک خبر باش مشتاقش کہ یابی زود تر

(حضرت سیدنا معین الدین شاہ)

خوف حق جن کے رگ و پے میں سما جاتا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

للجنة ثمانية ابواب، سبعة مغلقة و باب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه .

جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لئے اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج اس طرف سے

(مغرب کی طرف سے) طلوع نہیں ہوتا۔ (اخرجه ابو یعلیٰ فی المسند، ۳۲۹/۸، الرقم: ۵۰۱۲)

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك . (رواه البخاری، مشکوٰۃ)
جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح آگ بھی۔

یعنی جس طرح کبھی منہ سے نکلی ہوئی بات بندے کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے اس طرح کبھی منہ سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور بندہ دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔

ہے میسر اسی انسان کو انساں ہونا
زندگی کیا ہے؟ نثار رہ جانا ہونا
مٹ جا مٹ جا رہ توحید میں اے بندہ عشق
بندہ بن یعنی تو رہ اس کی رضا پر راضی
خوف حق جن کے رگ و پے میں سما جاتا ہے
اے خدا تیرا کرم ہے یہ دعا بھی میری
حمد باری کا چمکتا ہوا عنوان ٹھہرا
جس کو آتا ہے در یار پہ قرباں ہونا
خواجگی اصل میں ہے بندہ رحماں ہونا
یونہی ممکن ہے ترے درد کا درماں ہونا
ہے یہ ہر عقد دشوار کا آساں ہونا
ان کو آتا نہیں غیروں سے ہراساں ہونا
تیری رحمت ہے ترا تابع فرماں ہونا
بہ تن محو ثنائے شہ ذیشاں ہونا

اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں کچھ قیدی آئے تو قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے چھلک رہی تھی اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، جب قیدیوں میں کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے پیٹ (چھاتی) سے چمٹا لیتی اور دودھ پلانا شروع کر دیتی، تب ہم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اترون هذه طارحة ولدھا فی النار۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ اگر یہ پھینکنے پہ قادر ہو تب بھی نہ پھینکے گی۔ فرمایا: اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدھا۔ جتنی یہ عورت اپنے بچے پہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنی مخلوق پہ مہربان ہے،

میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم
دو کریموں میں گناہ گار کی بن آئی ہے
(جل جلالہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

صحابہ کرام کا یہ سوال کہ ولا انت یا رسول اللہ یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام عمومی احکام میں حضور علیہ السلام کو داخل نہ مانتے تھے

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکے گا، عرض کیا: آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ فرمایا نہ مجھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہربانی سے اپنی رحمت میں چھپالے، فسد دوا وقادر ہوا و اعدوا و روحوا و شنی من الدلجة والقصد القصد تبلغوا۔ لہذا ٹھیک ٹھیک رہو میانہ رو ہو جاؤ، صبح و شام اور کچھ رات کے اندھیرے میں نیکیاں کر لیا کرو، میانہ رو ہو، پہنچ جاؤ۔ (متفق علیہ، مشکوٰۃ)

آؤ کہ فرض عقیدت ادا کریں اللہ کے حبیب سے اک التجا کریں
گذری ہے ساری عمر ہماری گناہ میں مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں

☆ صحیح مسلم کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے آپ (ﷺ) نے فرمایا:

لا یدخل احدکم عملہ الجنة ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمة من اللہ .

تم میں سے کسی کا عمل نہ اس کو جنت میں پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی آگ سے بچا سکے گا اور نہ ہی میرا لگنا اللہ کی رحمت سے۔

علماء فرماتے ہیں کہ دخول جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور وہاں کے درجات کا حصول اعمال کے وسیلہ سے خواہ خود اپنے عمل ہوں یا اپنے ماں باپ اور اولاد کے، جب حضور علیہ السلام کے اعمال اللہ کے فضل سے جنت میں جانے کا باعث بنے تو ماوشما کس شمار میں ہیں (مراۃ)

اللہ کے سوا بھلا کون آفریں ہے کون	محبوب کبریا سا جہاں میں حسین ہے کون
اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل	الصادق اور کون ہے اور الایمیں ہے کون
اللہ نے بنایا انہیں جان کائنات	کون مکان میں ان کے سوا ہر کہیں ہے کون
کافی ہے اے کلیم تمہیں ان کو دیکھ لو	سرکار دیکھ آئے ہیں پردہ نشین ہے کون
ان کے حضور بیٹھے ہیں سب فرق ہی نہیں	صحرا نشین ہے کون تو سدرہ نشین ہے کون
ایمان دل میں اور ہیں ایمان میں حضور	پردہ بہ پردہ ان کے سوا دلنشین ہے کون
محشر پہ بھی ہے شافع محشر پہ بھی یقین	پھر پوچھتے ہو لائق خلد بریں ہے کون
اپنا بغیر رحمت عالم نہیں کوئی	اپنا بفضل رحمت عالم نہیں ہے کون
ان سے نہیں ہے پیار تو ایمان بھی نہیں	اصل یقین و حاصل شرع متین ہے کون
جو بہترین شیخ کا ہے کم ترین غلام	آسی ترے سوا وہ یہاں کمترین ہے کون

(پروفیسر محمد حسین آسی)

اخلاص کا ایمان پہلے گناہ ختم کر دیتا ہے

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر الله عنه کل سیئة کان زلفها و کان بعد القصاص الحسنہ

بعضرا مثالها الی سبع مائة ضعف الی اضعاف کثیرہ والسیئة بمثلها الا ان یتجاوز الله عنها .

(رواہ البخاری . مشکوٰۃ)

جب بندہ مسلمان ہو اور اس کا اسلام اچھا ہو (اخلاص کے ساتھ دل سے مسلمان ہو، منافقت سے کلمہ نہ پڑھے) تو اللہ تعالیٰ

اس کے پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے بعد قصاص ہوتا رہتا ہے کہ نیکی تو دس گناہ سے سات سو گناہ تک بلکہ بہت زیادہ گنا

تک (مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة - سات سو گنا تک) اور گناہ اتنا ہی جتنا کیا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دے (اور اس ایک گناہ کو بھی معاف کر دے)۔

خدا وحدہ لا شریک لہ حبیب خدا اس کا ظل ہو ہو
وہ ہے قادر مطلق ولا یزال یہ ہے مظہر قدرت بے مثال
عدم کو وہ بخشے لباس وجود یہ ہے حاصل کائنات شہود
یقیناً وہ ہے خالق دو سرا تو یہ ہے وجہ تخلیق شاہ ہدی
نبی جلوہ رب کون و مکاں اسی سے منور ہوئے دو جہاں
نبی نائب قادر کن فکاں جہی تو ہے کونین کا حکراں
اسے ساری مخلوق کی ہے خبر تو اس کی بھی ہے شش جہت پہ نظر
خدا ارحم الراحمین بالیقین نبی رحمت ارحم الراحمین
خدا ہے رؤف و رحیم و ولی رؤف و رحیم و ولی ہے نبی
خدا ہے حکیم و علیم و خبیر نبی ہے شہید و سمیع و بصیر
خدا کو پکارا تو مانگا کرم کرم اس کا ہے تاجدار حرم
خدا کے نبی کو پکارے کوئی تو مطلوب ہے رحمت اللہ کی
غرض ”یا خدا“ یا کہو ”یا نبی“ تو مقصود ہے دونوں سے ایک ہی
یہ نکتہ ہے برکات توحید سے مگر شرک سمجھا ہے ناداں اسے
جو ناداں کہے ہے فقط ”یا خدا“ وہ ہے مدعی صرف توحید کا
کہا ”یا خدا“ جس نے اور ”یا نبی“ تو ایماں ہے اس کا رسالت پہ بھی
جو ناداں ہے اس کی نہ پروا کرو مسلمانو! ایماں پہ قائم رہو
کہو صدق سے ”یا خدا“ ”یا نبی“ کہ ظلمت مٹے شرک اور کفر کی
یہ ہے شیخ کی نظر رحمت اثر کہ آتی ہے ایمان سے بہرہ ور

(پروفیسر محمد حسین آسی)

برائی کے بعد نیکی کرنے کی مثال

☆ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان مثل الذی یعمل السیات ثم یعمل الحسنات کمثل رجل علیہ درع صلیقة قد خنقته ثم عمل

حسنة فانفکت حلقة ثم عمل اخرى فانفکت اخرى حتی یتخرج الی الارض

اس شخص کی مثال جو پہلے گناہ کرتا ہے پھر نیکی کرنے لگا، اس کی سی ہے جس پر تنگ ذرہ تھی جو اس کا گلا گھونٹ رہی تھی پھر اس نے ایک نیکی کی تو ایک چھلا کھل گیا پھر دوسری کی تو دوسرا چھلا کھل گیا حتیٰ کہ وہ ذرہ زمین پہ گر گئی۔ (ان

الحسنات یذهبن السیات۔ القرآن) (رواہ فی شرح السنہ۔ مشکوٰۃ باب الاستغفار)

☆ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو منبر پہ تشریف فرما ہو کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا و لمن خاف مقام ربہ جنتن۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ میں نے عرض کی حضور! وان زنی وان سرق۔ اگر چہ وہ زنا کرے، اگر چہ چوری کرے، حضور ﷺ نے دوبارہ یہی فرمایا و لمن خاف مقام ربہ جنتن میں نے پھر یہی عرض کی وان زنی وان سرق یا رسول اللہ۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی آیت پڑھی اور میں نے تیسری بار یہی عرض کیا وان زنی وان سرق۔ تب آپ نے فرمایا وان رغم انف ابی الدرداء۔ اگر چہ ابو درداء کی ناک رگڑ جائے۔ (رواہ احمد)

حضرت عامر الرام سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، جس پہ کبل تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پہ کبل لپٹا تھا۔ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ! میں ایک درخت کی جھاڑی پر گذرا تو میں نے اس جھاڑی میں چڑیا کے بچوں کی آواز سنی میں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے کبل میں چھپا لیا۔ اتنے میں ان کی ماں آگئی اور میرے سر پہ چکر لگانے لگی، میں نے اس کے سامنے اس کے بچے کھول دیئے، وہ ان پر گر پڑی میں نے اس کو بھی (بچوں کے ساتھ) کبل میں لپیٹ لیا وہ سب یہ میرے پاس ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان سب کو رکھ دو، میں نے رکھ دیا تو ان کی ماں ان کو چمٹی رہی تب حضور علیہ السلام نے فرمایا:

العجبون من ام الافراخ فراخها والذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها۔ تم ان چوزوں کی ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ اتنی ممتا پر تعجب کرتے ہو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی بچوں کی ماں اپنے چوزوں پر۔ پھر اس شخص کو فرمایا: انہیں واپس لے جا حتیٰ کہ انہیں وہیں پہ رکھ کر آجہاں سے پکڑا تھا اور ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہی، وہ انہیں واپس لے گیا۔ (ابوداؤد۔ مشکوٰۃ)

موج و کف کو بحر سے دوری ہے کب	اصل کو سایہ سے مہجوری ہے کب
یعنی موج اور بحر سایا دراصل	ایک ہیں رکھتے نہیں آپس میں فضل
حمد خلقت کی ہے خالق کی ثنا	کیونکہ ہے مخلوق کی اس سے نباء
حمد کیا اس کی کرے کوئی بشر	عقل اور ادراک کے جلتے ہیں پر
حمد اس کی کیا کسی کی تاب ہے	مادح و ممدوح وہ خود آپ ہے
ہے حقیقت میں یہی بس حمد یار	یاد تو اس کی کرے لیل و نہار

ہے یہی توحید و تحمید و ثنا
ہے یہی تعظیم و حمد کرد گار
ہے یہی تنزیہ و توصیف غفور
ہے یہی تشریف و تکریم خدا
ہے یہی تسبیح و تحلیل تمام
قول پیغمبر ہے لا اھسی ثنا
جتنی موجودات و مخلوقات ہے
دیکھتا ہے جس کو تو بے گوش و لب
اپنی ہستی کو کرے اس میں فنا
رو برو اس کے ہو تو بس خوار و زار
وصف اوصاف خود کر اپنی دُور
حکم پر اس کے کرے جاں کو فدا
محو کر تو دوسرے کا دل سے نام
کر سکے پھر اور کون اس کی ثناء
سب اسی کی حمد میں دن رات ہے
ظاہر و باطن کرے ہیں حمد رب

ہمارے آقا علیہ السلام کی آہ و بکا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے تو حضور علیہ السلام کا گذر ایک قوم پر ہوا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان سے پوچھا! تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم مسلمان ہیں۔ ان کی ایک عورت ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی تھی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، جب آگ بھڑک کر اونچی ہوتی تو عورت بچے کو دور ہٹا دیتی، وہ عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ انت رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا: ہاں، اس نے عرض کی بسابی انت وامی ایس اللہ ارحم الراحمین۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا اللہ تعالیٰ تمام رحم کر نیوالوں سے زیادہ رحم کر نیوالا نہیں ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں، عرض کی۔ ایس اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدھا کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے زیادہ مہربان نہیں جتنی مہربان ماں اپنے بچے پر ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں۔ عرض گزار ہوئی ان الام لا تلقی ولدھا فی النار۔ پھر ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، (اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے وہ اپنی مخلوق کو کیسے آگ میں ڈالے گا)

فاکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی ثم رفع راسہ الیہا فقال ان اللہ لا یعذب من عبادہ الا المارد المتمرد الذی یتمرد علی اللہ وابی ان یقول لا الہ الا اللہ۔

حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور جھکا لیا، بہت روئے پھر سر مبارک اس کی طرف اٹھا کر فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں صرف سرکش و متکبر کو ہی عذاب دے گا جو اللہ پہ سرکشی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے (ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

وہ دل کہ جس میں جلوہ نما ذوالجلال ہے
دل میں اگر کسی کے خدا کا خیال ہے
پلکوں میں رکھ کے اشکِ ندامت خدا سے مانگ
نور خدا کا عکس، حبیب خدا میں ہے
رکھو سفر میں دین کے دنیا بھی ساتھ ساتھ
اُس کی کوئی مثال نہیں بے مثال ہے
تابندہ اس کا چہرہ ماضی و حال ہے
پورا جو ہو نہ پائے وہ کیسا سوال ہے
حجت کی بات ہے نہ کوئی قیل و قال ہے
ہر کام میں پسند اسے اعتدال ہے

یہ رب کائنات کا ادنیٰ کمال ہے
باہر نکلنا ذات سے اس کی محال ہے
(طاہر سلطانی)

کیڑے کو رزق سنگ میں اس نے عطا کیا
طاہر یہ راز مجھ پہ ازل سے ہے منکشف

عرش پہ دھو میں مچیں وہ طیب و طاہر ملا

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان العبد یلتمس مرضاة الله فلا یزال بذلك فیقول الله عز وجل لجبرئیل ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضینی الاوان رحمتی علیہ فیقول جبرئیل رحمة الله علی فلان ویقولها حملة العرش ویقولها من حولهم حتی یقولها اهل السموات السبع ثم تهبط له الی الارض - (رواه احمد . مشکوة)
بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ ہو جا کہ اس پر میری رحمت ہے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہی بات حاملین عرش فرشتے کہتے ہیں، یہی بات ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہ رحمت اس کے لئے زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ اپنے وصال مبارک سے پہلے بکثرت یہ کلمات پڑھتے تھے

سبحانک اللهم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک

میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ نئے کلمات پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ایک علامت مقرر کر رکھی ہے جب میں امت میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو سورۃ اذا جاء نصر الله والفتح پڑھتا ہوں (کیونکہ اس سورت میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے فسبح بحمدک واستغفره) (اخرجه مسلم فی الصحیح ۳۵۱/۱، الرقم: ۴۸۳)

☆ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام (مجلس ختم ہونے کے بعد) اٹھنے لگتے تو یہ کلمات ادا فرمائے۔

سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک عملت سوء وظلمت

نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت

ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے یہ نئے کلمات ادا فرمائے ہیں فرمایا ہاں ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام

آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا یہ الفاظ مجالس کا کفارہ ہیں۔ (اخرجه النسائی فی السنن الکبریٰ، ۱۱۳/۲، الرقم: ۱۰۴)

یوں تو کرتے ہیں فرشتے بھی تیری عبادت

تیرا آغاز بھی اب تک نہ کوئی جان سکا

انبیاء ہی نے کرایا ہے تعارف تیرا

ہو سکا ارض و سما سے نہ تحمل جسکا

آئی انسان کے حصے میں نیابت تیری

کون جانے کہ کہاں تک ہے نہایت تیری

انبیاء ہی نے بیان کی ہے روایت تیری

آخر انساں نے سنبھالی ہے امانت تیری

مست رکھتا ہے سمندر کو تصور تیرا
چاند تارے ہیں تیرے حسن کا مظہر مولا
تیری تسبیح کے خوگر ہیں پرندے سارے
قلب کی آنکھ کھلی ہو تو پتا چلتا ہے
اپنی تسخیر کی کوشش میں لگا ہے کب سے
کون کو وجد میں لاتی ہے حکایت تیری
لالہ و گل سے نمایاں ہے نفاست تیری
پتے پتے سے عیاں ہوتی ہے عظمت تیری
تیرا عرفان ہے کیا کیا ہے حقیقت تیری
چاہتا ہے ترا شہزاد حمایت تیری

(شہزاد مجیدی)

یہ سب جنتی ہیں

حضرت امامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَدِرٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ كَمَا بَرَّ فِي الْمَعْرُوفَاتِ میں فرمایا کُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ۔ یہ سب جنتی ہیں۔

(رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور . مشکوٰۃ)

یاد رہے: اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، ظالمین، میانہ رو اور سابقین۔ ظالم وہ ہیں جن کے گناہ نیکوں پہ غالب ہیں میانہ رو وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں اور سابقین جن کی نیکیاں گناہوں پہ غالب ہوں یا نیکوں نے گناہ متادینے ہوں۔ سابقین تو بے حساب جنتی ہیں، میانہ رو (مقتصدین) حساب کے بعد جنتی اور ظالمین یا تو صرف سخت حساب کے بعد جنتی یا کچھ سزا پا کر،

☆ بیہقی اور ابن مردویہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ سابق تو سابق ہیں ہی، مقتصد ناجی ہیں اور ظالم مغفور۔

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو ”عبادنا“ فرمایا ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے سابقین بندوں کے طفیل ہم ظالمین پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہ معاف کرے آمین یا رب العالمین۔ (مرآة)

میری حیات اگرچہ ہے جرم و قصور کی
میں نے ہجوم غم میں اسے جب بھی دی صدا
محشر کے دن نصیب ہو دیدار کبریا
اللہ کے مقام کو سمجھے گا کیا کوئی
دیکھے بھی اس سے آگے تو دیکھے کہاں نگاہ
یا رب تو اس مقام سے بھی ہے درا جہاں
مجھ پر ہے اس کی ذات کا کتنا بڑا کرم
اس دن بھی مجھ پہ ہوگی تری بارش کرم
یہ لطف مجھ پہ خاص ہے رب کریم کا
رحمت مگر نظر میں ہے رب غفور کی
امداد مالک دو جہاں نے ضرور کی
خواہش نہیں کوئی مجھے حور و قصور کی
ممکن نہیں رسائی وہاں تک شعور کی
چلمن پڑی ہے تجھ پہ ترے رنگ و نور کی
پرواز ختم ہوتی ہے میرے شعور کی
بخشی ہے اس نے مجھ کو محبت حضور کی
کیوں فکر ہو کوئی مجھے یوم نشور کی
مجھ کو عطا ہوئی ہے محبت حضور کی

اس کے سوا نہیں ہے کوئی کائنات میں عابد نظر میں جس کی ہو حالت صدور کی
(ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کو اس کے محبوب علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے:

یا ابن آدم قم الی امش الیک و امش الی اھر و ال الیک (بخاری کتاب التوحید ۱۱۰۱/۲)
اے ابن آدم! تو میری طرف آنے کے لئے کھڑا ہو میں تیری طرف آؤں گا، تو میری طرف آنے کے لئے چل میری
رحمت تجھے تیزی سے اپنی آغوش میں لے لے گی۔

☆ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی ایک دعا نقل فرماتے ہیں:

اللہم انی اسئلك من خیر خزائنه بیدیک و اعوذ بک من کل شر خزائنه بیدیک (المستدرک للحاکم

کتاب الدعاء ۱/۷۰۶)

یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تیرے خزانوں میں ہے اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے
ہاتھ میں ہے۔

ورد زباں جو اسم رسول و خدا ہوا	کثرت سے اعتماد سے صبح و مسا ہوا
سنیے جہانِ حمد میں پھر غلغلہ ہوا	مصرف حمد ہاشمی سا بے نوا ہوا
صدقے میں آں حضور کے کار ہنر ملا	مضمون تازہ حمد کا ہر دم عطا ہوا
یا رب تیری رضا و عنایت کہوں گا میں	ملتا ہے حمد میں جو ہنر بولتا ہوا
دھوئے گئے ہیں عمر گذشتہ کے سب گناہ	اس کے کرم سے ہاشمی بھی پارسا ہوا

(انور جاوید ہاشمی)

آثار المستغفرین بالاسحار در بارۃ استغفار

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

جالسوا التوابین فانهم ارق شیء افندۃ

کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل نہایت ہی نرم ہوتے ہیں۔

(اخرجه الامام احمد بن حنبل فی الزهد، ۱۷۷)

☆ آپ ہی کا فرمان ہے جالسوا انفسکم قبل ان تحاسبوا او زنوا انفسکم قبل ان توزنوا۔ اپنے نفوس کا
محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنے نفوس کو تو لو (ترکیہ کرو) قبل اس کے کہ تمہیں تو لا جائے (یعنی جواب دہی کے
لئے طلب کیا جائے)۔ (ایضاً)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ما جلست الی احد اکثر استغفارا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں حضور نبی اکرم ﷺ سے بڑھ کر استغفار کرنے والے کسی شخص کے پاس نہیں بیٹھا۔

(اخرجه الامام احمد بن حنبل فی الزهد: ۷۷)

☆ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

هل ترى الناس ما اكثرهم ما فيهم خير الاتقى او تائب
گناہوں سے توبہ کرنے والا اور متقی انسان لوگوں میں سے بہترین افراد ہیں۔ (اخرجه ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۱۶۳)

☆ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

من استبطأ رزقه فليكثر من الاستغفار

جس کا رزق تنگ ہو اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے (اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى: ۵۱)

☆ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

حقيقة التوبة ان تضيق عليك الارض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار ثم تضيق عليك نفسك
توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے تمہارے لئے اس قدر تنگ معلوم ہو کہ تمہیں قرار حاصل نہ ہو بلکہ
تمہارا نفس بھی تمہارے لئے تنگ ہو جائے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۶)

☆ آپ ہی کا فرمان ہے:

الاستغفار من غير اقلع هو توبة الكاذبين

گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا کذاب لوگوں کی توبہ ہے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۵)

☆ سنل ذوالنون المصری عن التوبة فقال توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة
حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ سے توبہ کی نسبت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص
کی غفلت سے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۵)

مرتبہ تیرا سب سے بالا ہے
کیا کرے کوئی تیری حمد بیاں
کھیتیاں سب کی تو ہی کھیتا ہے
تیری شفقت کے تیری رحمت کے
کوئی ہرگز نہیں شریک ترا
تیری محتاج سب خدائی ہے
دل سے ہر ایک غم مٹاتی ہے

نام یا رب ترا نرالا ہے
تو نے پیدا کئے ہیں دونوں جہاں
کھانے پینے کو تو ہی دیتا ہے
جاؤں قربان تیری قدرت کے
ذات ہے ذات تیری اے مولا
ترے ہر کام میں بھلائی ہے
یاد تیری سرور لاتی ہے

(سرور بخوری)

داؤد علیہ السلام کی طرف وحی الہی

اوحی الله الی داؤد علیہ السلام: لو يعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لهم ورفقی بهم وشوقی الی ترک معاصیہم لما تواشوقاً الی، وانقطعت او صالحہم من محبتی، یا داؤد، ہذہ ارادتی فی

المدبرین عنی، فکیف ارادتی فی مقبلین الی؟

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر لوگ مجھ سے منہ موڑ لینے والے یہ جان لیں کہ میں ان کی کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کے معصیت کو ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں تو وہ میرے شوق میں مرجائیں اور ان کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں۔ اے داؤد! یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں پس جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا؟

(اخرجه القشیری فی الرسالة: ۳۳۲)

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

زلة واحد بعد التوبة اقبح من سبعین قبلها

توبہ کے بعد کی لغزش توبہ سے پہلے کی ستر لغزشوں سے بدتر ہے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۶)

☆ محمد زقاق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

سالت ابا علی الروذباری عن التوبة، فقال: الاعتراف، والندم والا قلاع .

میں نے ابو علی روذباری رضی اللہ عنہ سے توبہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: (گناہوں کا) اعتراف، ندامت

اور (گناہوں کا) ترک کرنا (توبہ ہے) (اخرجه السلمی فی الطبقات الصوفیة: ۳۵۷)

☆ حضرت مطرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اللهم ارض عنا، فان لم ترض فاعف فان المولى قد يعفو عن عبده، وهو غير راض عنه .

اے اللہ! ہم سے راضی ہو جا اگر تو راضی نہ ہو تو معاف فرما کیونکہ کبھی مالک راضی نہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کو

معاف کر دیتا ہے۔ (اخرجه الشعرانی فی الطبقات الكبرى: ۵۳)

اللہی دے ہمیں توفیق ہم انسان بنیں	کچھ ہم میں عالم دین بنیں کچھ حافظ قرآن بنیں
دکھائیں راستہ نیکی کا خود عمل بھی کریں	رسول پاک کے منبر کا اک نشان بنیں
کریں طواف حرم کا چلیں مدینے کو	ادا ہوں جس سے نمازیں وہی اذان بنیں
عطا ہو حیدری قوت کہ باطل مٹ جائے	جہاد ان سے کریں جو کوئی شیطان بنیں
میسر دین کی خدمت کا ایسا جذبہ کر	کہ وقت نزع ہم صاحب ایمان بنیں
ازل کی فکر نہ کی ہائے کیا کیا میں نے	خطائیں کرتے رہے کس قدر نادان بنیں
گناہ گار خطا وار بد نصیب رئیس	ہے منتظر گز میری مشکلیں آساں بنیں

وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے

شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

عليك بالا ستغفار وان لم يكن هناك ذنب، واعتبر باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد البشارة واليقين بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا في معصوم لم يقترف ذنباً قط وتقدس عن ذلك فما ظنك لمن لا يخلو عن العيب والذنب في وقت من الاوقات

اپنے اوپر استغفار لازم کروا کر چہ کوئی گناہ نہ ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو۔ جبکہ آپ کو آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کی بخشش کی بشارت اور یقین حاصل تھا اور یہ اس عظیم معصوم کا معاملہ ہے جس میں کسی گناہ کا کبھی تھوڑا سا رتبہ نہیں اور اس سے ہمیشہ پاک ہیں تو اس کے متعلق تیرا کیا گمان ہے جو کسی وقت بھی عیب اور گناہ سے خالی نہیں (اخرجه الشعرائی فی الطبقات الكبرى ۳۰۱)

☆ سنل البوشنجی رحمة الله عن التوبة، فقال: اذا ذكرت الذنب ثم لم تجد حلاوته عند ذكره فهو التوبة.

شیخ بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے توبہ کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: جب تو گناہ کا ذکر کرے اور تجھے اس کے ذکر سے اس کی مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہی توبہ ہے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۶)

☆ حضرت ابراہیم الاطروش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

كنا قعودا ببغداد مع معروف الكرخي رحمه الله على نهر الدجلة اذا مر بنا قوم احداث في زورق، يضربون بالدف ويشربون ويلعبون، فقلنا لمعروف: الاتراهم كيف يعصون الله تعالى مهاجرين؟ ادع الله عليهم لرفع يده وقال: الهی كما فرحتهم فی الدنيا ففرحهم فی الآخرة . فقلنا: انما سالناك ان تدعو عليهم، فقال: اذا فرحهم فی الآخرة تاب عليهم .

ہم بغداد میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دریائے دجلہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کشتی میں نو عمروں کی ایک ٹولی دف بجاتے شراب پیتے اور کھیلتے ہوئے گزری۔ ہم نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ علی الاعلان خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کے لئے بددعا کیجئے۔ یہ سن کر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا خدا یا جس طرح تو نے دنیا میں انہیں خوش رکھا ہوا ہے، آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما، لوگوں نے عرض کی، ہم نے آپ کو بددعا کرنے کو کہا تھا (اور آپ نے ان کے حق میں دُعا فرمادی)؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھے گا تو (دنیا میں) ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔

(اخرجه القشیری فی الرسالة: ۱۳۷)

زمینِ شعر کو مدحت کا یا رب آسماں کر دے
جو میری بندگی کو بے نیاز آسماں کر دے

میں تیری حمد لکھتا ہوں، عطا حسن بیاں کر دے
وہ اک سجدہ عطا اے خالق کون و مکان کر دے

اگر یہ جھوٹ ہے یا رب تو مجھ کو بے نشان کر دے
 کرم ہو جائے تو بہن کو میسر کارواں کر دے
 الہی پھر اذانوں کو مجاہد کی ازاں کر دے
 جو تو چاہے تو دنیا کہتے کہتے داستاں کر دے
 وہ جب چاہے زمانے بھر کو تجھ پر مہرباں کر دے
 (فرحت لکھنوی)

اگر الفت مری سچ ہے تو دے اجر وفا مجھ کو
 کوئی پوچھے ابوذر سے تری بندہ نوازی کو
 وہی پہلی سی توفیق عمل دے اپنی بندوں کو
 وہی افسانہ غم مجھ سے جو دنیا نہیں سنتی
 دلوں کو موڑ دینا صرف اس کا کام ہے فرحت

حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمۃ؟

حضرت سیدنا ابوبکر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں داخل ہوا۔
 آپ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم قافلے کی صورت میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے
 ہمیں سلام کیا ہم نے بھی جواباً سلام پیش کیا۔ پھر ہمیں دعا دیتے ہوئے فرمایا: ”اللہ عزوجل آپ سب کو اسلامی مملکت میں سلامتی
 کے ساتھ زندہ رکھے اور دنیا دین میں ہم سب کو احسان کی نعمت سے نوازے اور آخرت میں ہماری مغفرت فرمائے۔“ پھر آپ رضی اللہ عنہ
 نے اذان دینی شروع کی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ ”اشھدان لا الہ الا اللہ“ برہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ پر شدت اضطراب سے لرزہ طاری ہو
 گیا اور ابرو اور داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ اس قدر بے چین ہوئے کہ مجھے خوف ہوا کہ اذان مکمل نہ کر سکیں گے پھر
 آپ رضی اللہ عنہ اس قدر جھک گئے کہ قریب تھا کہ گر جاتے۔ (حلیۃ الاولیاء، معروف کرخی، الحدیث ۱۲۶۸۵، ج ۸، ص ۴۰۴)
 حضرت سیدنا قاسم بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ عنہ کا پڑوسی تھا، ایک رات میں نے آپ
رضی اللہ عنہ کو گریہ و زاری کرتے اور درج ذیل اشعار پڑھتے سنا:

ای شیء ترید منی الذنوب شغفت بی فلیس عنی تغیب

ما یضر الذنوب لو اعتقتنی رحمة لی فقد علانی المشیب

ترجمہ: (۱)..... کون سی چیز مجھ سے گناہ کرانا چاہتی ہے، مجھے گناہوں میں مشغول رکھتی ہے اور مجھ سے دور نہیں ہوتی۔

(۲)..... اگر تو مجھے رحم فرماتے ہوئے بخش دے تو گناہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب تو مجھ پر بڑھا پا آچکا ہے۔

(صفة الصفوة، ذکر المصطفیٰ من اهل بغداد، الرقم: ۲۶۰ معروف بن الفیرزان الکرخی، ج ۲، ص ۲۱۲)

مصیبت سے یا رب بچانا مجھے

میرے دل کو پیغامِ راحت ملے

میرے دل کو پیغامِ راحت ملے

میرے دل کو پیغامِ راحت ملے

میرے دل کو پیغامِ راحت ملے

میرے دل کو پیغامِ راحت ملے

میرے دل کو پیغامِ راحت ملے

پریشاں نظر آ رہا ہے سرور

پریشانیاں کر دے سب اس کی دور

(سرور بخجوری)

☆ شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

التوبة ان تتوب من كل شيء سوى الله عزوجل .

توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا ہر چیز سے توبہ کرے (یعنی رجوع کرے)۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۵)

☆ شیخ عبداللہ بن علی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

شتان ما بین تائب يتوب من الزلات وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات . ان تین شخصوں کی توبہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ جو اپنی لغزشوں سے توبہ کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنی غفلتوں سے توبہ کرتا ہے اور تیسرا وہ جو اپنی نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۵)

☆ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی صوفی کا قول ہے۔

توبة الكذابين على اطراف الستهم، یعنی انهم يقتصرون على قولهم، استغفر الله .

کذا بین کی توبہ ان کی زبان کی نوک پر ہوتی ہے۔ ان کی مراد استغفر اللہ کہنے سے ہے۔ (یعنی وہ زبان سے توبہ یا

استغفار کہتے رہتے ہیں مگر دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا)۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۶)

☆ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

قال رجل لرابعة العدوية: انى قد اكثر من الذنوب والمعاصي، فلو تبت هل يتوب الله علي؟ فقالت: لا بل لو تاب عليك لتبت .

ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے کہا: میں نے بہت سے گناہ اور معاصی کئے ہیں۔ اب اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ انہوں نے فرمایا: اصل معاملہ یوں نہیں اصل بات یہ ہے کہ (پہلے) خدا تجھے معاف کر دے گا تو تب ہی تو توبہ کرے گا۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۹۶)

کرم کر دے کرم کر دے مرے مولا کرم کر دے
سہ کاروں گنہ گاروں پہ ہو جائے کرم یا رب
ثنا خوانی کروں تیری رہوں جب تک سلامت میں
تڑپتا ہی نہ رہ جاؤں جدائی میں خداوند!
مری جھولی بھی اپنی رحمتوں سے اے خدا بھر دے
ہم عاجز ہیں ترے بندے محبت کی نظر کر دے
تو اپنے ذکر سے مولا مجھے فرصت نہ دم بھر دے
مجھے بھی رحمۃ للعالمین کے پاس اک گھر دے
بلا کر مجھ کو روئے پہ اٹھا دیجے سبھی پر دے

(سجاد مرزا)

ایک رقت انگیز دعا

یا اللہ العلمین عزوجل! سوالی تیرے دروازے پر کھڑے ہیں، گنہگار تیری بارگاہ میں پناہ لئے ہوئے ہیں، حاجت منداپنی

حاجات پیش کر رہے ہیں، عصیاں شعاروں نے تیرے سامنے عاجزی و انکساری سے اپنے سر جھکا لئے ہیں، کوتاہی کرنے والوں کے پاس عذر پیش کرنے کے لئے دلائل ختم ہو گئے ہیں، سائلین کی کشتی تیرے بحرِ کرم کے ساحل پر کھڑی ہے، سب اس اجازت نامے کی امید کئے ہوئے ہیں جو تیری رحمت کے کنارے تک پہنچا دے، انہوں نے اپنے ہاتھ تیرے جو دو کرم کی موسلا دھار بارش کی طرف بڑھا دیئے ہیں، خائفین کے دل تیری وعیدوں کے خوف سے بے چین ہیں کہ وہ کیسے جواب دیں گے جبکہ تیرا عفو و کرم تمام بندوں کو شامل ہے، یا الہی عزوجل! اگر سائلین کو تیری بارگاہ سے ہی مردود کر دیا گیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر گنہگاروں کو تیرے ہی دروازے سے دھتکار دیا گیا تو ان کا والی کون ہوگا؟ اگر تیری بارگاہ سے دور رہنے والوں کو مایوس کر دیا گیا تو ان کا سہارا کون ہوگا؟ یا الہی عزوجل! جب تائین تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو تو ہی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

یا اللہ عزوجل! عارفین معرفت کے ذریعے تجھ تک پہنچ گئے اور عبادت کی کثرت کرنے والوں کی تیری بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ یا اللہ عزوجل! متکبرین تیرے جلال کی ہیبت سے لرزتے ہیں، ظالم و جابر تیرے کمالِ اقتدار سے کانپتے ہیں اور تیرے دیدار کی تڑپ رکھنے والے تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے راحت پاتے ہیں۔ یا اللہ عزوجل! مجہین کے جگر تیری طلب میں پاش پاش ہوئے جاتے ہیں، قیام کرنے والے تیری مناجات کی لذت سے کامیابی کا ہار پہنتے ہیں، باعمل لوگ تیرے ثواب سے نفع مند ہوتے ہیں اور ہر لمحہ تجھے پیش نظر رکھنے والے تیرے قرب میں حاضر ہوتے ہیں۔

یا اللہ عزوجل! تیری بارگاہ میں گنہگار اپنے گناہوں پر نادم، نافرمان شرمندہ ہیں، تیری کڑی نگرانی سے حیاء کے مارے سر جھکائے کھڑے ہیں، خطا کار تیری ہیبت سے خاموش ہیں، خائفین تیری عظیم طاقت سے پارہ پارہ ہو رہے ہیں، یا اللہ عزوجل! اگر تو صرف عبادت گزاروں پر رحم فرمائے گا تو خوابِ غفلت میں سونے والوں پر رحم کون کرے گا؟ یا اللہ عزوجل! اگر تو صرف باعمل بندوں پر ہی نظرِ رحمت فرمائے گا تو کوتاہوں کا کیا بنے گا؟ یا اللہ عزوجل! اپنی بارگاہ سے بھٹکے ہوؤں کو اپنی معرفت کے دروازوں کی طرف لوٹا دے اور بھٹکے ہوؤں کے دلوں کو اپنی مہربانی اور لطف و کرم کے انوار سے ہدایت عطا فرما اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! ان سب کو اپنے سایہ عفو و کرم میں داخل فرما کر ان کو اپنی مغفرت سے نواز دے۔ (آمین یا رب العالمین)

جسے چاہے ہوش میں لائے تو جسے چاہے مست پھرائے تو تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شانِ جل جلالہ نہیں راز میرا چھپا ہوا تیری چشم بندہ نواز سے ہے تیرا ہی ذکر گلی گلی تیری شانِ جل جلالہ تو ہی موت دے تو ہی زندگی تیری شانِ جل جلالہ

باب نمبر ۶

عظمت کبریٰ (جل و علا) باور ادا لمصطفیٰ (علیہ التحیۃ و الثناء)

عند الصبح والمساء

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب انسان بستر پہ سونے کے لئے جاتا ہے تو شیطان اور فرشتہ جلدی سے اس کی طرف لپکتے ہیں فرشتہ کہتا ہے تو خیر کے ساتھ سو جا، اور شیطان کہتا ہے تو برائی کے ساتھ سو فان ذکر اللہ ثم نام بات المملک یکلوف۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سویا تو رات بھر فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے (اخرجہ الحاکم فی

المستدرک، ۱/۳۳، الرقم: ۲۱۱، وابو یعلیٰ فی المسند، ۳/۳۶۲، الرقم: ۱۷۹۱)

☆ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو: رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واهدنی ویسر الہدی لی۔ وانصرنی علی من بغی علی، رب اجعلنی لک شکاراً، لک ذکاراً، لک رهاباً، لک مطواعاً، لک منخبثاً، الیک اوہامنیار رب تقبل توبتی، واغسل حوبتی۔ واجب دعوتی، وثبت حجتی وسدد لسانی، واهد قلبی، واسئل سخیمۃ صدری۔

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: (رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واهدنی ویسر الہدی لی۔ وانصرنی علی من بغی علی، رب اجعلنی لک شکاراً، لک ذکاراً، لک رهاباً، لک مطواعاً، لک منخبثاً، الیک اوہامنیار رب، تقبل توبتی، واغسل حوبتی۔ واجب دعوتی، وثبت حجتی وسدد لسانی، واهد قلبی، واسئل سخیمۃ صدری) (اے میرے پروردگار! میری مدد فرما میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، مجھے کامیاب فرما اور میرے خلاف کسی کو کامیابی نہ دے، میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف کسی کی تدبیر کارگرنہ ہو۔ مجھے ہدایت دے اور اسے میرے لئے آسان فرما۔ مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار! تو مجھے اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا، شکر گزار، بہت ڈرنے والا نہایت فرمانبردار، خوب اطاعت کرنے والا، بہت عاجزی کرنے والا، بہت گریہ و زاری کرنے والا اور تیری ہی جانب رجوع کرنے والا بنا دے۔ میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ میری دعا قبول فرما، میری دلیل کو قائم رکھ،

میری زبان کو درست رکھ، میرے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور میرے سینے کی کھوٹ نکال دے۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۵/۵۵۳، الرقم: ۳۵۵۱، وابو داؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب ما یقول الرجل اذا سلم، ۲/۸۳، الرقم: ۱۵۱۰، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الدعاء، باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۲/۱۲۵۹، الرقم: ۳۸۳۰، والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۶/۱۵۵، الرقم: ۱۰۴۴۳، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۲۲۷، الرقم: ۱۹۹۷، والبخاری فی الادب المفرد، ۲۳۱/۲۳۲، الرقم: ۶۶۳، ۶۶۴، وابن حبان فی الصحیح، ۳/۲۲۷، الرقم: ۹۴۷، والحاکم فی المستدرک، ۱/۷۰۱، الرقم: ۱۹۱۰)

میرے ہر کام میں تو کفیل
مانتا ہوں تجھے بے دلیل
نام تیرا ہے رب جلیل
جسی اللہ نعم الوکیل
جسی اللہ نعم الوکیل

جامع کلمات کی پناہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے بچھونے کاٹ لیا ہے۔ فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ کلمات کہہ لیتے تو تمہیں بچھونہ کاٹتا۔

اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق

”میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ (مکمل و جامع کلمات) کی پناہ میں آتا ہوں۔“ (اخرجه مسلم فی

الصحیح، کتاب الذکر والدعاء، باب فی التعوذ من سوء القضاء ودرک الشقاء وغیرہ، ۳/۲۰۸۱، الرقم: ۲۷۰۹)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو صبح و شام ان کلمات کے پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے۔

اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير . (یہ کلمات صبح کے وقت پڑھنے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے)

اے اللہ! تیرے فضل و کرم سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی فضل و کرم سے شام کی، تیری ہی عنایت و مہربانی سے زندہ ہیں اور تجھی پر اعتماد کرتے ہوئے دنیا سے آخرت کی طرف رخت سفر باندھیں گے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب شام ہو تو یہ کلمات پڑھے جائیں۔

اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور .

اے اللہ! تیرے فضل و کرم سے ہی ہم نے شام کی اور تیرے ہی فضل و کرم سے صبح کی ہے اور تیری ہی عنایت و مہربانی سے زندہ ہیں اور تیری ہی طرف رخت سفر باندھیں گے اور تیری ہی طرف جمع کئے جائیں گے۔

(ترمذی، ۳/۳۱۷، ۵۰۶۸)

☆ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھتے اور تین مرتبہ یہ الفاظ پڑھتے۔

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك .

اے اللہ! مجھے اس دن عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے۔ (ابو داؤد، ۳/۳۱۰، ۵۰۳۵)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

من قعد مقعد الم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة .

جو شخص اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس پہ ندامت وارد ہوگی اور جو بستر پہ لیٹا مگر ذکر خدا نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ (ابو داؤد، ۳/۲۶۳، رقم: ۳۸۵۶)

آسمانوں سے زمیں پر اپنی برکت بھیج دے
آدمی دوزخ میں ہے، تھوڑی سی جنت بھیج دے
تو کسی اچھے سے موسم کی بشارت بھیج دے
ہم پہ بھی اپنے اجالوں کی سفارت بھیج دے!
کبریا اپنے رسولوں کی محبت بھیج دے
اپنے سارے رنگ اپنی سب لطافت بھیج دے

مالکِ ارض و سما فرمانِ راحت بھیج دے
کثرتِ غم میں ذرا سا سکھ ادھوری سی خوشی
اے خدا! بادل ترے قاصد، ہوا تیری سفیر
اپنی صبحوں کو صباحتِ بخششے والے کریم!
اب نہیں ہو گا، رسولانِ محبت کا ظہور
زخمِ دل پر ہاتھ رکھ کر زندگی جب مسکرائے

(عامی کرناہلی)

ہدایت، شکر، قلب سلیم اور ثابت قدمی کی دعا

عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا ان نقول:
اللهم، انی اسألك الثبات فی الامر، واسألك عزيمة الرشد، واسألك شکر نعمتك، وحسن
عبادتک، واسألك لسانا صادقا، وقلبا سلیما، واعوذ بک من شر ما تعلم، واسألك من خیر ما
تعلم، واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب .

”حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان فرمایا: حضور نبی اکرم ﷺ ہمیں یہ کلمات سکھایا کرتے
تھے کہ ہم یوں کہا کریں: (اللهم، انی اسألك الثبات فی الامر، واسألك عزيمة الرشد، واسألك شکر
نعمتك، وحسن عبادتک، واسألك لسانا صادقا، وقلبا سلیما، واعوذ بک من شر ما تعلم،
واسألك من خیر ما تعلم، واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب) (اے اللہ! میں تجھ سے ہر کام
میں ثابت قدمی، ہدایت میں پختگی، نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق، حسن عبادت، سچی زبان اور قلب سلیم کا سوال کرتا

ہوں اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے اور ہر اس خیر کا طالب ہوں جو تیرے علم میں ہے اور ہر اس گناہ سے تیری بخشش چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے۔ بے شک تو ہر چھپی بات کا خوب جاننے والا ہے۔“ (اخرجہ الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۲۳)، ۴۷۶/۵، الرقم: ۳۳۰۷، والنسائی فی السنن، کتاب السہو، باب نوع آخر من الدعاء، ۵۳/۳، الرقم: ۱۳۰۴، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱۲۵/۳، الرقم: ۱۷۱۷۳، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۴۶/۶، الرقم: ۲۹۳۵۸، وابن حبان فی الصحيح، ۲۱۵/۳، الرقم: ۹۳۵)

بہر سو ہیں تیری قدرت کے جلوے
مرے مولا تری رحمت کے جلوے
کہیں وحدت میں ہیں کثرت کے جلوے
ہیں ان سب میں تری عظمت کے جلوے
ہیں سب موسم تری حکمت کے جلوے
ہیں مولا سب تری صنعت کے جلوے
تیری شوکت تری حشمت کے جلوے

(سجاد خن)

کہیں غم کے کہیں راحت کے جلوے
جدھر اٹھتی ہیں آنکھیں دیکھتا ہوں
کہیں کثرت سے وحدت ہے نمایاں
یہ کوہ و دشت یہ صحرا یہ گلشن
یہ گرم و سرد و خشک و تر خدایا
دھنک کے رنگ یا حسن شفق ہو
خن کیا سارا عالم دیکھتا ہے

جو شخص دن کا آغاز نیکی سے کرتا ہے

☆ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

من استفتح اول نهاره بخیر و ختمه بخیر قال الله تعالى لملائكته لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب .

جب کوئی شخص اپنے دن کا آغاز نیکی سے کرتا ہے اور اس کا اختتام بھی نیکی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے (صبح و شام کے) درمیان والے گناہ نہ لکھو۔ (اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان ۳۹۱/۵، الرقم: ۷۰۵۲، والمقدمی فی الاحادیث المختارہ، ۸۲/۹، الرقم: ۲۵)

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص صبح و شام کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات

کہے۔

اللهم انى اصبت منك فى نعمة وعافية وسترفا تمم نعمتك على وعافيتك وسترك فى الدنيا والاخرة .

اے اللہ میں نے تیری طرف سے نعمت عافیت اور پردہ پوشی میں صبح کی، پس تو مجھ پر دنیا و آخرت میں اپنی نعمت عافیت اور پردہ پوشی پوری فرما۔ کان حقا على الله تعالى ان يتم عليه اللہ تعالیٰ اس پر (یہ نعمتیں) ضرور پوری فرماتا

ہے۔ (اخرجہ انسانی فی عمل اللیل والیوم، ۵۲/۱، الرقم ۵۵، والنودی فی الاذکار من کلام سید الابرار، ۷۹)

قدرت نے کیا رنگ جمائے
تاروں کی محفل بھی سجائی
سورج چاند کی عظمت دیکھو
ہم مخلوق ہیں وہ ہے خالق
وہ ہے پالن ہار ہمارا
دین کی دولت اُس نے دی ہے
اس نے ہم کو نور دیا ہے

گلشن گلشن پھول کھلائے
اس میں کی خود جلوہ نمائی
ان میں خدا کی حکمت دیکھو
جو سب دُنیا کا ہے رازق
ہم پر لازم شکر ہے اُس کا
خاص عنایت ہم پر کی ہے
نور کے ساتھ سُرور دیا ہے

(سرور بخجوری)

ہر خیر کا سوال اور ہر شر سے پناہ

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یدعو: اللہم احفظنی بالاسلام قائماً، واحفظنی بالاسلام قاعداً، واحفظنی بالاسلام راقداً، ولا تشمت بی عدوا حاسداً، واللہم، انی اسالک من کل خیر خزائنه بیدک، واعوذ بک من کل شر خزائنه بیدک.

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: (اللہم احفظنی بالاسلام قائماً، واحفظنی بالاسلام قاعداً، واحفظنی بالاسلام راقداً، ولا تشمت بی عدوا حاسداً، واللہم، انی اسالک من کل خیر خزائنه بیدک، واعوذ بک من کل شر خزائنه بیدک) (اے اللہ! کھڑے، بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) مجھے اسلام پر قائم رکھ، اور میری مصیبت پر میری حاسد دشمن کو خوش نہ کر اور اے اللہ! میں تجھ سے تمام خوبیاں اور بھلائیاں مانگتا ہوں جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور میں تمام برائیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں)۔“ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک، کتاب الدعاء، والتکبیر والتہلیل والتسبیح والذکر، ۷۰۶/۱، الرقم: ۱۹۲۳، وابن حبان عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی الصحیح، ۲۱۳/۳، الرقم: ۹۳۳، وابن ابی عاصم فی السنۃ، ۱۶۶/۱، الرقم: ۳۷۷، وابن فضیل فی الدعاء، ۲۳۶/۱، الرقم: ۷۵، والطبرانی فی الدعاء، ۲۲۶/۱، الرقم: ۱۳۳۵)

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم، انفعنی بما علمتني وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علماً بالحمد لله علی کل حال واعوذ بالله من حال اهل النار

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے یہ دعا فرمائی: (اللهم، انفعنی بما علمتني وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علماً الحمد لله علی کل حال واعوذ بالله من حال اهل النار) (یا اللہ! مجھے جو علم تو نے عطا فرمایا ہے اسے میرے لئے نفع بخش بنا دے اور مجھے (مزید) نفع بخش علم عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں اہل دوزخ کے حال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب فی العفو والعافیة، ۵/۵۷۸، الرقم: ۳۵۹۹، وابن ماجہ فی السنن، المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، ۱/۹۲، الرقم: ۲۵۱، وایضاً فی کتاب الدعاء، باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۲/۱۲۶۰، الرقم: ۳۸۴۳)

ذات والا تیری بے نیاز
تجھ کو کہتے ہیں بندہ نواز
جس کو چاہے کرے سرفراز
ملک تیری کثیر و قلیل
حسبی اللہ ونعم الوکیل

شہادت کی موت اور فرشتوں کا درود

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص اعوذ باللہ السميع العليم من الشطين الرجيم۔ تین مرتبہ اور سورۃ حشر (پارہ نمبر ۲۸) کی آخری آیات طیبات تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔
وکل اللہ بہ سبعین الف ملک يصلون علیہ حتی یمسی وان مات فی ذلك الیوم مات شهیداً۔
اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شخص اس دن مر جائے تو شہید ہوگا۔ ومن قالها حین یمسی کان بتلك المنزله اور جو شخص شام کے وقت پڑھے اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ (ترمذی، ۲۲، ۵/۱۵۷، ۲۹۴۲)

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جب دو محافظ (فرشتے) اللہ تعالیٰ کی طرف رات یا دن کے عمل پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شروع و آخر میں نیکی لکھی ہوئی ہے تو وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: اشهدکم انی قد غفرت لبعبد ما بین طرفی الصحیفۃ
گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو اس صحیفہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہیں۔ (ترمذی، ۹، ۳/۳۱۰، ۹۸۱)

صحت ایمان اور اخلاقِ حسنہ کی دعا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصی سلمان الخیر قال:
ان نبی اللہ علیہ السلام یرید ان یمنحك کلمات تسألن الرحمن ترغب الیہ فیہن وتدعو بہن

بالليل والنهار قال: اللهم انى اسالك صحة ايمان وايماننا فى خلق حسن ونجاحا يتبعه فلاح،
يعنى ورحمة منك وعافيه ومغفرة منك ورضوانا .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو بھلائی کی وصیت کی اور فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کا نبی چاہتا ہے کہ تجھے ایسے کلمات عطا فرمائے جن کا تو رحمان سے سوال کرے گا، اور ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی رغبت اختیار کرے گا اور ان کے ذریعے تو دن رات دعائے مانگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا (ان الفاظ میں) بیان فرمائی: (اللهم انى اسالك صحة ايمان وايماننا فى خلق حسن ونجاحا يتبعه فلاح، يعنى ورحمة منك وعافيه ومغفرة منك ورضوانا) (اے اللہ! میں تجھ سے ایمان کی صحت، اچھے اخلاق میں ایمان اور ایسی کامیابی کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد فلاح عافیت اور تیری مغفرت اور خوشنودی ہے)۔ (اخرجہ احمد بن حنبل فى المسند، ۳۲۱/۲، الرقم: ۸۲۵۵، والنسائی فى السنن الكبرى، ۹/۶، ۱۲۶، الرقم: ۹۸۳۹، ۱۰۳۰۳، وابن راهويه فى المسند، ۳۳۶/۱، الرقم: ۳۲۷، والطبرانى فى المعجم الاوسط، ۱۳۲/۹، الرقم: ۹۳۳۳، والحاكم فى المستدرک، ۷۰۳/۱، الرقم: ۱۹۱۹)

☆ عن على رضى الله تعالى عنه قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: اللهم افتح مسامع قلبى لذكرك، وارزقنى طاعتك، وطاعة رسولك، وعملا بكتابك .
”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (یہ) دعا سکھائی۔ (اللهم، افتح مسامع قلبى لذكرك، وارزقنى طاعتك، وطاعة رسولك، وعملا بكتابك) (اے اللہ! اپنے ذکر کے لئے میرے دل کے کان کھول دے اور مجھے اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنی کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرما)۔ (اخرجہ الطبرانى فى المعجم الاوسط، ۷۲/۲، الرقم: ۱۲۸۶، وايضاً، ۲۸۹/۵، الرقم: ۵۲۲۱، وايضاً فى الدعاء، ۳۲۸/۱، الرقم: ۱۳۵۱، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ۱۸۲/۱۰)

تیرے قبضے میں ہے کائنات تیری تابع حیات وممات
مجھ کو رہتی ہے فکر نجات کوئی بن جائے ایسی سبیل
حسبى الله ونعم الوكيل

حدیث کی صحت پہ یقین کامل

حضرت ابان بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو روزانہ صبح وشام یہ (مندرجہ ذیل) کلمات تین مرتبہ کہے اسے کوئی چیز ضرر نہیں دے گی۔

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم .
(اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب

سننے والا اور اچھی طرح جاننے والا ہے۔)

اس حدیث میں ہے کہ خود حضرت ابان پہ فالج کا حملہ ہو گیا تو ایک شخص ان کی طرف (حیرت سے) دیکھنے لگا (مطلب اس کے دیکھنے کا یہ تھا کہ آپ ہی نے تو یہ دعا روایت کی ہے کہ جس میں ہے یہ دعا پڑھنے والا ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے پھر آپ کو یہ فالج کا ٹیک کیسے ہو گیا۔ آپ نے مومنانہ فراست سے اس کا خیال بھانپ لیا اور فرمایا:

ما تنظر ان الحدیث کما حدثتک ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ .

کیا دیکھتا ہے؟ حدیث اسی طرح ہے جس طرح میں نے بیان کی ہے لیکن اس (فالج کے حملے کے) دن (میں نے یہ دعا) نہیں پڑھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنی تقدیر پوری فرمائے۔ (ترمذی ۴۶۵/۵، ابوداؤد، ۴۲۳/۳،

۵۸۰، ابن ماجہ، ۱۲۷۳/۲، ۳۸۶۹)

مکان اک اور درون مکان بھی تیرا ہے
جہاں بھی تیرا ہے کار جہاں بھی تیرا ہے
دیا ہوا یہ غم دو جہاں بھی تیرا ہے
مجھے نصیب مگر آستاں بھی تیرا ہے
دیارِ حزن بھی دارالاماں بھی تیرا ہے
یہاں بھی تیرا سہارا وہاں بھی تیرا ہے
مگر اثنائے لفظ و بیاں بھی تیرا ہے

نظر کے پردے میں سوزِ نہاں بھی تیرا ہے
یہ بوئے گل بھی تری گلستاں بھی تیرا ہے
میں کیوں نہ چاہوں غم دو جہاں کا تجھ سے علاج
میں ناز کیا کروں اپنے وجودِ پیہم پر
یہ دیکھنا ہے کہ اُن میں سے کیا عطا ہو مجھے
پناہ بھی میری بخشش بھی منحصر تجھ پر
وقارِ اثنائے لفظ و بیاں پہ کرتا ہے ناز

(وقار مانوی)

مجھے ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے بلا واسطہ آقا علیہ السلام سے سنی ہو

حضرت ابو سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حمص کی مسجد میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس سے گذرا (جس کے بارے میں لوگوں نے کہا۔ هذا خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں وہ ان کی طرف (ذوق و شوق سے) کھڑے ہوئے اور عرض کی: حدثنی بحديث سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يتدا وله بينك وبينه الرجال۔ مجھے ایسے حدیث سنائیے جو آپ نے حضور ﷺ سے براہِ راست، بلا واسطہ خود (بہ نفس نفیس) سنی ہو کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے درمیان لوگوں کا واسطہ نہ ہو، انہوں نے فرمایا:

سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول . من قال اذا اصبح واذا امسى رضينا بالله ربا
وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاً كان حق على الله ان يرضيه .

میں نے خود بہ نفس نفیس نبی اکرم ﷺ سے بغیر کسی واسطے کے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا: جس نے صبح و شام یہ (مندرجہ بالا) کلمات پڑھ لئے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لازم کر لیتا ہے کہ اس کو راضی کرے۔ (کلمات کا ترجمہ یہ ہے) میں

اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد مصطفیٰ ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہوں

(ترمذی، ۴۶۵/۵، ۳۳۸۹)

☆ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام سات مرتبہ یہ (مندرجہ ذیل) کلمات پڑھتا ہے تو (اللہ تعالیٰ) اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے (کلمات یہ ہیں)

حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
مجھے اللہ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

(ابو داؤد، ۳۲۱/۴، ۵۰۸۱)

☆ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا استکثرو من الباقیات الصالحات۔ باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا گیا حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اللہ اکبر، لا اله الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد لله اور لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا۔ (صحیح ابن حبان، ۳/۱۲۱ رقم ۸۴۰، مسند، ۳/۵۵ رقم ۱۱۷۳۱)

میرا اللہ خدائے برتر ہے
اُس نے پیدا کیا ہر اک شے کو
ہر کسب کو ہے رزق پہنچاتا
انبیاء بھیج کر یہ دی ہے تمیز
اس کے پیش نگاہ ہے ہر پل
اب سے انصاف ہر کوئی پائے
ہے رحیم و کریم وہ ایسا
دو جہاں اُس کے تابع فرماں
بخش دے وہ خطا چھپائے عیب
اس کا وہ ہے نہ جس کا ہو کوئی
اس نے مجھ پر کرم کی بارش کی
تیرا ناصر خدا ہے جب الیاس

کوئی ثانی نہ اُس کا ہمسر ہے
ماہ و خورشید بحر یا بر ہے
چاہے بہتر ہے یا وہ کتر ہے
کس کو کہتے ہیں خیر کیا شر ہے
ہے عیاں کوئی شے کہ مضمحل ہے
ہے وہ مفلس کہ صاحب زر ہے
جس کی رحمت کا ہاتھ سب پر ہے
اعلم الحاکمین ہے وہ داور ہے
اس کی بخشش بیاں سے باہر ہے
وہ تو ہر بے نوا کا یاور ہے
آنکھ جب بھی مری ہوئی تر ہے
تجھ کو اعدا کا کس لئے ڈر ہے

(محمد الیاس)

بوڑھوں اور کمزوروں کے لئے

عن ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا قالت: مر بی ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقلت: یا رسول اللہ، انی قد کبرت وضعفت او کما قالت: فمرنی بعمل اعمله وانا جالسة۔ قال:

سبحی اللہ مائة تسبیحة فانها تعدل لك مائة رقبة تعتقینها من ولد اسماعیل واحمدی اللہ مائة
تحمیدة تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة تحملین علیها فی سبیل اللہ وکبری اللہ مائة تكبیرة
فانها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة وهللی اللہ مائة تهلیلة، قال ابن خلف: احسبه قال: تملأ ما
بین السماء والارض، ولا یرفع یومئذ لا حد عمل الا ان یاتی بمثل ما اتیت به

”حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا: یا رسول
اللہ! میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں یا اسی طرح کا کوئی لفظ کہا۔ آپ ﷺ مجھے ایسا عمل بتائیں جسے میں بیٹھ کر کرتی
رہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو ایک سو دفعہ سبحان اللہ کہہ، یہ تیرے لئے اولاد اسماعیل میں سے ایک سو غلام آزاد
کرنے کے برابر ہوگا۔ ایک سو دفعہ الحمد للہ کہہ، یہ تیرے لئے ایک سو کاٹھی اور گام والے گھوڑوں کے برابر ہوگا جنہیں
تو اللہ کی راہ میں سواری کے لئے دے گی اور ایک سو دفعہ اللہ اکبر کہہ یہ تیرے لئے ایک سو قربانی کے اونٹ دینے کے
برابر ہوگا جو پٹے والے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں اور ایک سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ۔ ابن خلف کہتے ہیں: میرا خیال
ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ آسمان وزمین کے خلاء کو بھر دے گا اور تجھ سے بڑھ کر کسی شخص کے عمل آسمان کی طرف
نہیں اٹھیں گے، سوائے اُس کے جو تجھ جیسا عمل کرے۔“ (اخرجه النسائی فی السنن الکبری، ۶/۲۱۱، الرقم:
۱۰۶۸۰، وفی عمل الیوم واللیلة، ۱/۴۸۶، الرقم: ۸۴۳، واحمد بن حبل فی المسند، ۶/۳۳۳، الرقم: ۲۶۹۵۶،
والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۲۳/۴۱۳، الرقم: ۱۰۰۸)

☆ عن النعمان بن بشیر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان مما تذکرون من جلال
اللہ التسبیح والتہلیل والتحمید ینعطفن حول العرش لهن دوی کدوی النحل تذکر بصاحبها
اما یحب احدکم ان یكون له او لا یزال له من یدکر به .

”حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خدائے ذوالجلال کا تسبیح، تہلیل اور تحمید کی
صورت میں تم جو ذکر کرتے ہو وہ عرش کے پاس گھومتا رہتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سے شہد کی مکھیوں کی طرح آواز
نکلتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ذاکر کا ذکر کرتا رہتا ہے، کیا تم میں سے ہر کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے ہمیشہ اللہ
تعالیٰ کی یاد دلاتا رہے۔“ (اخرجه ابن ماجہ فی السنن، کتاب: الادب، باب: فضل التسبیح، ۲/۱۲۵۲، الرقم:
۳۸۰۹، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۶/۵۴، الرقم: ۲۹۴۱۵، والبزار فی المسند، ۸/۱۹۹، الرقم: ۳۲۳۶،
والحاکم فی المستدرک، ۱/۶۷۸، الرقم: ۱۸۴۱، وابو نعیم فی حلیة الاولیاء، ۳/۲۶۹، والمنذری فی الترغیب
والترہیب، ۲/۲۸۱، الرقم: ۲۳۰۶)

اسی کے جود و فضل کی ہر ایک میں لکیر ہے
غریب اک رئیس ہے فقیر اک امیر ہے

مرا خدا رحیم ہے کریم ہے قدیر ہے
اگر ہو قسمت رسا اگر ہو بارشِ کرم

جو لحدانہ سوچ کا منافقت امیر ہے
حفیظ ہے وکیل ہے غفور ہے بشیر ہے
ادھر ترے وجود پر گواہ خود ضمیر ہے
سوال عاجزی فقط عنایت کثیر ہے

مرے خدا کی ذات پر یقین وہی نہ لا سکا
نجات کی سبیل ہے اسی کی مدحت و ثنا
تری خبر ملی ہمیں ادھر لب رسول سے
امیر اور غریب کا ترے سوا کوئی نہیں

(انور ظہوری)

حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الا اخبرکم بوصیة نوح ابنہ، کیا میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ضرور بتائیں یا رسول اللہ! فرمایا: فقال لا بنہ یا بنی انی اوصیک باثنین وانہاک عن اثنین اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں دو کاموں کا حکم دیتا ہوں۔

(۱) اوصیک بقول لا الہ الا اللہ فانہا لو وضعت فی کفة ووضعتم السماوات والارض فی کفة لرحجت بہن۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آسمان وزمین دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ان الفاظ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔

(۲) ولو كانت حلقة لقصمتہن حتی تخلص الی اللہ اور اگر زمین و آسمان دائرے کی طرح بھی ہوں تو یہ کلمہ

انہیں چیرتا ہوا سیدھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی۔ (مسند احمد ۱۶۹/۲، ۱۵۸۳)

اس کا شریک ہو کوئی کس کی مجال ہے
رقعیاں ہر آئینے میں اسی کا جمال ہے
اس کا جلال ہے کہیں اس کا جمال ہے
ہر ذرہ حیات عدیم الشال ہے
اک نام ذوالجلال ہے جو لازوال ہے
رحمت سے اُس کی یہ دل مضطر نہال ہے
ماتھے پہ میرے جو عرق انفعال ہے

دونوں جہاں کا مالک کل بے مثال ہے
آئینہ گر کی یہ بھی تو حد کمال ہے
جلوہ وہ طور پر ہو یا عرشِ علیٰ پہ ہو
تخلیقِ آدمی کی ہے شہکار کبریا
فانی ہر ایک سے ہے جہانِ حیات کی
لکھی ہے جب سے حمد خدائے کریم کی
احساسِ معصیت سے پشیمان ہوں میں جمیل

(جمیل عظیم)

تمام معاملات میں احسن انجام کی دعا

عس بسر بن ارطاة القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یدعو: اللہم، احسن عالبتنا فی الامور کلہا واجرنا من عزی الدنیا و عذاب الآخرة.

”حضرت بسر بن ارطاة القرظی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو (یہ) دعا فرماتے سنا:
(اللهم، احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة) (اے اللہ! ہمارے
تمام معاملات کا انجام احسن طریقے سے فرما، اور ہمیں دنیا کی ندامت اور آخرت کے عذاب سے بچا)۔“ (اخرجه
احمد بن حنبل فی المسند، ۱۸۱/۳، الرقم: ۱۷۶۵، وابن حبان فی الصحيح، ۲۲۹/۳، الرقم: ۹۳۹، وابن ابی
عاصم فی الآحاد والمثنی، ۱۳۹/۲، الرقم: ۸۵۹، والحاکم فی المستدرک، ۲۸۳/۳، الرقم: ۶۵۰۸، والطبرانی فی
المعجم الكبير، ۳۳/۲، الرقم: ۱۱۹۸، وایضاً فی الدعاء، ۳۲۳/۱، الرقم: ۱۳۳۶)

☆ عن النواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقول: ما من قلب الابین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء ازاعه وكان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: یا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک قال: والمیزان
بیدا لرحمان یرفع اقواماً ویخفض آخرین الی یوم القيامة۔

”حضرت نواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا:
ہر (شخص کا) دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، خواہ وہ اسے سیدھا رکھے خواہ وہ اسے ٹیڑھا کر دے اور حضور
نبی اکرم ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: (یا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک) (اے دلوں کے قائم رکھنے
والے! ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین پر قائم رکھ۔) اور فرمایا: میزان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کچھ قوموں کو (ان
کے اچھے اعمال کے باعث) عروج عطا فرماتا ہے اور کچھ اقوام کو (ان کے ناپسندیدہ اعمال کے باعث) قیامت تک
پست فرماتا رہے گا۔“ (اخرجه ابن ماجه فی السنن، المقلمة، باب فیما انکرت الجہمیة، ۷۲/۱، الرقم: ۱۹۹،
والنسائی فی السنن الكبرى، ۳۱۳/۳، الرقم: ۷۷۳۸، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱۸۲/۳، الرقم: ۱۷۶۷، وابن
حبان فی الصحيح، ۲۲۲/۳، الرقم: ۹۳۳، وعبد الرزاق فی المصنف، ۳۲/۱۰، الرقم: ۱۹۶۳۶، والحاکم فی
المستدرک، ۳۵۷/۳، الرقم: ۷۹۰۷، والکنانی فی مصباح الزجاجة، ۲۷/۱، الرقم: ۶۹)

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک شخص کو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے سنا: یا ذا الجلال
والاکرام، تو فرمایا استجیب لك فسل۔ تیری دعا قبول ہوگی اب مانگ لے (جو بھی مانگ سکتا ہے)۔
(ترمذی، ۵۳۱/۵، ۳۵۲۷)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ مریض کے لئے فرمایا کرتے تھے:

بسم اللہ تربة ارضنا وریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔

اللہ کے نام سے شفا طلب کر رہا ہوں، ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کا لعاب اللہ کے حکم سے ہمارے مریض

کو شفا دیتا ہے۔ (بخاری ۵/۲۱۶۸، ۵۳۱۳، مسلم، ۳/۱۷۲۳، ۲۱۹۳)

کر عطا مجھ کو قلب سلیم بخش ، زاد رہ مستقیم
سرد ہو جائے نارِ جحیم بہر نام حبیب و خلیل
حسبی اللہ ونعم الوکیل

یا اللہ! ہمیں ہدایت والے بنادے

عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو: اللہم، بعلمک الغیب، وقدرتک علی الخلق، احنینی ما علمت الحیاة خیرالی، وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرالی، واسألك خشیتک فی الغیب والشہادة وکلمة الاخلاص فی الرضا والغیب، واسألك نعیمًا لا ینفد، وقرۃ عین لا تنقطع، واسألك الرضا بالقضاء، وبرد العیش بعد الموت، ولذۃ النظر الی وجهک، والشوق الی لقائک، واعوذبک من ضراء مضرۃ وفتنة مضلة، اللہم، زینا بزینة الایمان واجعلنا ہدایة مہتدین .

”حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: (اللہم، بعلمک الغیب، وقدرتک علی الخلق، احنینی ما علمت الحیاة خیرالی، وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرالی، واسألك خشیتک فی الغیب والشہادة وکلمة الاخلاص فی الرضا والغیب، واسألك نعیمًا لا ینفد، وقرۃ عین لا تنقطع، واسألك الرضا بالقضاء، وبرد العیش بعد الموت، ولذۃ النظر الی وجهک، والشوق الی لقائک، واعوذبک من ضراء مضرۃ وفتنة مضلة، اللہم، زینا بزینة الایمان واجعلنا ہدایة مہتدین) (اے اللہ! اپنے علم غیب، اور مخلوق پر اپنی قدرت کے واسطے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے، اور مجھے موت عطا کر جب تو جانے کہ موت میرے حق میں بہتر ہے۔ میں حاضر و غیب میں تجھ سے تیری خشیت، رضا و غضب میں کلمہ اخلاص کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھ کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی بھی منقطع نہ ہو اور تیرے فیصلے پر رضا کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد پرسکون زندگی کا، اور تیرے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے اشتیاق کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر نقصان دہ مصیبت اور ہر گمراہ کن فتنہ سے، اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر اور ہمیں ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ بنا۔ (اخر جہ النسانی فی السنن، کتاب السہو، باب نوع آخر، ۵۵/۳، الرقم: ۱۳۰۶، وایضاً فی السنن الکبری، ۳۸۸/۱، الرقم: ۱۲۲۹، وابن حبان فی الصحیح، ۳۰۳/۵، الرقم: ۱۹۷۱، وعبد الرزاق فی المصنف، ۳۳۲/۱۰، الرقم: ۱۹۶۳۷، وابن ابی شیبۃ فی المصنف، ۳۳/۶، الرقم: ۲۹۳۳۶، وابن ابی عاصم فی الأحاد والمثنائی، ۲۱۰/۱، الرقم: ۲۷۶، والحاکم فی المستدرک، ۷۰۵/۱، الرقم: ۱۹۲۳)۔

خلق فانی ہے تو لازوال بے بدل شان جاہ و جلال

چھین لے خواہ اولاد و مال ہے کے جرات قال و قیل

حسبی اللہ ونعم الوکیل

ہم نے اور اللہ کے ملک نے صبح و شام کی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے:

امسینا وامسی الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم انى اسئلك من خير هذه الليلة وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم انى اعوذ بك من الكسل والهزم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر .

”ہم نے شام پائی اور اللہ کے ملک نے شام پائی سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اس اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک بھی اسی کا ہے حمد بھی اسی کے لئے ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ! میں تجھ سے اس رات کی اور جو اس رات میں ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس رات کی اور جو اس میں شر ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، الہی! میں سستی، بڑھاپے، زیادتی عمر، دنیا کے فتنوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔“

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے امسینا وامسی کی جگہ یہ الفاظ پڑھتے اصبحنا واصبح الملك لله۔ ہم نے اور اللہ کے ملک نے صبح کی..... اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں رب انى اعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر۔ یا اللہ! آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ باقی تمام الفاظ وہی ہیں جو شام کی دعا میں گذرے۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب ما یقول عند الصباح والمساء والمنام)

ایک اور روایت میں سوء الکبر کے بعد الکفر اور تیسری روایت میں والکبر یعنی تکبر سے پناہ مانگتا ہوں کے الفاظ ہیں

(رواہ ابو داؤد والترمذی ولم یذکر من سوء الکفر)

ہستی کو امکان در امکان تو نہ کرے تو کون کرے
بست کشاد گردش دوراں تو نہ کرے تو کون کرے
تکرار انعام بہاراں تو نہ کرے تو کون کرے
بے جانوں میں پھر پیدا جاں تو نہ کرے تو کون کرے
تو منان ہے اس پر احساں تو نہ کرے تو کون کرے

دن کو منور شب کو فروزاں تو نہ کرے تو کون کرے
مجبوروں پر لطفِ فروزاں تو نہ کرے تو کون کرے
ترنمین و تہذیب گلستاں تو نہ کرے تو کون کرے
نظمِ سحاب و باد و باراں تو نہ کرے تو کون کرے
جعفر کی بخشش کا سماں تو نہ کرے تو کون کرے

(جعفر بلوچ)

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں

عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: لا اقول لكم الا كما كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول، كان يقول: اللهم، انى اعوذبك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم، آت نفسى تقواها، وزكها انت خير من زكاهها، انت وليها ومولاها. اللهم، انى اعوذبك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم سے صرف وہی کچھ بیان کرتا ہوں جو حضور نبی اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: (اللهم، انى اعوذبك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم، آت نفسى تقواها، وزكها انت خير من زكاهها، انت وليها ومولاها. اللهم، انى اعوذبك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها) (اے اللہ! میں عجز، سستی، بزدلی، بخل، بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما، اسے پاک فرما دے، تو سب سے بہتر پاک فرمانے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولیٰ ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جس میں (تیری) خشیت نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو شرف قبولیت سے محروم ہو)۔“ (اخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، ۲۰۸۸/۴، الرقم: ۲۷۲۲، والنسائی فى السنن، كتاب الاستعاذه، باب الاستعاذه من العجز، ۲۶۰/۸، الرقم: ۵۲۵۸، وايضاً فى السنن الكبرى، ۳۵۰/۳، الرقم: ۷۸۹۵، واحمد بن حنبل فى المسند، ۳۷۱/۳، الرقم: ۱۹۳۲۷، وايضاً فى الزهد/۲۸۷، وعبد بن حميد فى المسند، ۱۱۳/۱، الرقم: ۲۶۷، والطبرانى فى المعجم الكبير، ۲۰۱/۵، الرقم: ۵۰۸۵، والبيهقى فى المدخل الى السنن الكبرى، ۳۱۳/۱، الرقم: ۳۸۳)

☆ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام رات کو جب اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے پھر کہتے اللهم باسمك اموت واحى۔ الہی! میں تیرے نام کے ساتھ مروں اور جیوں اور جب بیدار ہوتے عرض کرتے۔ الحمد لله الذى احيا نا بعد ما اماتنا واليه النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرجانے کے بعد زندہ فرمایا اور اس کی طرف اٹھنا ہے۔ (رواه البخارى ومسلم . مشكوة)

تیری رحمت نے دی جب پناہ ہاتھ آئی حقیقت کی راہ
ہو گئی جب کرم کی نگاہ بن گئے بے خرد بھی عقیل
حسبى الله ونعم الوكيل

زندگی با اصول اچھی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پہ جائے تو اپنے تہ بند

داخل پلو سے بستر جھاڑے، اسے کیا معلوم کہ بستر پہ کیا چیز پڑی ہے پھر یوں کہے۔

باسمك ربى وضعت جنبى وبك ارفعه ان امسكت نفسى فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين .

”اے اللہ! میں تیرے ہی نام پہ اپنا پہلو رکھ رہا ہوں اور تیرے ہی نام پہ اٹھاؤں گا، اگر آج میری جان تو قبض کرے تو اس پر رحم فرماتا اور اگر واپس بھیجے تو اس کی حفاظت فرماتا اس چیز سے کہ جس سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔“

ایک روایت میں ہے ”پھر اپنی داہنی کروٹ پہ لیٹ جاتے اور (مندرجہ بالا دعا) پڑھتے۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”پھر اپنے کپڑے کے پلو سے تین بار بستر کو جھاڑے اور (مندرجہ بالا دعا میں فارحمها کی جگہ) فاغفر لها (پس اے اللہ اسے بخش دے) پڑھے۔“ (مشکوٰۃ)

نبی اکرم ﷺ اپنی امت پہ کس قدر مہربان ہیں کہ عموماً جو باتیں والدین بھی اپنی اولاد کو کم ہی بتاتے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ بھی بتادیں کہ بستر جھاڑ کر سویا کرو، جوتا ایسے پہنو، ایسے اتارو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے نظارے ہیں یقیناً کوئی بندہ ان عادی کاموں کو بھی حضور علیہ السلام کا حکم سمجھ کر کرے گا تو ثواب کا خقदार ہو جائے گا۔

خدا سے جو بھی مانگو تم بنام مصطفیٰ مانگو ارے او مانگنے والو مدینے کی دعا مانگو
خدائی کے خزانے خود نبی تقسیم کرتے ہیں چلو تم بھی نیازی ان سے رحمت کی عطا مانگو

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثران يدعو: اللهم، انى اسألك الصحة، والعفة، والامانة، وحسن الخلق، والرضا بالقدر .

”حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: (اللهم، انى اسألك الصحة، والعفة، والامانة، وحسن الخلق، والرضا بالقدر) (اے اللہ! میں تجھ سے صحت، عفت، امانت، حسن خلق اور راضی بہ تقدیر رہنے کا سوال کرتا ہوں)۔“

اس حدیث کو امام بخاری نے ”الادب المفرد“ میں، طبرانی اور بیہقی سے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے فرمایا: اس کی سند میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم راوی ہے اسے ثقہ قرار دیا گیا ہے اور دو سندوں میں سے ایک کے بقیہ رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔

(اخرجه البخارى فى الادب المفرد، باب من دعا الله ان يحسن خلقه، ۱/۱۱۵، الرقم: ۳۰۷، والطبرانى فى الدعاء،

۱/۴۱۵، الرقم: ۱۳۰۶، والبيهقى فى شعب الايمان، ۲/۳۶۳، الرقم: ۸۵۳۰، واللالكاني فى اعتقاد اهل السنة،

۳/۲۵۲، الرقم: ۱۱۸۵، وابن السرى فى الزهد، ۱/۲۵۶، الرقم: ۴۳۵، والديلمى فى مسند الفردوس، ۱/۳۵۶،

الرقم: ۱۸۵۲، والخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد، ۱۲۱/۱۲، الرقم: ۶۵۷۱، وابن عساکر فی تاریخ مدینة دمشق،

۶۵/۵۲، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۱۷۳

اک تیرے امر کی ذوالفقار صورت خنجر آب دار
چھپ کے ہر سمت کرتی ہے وار سب زمانہ شہید و قتل
حسبی اللہ ونعم الوکیل

فطرت (اسلام) پہ موت نصیب ہو

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی داہنی کروٹ پہ لیٹتے اور یہ کلمات پڑھتے:

اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك
رغبة ورهبة اليك لا ملجاء لا منجأ الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونيك الذي ارسلت .
”الہی! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا کام تیرے سپرد کیا، تیرے کرم پر ٹیک
لگائی تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھی سے ڈرتے ہوئے۔ نہ کہیں پناہ ہے نہ رہائی سوائے تیری طرف کے۔
میں تیری اتاری ہوئی کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پہ ایمان لایا۔“

حضور علیہ السلام نے فرمایا: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة۔ جو یہ کلمات کہہ لے پھر اسی رات مر
جائے تو فطرت یعنی ایمان پر مرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا اے فلاں! جب تو اپنے بستر پہ
جائے تو نماز کا سا وضو کرے پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے پھر اللهم اسلمت نفسي اليك سے لیکر ارسلت تک پڑھے، اگر اسی
رات مر گیا تو فطرت (اسلام) پہ مرے گا اور اگر صبح پائے گا تو بھلائی حاصل کرے گا۔ (متفق علیہ، مشکوٰۃ)
ایک روایت میں ہے کہ اس کلام کو اپنا آخری کلام بناؤ۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض
کرتے

الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا موى .
اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، بچایا اور ہمیں پناہ دی کیونکہ بہت وہ ہیں جنہیں نہ کوئی بچانے والا ہے اور نہ کوئی
پناہ دینے والا (رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ)

دے رہا ہے جو بے دعا مانگے
تخت مانگے نہ بوریا مانگے
جو گنہ گار ہو وہ کیا مانگے
مانگنے والا اس سے کیا مانگے
بندہ اللہ کی رضا مانگے
رحمت و فضل کبریا مانگے

جب بھی انسان کوئی دعا مانگے
شیشہٴ دل جو پھر جلا مانگے
تیری رحمت کا آسرا مانگے
اس کے ملنے کا جو پتہ مانگے

دردِ دل میں ہو عاجزی لب پر
نہ بڑھاؤ کدورتیں اتنی
یہ خطا کار و بندۂ عاصی
کہہ دو شوقی! وہ دل میں رہتا ہے

(وجاہت شوقی)

حضور علیہ السلام یہ کلمات سکھایا کرتے تھے

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمنا هن كما يعلمنا التشهد: اللهم الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبا الفواحش ما ظهر منها، وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا، وابصارنا، وقلوبنا، وازواجنا، وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا .

”حضرت عبد اللہ (بن مسعود رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ہمیں اور کلمات بھی سکھائے تھے لیکن وہ اس طرح نہیں سکھائے تھے جیسے تشہد سکھایا (اور وہ کلمات یوں ہیں): (اللهم الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبا الفواحش ما ظهر منها، وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا، وابصارنا، وقلوبنا، وازواجنا، وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا) (اے اللہ! ہمارے دلوں میں محبت ڈال اور ہمارے درمیان صلح و صفائی رکھ اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اجالے سے اندھیرے کی طرف جانے سے بچا اور ہمیں ظاہری و باطنی بے حیائیوں سے دور رکھ اور ہمارے لئے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے اور ہمیں اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے والا اس کی ثناء بیان کرنے والا، اس کا اہل بنا اور اسے ہم پر مکمل فرما۔“ (اخرجه ابو داؤد في السنن، كتاب الصلاة، باب التشهد، ۲۵۳/۱،

الرقم: ۹۶۹، وابن ابی شیبۃ فی المصنف، ۶۷/۶، الرقم: ۲۹۵۲۳، وابن حبان فی الصحيح، ۲۷۷/۳، الرقم: ۹۹۶، والطبرانی

فی المعجم الكبير، ۱۹۱/۱۰، الرقم: ۱۰۳۲۶، وايضا في الدعاء، ۳۲۲/۱، الرقم: ۱۳۲۹)

التجا ہے یہ پروردگار موت کرتی رہے انتظار
دیکھوں سرکار کو بار بار رو برو ہو وہ شکل جمیل

حسبی اللہ ونعم الوکیل

صدیق اکبر رسول اعظم سے سوال کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مرنی بشنی اقولہ اذا اصبحت وامسیت۔ مجھے کوئی ایسے کلمات ارشاد فرمادیں جو میں صبح و شام پڑھ لیا کروں فرمایا! یہ پڑھا کرو

اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السموات والارض رب كل شىء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشره .

”اے اللہ! اے کلی چھپی چیزوں کے جاننے والے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور اے ہر چیز کے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس اور شیطان کی شرارت و شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“
حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

قله اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعك

یہ کلمات صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو (ترمذی، ابو داؤد، دارمی، مشکوٰۃ)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رات کو جب اپنے بستر پہ آرام فرمانے کے لئے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان پہ سورۃ اخلاص، الفلق، الناس پڑھ کر دم کرتے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسد اقدس پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے اور ہاتھ پھیرنے کا آغاز اپنے سر انور، چہرہ اقدس اور سامنے سے کرتے تھے یہ عمل آپ ﷺ تین مرتبہ دہراتے۔ (بخاری شریف، ۱۹۱۶/۲، ۴۷۲۹)

☆ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

”جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑھیں تو وہ اسے (صبح تک ہر پریشانی سے) کفایت کریں گی۔“

☆ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں

ما كنت اری ان احدا یعقل ینام حتی یقرء هولاء الایات من اخر سورة البقره .

میں کسی کو اس وقت تک عقل مند ہی نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی ان آخری دو آیات کی تلاوت نہ کرے۔ (بخاری، ۱۹۱۳/۳، ۴۷۲۲)

☆ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار

(استيقظ من نومه) من الليل فقال: لا اله الا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو

على كل شىء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا

بالله، ثم قال: اللهم، اغفر لي او دعا استجيب له فان توطأ وصلى قبلت صلاته .

”حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص رات کو (ڈر کر) اٹھے تو یوں

کہے: (لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، ولہ الحمد، وهو علی کل شیء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ) (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے سب تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا ہے اور (نیکی کرنے کی) طاقت اور (گناہ سے بچنے کی) قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔) پھر کہے: (اے اللہ! مجھے بخش دے)۔ یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو قبول ہوگی۔ (اخرجه البخاری فی الصحیح، ابواب التہجد، باب من تعار من اللیل فصلی، ۳۸۷/۱، الرقم: ۱۱۰۳، والترمذی فی السنن، کتاب

الدعوات، باب ما جاء فی الدعاء اذا اتبه من اللیل، ۲۸۰/۵، الرقم: ۳۲۱۳)

تیری ثنا کہ خداوند لایزال ہے تو یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو
تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو

پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث پیش کرتا ہوں تو اس کی تصدیق کتاب اللہ سے لاتا ہوں، کوئی بندہ جب کہتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ۔ (پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ ہی کے لئے تعریف ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ برکت والا ہے) ایک فرشتہ ان الفاظ کو پکڑ لیتا ہے۔ انہیں اپنے پر کے نیچے دبالتا ہے اور انہیں لیکر آسمان کی طرف پرواز جاتا ہے۔ اس فرشتے کا فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گذر ہوتا ہے وہ فرشتے الفاظ بولنے والے کے لئے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ الفاظ فرشتہ رحمن کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی

الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ (فاطر، ۱۰:۳۵)

پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کو بلند فرماتا ہے۔ (المستدرک للحاکم، ۲/۲۶۱، ۳۵۸۹)

والمعجم الکبیر الطبرانی، ۲۳۳/۹، ۹۱۳۳)

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: جددوا

ایمانکم۔ قیل: یا رسول اللہ، وکیف نجدد ایماننا؟ قال: اکثرُوا من قول لا الہ الا اللہ۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ عرض کیا گیا: یا

رسول اللہ! ہم اپنے ایمان کی کیسے تجدید کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا الہ الا اللہ“ زیادہ سے زیادہ

کہو۔“ اسے امام احمد بن حنبل نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (اخرجه احمد بن حنبل فی المسند، ۲/۳۵۹)

الرقم: ۸۶۹۵، والحاكم في المستدرک، ۲۸۵/۳، الرقم: ۷۶۵۷، وذكره المنذرى في الترغيب والترهيب،
۲۶۸/۲، الرقم: ۲۳۵۲

☆ عن ام معبد رضى الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
اللهم، طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فانك
تعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور .

”حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ دعا کرتے سنا: (اللهم، طهر قلبي من
النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فانك تعلم خائنة الاعين وما
تخفى الصدور) (اے اللہ! میرا دل منافقت سے، میرا عمل ریا کاری سے، میری زبان جھوٹ سے اور میری
آنکھیں خیانت سے پاک فرما دے، بیشک تو آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہے وہ سب جانتا ہے)۔“
(اخرجه الحكيم الترمذی فی نوادر الاصول، ۲۲۷/۲، والديلمی فی مسند الفردوس، ۴۷۸/۱، الرقم: ۱۹۵۳،
والخطيب البغدادي فی تاريخ بغداد، ۲۶۷/۵، الرقم: ۲۷۵۹، والقزوينی فی التدوين فی اخبار قزوين، ۳۰۱/۲،
والمزى فی تهذيب الكمال، ۳۸۶/۳۵، الرقم: ۸۰۱۲، والعسقلانی فی الاصابة، ۳۰۹/۸، الرقم: ۱۲۲۶۳، وايضاً
فی تهذيب التهذيب، ۵۰۶/۱۲، الرقم: ۲۹۸۹، والسيوطی فی الدر المنثور، ۲۸۳/۷)

☆ حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی (چونکہ تمام صاحبزادیاں متفقہ طیبہ طاہرہ ہیں لہذا نام نہ لینا صحت حدیث کے لئے
مضر نہیں) روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام انہیں یہ کلمات سکھائے کہ صبح کے وقت یوں کہا کرو۔

سبحان الله وبحمده ولا قوة الا بالله ماشاء الله كان وما لم يشالم يكن اعلم ان الله على كل شيء
قدير وان الله قد احاط بكل شيء علماً
”اللہ تعالیٰ کے لئے پاکیزگی ہے اور اس کی حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی قوت نہیں۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا
اور جو نہ چاہا وہ نہ ہو سکا، میں جانتا (جانتی ہو) کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے
ہے۔“

جو صبح کے وقت یہ کہہ لے گا شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جو شام کے وقت پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت ہوگی۔

(رواه ابو داؤد، مشکوٰۃ)

اپنی جانب، تجھے ہر دم نگران دیکھا ہے
میں نے ہر لفظ رگ و پے میں رواں دیکھا ہے
بے نشانی میں بھی، تیرا ہی نشان دیکھا ہے
اس نے ہر موڑ پہ، اک دارالاماں دیکھا ہے

دل میں دیکھا ہے، قریب رگ جاں دیکھا ہے
جب بھی آتی ہے مؤذن کی صدا کانوں میں
ماورائے عدم و بست، ہے ہستی تیری
جو ترے واسطے، دشوار سفر پر نکلا

کیا بساطِ نگہ شوقِ مظفر ہے تری آنکھ والوں نے اسے خود پہ عیاں دیکھا ہے
(مظفر وارثی)

یہ ہے وہ جو حضور ﷺ نے اپنے رب سے مانگا

عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سال محمد صلى الله عليه
وسلم ربه عز وجل: (اللهم، انى اسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير
العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنى وثقل موازنى، وحقق ايمانى،
وارفع درجاتى، وتقبل صلاتى، واغفر خطيئتى، واسألك الدرجات العلى من الجنة .

اللهم، انى اسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، واوله وآخرة، وظاهره وباطنه والدرجات
العالى من الجنة . آمين

اللهم، انى اسألك خير ما آتى، وخير ما افعلى، وخير ما اعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر،
والدرجات العلى من الجنة . آمين

اللهم، انى اسألك ان ترفع ذكرى، وتضع وزرى، وتصلح امرى، وتطهر قلبى، وتحصن
فرجى وتنور لى قلبى، وتغفر لى ذنبى . واسألك الدرجات العلى من الجنة . آمين .

اللهم، انى اسألك ان تبارك لى فى نفسى، وفى سمعى، وفى بصرى، وفى روحى، وفى خلقى،
وفى خلقى، وفى اهلى، وفى محياى، وفى مماتى وفى عملى، فتقبل حسناتى، واسألك
الدرجات العلى من الجنة . آمين)

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے:
(اے اللہ! میں تجھ سے بہترین سوال، بہترین دعا، بہترین کامرانی، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور
بہترین موت کی دعا مانگتا ہوں، تو مجھے (حق پر) ثابت قدم رکھ، میری (نیکیوں کے) ترازو (کاپلہ) بھاری فرما،
میرے ایمان کو محکم (ومضبوط) فرما، میرے درجہ بلند فرما، میری نماز قبول فرما، میری خطائیں معاف فرما اور میں تجھ
سے جنت میں بلند درجہ کا سوال کرتا ہوں۔

اے اللہ! میں تجھ سے (تمام) خیر و خوبی کی ابتداؤں کا، خیر و خوبی کی ابتداؤں کا، جامع خیر و خوبی کا، اول و آخر خیر کا اور
ظاہر و باطن کی خیر کا سوال کرتا ہوں۔

اے اللہ! میں ہر اس چیز کی خیر کا سوال کرتا ہوں جو میں اختیار کروں اور اپنے ہر فعل و عمل کا اور جو ظاہر ہے اس کی خیر
کا بھی اور جو پوشیدہ ہے اس کی خیر کا بھی، اور میں تجھ سے جنت میں بلند درجہ کا سوال کرتا ہوں۔ آمین۔

”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا ذکر بلند فرما، میرا بوجھ ہلکا فرما، میرا (ہر) کام درست فرما، میرا دل

پاک فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت فرما، میرے لئے میرے دل کو منور فرما دے، اور میرے لئے میرے گناہ بخش دے اور میں تجھ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتا ہوں۔ آمین۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے کانوں، میری آنکھوں، میری روح، میرے جسم، میرے اخلاق، میرے گھریار، میری (پوری) زندگی میں، میری موت میں اور میرے ہر عمل میں میرے لئے برکتیں عطا فرما دے اور تو میری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور میں تجھ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتا ہوں۔ آمین۔“ (اخرجه الحاكم في المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر، ۷۰۱/۱، الرقم: ۱۹۱۱، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۳۱۶/۲۳، الرقم: ۷۱۷، وایضاً فی المعجم الاوسط، ۲۱۳/۶-۲۱۴، الرقم: ۶۲۱۸، وایضاً فی الدعاء،

۴۲۱/۱، الرقم: ۱۴۲۲، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۴۵۴/۱، الرقم: ۱۸۴۳)

لب پہ جاری ہو تیرا کلام

رنگ لائیں سجود و قیام

ہاتھ آئے انوکھا مقام

میں اڑوں صورت جبریل

حسبی اللہ نعم الوکیل

اگر دن رات کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو.....

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو صبح و شام یہ (مندرجہ ذیل) کلمات (آیات) پڑھ لے تو جو وظائف دن رات کے وہ نہیں پڑھ سکا انہیں پالے گا یعنی ثواب سے محروم نہ رہے گا گویا کہ اس نے وہ وظائف پڑھ لئے ہیں (مفہوم حدیث آیات یہ ہیں)۔

فسبحن الله حين تمشون وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون . يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون

اللہ کی پاکی ہے صبح و شام اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اوریوں ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔

(الروم: ۱ تا ۱۹، رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ)

☆ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل:

اللهم لك الحمد، انت رب السموات والارض، لك الحمد، انت قيم السموات والارض ومن فيهن، لك الحمد، انت نور السموات والارض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك اسلمت، وبك آمنت، و عليك توكلت، واليك انبت، وبك خاصمت، واليك حاكمت، فاعف عن لي ما قدمت وما اخرت، واسررت

واعلنت، انت الہی لا الہ لی غیرک .

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حضور نبی اکرم ﷺ رات کے وقت یوں دعا کرتے: (اللہم لك الحمد، انت رب السماوات والارض، لك الحمد، انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، لك الحمد، انت نور السماوات والارض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك اسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، واليك انبت، وبك خاصمت، واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، واسررت واعلنت، انت الہی لا الہ لی غیرک) (اے اللہ! سب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا قائم رکھنے والا ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیری بات سچی اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا دیدار حق ہے، (تیری) جنت حق ہے، اور (تیری) دوزخ بھی حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ! میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف رجوع کرنے والا ہوں، اور تجھی سے میں نے انصاف چاہا اور تجھی کو حاکم مانا، تو مجھے بخش دے وہ لغزشیں جو مجھ سے پہلے ہوئیں یا جو بعد میں ہوں گی اور جو (گناہ) میں نے چھپ کر کئے اور جو میں نے اعلان نہ کئے، تو میرا معبود ہے، میرے لئے تیرے سوا کوئی معبود نہیں)۔“ (اخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق، ۶/۲۶۰۹، الرقم: ۶۹۵۰، رسالہ فی الصحيح، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء فی صلاة اللیل وقيامه، ۱/۵۳۲، الرقم: (۱۹۹) ۷۶۹، الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا قام من اللیل الی الصلاة، ۵/۳۸۱، الرقم: ۳۴۱۸، وقال: هذا حدیث حسن صحیح)

میرے اعمال ہیں سب خراب کھول دے اپنی رحمت کے باب
سر سے ٹل جائے اب تو عذاب گرد رہتا ہے شیطان رذیل
حسبی اللہ نعم الوکیل

شیطان سے حفاظت کے لئے

حضرت ابو عیاش (زید بن صامت انصاری) سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو صبح و شام یہ کلمات کہہ لے تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور مزید یہ کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب پاتا ہے، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دس گناہ معاف اور دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بندے کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ! ان ابا عیاش بحدث عنک بکذا وکذا۔ ابو عیاش آپ کی طرف سے اس طرح کی روایت کرتے ہیں۔ قال صدق ابو عیاش۔ فرمایا: ابو عیاش نے سچ کہا ہے۔ کلمات یہ ہیں:

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر

ہے۔ (رواہ ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

☆ حضرت حارث بن مسلم تمیمی روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد نے انہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں خفیہ خبر دی کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی سے کلام کئے بغیر سات مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیا کرو۔ اللھم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے آگ سے بچالے۔ پھر اگر اسی رات مر جاؤ گے تو آگ سے سلامتی کے ساتھ گذرنا تمہاری لئے لکھ دیا جائے گا اور اگر صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو گے اور پھر اس دن فوت ہو جاؤ گے تو تمہارے لئے آگ سے نجات لکھ دی جائے گی۔

(مفہوم حدیث، رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ صبح و شام یہ (مندرجہ ذیل) کلمات ضرور پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہ

چھوڑتے تھے۔

اللھم انی اسئلك العافیة فی الدنیا والاخرة اللھم انی اسئلك العفو والعافیة فی دینی ودنیای

واہلی ومالی اللھم استر عوراتی وامن روعاتی اللھم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن

یمنی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی

”الہی میں تجھ سے اپنے دین و دنیا اور گھربار اور مال میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ الہی! میرے عیبوں کو چھپالے

اور مجھے خوفوں سے امن دے۔ الہی! مجھے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور اوپر سے محفوظ رکھ میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا

ہوں اور اس سے کہ نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔“ یعنی زمین میں دھنسا کر۔ (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان (مندرجہ ذیل) کلمات طیبات کے بارے میں ارشاد

فرمایا کہ جو دن کو پڑھے گا تو شام تک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر

دے گا (کلمات یہ ہیں)

اللھم اصبحنا نشهدک ونشهد حملة عرشک وملائکتک وجميع خلقک انک انت الله لا اله الا

انت وحدک لا شریک لک وان محمداً عبدک ورسولک .

یا اللہ ہم نے سویرا پایا ہم تجھے اور تیرا عرش اٹھانے والوں اور دیگر تمام فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں

کہ تو ہی اللہ ہے تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی سا جھی نہیں اور یہ کہ حضرت محمد ﷺ تیرے بندے اور

تیرے رسول ہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

پھر اس کے بعد عشقِ مصطفیٰ ﷺ کا ترجمان کر دے

خداوند تو اپنے ذکر کو وردِ زباں کر دے

ہمارے دل کو بھی بیگانہ سود و زیاں کر دے

ہمیں بھی ان میں شامل کر جنہیں تو نے نوازا ہے

سکونِ قلب کی دولت سے مالا مال کر مجھ کو
مجھے توفیق دے خیرِ العمل کی ہر نفس یا رب
تو رب العالمین ہے اور تری قدرت میں سب کچھ ہے
مری ہستی کو اپنی چاہتوں سے ضوفاں کر دے
مرے اعمال نامے کی سیاہی راییگاں کر دے
مدینے کے کسی گوشے میں مجھ کو بے نشاں کر دے

(اختہ لہجنوی)

اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے

عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول: اللہم انی اعوذ بک من
الکسل والہرم، والمائم والمغرم، ومن فتنۃ القبر، وعذاب القبر، ومن فتنۃ النار وعذاب النار،
ومن شر فتنۃ الغنی، واعوذ بک من فتنۃ الفقر، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال . اللہم اغسل
عنی خطایای بماء الثلج والبرد، ونق قلبی من الخطایا کما نقت الثوب الابيض من الدنس،
وباعد بینی وبين خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ یوں دعا کیا کرتے تھے: (اللہم انی اعوذ بک
من الکسل والہرم، والمائم والمغرم، ومن فتنۃ القبر، وعذاب القبر، ومن فتنۃ النار وعذاب
النار، ومن شر فتنۃ الغنی، واعوذ بک من فتنۃ الفقر، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال . اللہم
اغسل عنی خطایای بماء الثلج والبرد، ونق قلبی من الخطایا کما نقت الثوب الابيض من
الدنس، وباعد بینی وبين خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب) (اے اللہ! میں سستی،
کنزوری، گناہ، قرض، قبر کی آزمائش، عذابِ قبر، دوزخ کی آزمائش، عذابِ دوزخ اور امیری کی آزمائش اور اس کی
برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! میں غربت کی آزمائش اور مسیحِ دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے
اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے یوں صاف کر دے جیسے تونے
سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کیا، اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی
دوری تونے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے۔“

(اخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب الدعوات، باب التعوذ من المائم والمغرم، ۲۳۳۱/۵، الرقم: ۶۰۰۷، ومسلم فی
الصحیح، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه فی الصلاة، ۲۰۷۸/۳، الرقم: ۵۸۹، والترمذی فی
السنن، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی عقد التسیح بالید، ۵۲۵/۵، الرقم: ۳۳۹۵، وقال: هذا حدیث حسن صحیح،
وابن ماجہ فی السنن، کتاب الدعاء، باب ما تعوذ منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۱۲۶۲/۲، الرقم: ۳۸۳۸)

سر جھکانا ہے تیرے حضور مغفرت کی طلب ہے ضرور

بخش دے ہر خطا ہر قصور حشر میں ہو نہ انور ذلیل

حسبی اللہ ونعم الوکیل

☆ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ لیٹتے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

اللهم انى اعوذ بوجهك الكريم و كلماتك التامات من شر ما انت اخذ بنا صيته اللهم انت
تكشف المغرم والمائم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد
سبحانك وبحمدك .

یا اللہ! میں تیری کریم ذات کی اور تیرے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی شرارت سے کہ جس کی پیشانی تو پکڑے
ہوئے ہے یا اللہ! تو ہی قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے، الہی تیرا شکر کبھی شکست نہیں پاتا اور تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا
اور تیرے مقابل بختا و رکوبخت نفع نہیں دیتا تو پاک ہے اور تیرے لئے ہی حمد ہے (ابو داؤد، مشکوٰۃ)

☆ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قلت: یا رسول اللہ، ارایت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما
اقول فیہا؟ قال: قولی: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بتائیے اگر مجھے شب
قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم یہ کہو: (اللہم انک عفو کریم تحب
العفو فاعف عنی) (اے اللہ! تو بہت معاف کرنے والا ہے، عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے تو مجھے بھی معاف
فرمادے)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۸۵)، ۵۳۳/۵، الرقم: ۳۵۱۳، وابن ماجہ فی
السنن، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافیة، ۱۲۶۵/۲، الرقم: ۳۸۵۰، والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۳۰۷/۳،
الرقم: ۷۷۱۲، وایضاً، ۲۱۸-۲۱۹)

کون سی دعا افضل ہے؟

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلاً جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا
رسول اللہ، ای الدعاء افضل؟ قال: سل ربک العافیة والمعافیة فی الدنیا والآخرة، ثم اتاه فی
الیوم الثانی فقال: یا رسول اللہ، ای الدعاء افضل؟ فقال له مثل ذلك، ثم اتاه فی الیوم الثالث
فقال له مثل ذلك قال: فاذا اعطیت العافیة فی الدنیا واعطیتها فی الآخرة فقد افلحت .

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ!
کون سی دعا افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی خیر و عافیت اور بخشش طلب کیا کرو۔ اس
شخص نے دوسرے دن پھر حاضر ہو کر (وہی سوال) پوچھا: یا رسول اللہ! کون سی دعا افضل ہے؟ آپ ﷺ نے پھر بھی
وہی جواب عطا فرمایا۔ پھر تیسرے دن بھی وہ شخص حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے پھر وہی جواب دیا اور فرمایا: جب تمہیں
دنیا و آخرت میں عافیت دے دی گئی تو تم فلاح پا گئے۔“

☆ وفي رواية: عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قلت: یا رسول اللہ،

علمنی شیئا أسأله الله عزوجل قال: سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت، فقلت: يا رسول الله، علمنی شیئا أسأله الله، فقال لی: یا عباس، یا عم رسول الله، سلوا الله العافية فی الدنيا والآخرة .
”اور ایک روایت میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کچھ ایسی چیز سکھائیں جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دن ٹھہر کر میں دوبارہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور وہی سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عباس! اے رسول اللہ کے چچا! اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۸۵)، ۵/۵۳۳، ۵۳۳، الرقم: ۳۵۱۲، ۳۵۱۳، وابن

ماجه فی السنن، کتاب الدعاء، باب الدعاء، بالعمفر والعافية، ۲/۱۲۶۵، الرقم: ۳۸۴۸)

پیار کرتا ہے خود خدا ان سے جو محمد سے پیار کرتے ہیں
نام لیتے ہیں جو محمد کا ذکر پروردگار کرتے ہیں
جل جلالتہ ﷺ

لا تعدوا گناہوں کی مغفرت

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جاتے وقت یہ (مندرجہ ذیل) کلمات تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ (ترمذی۔ مشکوٰۃ)

☆ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ایسا کوئی شخص نہیں جو بستر پر لیٹے اور قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ لے مگر اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے: فلا يقربه شيء يوذيه حتى يهب متى هب . یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے جب بھی ہو۔ (ترمذی۔ مشکوٰۃ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ کوئی مسلمان انہیں اختیار نہیں کرتا مگر جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ ہیں تو آسان مگر ان پر تھوڑے ہی عمل کر نیوالے ہیں۔

(۱) ہر نماز کے بعد دس بار اللہ کی تسبیح (سبحان الله) پڑھے، دس بار حمد (الحمد لله) اور دس بار تکبیر (الله اكبر) راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا آپ نے اپنی مبارک انگلیوں سے سمجھایا کہ یہ زبان سے تو ڈیڑھ سو (ہر نماز کے بعد تیس ہونے اور پانچ نمازوں میں ڈیڑھ سو) ہوئے مگر میزان (ترازو) میں؟ ڈیڑھ ہزار (من جاء بالحسنة فله عشر امثالها) ہیں۔

(۲) جب بستر پہ جائے تو سو مرتبہ تسبیح و تحمید و تکبیر پڑھ یہ زبان پہ تو ایک سو ہیں مگر میزان میں ایک ہزار بتاؤ تم میں سے کون ہے جو دن رات میں اڑھائی ہزار گناہ کرتا ہو (اور ہر کلمہ ایک گناہ مٹائے) لوگوں نے عرض کی، ہم ان کلمات کی کیوں پابندی نہ کریں گے، فرمایا: جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس پہنچ کر کہتا ہے فلاں فلاں بات یاد کر حتیٰ کہ نمازی کو باز رکھ دیتا ہے تو شاید وہ یہ عمل نہ کر سکے (یعنی جب وہ فرض کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو نفلی سے کیوں نہ روکتا ہوگا) اور شیطان اس کی خوابگاہ میں پہنچ کر اسے سلانا شروع کر دیتا ہے حتیٰ ینام۔ یہاں تک کہ بندہ (وظیفہ پڑھے بغیر) سو جاتا ہے (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) ابوداؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ دو خصلتیں یا عادتیں ایسی ہیں جن کی کوئی مسلمان حفاظت نہیں کرتا اس طرح ابوداؤد کی روایت میں اس کلام کے بعد کہ ”میزان میں ڈیڑھ ہزار ہیں“ یہ ہے کہ چونتیس مرتبہ تکبیر کہے، جب اپنا بستر لے اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی بجائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

خدائے کن فکاں میرا خدا ہے
شریک اس کا نہیں کوئی کہیں بھی
اسی کے حکم کے پابند سارے
بھری دنیا کی ہے جو چیز فانی
مری کشتی کو ساحل سے لگا دے
مکان و لا مکان سے ماورا ہے
وہی تو خالق ارض و سما ہے
وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے
فقط اُس ذات کو حاصل بقا ہے
خدا وندا! تو میرا نا خدا ہے

(جسٹس محمد الیاس)

آیت الکرسی کی برکت

عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان، فاتانی آت فجعل یحثو من الطعام، فاخذته فقلت : لا رفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث فقال : اذا اویت الی فراشک فاقرأ آیة الكرسی ، لن یزال علیک من اللہ حافظ، ولا یقربک شیطان حتی تصبح . فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : صدقک وهو کذوب، ذاک شیطان .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر متعین فرمایا۔ پس (ایک رات) کوئی (چور) آیا اور کھانے کی چیزوں میں سے لپ بھر کر لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر (طویل) حدیث بیان کی آخر کار چور نے کہا کہ جب تم بستر پہ جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اس نے بات سچی کی حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ (چور) شیطان تھا۔“

(اخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، ۱۱۹۳/۳، الرقم: ۳۱۰۱، وايضا فی کتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، ۱۹۱۴/۳، الرقم: ۴۷۲۳، والترمذی فی السنن، کتاب فضائل القرآن، باب: (۳)، ۱۵۸/۵، الرقم: ۲۸۸۰، والنسائی فی السنن الكبرى، ۲۳۸/۶، الرقم: ۱۰۷۹۵، والبيهقي فی شعب الايمان، ۳۵۷/۲، الرقم: ۲۳۸۸)

☆ عن ابی امامة الباهلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: من اوی الی فراشه طاهرا یدکر اللہ حتی یدرکہ النعاس لم ینقلب ساعة من اللیل یسأل اللہ شیئا من خیر الدنیا والآخرة الا اعطاه اياه

”حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص با وضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۹۳) منہ، ۵۴۰/۵، الرقم: ۳۵۲۶، والنسائی فی السنن الكبرى، ۲۰۱/۶، الرقم: ۱۰۶۴۱، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۱۱۱/۱، الرقم: ۱۲۶۵، والطبرانی فی المعجم الكبير، ۱۲۳/۸-۱۲۵، الرقم: ۷۵۶۳، ۷۵۶۸، وابن السنی فی عمل الیوم واللیلہ، ۲۵۸/۱، الرقم: ۷۱۹، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۲۳۱/۱، الرقم: ۸۸۰)

کونین کا مہجود ہے معبود ہے تو ہرشی تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تو
ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو

جس نے یہ پڑھا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا

حضرت عبداللہ بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ کلمات صبح و شام پڑھے اس نے اس دن اور رات (میں خدا کی نعمتوں) کا شکر ادا کر دیا۔

اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقتك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر - (ابو داؤد . مشكوة)

یا اللہ! تیری جو نعمت مجھے یا تیری مخلوق کو ملی وہ صرف تجھ اکیلے کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں تیری ہی حمد اور تیرا ہی شکر ہے۔

سونے والے اللہ اللہ کر کے سو کیا خبر اب جاگنا ہو یا نہ ہو

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے تو یہ کلمات ادا فرماتے۔

اللهم رب السموات ورب الارض ورب كل شيء فالحق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقران واعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بنا صيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت

الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض

عنى الدين واغنى من الفقر (رواه ابو داؤد والترمذى، وابن ماجه ورواه مسلم مع اختلاف يسر)

”اے اللہ! اے آسمانوں کے رب اے زمین کے رب، اے ہر چیز کے رب اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر نکالنے والے، اے تورات و انجیل اور قرآن کو اتارنے والے میں ہر اس شریر کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جسکی پیشانی تیری گرفت میں ہے تو ہی اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں اور تو ہی باطن ہے کہ تیرے پیچھے کچھ نہیں، میرا قرض ادا کر دے اور مجھے تنگدستی سے غنا عطا فرما۔

بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ میں جلوہ آشکار اس پہ یہ پردہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے

اے کہ تیرے حسن کو تشبیہ دوں کس چیز سے ایک تو ہی دیدہ ہے تیرے سوا نادیدہ ہے

اے اللہ! میرے علم میں اضافہ فرما

☆ عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال:

لا اله الا انت سبحانك، اللهم استغفرك لذنبي واسألك رحمتك، اللهم زدنى علما ولا تنزع قلبى

بعد اذا هديتنى وهب لى من لدنك رحمة انك انت الوهاب .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تو یوں کہتے: (لا اله الا

انت سبحانك، اللهم استغفرك لذنبي واسألك رحمتك، اللهم زدنى علما ولا تنزع قلبى بعد اذا

هديتنى وهب لى من لدنك رحمة انك انت الوهاب) (اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک

ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے اپنے لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ!

میرے علم میں اضافہ فرما اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرما اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما تو

بہت ہی عطا فرمانے والا ہے)۔“ (اخرجه ابو داؤد فى السنن، كتاب الادب، باب ما يقول الرجل اذا تعار من الليل،

۳۱۳/۳، الرقم: ۵۰۶۱، والنسائی فى السنن الكبرى، ۲۱۶/۶، الرقم: ۱۰۷۰۱، وابن السنی فى عمل اليوم والليلة،

۶۸۲/۱، الرقم: ۷۵۶، وابن ابى الدنيا فى التهجد وقيام الليل، ۳۷۶/۱، الرقم: ۳۲۷، والحاكم فى المستدرک،

۷۲۳/۱، الرقم: ۱۹۸۱، والطبرانی فى الدعاء، ۲۳۳/۱، الرقم: ۷۶۲، والبيهقى فى شعب الايمان، ۴۷۵/۱، الرقم:

۷۵۹، وابن سرايا فى سلاح المؤمن فى الدعاء، ۲۹۹/۱، الرقم: ۵۳۵، والديلمى فى مسند الفردوس، ۴۵۹/۱،

الرقم: ۱۸۶۳)

بے حد ہیں مگر قاتلِ حدِ بندى ہیں اللہ کی تکمیل ہنر مندى ہیں

جس ”سمت“ سے سرکار کو دیکھیں انور آئینہ توحیدِ خداوندى ہیں

اے اللہ! تیرے لئے ہی میں نے اپنا پہلو رکھا

حضرت ابوازھر انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ جب رات کو اپنی خواہگاہ پہ جلوہ گر ہوتے تو اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے۔

بسم اللہ وضعت جنبی اللہ اللہم اغفر لی ذنبی واخسنا شیطنی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلیٰ .

اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ ہی کے لئے میں نے اپنی کروٹ رکھ دی یا اللہ میری گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو دور (ذلیل) کر دے اور میرا رہن (ذات مراد ہے کیونکہ ذات ہی اپنے اعمال میں گروی ہے۔ کل امری بما کسب رہین القرآن) یعنی مجھے نیک اعمال کی توفیق دے کہ میرے نفس کو گروی ہونے سے چھوڑ دے (اور مجھے اعلیٰ مجلس میں داخل فرما۔

(ابوداؤد، مشکوٰۃ)

اس دعا اور اس طرح کی دیگر دعاؤں میں ذنب سے مراد یا تو امت کے گناہ ہیں یا یہ لفظ ہماری تعلیم کے لئے ہے ورنہ حضور علیہ السلام تو سید المصومین ہیں اس طرح شیطان سے انسانی شیطان یا قرین مراد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ مسلمان ہو گیا حضور علیہ السلام کی صحبت و دعا کی برکت ہے۔

وہ دیکھنے والوں کو جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے
محبوب کی نظریں ہیں گناہ گار پہ ناصر محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے

اللہ تعالیٰ کے مکمل و اکمل کلمات طیبات

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غصبه وعقابه وشر عبادته ومن همزات الشياطين وان يحضرون . فانها لن تضره و كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يلقيها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه .

”حضرت عمرو بن شعيب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں (خواب یا کسی اور وجہ سے) ڈر جائے تو یہ کلمات پڑھے: (اعوذ بكلمات الله التامات من غصبه وعقابه وشر عبادته ومن همزات الشياطين وان يحضرون) (میں اللہ تعالیٰ کے مکمل و تمام کلمات کے ذریعہ اس کے غضب و عذاب، بندوں کے شر، شیطانی وسوسوں اور ان کے آ موجود ہونے سے پناہ چاہتا ہوں۔) تو وہ خواب (یا کوئی اور شے) اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بالغ اولاد کو یہ کلمات سکھاتے اور نابالغ بچوں کے لئے کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔“

☆ وفي رواية: عن ابي امامة رضى الله تعالى عنه قال: حدثني خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد بن الوليد، لا علمك كلمات تقولهن لا تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله ذلك عنك قال: بلى، يا رسول الله بابي انت وامى، فانما شكوت ذاك اليك رجاء هذا منك قال: قل: اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. قالت عائشة رضى الله عنها: فلم البث الا ليالى يسيرة حتى جاء خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله، بابي انت وامى، والذي بعثك بالحق ما اتممت الكلمات التى علمتنى ثلاث مرات حتى اذهب الله عنى ما كنت اجد ما ابالى لو دخلت على اسد فى حبسته بليل.

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے ان خوفناک چیزوں کے بارے میں بتایا جنہیں وہ رات کے وقت دیکھتے (اور ڈر جاتے) اور جو ان کی تہجد کی نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے خالد بن ولید! میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جنہیں تم رات کو تین مرتبہ پڑھا کرو یہاں تک کہ تمہاری وہ کیفیت زائل ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں نہیں، میرے والدین آپ پر قربان ہوں اور میں نے بھی تو آپ سے علاج کی امید کرتے ہوئے اس چیز کی شکایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پڑھا کرو: (اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون) (میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی اس کے غضب، اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے اور یہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے والدین آپ پر قربان ہوں، اور اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا! آپ کے تعلیم کردہ وہ کلمات میں نے تین مرتبہ بھی پورے نہیں کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کیفیت دور کر دی جس سے میں دوچار تھا۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں یہاں تک کہ رات کے وقت شیر کی پناہ گاہ میں داخل ہو جاؤں۔“

(اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات باب (۹۴)، ۵، ۵۴۱، الرقم: ۳۵۲۸، واہو داؤد فی السنن، کتاب الطب

باب کیف الرقی، ۱۲/۳، الرقم: ۳۸۹۲)

چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے
شجر شجر پہ لکھا حرفِ داستاں وہ ہے
سنہری دھوپ ہے وہ حسنِ کہکشاں وہ ہے

نشاں اسی کے ہیں سب اور بے نشاں وہ ہے
نمودِ لالہ و گل میں وہی ہے چہرہ نما
جہین شمس و قمر اس کے نور سے تاہاں

کہ اور کون ہے صورت گر جہاں وہ ہے
جوشے ہے فانی ہے بس ایک جاوداں وہ ہے
ہے جس کے ذکر سے آباد شہر جاں وہ ہے
کہ میں ہوں درد کی دستک در اماں وہ ہے
بڑا رحیم نہایت ہی مہرباں وہ ہے
سخن کا نور وہ لذتِ بیاں وہ ہے
(صبحِ رحمانی)

اسی کی ذات کے ممنوں خدو خالِ حیات
ہر اک افق پہ اسی کا دوام روشن ہے
اسی کی یاد لبو سے کلام کرتی ہے
سکوتِ نیم شبی میں پکارتا ہوں اُسے
زبانِ اشک سے مانگو دعائیں بخشش کی
اُسی کی مدح میں لوحِ دے رہے ہیں لفظِ صبح

جس اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ رات کو جب اپنے نورانی بستر پہ آرام فرما ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے۔
الحمد لله الذي كفاني واوالمى واطعمنى وسقانى والذي من على فافضل والذي اعطانى فاجزل
الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شىء ومليكه واله كل شىء اعوذ بك من النار .
شکر ہے اس اللہ کا جو میرے لئے کافی ہے اور جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور جس نے مجھے ٹھکانہ عطا فرمایا اور جس نے
مجھ پر احسان پھر فضل کیا اور جس نے مجھے دیا تو بہت زیادہ دیا (و الذي اعطانى فاجزل) ہر حال میں اللہ کا شکر
ہے۔ اے اللہ! اے ہر چیز کے رب اور مالک۔ اے ہر چیز کے معبود میں آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (ابو

داؤد . مشکوٰۃ)

اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی چھ نعمتوں کا ذکر ہے جو حضور علیہ السلام کو ساری مخلوق سے وافر و کثیر عطا فرمائی گئیں۔ اس کے لئے
ہماری کتاب ”شانِ مصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ بلفظِ انا“ کا مطالعہ فرمائیں۔ وکان فضل الله عليك عظيما . انا اعطيناك الكوثر .
اتنے اوصاف ہیں محمد کے کہ نہ پائیں اگر شمار کریں
ان کی توصیف غیر ممکن ہے بس یہی کہہ کے اختصار کریں

بے خوابی کا وظیفہ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ! ما انام
الليل من الارق۔ بے خوابی کی وجہ سے رات کو آرام نہیں کر پایا۔ فرمایا: جب تو بستر پہ آئے تو یوں پڑھا کر
اللهم رب السموات السبع وما اظلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن
لى جارا من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط على احد منهم او ان يبغى عز جارك وجل ثناءك
ولا اله غيرك لا اله الا انت .
اے اللہ! اے سات آسمانوں کے اور جن پہ یہ سایہ فلک ہیں ان کے رب اور اے زمینوں کے اور جنہیں زمینیں اٹھائے

ہوئے ہیں ان کے رب اور اے شیطانوں کے اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ان کے رب تو اپنی ساری مخلوق کے شر سے میرا سہارا (پناہ) بن جاتا کہ ان میں سے کوئی مجھ پہ ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ تیری پناہ غالب ہے، تیری تعریف عمدہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ (ترمذی . مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یوں کہہ لیا کرے۔

اصبحنا واصبح الملك لله رب العلمين اللهم اني استلكت خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما بعده (ابو داؤد . مشکوٰۃ)

ہم نے صبح کی اور اللہ رب العالمین کے ملک نے صبح کی اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی بھلائی، کشادگی، نور، برکت اور ہدایت مانگتا ہوں اور جو اس دن میں ہے اس کے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شام کو بھی یہی پڑھے (اصبحنا واصبح کی جگہ امسینا وامسی پڑھے)

نہ وہ فکر و نظر تک ہے نہ وہ وہم و گماں تک ہے
اسی کی جلوہ فرمائی زمیں سے آسماں تک ہے
اگر چشمِ بصیرت ہو تو دیکھے تیری گیرائی
خدا کی ذات کو محدود کرنا نہیں ممکن
وہی موجِ صبا سے بخشتا ہے خاک کو رفعت
خدایا یہ مرا ایمان محکم ہے بہر صورت
کبھی افسرِ بچشمِ نم خدا سے مغفرت مانگو

خدا ہی جانتا ہے در حقیقت وہ کہاں تک ہے
یہاں تک ہے وہاں تک ہے عیاں تک ہے نہاں تک ہے
ازل سے تو ابد تک ہے مکاں سے لا مکاں تک ہے
یہاں سے وہ وہاں تک ہے وہاں سے وہ وہاں تک ہے
رواں افلاک کو جانبِ غبارِ کارواں تک ہے
خطا میری وہاں تک ہے عطا تیری جہاں تک ہے
سنا ہے وہ فقط خالق نہیں آرامِ جاں تک ہے

(افسر ماہ پوری)

مصطفیٰ کا سلام آتا ہے۔ ﷺ

عن ابی قرصافة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوی الی فراشه، ثم قرا سورة تبارک ثم قال: اللهم، رب الحل والحرام، ورب البلد الحرام، ورب الرکن والمقام، ورب المشعر الحرام، وبحق کل آية انزلتها فی شهر رمضان، بلغ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی تحية وسلاما اربع مرات وکل اللہ به الملكین، حتی یاتیا محمداً صلی اللہ علیہ وسلم، فیقول له ذالک فیقول صلی اللہ علیہ وسلم: وعلى فلان بن فلان منی السلام ورحمة وبرکاته .

”حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ﷺ نے

فرمایا: جو شخص اپنے بستر پہ جانے کے بعد سورہ تبارک (الملک) پڑھتا ہے اور پھر یوں کہتا ہے: (اللهم، رب الحل والحرام، ورب البلد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، وبحق كل آية انزلتها في شهر رمضان، بلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلاما) (اے حلال وحرام کے رب! اے حرمت والے شہر کے رب! اے رکن اور مقام کے رب! اور مشعر الحرام کے رب! تو ہر اس آیت کے واسطے سے جسے تو نے شہر رمضان میں نازل فرمایا، حضرت محمد ﷺ کی روح مقدسہ کو میری طرف سے سلام بھیج۔) اور وہ اس طرح چار مرتبہ کہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو مقرر فرمادیتا ہے کہ وہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں جا کر اسی طرح عرض کریں تو آپ ﷺ بھی (اس کا جواب عنایت) فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کو میری طرف سے بھی سلام ہو اور (اے) اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت عطا ہو۔“ (اخرجہ ابن حبان فی طبقات المحمدين باصمغان، ۳/۳۳۳، الرقم: ۴۴۱)

سرور کائنات کے صدقے پیکر باحیات کے صدقے
وجہ کون و مکاں ہے ذات ان کی ذات والا صفات کے صدقے

میں چاہتا ہوں کہ سنت کی پیروی کروں

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کی: ابا جان! میں سنتا ہوں کہ آپ ہر صبح و شام تین تین مرتبہ یہ پڑھتے ہیں۔

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت .
”يا الله مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت بخش، یا مولا! مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے تیری سوا کوئی معبود نہیں۔“

انہوں نے فرمایا! اے بیٹے میں نے حضور علیہ السلام کو ان الفاظ سے دعا کرتے ہوئے سنا فانا احب ان استن سنتہ۔ پس میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سنت کی پیروی کروں۔ (ابو داؤد . مشکوٰۃ)

ان عاشقوں کا میں ہوں ادنیٰ نیاز مند جن کو میرے حضور کی ہے ہر ادا پسند

اس روایت کو ایک اور طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے۔

☆ عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ انه قال : لا بیه یا ابت ، انی اسمعک تدعو کل غداة : اللهم عافنی فی بدنی ، اللهم عافنی فی سمعی ، اللهم عافنی فی بصری ، لا اله الا انت تعیدھا ثلاثا حین تصبح وثلاثا حین تمسی فقال : انی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فانا احب ان استن بسنته قال عباس فيه : وتقول : اللهم انی اعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت تعیدھا ثلاثا حین تصبح وثلاثا حین تمسی فتدعو بهن فاحب ان استن بسنته قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوات المكروب : اللهم

رحمتك ارجو فلا تكلني الي نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت۔

”حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا: ابا جان! میں روزانہ سنتا ہوں کہ آپ صبح کے وقت یوں دعا مانگتے ہیں: (اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت) (اے اللہ! میرے جسم کو سلامت رکھ، اے اللہ! میرے کانوں کو سلامت رکھ، اے اللہ! میری آنکھوں کو سلامت رکھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔) صبح کے وقت اسے تین دفعہ کہتے ہیں اور شام کے وقت بھی تین دفعہ۔ انہوں نے فرمایا: (بیٹا!) میں نے ان الفاظ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے ہوئے سنا ہے، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کو بہت پسند کرتا ہوں اور امام عباس بن عبدالعظیم نے یہ الفاظ بیان کئے: (اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت) (اے اللہ! میں کفر اور فاقے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔) آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تین دفعہ اور شام کے وقت تین دفعہ ان الفاظ کے ساتھ دعا فرماتے، لہذا میں اتباع سنت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مصیبت زدہ یوں دعا کرے: (اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الي نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت) (اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ مجھے ایک پل کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے تمام حالات کو درست کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔)“ (اخرجه ابو داؤد في السنن، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح، ۳۲۳/۳، الرقم: ۵۰۹۰، والنسائي في السنن الكبرى، ۱۲۷/۶، الرقم: ۱۰۳۰۷، وايضا في عمل اليوم والليلة، ۱۳۶/۱، الرقم: ۲۲، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ۶۵/۱، الرقم: ۶۹، واحمد بن حنبل في المسند، ۳۲/۵، الرقم: ۲۰۳۲۶، والبخاري في الادب المفرد (۲۳۳)، الرقم: ۷۰۱، وابن ابی شيبة في المصنف، ۲۳/۶، الرقم: ۲۹۱۸۳، والطبائسي في المسند، ۱۱۷/۱، الرقم: ۸۶۸، والطبراني في الدعاء، ۱۲۹/۱، الرقم: ۳۳۵)

نوائے صبح گاہی، موجہ صوتِ ازاں تو ہے
تو بے شک لم یزل ہے خالق کون و مکاں تو ہے
کوئی سرگوشیاں کرتا ہے مولا میرے کانوں میں
ازل سے تا ابد رحمت ہے تیری سارے عالم پر
رگ جاں سے بھی تو نزدیک تر ہے اے خدا لیکن
کبھی محسوس ہوتا ہے ہمیں آشوب ہستی میں
ترے دربار میں مولا کہے تو کیا کہے افسر

سکوتِ زندگانی میں رحیل کارواں تو ہے
زمان بے زماں تو ہے نشان بے نشان تو ہے
فقیروں کی صدا تو ہے، غریبوں کی نغاں تو ہے
انیس مدبراں تو ہے، رفیق بے کساں تو ہے
نہ جانے کیوں درائے سرحدِ فہم و گماں تو ہے
کہ جیسے آدمی کے واسطے جائے اماں تو ہے
سبھی سے آشنا تو ہے، سبھی کا راز داں تو ہے

(السرماہ پوری)

سارے دن کی سلامتی کی دعا

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ صبح کرتے تو یہ کلمات ادا فرماتے:

اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والامر والليل والنهار وما
سكن فيهما لله اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحاً واوله نجاتاً واوله فلاحاً يا ارحم
الراحمين . (ذکرہ النووی فی کتاب الاذکار بروایة السنی . مشکوٰۃ)

ہم نے اور اللہ کے ملک نے سویرا پایا اللہ ہی کے لئے حمد اور بڑائی و عظمت ہے اور خلق، حکم اور رات دن اور جو ان میں
ہیں سب اللہ کے لئے ہے، یا اللہ! اس دن کا اول حصہ درستی بنا اور درمیان والا حصہ کامیابی بنا اور آخری حصہ چھٹکارا بنا
اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

☆ حضرت عبدالرحمن بن ابی بزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ صبح کرتے تو یہ کلمات ادا فرماتے:

اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة
ابينا ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين .

ہم نے صبح کی فطرت اسلام کلمہ اخلاص، اپنے نبی ﷺ کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جہر برائی
سے دور تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ (دارمی . مشکوٰۃ)

مرا مولا کریم کتنا ہے	کیا بتاؤں عظیم کتنا ہے
اس کے ایک ایک کام میں حکمت	کون جانے حکیم کتنا ہے
وہ گداؤں کو بادشاہ کرے	مہربان و کریم کتنا ہے
بے سہاروں کو گرنے والوں کو	تھام لے وہ حلیم کتنا ہے
بخشنے الیاس کو عجب تو نہیں	وہ غفور الرحیم کتنا ہے

(جس محمد الیاس)

ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں

عن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج
من بيته الى الصلاة، فقال: اللهم، انى اسألك بحق السائلين عليك، واسألك بحق ممشاي هذا،
فانى لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك،
فاسألك ان تعيدنى من النار، وان تغفر لى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب الا انت، اقبل الله عليه
بوجهه، واستغفر له سبعون الف ملك .

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز کے ارادے سے اپنے گھر

سے نکلے اور یہ دعائیں گئے: (اللهم، انی اسألك بحق السائلین علیك، واسألك بحق ممشای هذا، فانی لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فاسألك ان تعیدنی من النار، وان تغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت) (اے اللہ! میں تجھ سے تیری سائلین کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے (نماز کی طرف اٹھنے والے) اپنے قدموں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔ بے شک میں نہ کسی برائی کی طرف چلا ہوں نہ تکبر اور غرور سے، نہ دکھاوے اور نہ کسی دنیاوی شہرت کی خاطر نکلا ہوں۔ میں تو صرف تیری ناراضگی سے بچنے کے لئے اور تیری رضا کے حصول کے لئے نکلا ہوں۔ سو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔) تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔“

(اخرجه ابن ماجه فی السنن، کتاب المساجد والجماعات، باب المشی الی الصلاة، ۲۵۶/۱، الرقم: ۷۷۸، احمد بن

حنبل فی المسند، ۲۱/۳، الرقم: ۱۱۱۷۲، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۲۵/۶، رقم: ۲۹۲۰۲، وابن الجعد فی

المسند، ۲۹۹/۱، الرقم: ۲۰۳۱)

ہر شے پہ قادر ذات تیری سبحان اللہ سبحان اللہ تخلیق ہے کائنات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
کیا حور و ملائک جن و بشر کیا ارض و سما کیا نخل و حجر کرتے ہیں شان دن رات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
تو رب احد، اللہ صمد یہ ہے شان کی حد کہ تو ہے بے حد بے مثل صفات و ذات تری سبحان اللہ سبحان اللہ

شیطان اسے کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو (ستر کھولنے سے پہلے) یہ کلمات پڑھ لیا کرے اگر اس صحبت کے نتیجہ میں اولاد ہوگی تو شیطان ہرگز اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ (کلمات یہ ہے)

بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطن و جنب الشیطن ما رزقتنا

اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں (اولاد کا) رزق عطا فرمائے۔ (متفق علیہ۔
مکتوبہ)

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سخت تکلیف میں یہ کلمات پڑھتے تھے

لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات ورب
الارض ورب العرش الکرم

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ عظمت والا علم والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے،

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ (ایضاً)

یہ آرزو ہے میری کہ جب تک یہ جاں رہے
جائے گا تو جہاں بھی اسی کی ہے سلطنت
فرعون دیکھ مر گیا، نمرود مٹ گیا
حافظ ہے تو حفیظ ہے تو کار ساز ہے
فرعون کے محل میں کی موسیٰ کی پرورش
باغ جہاں میں پھول یہ کرتا ہے التجا
حمد خدائے پاک ہی وردِ زباں رہے!
مخلوق کا حصار سوا آسمان رہے
جھوٹے خدا تھے جتنے یہاں بے نشاں رہے
تیری عنایتوں سے ہی امن واماں رہے
گر حکم ہو ترا تو عدو پاسباں رہے
قسمت میں اس کی خلد کا ہی گلستاں رہے

یہ زمیں آسمان باقی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

يد الله ملاي لا يغيظها نفعه سخاء الليل والنهار افر ايتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فانه لم
يغض ما في يده و كان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع (بخاری شریف . ۶۷۷/۲)
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ غنی ہے، اس کے دن رات خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی
اس وقت سے کتنا ہی اس نے لوگوں کو دیا لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئی اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا اور
میزان یعنی قدرت اسی کو حاصل ہے جس کو چاہے گرائے اور جس کو چاہے اٹھائے۔

☆ ایک روایت جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں یوں ہے ید الله يبسطان۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ

ہیں (مسلم شریف . ۳۳۶/۲)

تیری جانب جو دھیان باقی ہے
تیری یادوں کے فیض سے مولا
اور ہر چیز کے لئے ہے فنا
جو تیرے رنگ سے ہوئے رنگیں
دم بھروں میں تیری اطاعت کا
بخش دے گا گناہ گار کو تو
مٹ گئے نام بادشاہوں کے
جانے شہزاد کس ادا کے طفیل
اس لئے تو جہاں باقی ہے
قلب پہ امتنان باقی ہے
ایک تیری ہی شان باقی ہے
ان کا نام و نشان باقی ہے
جب تلک تن میں جان باقی ہے
یہ یقین یہ گمان باقی ہے
ذکر تیرا ہر آن باقی ہے
یہ زمیں آسمان باقی ہے

شدید غصے کے وقت کیا پڑھا جائے؟

حضرت سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک دوسرے کو بُرا بھلا کہا جبکہ ہم حضور
علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھے تھے، ایک شخص دوسرے کو گالم گلوچ کر رہا تھا اور (شدید غصے) کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔

حضور علیہ السلام نے (ہم سے) فرمایا: انی لا علم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد بے شک میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کی یہ (غصہ والی) حالت جاتی رہے (اور وہ دعا یہ ہے)

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم ط میں مرد و شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

لوگوں نے اس شخص کو جا کر کہا: تو سنتا نہیں کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قال انی لست بمجنون۔ اس نے کہا میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں۔ (ایضاً) ہو سکتا ہے یہ شخص کوئی بدوی نو مسلم ہو جو اسلامی تہذیب و تمدن سے نا آشنا ہو کیونکہ صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کے حکم پہ مر مٹنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے یہ معاذ تھے، اگر معاذ بن جبل ہوں تو یہ واقعہ یا ان کے اسلام میں آنے سے پہلے کا ہے یا پھر نو مسلم ہونے کی حالت کا مطلب یہ تھا کہ اعوذ باللہ تو دیوانے پہ پڑھی جاتی ہے میں کوئی دیوانہ تو نہیں۔

☆ پیچھے حدیث گذر چکی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مرغ کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنے کا حکم دیا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھے کی آواز سن کر تعویذ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ (متفق علیہ مشکوٰۃ)

مانگ جو کچھ مانگتا ہے خالق غفار سے
اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس
تیرے ظاہر اور باطن سب سے واقف ہے خدا
ہو عمل پھرا سدا انور خدا کے حکم پر

تیری حاجت روا ہو گی اسی دہبار سے
فضل کی امید رکھ تو اپنے پالنہار سے
ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے
عاقبت میں تانہ ہو محروم تو دیدار سے

(نور محمد حافظ)

کھانے پینے کی دعائیں

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں لڑکپن میں حضور ﷺ کے زیر کفالت تھا (کھانا کھانے کے دوران) میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا:

یا غلام سم الله وکل بيمينك وکل مما يليك .

اے بچے! بسم اللہ شریف پڑھ دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ (حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی نصیحت پہ ایسا عمل کیا کہ) فما زالت تلك طعمتي بعد۔ وہ دن گیا اور یہ آیا میں ہمیشہ اسی (حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے) طریقہ پہ کھانا کھاتا ہوں۔ (بخاری، ۲۰۵۶/۵، رقم: ۵۰۶۱، ۵۰۶۳، مسلم، ۱۵۹۹/۳، ۲۰۲۲، ابن ماجہ

۱۰۸۷/۲، رقم: ۳۲۶۷)

☆ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اکل طعاما فقال: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيہ من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه .

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی:

(الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ (کھانا) کھلایا اور بغیر ہمت اور قوت کے مجھے یہ عطا کیا۔ تو اس کے اگلے (اور پچھلے) تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، بلب ما يقول اذا فرغ من الطعام، ۵۰۸/۵، الرقم: ۳۳۵۸، وابو داؤد فی السنن، کتاب اللباس، باب: (۱) ۳۶/۳۲، الرقم: ۳۰۲۳، وابن ماجه فی السنن، کتاب الاطعمة، باب ما يقال اذا فرغ من الطعام، ۱۰۹۳/۲، الرقم: ۳۲۸۵)

☆ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اكل احدكم طعاما فليقل: بسم اللہ فان نسی فی اوله فليقل: بسم اللہ فی اوله و آخره۔ وبهذا الاسناد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کل طعاما فی ستة من اصحابه، فجاء اعرابی فاكله بلقمتين، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اما انه لو سمع لكفاكم۔

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے اور اگر شروع میں بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے: (بسم اللہ فی اوله و آخره) (اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کے اول میں بھی اور اس کے آخر میں بھی) اور اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ چھ صحابہ کرام کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اس نے دو قوموں میں وہ سارا کھانا کھالیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر وہ بسم اللہ پڑھتا تو (یہ کھانا) تم سب کو کافی ہوتا۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الاطعمة، باب ما جاء فی التسمية على الطعام، ۲۸۸/۳، الرقم: ۱۸۵۸، وابو داؤد فی السنن، کتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام، ۳۳۷/۳، الرقم: ۳۷۷۸، وابن ماجه فی السنن، کتاب الاطعمة، باب التسمية عند الطعام، ۱۰۸۶/۲، الرقم: ۳۲۶۳)

جہڑا اللہ اللہ کر دا اے اوہ کدے نہ بازی ہر دا اے
ہر ویلے دعاواں سن دا اے جہڑا خالق مالک ہر دا اے
جہڑا ڈر دا اے اس مولا توں کسے کولوں مول نہ ڈر دا اے
اودھے ناں دج ایسی مستی اے جد بو لئے سینہ ٹھر دا اے
گھر بار اوہ سب نوں دیندا اے جہڑا خود محتاج نہ گھر دا اے
جد ناصر رب نوں یاد کراں میرا ہر اک ”کارن“ سردا اے

حمد اس کے لئے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا

عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اكل او شرب قال:

الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين .

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بھی کوئی چیز تناول فرماتے یا نوش فرماتے تو (اُس کے بعد) یہ کلمات ادا فرماتے: (الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) (تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا)۔“

(اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما يقول اذا فرغ من الطعام، ۵/۵۰۸، الرقم: ۳۳۵۷، وابو داؤد فی السنن، کتاب الاطعمة، باب ما يقول الرجل اذا طعم، ۳/۳۶۶، الرقم: ۳۸۵، وابن ماجه فی السنن، کتاب الاطعمة، باب ما يقال اذا فرغ من الطعام، ۲/۱۰۹۲، الرقم: ۳۲۸۳، والنسائی فی السنن الكبرى، ۶/۷۹، الرقم: ۱۰۱۲۰)

☆ عن امية بن منخشي رضي الله تعالى عنه و كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يا كل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه الا لقمة، فلما رفعها الي فيه قال : بسم الله اوله و آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما زال الشيطان يا كل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه .

”صحابی رسول ﷺ حضرت امیہ بن منخشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) حضور نبی اکرم ﷺ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ وہ کھاتا رہا یہاں تک کہ صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ جب اُسے اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگا تو (اسے بسم اللہ پڑھنا یاد آ گیا) اس نے کہا: (بسم اللہ اولہ و آخرہ) (میں کھانے کا آغاز و اختتام اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتا ہوں) تو حضور نبی اکرم ﷺ ہنس پڑے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھا رہا تھا لیکن (یاد آ جانے پر) جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو جو کچھ اس (شیطان) کے پیٹ میں گیا تھا اس نے قے کر دی۔“

(اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام، ۳/۳۲۷، الرقم: ۳۷۶۸، والنسائی فی السنن الكبرى، ۳/۱۷۳، الرقم: ۶۷۵۸، وايضاً، ۶/۷۸، الرقم: ۱۰۱۱۳، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳/۳۳۶، الرقم: ۱۸۹۸۳، والحاكم فی المستدرک، ۳/۱۲۱، الرقم: ۷۰۸۹، والبخاری فی التاريخ الكبير، ۲/۶، الرقم: ۱۵۱۳)

بشر سے ہو بیان کیسے کہ کیا معلوم ہوتا ہے
وہی ہے قادر مطلق مگر نظروں سے پوشیدہ
وہی ہے رحمت ”ہر دو جہاں“ سب کے لئے یکساں
بشر کیا چیز ہے جن و ملائک سب کا خالق ہے
صفات اس کی بیاں کیسے ہو کس سے ہو یہ ناممکن
میسر ہو رئیس اس کی جبیں سائی ہمیں ہر دم
منور جس سے عالم ہے خدا معلوم ہوتا ہے
وہ سب کے دل میں ہے سب سے جدا معلوم ہوتا ہے
وہ ہر مشکل کے وقت مشکل کشا معلوم ہوتا ہے
اسی کی حمد ہے جو مرجبا معلوم ہوتا ہے
جو ہے مختار کل بے حد بھلا معلوم ہوتا ہے
جو سب کا بادشاہ، حاجت روا معلوم ہوتا ہے

تیری تعریف ہے اس پر جو تو نے ہمیں عطا فرمایا

عن عبد الرحمن بن جبير انه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمان سنين انه

سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرب الیہ طعامہ یقول: بسم اللہ، واذا فرغ من طعامہ قال:

اللہم، اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وهدیت واحییت فلك الحمد علی ما اعطیت .

”حضرت عبدالرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں ایک صحابی جنہوں نے آٹھ سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بتایا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یوں کہتے: (اللہم، اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وهدیت واحییت فلك الحمد علی ما اعطیت) (اے اللہ! تو نے کھلایا، تو نے پلایا، تو نے بے نیاز کیا اور تو نے مالا مال کیا، تو نے ہدایت دی، اور تو نے زندہ کیا، سو جو کچھ تو نے عطا کیا اس پر تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں)۔“ (اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند، ۶۲/۳، الرقم: ۱۶۶۳۶، وايضاً، ۳۷۵/۵، الرقم: ۲۳۲۳۳،

والنسائی فی السنن الکبری، کتاب الدعاء بعد الاکل، باب: (۵) نوع آخر، ۴۰۲/۳، الرقم: ۶۸۹۸، وابن السنن فی عمل الیوم وللیلة، ۳۱۶/۱، الرقم: ۳۶۵)

☆ عن ابی امامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدته قال:

(الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا)

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دسترخوان اٹھاتے (یعنی جب کھانے سے فارغ ہو جاتے) تو زبان حق ترجمان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے: (الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا) (اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں کثرت سے پاکیزہ، وہ بابرکت ذات) ہے۔ اے ہمارے رب! ایسی تعریف نہیں جو کفایت نہ کرے اور نہ ایسی جس کے کرنے کی ہمیں حاجت نہ ہو۔“

☆ وفي رواية عنه: قال: الحمد لله الذي كفانا واوانا، غير مفكي ولا مكفور وقال مرة:

الحمد لله ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا .

”اور بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں: (الحمد لله الذي كفانا واروانا، غير مفكي ولا مكفور) (اس اللہ کے لئے سب تعریفیں ہیں جس نے کھلا پلا کر ہمیں سیراب کیا۔ ایسی تعریفیں نہیں جو ایک بار کرنے کے بعد ختم ہو جائیں یا جس کے بعد ناشکری کی جائے۔) ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی: (الحمد لله ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا) (اس اللہ کے لئے سب تعریفیں ہیں جو ہمارا رب ہے۔ اے ہمارے رب! ایسی تعریفیں جو کبھی ختم نہ ہوں، ایک بار ہو کر کبھی نہ رکنے والی تعریفیں اور نہ ایسی تعریفیں جن کی حاجت نہ رہے)۔“ (اخرجہ البخاری فی الصحيح، کتاب الاطعمة، باب ما يقول اذا فرغ من طعامه، ۲۰۷۸/۵، الرقم: ۵۱۴۳-۵۱۴۴، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما يقول اذا فرغ من الطعام،

۵۰۷/۵، الرقم: ۳۳۵۶، وابو داؤد فی السنن، کتاب الاطعمة، باب ما یقول الرجل اذا طعم، ۳۶۶/۳، الرقم:

(۳۸۴۹)

یا رب میری زندگی کو شعور ایسا عطا ہو
حق بات کے کہنے میں یہ تاثیر دے مولا
یہ دل کی تمنا ہے حرم پاک کے اندر
لگ جائے میرے جسم میں گھن عشق نبی کا
دیدار محمد کے میسر جو شرف ہو
انسان سے عظمت کا بیاں کیسے ہو اس کی
طہ کہیں یسین کی سورہ میں نمایاں
کیا اس کو جلائے کی رئیس نار جہنم

سرتیری ”اطاعت“ کے سبب میرا جھکا ہو
نکلے جو زباں سے تو اثر دل پہ کیا ہو
ان ساری نمازوں کی قضا جا کے ادا ہو
وہ درد اٹھے دل میں کہ جسکی نہ دوا ہو
یہ جان و جگر سب انہیں قدموں پہ فدا ہو
جو نبیوں کا سردار اور محبوب خدا ہو
القاب جسے خالق اکبر نے دیا ہو
احکام خداوندی میں جو مر کے مٹا ہو

تیری شان مولیٰ حمیداً غنیاً

عن عبد الله بن بسر رضى الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي قال: فقربنا اليه طعاما ورطبة فاكل منها..... ثم اتى بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال ابي، واخذ بلجام دابته: ادع الله لنا فقال: اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.

”حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ میرے والد کے پاس (مہمان بن کر) تشریف لائے، ہم نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کھانا، پیو اور برنی کھجور کا جلوہ پیش کیا، آپ ﷺ نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا..... پھر آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک مشروب لایا گیا، آپ ﷺ نے اسے پی کر دائیں جانب والے کودے دیا، پھر (آپ ﷺ کی روانگی کے وقت) میرے والد نے آپ ﷺ کی سواری کی لگام پکڑ کر عرض کی (یا رسول اللہ) اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا کیجئے، آپ ﷺ نے (اس طرح) دعا فرمائی (اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم) (اے اللہ تو نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں بزرگت عطا فرما، ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما)۔“

(اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الاشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لاهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح واجابته لذلك، ۱۶۱۵/۳، الرقم: ۲۰۳۲، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضيف، ۵۶۸/۵، الرقم: ۳۵۷۶، وابو داؤد فی السنن، کتاب الاشربة، باب فی النفع فی الشراب والتنفس فيه، ۳۳۸/۳، الرقم: ۳۷۲۹، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱۸۸/۳، الرقم: ۱۷۷۱۱)

تیری ذات مولا حمیداً غنیاً سمیعاً بصیراً نصیراً ولیناً

میتھوں جو کوئی منگے توں کریں عنایت
تو پت دتا زکریا۔ نوں بڑھے وارے
آپے نام سوہنا توں یحییٰ نکایا
ایسا پیارا بچہ جنے کبھڑی مائی
توں مریم صدیقہ کنواری نوں مولا
جن ویلے مریم سی بھکھی تہائی
بچہ گودی چک آئی مریم جاں گھرنوں
”تو ہرگز نہ گھبرا“ موسیٰ دیئے بھینے
توں مریم نوں کیہانہ بولیں کے سنگ
اشارہ کیجا ماں نے تے بولے عیسیٰ
میں صاحب کتاب آں مبارک آں ہر تھاں
ہے ماں پاک میری میں نیکی کراں گا
سلامت ہاں جنم دے دن موت دے بھی
توں مصمام کر سجدے نت اُس خدا نوں

نہ پرتے دُعا تک رب شفیقا
کہ اذنا ذی تینوں نداء خفیقا
نہیں ساری دنیا چہ قبل سمیقا
نییا صبیا وکان تھیقا
دنا نال قدرت غلاما زکیا
ہا فضلوں رطباً جنیا سریا
پوری قوم پا بیٹھی سگواں قضیقا
نی بی بی لقد جنت حیاً فریا
بلاواں گے فی الحمد عیسیٰ صبیقا
میں بندہ خدا داتے کنت نیبا
نمازی نخی نالے ما دمت حیا
نہیں ہاں ہرگز جہازا شقیقا
سلامت بھی ہاں یوم البعث حیا
جیہدی شانِ برعالی عظیمیا علیا

(بابا مصمام)

شیطانی وسوسوں کا علاج

عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا، حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعد باللہ ولینتہ وفی روایة لمسلم واحمد وابی یعلی: فلیقل: آمنت باللہ ورسولہ .
وفی روایة لابن داؤد والنسائی: فقولوا: اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد، ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ثم لیقل عن یسارہ ثلاثا ولیستعد من الشیطان .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں شے کو کس نے پیدا کیا؟ (اور جب یہ دوسوے گہرے ہو جاتے ہیں تو) بالآخر دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب بات یہاں تک پہنچے تو (شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے) اللہ تعالیٰ کے جو ار رحمت میں پناہ لینی چاہیے اور ایسے خیالات کو ترک کر دینا چاہیے۔“

”کہے: (آمنت باللہ ورسولہ) (میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا)۔“

”امام ابوداؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ہے: ”تو اس وقت تم یوں کہو: (اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد، ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد) (اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے اور کوئی ایک بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔) پھر اپنے بائیں جانب تین دفعہ تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے (یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے)۔“ (بخاری، ۱۱۹۳/۳، ۳۱۰۲، مسلم، ۱۱۹/۱-۱۲۰، ابوداؤد، ۲۳۱/۳، رقم ۴۷۲۱، ۴۷۲۲، نسائی، السنن الکبریٰ، ۱۶۹/۶، ۱۷۰، رقم:

(۱۰۳۹۹، ۱۰۳۹۷)

میں نامراد نہ رہوں گا، یہ آسرا ہے مجھے
تجھ سے مانگ رہا ہوں جو مانگنا ہے مجھے
عزیز جان سے زیادہ یہی دعا ہے مجھے
ہر ایک شے پہ مقدم تری رضا ہے مجھے
مری طلب سے زیادہ تری عطا ہے مجھے

مری دعا کو تو کر مستجاب میرے خدا
کسی کے آگے میں کیا اپنے ہاتھ پھیلاؤں
رہے یہ دل مرا معمور نورِ ایماں سے
یہ آرزو ہے ترے حکم پر کہوں لبیک
کشادہ کتنا کروں دامن طلب اپنا

(بید قریشی)

نماز کے شیطان سے نجات کا وظیفہ

عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ذاک شیطان یقال له: خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منه، و اتفل علی یسارک ثلاثا قال: ففعلت ذالک فاذهب اللہ عنی .

”حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر قرأتِ مشتبہ کر دیتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اُس (شیطان) سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور بائیں جانب تین بار تھوک دو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔“ (اخرجه مسلم فی الصحیح، کتاب السلام، باب العوذ من الشیطان الوسوسة فی الصلاة، ۱۷۲۸/۳،

الرقم: ۲۲۰۳، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲۱۶/۳، الرقم: ۱۷۹۲۸، وعبد الرزاق فی المصنف، ۸۵/۲، الرقم:

۲۵۸۴، وعبد بن حمید فی المسند، ۱۲۸/۱، الرقم: ۳۸۰، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۵۱/۵، الرقم: ۲۳۶۰۰)

یا خدا تیری رحمت کی کچھ حد نہیں تیری رحمت سے ذرہ بھی تارا ہوا

اس کے قدموں پہ شاہوں کے سر جھک گئے جس کی جانب تیرا ایک اشارہ ہوا
تیرے سائے میں اس کو اماں مل گئی آگیا جو مصیبت کا مارا ہوا
پتھروں کا جگر بھی تیرے حسن سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا پارا پارا ہوا
کاش مل جائے مجھ کو کفن کے لئے کوئی کعبے کا پردہ اتارا ہوا
خواہ وہ فلسفی ہوں کہ ہوں منطقی چاہے داناں ہوں اور چاہے ناداں ہو
جن لے سر میں سمایا نہ سودا تیرا ان کو دونوں جہاں میں خسارا ہوا
میں تو انور بہت ہی گناہگار ہوں پھر بھی اللہ نے لاج رکھی میری
مجھ پہ دنیا میں انگلی اٹھائے کوئی یہ نہ اس کے کرم کو گوارا ہوا

(انور فرخ آبادی)

اللہ اکبر کبیراً

عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاة (قال عمرو: لا ادری ای صلاة هی) فقال: اللہ اکبر کثیراً، والحمد لله کثیراً، وسبحان اللہ بکرة واصیلاً ثلاثاً اعوذ باللہ من الشیطان من نفخه ونفثه وهمزه۔ قال: نفثه: الشعر، ونفخه: الکبر، وهمزه: الموتة۔

”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک نماز پڑھتے ہوئے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا (اوی حضرت عمرو نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی نماز تھی) تو آپ ﷺ نے (نماز کے بعد) یہ کہا: اللہ اکبر کبیراً، اللہ اکبر کبیراً، اللہ اکبر کبیراً، والحمد لله کثیراً، والحمد لله کثیراً، وسبحان اللہ بکرة واصیلاً، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخه ونفثه وهمزه) (اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور صبح و شام اللہ کے لئے ہی پاکی ہے۔ میں شیطان کی لغویات، اس کے تکبر اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں)۔“ فرمایا: نفثه اُس (شیطان) کی لغویات، نفثه اس کا تکبر اور همزه سے مراد اس کے وسوسے ہیں۔“ (اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء، ۲۰۳/۱، الرقم: ۷۶۳، وابن ماجہ فی السنن، کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها، باب الاستعاذة فی الصلاة، ۲۶۵/۱، الرقم: ۸۰۷، واحمد بن حنبل فی المسند، ۸۰/۳، الرقم: ۱۶۷۸۶، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۲۰۹/۱، الرقم: ۳۳۹۶، وايضاً، ۱۹/۶، الرقم: ۲۹۱۴۲، وابن الجارود فی المتقی، ۵۵/۱، الرقم: ۱۸۰)

اللہ کیا بیاں ہوں ہم سے صفات تیری ادنیٰ زباں ہماری اعلیٰ ہے ذات تیری

معبود بھی ہے تو ہی مسجود بھی ہے تو ہی
 نورِ سحر میں تو ہے ذہنِ بشر میں تو ہے
 کیا راز کوئی پائے تیری حقیقتوں کا
 تیری ضیاء کا پر تو ہے حُسنِ ماہِ اختر
 سائل ہیں تیرے در کے مفلس ہوں یا تو نگر
 کیا شکر ہم سے ہو گا تیری عنایتوں کا
 کتنی بلند و بالا کتنی عظیم و اعلیٰ
 تیرے حضور سب کی پیشانیاں جھکی ہیں
 ہر چیز عارضی ہے اور بے ثبات دُنیا
 الطاف بھی ہے تیرا مدح سرا الہی
 اک لطفِ بیکراں ہے اللہ ذاتِ تیری
 ہے شامِ تیری زینتِ رونق ہے راتِ تیری
 مخفی نہیں کسی سے ہر چند ذاتِ تیری
 کیوں نہ ہو اس کرم پر ممنون راتِ تیری
 محتاج ہے الہی کل کائناتِ تیری
 جو مہربان ہے سب پر ہے صرف ذاتِ تیری
 حدِ خرد سے باہر یا رب ہے ذاتِ تیری
 اے خالقِ یگانہ ہے پاک ذاتِ تیری
 دائم رہے گی لیکن اللہ ذاتِ تیری
 چشمِ کرم ہو اُس پر والا صفاتِ تیری

(الطافِ احسانی)

ہائے میرے دل کو کیا ہو گیا ہے

عن ابی زمیل قال: سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما فقلت: ما شیء اجده فی صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: واللہ ما اتکلم بہ قال: فقال لی: اشیء من شک؟ قال: وضحك، قال: ما نجا من ذالک احد قال: حتی انزل اللہ عزوجل: (فان كنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذی یقرء ون الكتاب من قبلك) الآیة (یونس، ۱۰: ۹۳)، قال: فقال لی: اذا وجدت فی نفسک شیئا فقل: (هو الاول والاخر والظاهر والباطن ج وهو بكل شیء علیم) (الحدید، ۵۷: ۳)

”حضرت ابو زمیل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے (اپنی بے چین قلبی کیفیت کے بارے میں) پوچھتے ہوئے عرض کیا: میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا: (ایسی عجیب کیفیت ہے جو کہ) خدا کی قسم! زبان پر نہیں لاسکتا چنانچہ آپ نے مجھ سے فرمایا: کیا کوئی شک واقع ہو گیا ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ ہنسے اور فرمایا: اس سے تو کوئی نہیں بچا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی: ”(اے سننے والے!) اگر تو اس (کتاب) کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے (اپنے رسول ﷺ کی وساطت سے) تیری طرف اتاری ہے تو (اس کی حقانیت کی نسبت) ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے (اللہ کی) کتاب پڑھ رہے ہیں۔“ (پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا: جب تم اپنے دل میں کوئی وسوسہ محسوس کرو تو (یہ آیت) پڑھو: (هو الاول والاخر والظاهر والباطن ج وهو بكل شیء علیم) (وہی) (سب سے) اول اور (سب سے) آخر ہے اور (اپنی قدرت کے اعتبار سے) ظاہر اور (اپنی ذات کے اعتبار سے) پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب

جاننے والا ہے)۔“ (اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الادب، باب فی رد الوسوسة، ۳۲۹/۳، الرقم: ۵۱۱۰، والمقدسی فی الاحادیث المختارہ، ۳۱۹/۱۰، الرقم: ۴۴۲، والنروی فی الاذکار/ ۱۱۸، الرقم: ۳۳۷، وابن سرايا فی سلاح المؤمن فی الدعاء، ۳۸۸/۱، الرقم: ۹۳۱، وابن کثیر فی تفسیر القرآن العظیم، ۳۰۳/۳، وابن القیم فی الوابل الصیب/ ۳۰۳)

☆ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم، انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، وهمزہ ونفخہ ونفشہ۔ قال: همزہ الموتہ ونفشہ الشعر ونفخہ الکبر

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: (اللہم، انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، وهمزہ ونفخہ ونفشہ) (اے اللہ! میں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی لغویات اور اس کے تکبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں)۔“ فرمایا: همزہ اس کے وسوسے، نفشہ اس کی لغویات اور نفخہ سے مراد اس کا تکبر ہے۔ (اخرجه ابن ماجہ فی السنن، کتاب اقامة الصلاة والسنة فیہا، باب الاستعاذۃ فی الصلاة، ۲۶۶/۱، الرقم: ۸۰۸، والطیالسی فی المسند، ۳۹/۱، الرقم: ۳۷۱، وابو یعلیٰ فی المسند، ۴۱۱/۸، الرقم: ۴۹۹۴، والحاکم فی المستدرک، ۳۲۵/۱، الرقم: ۷۴۹)

عرش تک گنجائش پرواز دیتا ہے مجھے
آپ ہی توفیق کشفِ راز دیتا ہے مجھے
دن کی صورت اک نیا آغاز دیتا ہے مجھے
دل میں چھپ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے مجھے
وہ کریم اعزاز پر اعزاز دیتا ہے مجھے
(عاصی کرنا لی)

مشتِ گل ہوں وہ خرامِ ناز دیتا ہے مجھے
آپ ہی رکھتا ہے میرے سامنے سربستہ راز
شب کے پردے میں مجھے کرتا ہے انجام آشنا
جب میں لوٹ آتا ہوں دشتِ چارسو کو چھان کر
دور رکھتا ہے وہ عاصی مجھ سے ساری ذلتیں

سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود

☆ عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الطائف، جعل یعرض لی شیء فی صلاتی، حتی ما ادری ما اصلی فلما رأیت ذالک، رحلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابن ابی العاص؟ قلت: نعم یا رسول اللہ، قال: ما جاء بک؟ قلت: یا رسول اللہ، عرض لی شیء فی صلواتی، حتی ما ادری ما اصلی قال: ذاک الشیطان ادنہ فدنوت منه فجلست علی صدور قدمی قال: فضرب صدري بیده، وتفل فی فمی وقال: اخرج عدو اللہ ففعل ذالک ثلاث مرات ثم قال: الحق بعملك قال: فقال عثمان: فلعمری ما احسبه خالطنی بعد۔

”حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے طائف کا گورنر بنایا تو میرے دل

میں اس قسم کے خیالات (اور وسوسے) آنے لگے کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ جب میں نے اپنی یہ حالت دیکھی تو سفر کر کے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر (تعجباً) فرمایا: ابن ابی العاص ہے! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) کوئی شے میری نماز میں آتی ہے اور مجھے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: وہ شیطان ہے میرے قریب آؤ، میں آپ ﷺ کے قریب ادب سے دوڑا تو بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے میرے سینہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا اور تین بار فرمایا: اے اللہ کے دشمن! نکل جا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: اے عثمان! اب جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ رب العزت کی قسم! اُس دن کے بعد پھر کبھی شیطان نے اس قسم کے وسوسے میرے دل میں پیدا نہیں کئے۔“ (ابن

ماجہ، ۲/۱۱۷۴، ۳۵۴۸، کتاب الطب باب الفزع والارق وما يتعود منه)

تو ہے یکتا نہیں کوئی تجھ سا	حمد کیا ہو تیری بیان اللہ
ساری دنیا کا آسرا تو ہے	ابتدا تو ہے انتہا تو ہے
ذات ہے تیری ہر جگہ موجود	کوئی تیرے سوا نہیں معبود
تو غفور و رحیم ہے یا رب!	تو سمیعِ علیم ہے یا رب
بے سہاروں کا تو سہارا ہے	بے وسیلوں کا تو وسیلہ ہے
ذکر تیرا ہی بستی بستی ہے	تجھ سے قائم نظامِ ہستی ہے
تیری تخلیق ہیں زمین و سماں	یہ فلک یہ ملک یہ انس و جان
خاتم الانبیاء کو بھیجا ہے	رہنما اپنا سب سے یکتا ہے
تو نے نازل کیا ترے قرباں	اپنے بندوں کے واسطے قرآن
تو نے سب کچھ عطا کیا مولا	نعمتوں کا تری شمار ہو کیا
دامنِ آرزو کو بھرتا ہے	اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے
دور تو نے ہر ایک مشکل کی	از طفیل محمد عربی
دل مضطر قرار پاتا ہے	لب پہ جب تیرا نام آتا ہے
قلب الطاف میں اُجالا ہے	تیری رحمت کا بول بالا ہے

علماء کا فرمان:

وقال النووي في "الاذكار": وقال بعض العلماء: يستحب قول: "لا اله الا الله" لمن ابتلى

بالوسوسة في الوضوء او في الصلاة او شبههما، فان الشيطان اذا سمع الذكر خنس: اي تاخر
وبعد، و"لا اله الا الله" راس الذكر، ولذلك اختار السادة الاجلة من صفوة هذه الامة اهل تربية
السالكين، وتاديب المريدين، قول: "لا اله الا الله" لا هل الخلو، وامروهم بالمدائمة عليها،
وقالوا: انفع علاج في دفع الوسوسة الاقبال على ذكر الله تعالى والاكثر منه .

وقال السيد الجليل احمد بن ابي الحواري بفتح الراء وكسرها . شكوت الى ابي سليمان
الداراني الوسواس، فقال: اذا اردت ان ينقطع عنك، فاي وقت احسست به فافرح، فانك اذا
فرحت به انقطع عنك، لانه ليس شيء ابغض الى الشيطان من سرور المؤمن، وان اغتمت به
زادك . قلت: وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الائمة: ان الوسواس انما يتلى به من كمل ايمانه،

فان اللص لا يقصد بيتا خربا .

د بعض علماء نے فرمایا: جو شخص وضو میں یا نماز میں یا ان جیسی کسی اور عبادت میں وسوسہ میں مبتلا ہو تو اس کے لئے "لا
اله الا الله" پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ شیطان جب ذکر الہی سنتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے اور "لا اله الا الله"
تمام اذکار کا سردار (یعنی ذکر کا سب سے بلند اور اعلیٰ درجہ) ہے۔ اسی لئے اس امت کے برگزیدہ بزرگوں، اور
سائیکین کی تربیت کرنے والوں، اور مریدوں کو ادب سکھانے والے (صوفیاء) نے اس ذکر "لا اله الا الله" کو اہل
خلوت کے لئے لازم کیا، اور انہیں اس پر مداومت اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: وسوسوں کو دور کرنے کا سب سے نفع
بخش علاج کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے اور سید احمد بن ابی حواری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو سلیمان دارانی کو
وسوسہ کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا: جب تم خود کو وسوسوں سے آزاد کرنا چاہو تو اسے (یعنی وسوسہ کو) محسوس کرتے
ہی خوشی و فرحت کا اظہار کرنا شروع کر دو، جون ہی تم فرحت و سرور کا اظہار کرو گے وہ تم سے دور ہو جائے گا کیونکہ
شیطان کو مومن کے فرحت و سرور سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہے، اور اگر تم اس وسوسہ پر غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے تو یہ
بڑھ جائے گا۔ (امام نووی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں: یہ چیز اس بات کی تائید کرتی ہے جو بعض ائمہ کرام نے کہی ہے
کہ وسوسہ میں بس وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، کیونکہ کوئی بھی چور ویران گھر میں چوری کا ارادہ نہیں
کرتا۔ (اخرجه النووی فی الاذکار، ۱۱۸، الرقم: ۳۳۷)

وراء ہر جہاں سے تیری شان ہے اللہ اللہ	بس یہی اپنا تو ایمان ہے اللہ اللہ
تو ہی ہے مالک کل ساری خدائی تیری	تیری قدرت کی یہ پہچان ہے اللہ اللہ
ہو نہیں سکتا یہاں تیرا مقام توصیف	تو رحیم بھی تو ہی رحمان ہے اللہ اللہ
تو بھی یکتا تیرا محبوب بھی لا ثانی ہے	جس پہ نازل ہوا قرآن ہے اللہ اللہ
تیرے بندے ممنوں کرم ہیں از حد	کل جہاں کا تو نگہبان ہے اللہ اللہ

نعمتیں اعلیٰ عطا کی ہیں بنا کر انسان یہ تیرا بندوں پہ احسان ہے اللہ اللہ
تیرا عاصی یہ گناہ گار شرمسار رئیس تجھ پہ سو جان سے قربان ہے اللہ اللہ

سفر اور اس سے متعلقہ دعائیں

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوی علی بعیرہ خارجا الی سفر کبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون (الزخرف، ۴۳: ۱۳-۱۲) اللهم، انا نسالك فی سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللهم، هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللهم، انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل، اللهم، انی اعوذ بك من وعشاء السفر وکابة المنظر وسوء المنقلب فی المال والاهل واذ رجع قالهن وزاد فیهن: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون .

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب کہیں سفر پر تشریف لے جانے کے لئے اونٹ پر سوار ہوتے تو آپ ﷺ تین بار اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: (سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون) (الزخرف، ۴۳: ۱۳-۱۲) اللهم، انا نسالك فی سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللهم، هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللهم، انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل، اللهم، انی اعوذ بك من وعشاء السفر وکابة المنظر وسوء المنقلب فی المال والاهل) (پاک ہے وہ ذات جس نے اس (جانور) کو ہمارے تابع کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ! ہمارے لئے اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی مسافت سمیٹ دے، اے اللہ! اس سفر میں تو ہی ہمارا رفیق ہے اور ہمارے بعد ہمارے گھر میں تمہارا ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی تکلیفوں سے، رنج و غم سے اور اپنے اہل اور مال کے برے انجام سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔) اور جب آپ ﷺ سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہ دعا پڑھتے اور ان میں ان کلمات کا اضافہ کرتے: (آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون) (ہم واپس آنے والے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں)۔“ (مسلم شریف،

۳۴۴۷، ۵۰۱/۵، ترمذی شریف، ۱۳۴۲، ۹۷۸/۲)

جو حکم دیا وہ ٹل نہ سکا جو فرمایا وہ ہو کے رہا دیکھی ہے اٹل ہر بات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
ہے یوں بھی مقدس ذات تری سبحان اللہ سبحان اللہ

برے انجام سے اللہ کی پناہ

☆ عن عبد الله بن سر جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر یتعوذ من وعشاء السفر وکآبة المنقلب والحوار بعد الکور ودعوة المظلوم وسوء المنظر فی الامل والمال .

”حضرت عبد اللہ بن سر جس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سفر کی تکلیفوں، بری چیزوں کے دیکھنے، برے انجام، راحت کے بعد تکلیف، مظلوم کی بددعا سے، اور اہل عیال اور مال میں برے انجام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔“ (اخرجه مسلم فی الصحیح، کتاب الحج، باب ما یقول اذا ركب الی سفر الحج وغیرہ، ۹۷۹/۲، الرقم: ۱۳۳۳، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا خرج مسافرا، ۳۹۷/۵، الرقم: ۳۳۳۹)

جودی چاہو ناں ایں کبریا کرنا ایں	قادر و مقدر ایں قدیر ایں توں
جیسی چاہناں ایں پیدا فضا کرناں ایں	پتا ہلدا نہیں تیرے حکم باہجوں
کرم اسما اتے بے بہا کرنا ایں	تیرے فیض دا کوئی نہیں حد بنہ
مڑ کے پل وچہ مطلع صاف کرنا ایں	بدل پلک وچہ چاہڑ کے مینہہ پاویں
جنہوں چاہویں ذلیل رسوا کرنا ایں	جنہوں چاہویں تو عزتاں بخش دیویں
گنہگاراں نوں چاہویں تے رہا کرنا ایں	پارساواں نوں چاہویں تے پکڑ لینا ایں
شہنشاہیاں نوں کتے گدا کرناں ایں	کدھرے بردیاں نوں بخشیں تاج شاہی
چنگی خاک تھیں کتے شفا کرناں ایں	کتے کم نہ دین اکسیر نئے
کدھرے پلک وچہ خشک دریا کرناں ایں	راہگزاراں نوں کدا ایں بحر کدھرے
تے بہار وچہ خزاں پیا کرناں ایں	کریں خزاں دے وچوں بہار پیدا
کتے دو دو پیا عطا کرناں ایں	کوئی اک نوں تر سدا اک وی نہیں
بہتر کرناں جو میرے خدا کرناں ایں	تیرے کماں وچ حافظ نوں دخل کی اے

(حافظ محمد حسین)

ہر بلندی پہ اللہ کی بڑائی

عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل من غزوا وحج او عمرة یکبر علی کل شرف من الارض ثلاث تکبیرات ثم یقول: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك، وله الحمد، وهو علی کل شیء قدير آئبون تائبون عابدون

ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الا حزاب وحده .

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب جہاد یا حج یا عمرہ سے واپس لوٹتے تو ہر اونچی جگہ پر تین دفعہ تکبیر (اللہ اکبر) کہتے۔ پھر یوں کہا کرتے: (لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ، لہ الملک، والہ الحمد، وهو علی کل شیء قدير آیون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الا حزاب وحده) (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم (عاجزی سے تیری بارگاہ میں) آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے نے لشکروں کو شکست دی)۔“ (اخرجه البخاری فی الصحیح، ابواب العمرة، باب ما یقول اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو، ۶۳۷/۲، الرقم: ۱۷۰۳، وایضاً فی کتاب الجهاد والسير، باب التکبیر اذا علا شرفا، ۱۰۹۱/۳، الرقم: ۲۸۳۳، ومسلم فی الصحیح، کتاب الحج، باب ما یقول اذا قفل من سفر الحج وغیره، ۹۸۰/۲، الرقم: ۱۳۴۳، والترمذی فی السنن، کتاب الحج، باب ما جاء ما یقول عند القبول من الحج والعمرة، ۲۸۵/۳، الرقم: ۹۵۰)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب جہاد کے لئے تشریف لے جاتے تو (بارگاہ خداوندی میں) یوں عرض کرتے:

اللهم انت عضدی ونصیری بک احوال وبک اصول وبک اقاتل

اے اللہ! تو ہی میری قوت بازو اور میرا مددگار ہے تیرے ہی بھروسے میں (دشمن کو) دفع کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں حمد کرتا ہوں اور تیری (رحمت کی) امید پہ میں جہاد کرتا ہوں (اخرجه ابو داؤد فی السنن، ۳۳/۳، رقم: ۲۶۰۳، واحمد فی المسند، ۱۳۲/۲، مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی (دشمن) قوم سے خطرہ محسوس کرتے تو (یہ کلمات)

کہتے

اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم

اے اللہ! ہم ان کے مقابل تجھے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ لیتے ہیں (ابو داؤد، ۳۲/۳، رقم: ۲۶۲۲، مسند احمد، ۱۸۳/۳، مشکوٰۃ)

جب خیال حضور آتا ہے دیدہ دل میں نور آتا ہے

لے کے دیکھو نیازی نام نبی اک نرالا سرور آتا ہے

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے خندق کے دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول

اللہ کیا کوئی وظیفہ ایسا ہے جو ہم پڑھیں (کیونکہ) دل حلقوم تک پہنچ گئے ہیں: فرمایا! ہاں (یہ پڑھو)

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا

اے اللہ! ہمارے عیب ڈھک لے اور ہمارے خوف امن میں تبدیل فرما دے۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہوا کے ذریعے اپنے دشمنوں کے منہ پھیر دیے یعنی اللہ نے ہوا کے ذریعے انہیں بھگا دیا۔ (اخرجا احمد بن المسند ۳/۳، مشکوٰۃ)

جو تیرے نام کی تسبیح کیا کرتے ہیں ہاں وہی لوگ ہیں جو مر کے جیا کرتے ہیں
کوئی تجھ پر نہیں راضی نیازی نہ سہی کرنے والے تو خدا کا بھی گلہ کرتے ہیں

جو تیرے نام کی تسبیح کیا کرتے ہیں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فرکب راحلته قال: باصبعة ومد شعبة باصبعة قال: اللهم، انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل، اللهم، اصحبنا بنصحک، واقلبنا بذمة، اللهم، ازولنا الارض، وھون علینا السفر، اللهم، انی اعوذ بک من وعشاء السفر وکآبة المنقلب .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اونٹنی پر سوار ہوتے اور انگلی سے اشارہ فرماتے (شعبہ نے بھی اشارے سے بتایا) اور یہ کلمات کہتے: (اللهم، انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل، اللهم، اصحبنا بنصحک، واقلبنا بذمة، اللهم، ازولنا الارض، وھون علینا السفر، اللهم، انی اعوذ بک من وعشاء السفر وکآبة المنقلب) (اے اللہ! تو ہی سفر کا ساتھی اور گھر کا نگہبان ہے۔ ہم نے تیرے حکم کے ساتھ صبح کی اور تیرے ذمہ کو قبول کیا۔ اے اللہ! ہمارے لئے زمین کو لپیٹ دے اور ہمارا سفر آسان فرما دے۔ اے اللہ! میں سفر کی مشقت اور پریشان لوٹنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا خرج مسافراً، ۴۹۷/۵، الرقم: ۳۳۳۸، و ابو داؤد فی السنن، کتاب الجہاد، باب ما یقول الرجل اذا سافر، ۳۳/۳، الرقم: ۲۵۹۸)

☆ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ودع رجلاً اخذ بیدہ فلا یدعها حتی یكون الرجل هو یدع ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول: استودع اللہ دینک وامنک و آخر عملک .

وفی روایة: عن سالم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول للرجل اذا اراد سفراً: ادن منی اودعک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا فیقول: استودع اللہ دینک وامنک وخواصک عملک .

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ

پکڑتے اور جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ ﷺ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے اور فرماتے (استودع الله دينك وامانتك و آخر عملك) (میں تیرے دین، امانت اور آخری عمل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں)۔“

”اور ایک روایت میں حضرت سالم سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی آدمی کو رخصت کرتے تو فرماتے: میرے قریب آؤ میں تمہیں اسی طرح رخصت کروں جس طرح حضور نبی اکرم ﷺ ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ وہی کلمات ادا فرماتے: (استودع الله دينك وامانتك و خواتيم عملك) (میں تیرے دین، امانت اور آخری عمل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما يقول اذا ودع انسانا، ۴۹۹/۵، الرقم: ۳۴۴۲-۳۴۴۳، وابو داؤد فی السنن، کتاب الجهاد، باب فی الدعاء عند الوداع، ۳۴/۳، الرقم: ۲۶۰۰، ۲۶۰۱)

دل کا حسین آئینہ اتنا سجائیے
ذکر رسول کیجئے انوار پائیے
قائم نماز کیجئے مسجد میں جائیے
عشق رسول پاک سے یہ راہ پائیے
مومن ہیں تو حضور یہ قربان جائیے
ان پر درود بھیجئے خوشبو بسائیے
آنکھوں سے رویئے کبھی دل کو زلایئے

مسجد بنائیے اسے کعبہ بنائیے
خلوت والہانہ تو محفل میں شوق سے
کرتے رہیں تلاوت قرآن پاک بھی
نورانی رہگزر ہے یہ جنت کے واسطے
ان پر درود بھیجئے نعتیں سنائیے
آداب ذکر مصطفیٰ پیش نظر رہیں
توبہ کا بھی مقام ہے منزل کی راہ میں

(آفتابِ کرمی)

اعمال و ایمان پر مخلوق کو گواہ بنا لینا چاہیے

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ جب سفر میں ہوتے اور سویرا پاتے تو یوں ارشاد فرماتے

سمع سامع بحمد الله وحسن بلائہ غلینا ربنا صاحبنا و افضل علینا عائداً بالله من النار
سن لے سننے والا، ہم اللہ کی حمد بجالاتے ہیں اور اس کی ہم پر اچھی نعمت ہے اے ہمارے رب تو ہمارے ساتھ ہو جا اور ہم پر فضل کر، آگ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ (اخرجه مسلم فی صحیحہ، ۲۰۸۶/۳، حدیث رقم ۶۸-۲۷۱۸، مشکوٰۃ)

حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

اس دعا کے پہلے جملے سمع سامع کی قرأت و ترجمہ میں شارحین نے بہت مویشگافیاں کی ہیں فقیر صرف ایک مطلب عرض کرتا ہے سمع یا تو تفضیل کا ماضی ہے یا باب علم کا اور بہر حال ماضی بمعنی خبر ہے یعنی برسینے والا ہماری حمد سن لے یا ہر سننے والا ہماری حمد دوسروں کو سنا دے تاکہ کل قیامت میں گواہی دے، بلاء سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو بغرض امتحان ہم کو دی گئیں، اور حسن کا عطف حمد پر

ہے اور یہاں اقرار پوشیدہ ہے یعنی ہر سننے والا ہماری حمد بھی سن لے اور رب تعالیٰ اچھی آزمائش یعنی اس کی نعمتوں کا اقرار بھی سن لے کہ ہم نعمتوں کے اقراری ہیں اُن پر شاکر ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے: ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ۔

یہ معنی آسان بھی ہے اور بہتر بھی باقی اپنے حبیب کی مراد کو رب جانے اور اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ایمان و اعمال پر لوگوں بلکہ پانی و ذروں کو گواہ بنا لینا بہتر ہے کہ کل قیامت میں ان کی گواہی کام دے گی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سمع خبر ہی ہو اور معنی یہ ہوں کہ ہماری حمد ڈھکی چھپی نہیں بلکہ سننے والوں نے سنی ہے وہ خوب جانتے ہیں۔ (مراۃ شرح مشکوٰۃ، ج ۳، ص ۳۵، ص ۳۶)

☆ عن موسیٰ بن وردان یقول: اتیت ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اودعہ فقال: الا اعلمک یا ابن اخی شیئاً علمنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقولہ عند الوداع؟ قلت: بلی، قال: قل: استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔

”حضرت موسیٰ بن وردان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس انہیں الوداع کرنے کے لئے آیا تو انہوں نے فرمایا: اے میرے چچا زاد! کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جو مجھے حضور نبی اکرم ﷺ نے سکھائی تھی جو میں الوداع کے موقع پر کہا کروں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ انہوں نے فرمایا: یوں کہوں: (استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ) (میں تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں)۔“ (اخرجہ النسائی فی السنن الکبریٰ، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب ما یقول عند الوداع، ۱۳۰/۶، الرقم: ۱۰۳۳۲، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الجہاد، باب تشیع الغزاة وودائعہم، ۹۳۳/۲، الرقم: ۲۸۲۵)

☆ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردفہ علی دابتہ فلما استوی علیہا، کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، وحمد اللہ ثلاثاً، وسبح اللہ ثلاثاً، وهلل اللہ واحداً، ثم استلقى علیہ فضحک، ثم اقبل، فقال: ما من امری یرکب دابتہ فصنع کما صنعت الا اقبل اللہ تبارک وتعالیٰ فضحک الیہ کما ضحکت الیک۔

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو آپ ﷺ نے تین دفعہ اللہ اکبر، تین دفعہ الحمد للہ، تین دفعہ سبحان اللہ اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ پھر تھوڑے سے جھکے اور مسکرائے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے: جو شخص اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے اس طرح کرتا ہے جیسے میں نے کیا ہے تو اللہ عزوجل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی طرح مسکراتا ہے جیسے میں مسکرایا ہوں۔“ (اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند، ۱۳۳۰/۱، الرقم: ۳۰۵۸، والطبرانی فی

مسند الشامیین، ۳۵۶/۲، الرقم: ۱۲۸۹، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۳۱/۱۰)

کیف آور ہو ذکر پاک ترا
میرا مقصود آستاں ہو ترا
لطف کی مجھ پہ انتہا کر دے
ماسوا سے مجھے رہا کر دے

درد کی لذتیں عطا کر دے
میرے ہر اشک کو صدا کر دے
پر اثر میری التجا کر دے
وقفِ توصیفِ مصطفیٰ کر دے
خاتمہ اس طرح مرا کر دے

وجہ تسکین ہو دل کی بے تابی
خامشی میں ہو لطفِ گویائی
مغفرت کی نوید دے مجھ کو
میرے فکر و خیال کو یا رب!
لب پہ ہو وقتِ نزع نام ترا

(حافظ لدھیانوی)

میں نے وہی کیا ہے جو حضور علیہ السلام کو کرتے دیکھا ہے

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں سواری کے لئے ایک گھوڑا لایا گیا آپ نے جب رکاب میں پاؤں مبارک رکھا تو بسم اللہ پڑھی اور جب پیٹھ پر بیٹھ گئے تو تحمید و تسبیح کے بعد یوں دعا کی۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس (سواری) کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس کو مطیع نہ کر سکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں پھر تین بار الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہا (اور یہ دعا کی)۔

سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت

پاک ہے تو میں نے یقیناً اپنی جان پہ ظلم کیا تو مجھے بخش دے تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔

پھر آپ (کرم اللہ وجہہ) نے، عرض کی گئی اے امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ فرمایا! میں نے حضور علیہ السلام کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں: تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا

ان ربك لیعجب من عبده اذا قال رب اعفر ذنوبی .

بے شک تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ (بندہ) کہتا ہے خدا یا میرے گناہ بخش دے۔

اللہ فرماتا ہے: یعلم انه لا یغفر الذنوب غیری .

(میرا بندہ اتنا تو) جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی (اس کے) گناہ بخشنے والا نہیں ہے (اخر جہ ابوداؤد فی السنن،

۳۳/۳، حدیث رقم: ۲۶۰۲، والترمذی ۱۶۳/۵، حدیث رقم: ۳۵۱۱، واحمد فی المسند، ۹۷/۱، مشکوٰۃ)

حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں ”یہی حال بارگاہِ مصطفیٰ کا ہے کہ وہاں بھی بے کسی پر بہت رحم ہوتا ہے۔

دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا گھبرا کے ہو گئے وہ گناہ گار کی طرف

(مراۃ، ج ۴، ص ۴۴)

☆ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول

اللہ، انی ارید سفراً فزودنی قال: زودک اللہ التقوی قال: زدنی قال: وغفر ذنبک قال: زدنی بابی

انت وامی، قال: ویسر لک الخیر حیثما کنت .

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے بارگاہِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں سفر کرنا چاہتا ہوں مجھے زادِ رہ عنایت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (زودك الله التقوى) (اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زادِ رہ عطا فرمائے۔) اس نے عرض کیا: حضور! زیادہ کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (و غفر ذنبك) (اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے۔) اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! اور زیادہ کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (و يسر لك الخير حيثما كنت) (اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھلائی کو آسان کر دے)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۴۵)، ۵/۵۰۰، الرقم: ۳۳۳۳، وابن خزیمہ فی الصحيح، ۱۳۸/۳، الرقم: ۲۵۳۲، والدارمی فی السنن، ۳۷۲/۲، الرقم: ۲۶۷۱، والحاکم فی المستدرک، ۱۰۷/۲، الرقم: ۲۳۷۷، وابن السنی فی عمل الیوم والليلة / ۳۵۱، الرقم: ۵۰۲، والطبرانی فی المعجم الاوسط، ۳۰۵/۱، الرقم: ۱۰۲۷، وايضاً فی الدعاء، ۲۵۹/۱، الرقم: ۸۱۷)

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلاً قال: یا رسول اللہ، انی ارید ان اسافر فوصنی قال: علیک بتقوی اللہ، والتکبیر علی کل شرف، فلما ان ولی الرجل قال: اللہم اطولہ الارض وھون علیہ السفر۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تقویٰ اختیار کو، اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہو، جب وہ شخص واپس جانے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (اللہم اطولہ الارض وھون علیہ السفر) (اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور اس کے لئے سفر کو آسان فرمادے)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۴۶)، ۵/۵۰۰، الرقم: ۳۳۳۵، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الجہاد، باب فضل الحرس والتکبیر فی سبیل اللہ، ۹۲۶/۲، الرقم: ۲۷۷۱، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳۲۵/۲، ۳۳۱، الرقم: ۸۲۹۳، ۸۳۶۷)

تیری ہی ذات اے خدا اصل وجود دو سرا
تیرے ہی نور سے ملی فکر و نظر کو روشنی
خالق دو جہاں بھی تو رازق دو جہاں بھی تو
دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے ہاتھ میں سبھی
ارض و سما بحر و بر سب میں ہے تو ہی جلوہ گر
حمد تیری کرے بیان اعظم بے نوا تو کیا
تیرے ہی نور کی جھلک غازہ روئے ما سوا
تیرے ہی نور کی تو ہے شمس و قمر میں بھی ضیاء
تیرے کرم سے مستفیض میر فقیر و انبیاء
تیرے ہی در سے جو ملا جتنا ملا جس کو ملا!
تیرا ہی ذکر گو بہ گو خانہ بہ خانہ جا بہ جا
جب کہ تو بے مثال ہے اور کیف و کم سے ہے ورا

(اعظم پیشی)

☆ عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك -

”حضرت خولہ بنت حکیم السلمیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی جگہ پڑاؤ کرے (ٹھہرے) اور یہ دعا کرے: (اعوذ بالكلمات اللہ التامات من شر ما خلق) (میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں۔) تو جب تک وہ شخص اس جگہ سے روانہ نہیں ہوگا اسے کوئی چیز ضرر نہیں دے گی۔“ (اخرجه مسلم فی الصحيح، کتاب الذکر والدعاء، والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من سوء القضاء ودرک الشقاء وغیرہ، ۲۰۸۰/۴، الرقم: ۲۷۰۸، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما جاء ما يقول اذا نزل منزلا، ۳۹۶/۵، الرقم: ۳۳۳۷)

مے توحید از خم خانہ غیب بمستانِ الست انعام کردند
چو غلطیدم زمستیء بہر سو حریفان مستی از من وام کردند
ہوید اشد در امکان صورت حق بہ آں صورت جہاں را رام کردند
بہر آں کہ غیرش نیست موجود بخود آغاز وہم انجام کردند

(عزیز مہر علی شاہ جوہر)

کسی بستی میں داخل ہونے کی دعا

عن ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو يؤم الناس في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دار ابي جهم وقال كعب الاحبار: والذي فلق البحر لموسى عليه السلام لان صهيبا حدثني ان محمداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يرق قرية يريد دخولها الا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما اظللن ورب الارضين السبع وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرين فاننا نسألك خیر هذه القرية وخیر اهلها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى عليه السلام لانها كانت دعوات داود عليه السلام حين يرى العدو.

”حضرت ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قراءت کو، جب وہ مسجد نبوی میں امامت کروارہے ہوتے تھے، ابو جہم کے گھر سے سنا کرتے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر کو چیرا! بیشک حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتلایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بھی کوئی ایسی بستی دیکھتے جس میں داخل ہونا چاہتے ہوں تو اسے دیکھتے وقت یہ دعا پڑھتے: (اللهم رب السماوات السبع وما اظللن ورب الارضين السبع وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن

و رب الرياح وما ذرين فاننا نسالك خير هذه القرية وخير اهلها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها
 وشر ما فيها) (اے ساتوں آسمانوں اور جس پر وہ سایہ فلگن ہیں کے رب! اور اے ساتوں زمینوں اور جو کچھ وہ اٹھائی
 ہوئی ہیں کے رب! اور اے شیاطین اور جو کچھ انہوں نے گمراہی کی کے رب! اور اے ہواؤں اور جو وہ غبار اڑاتی ہیں
 کے رب! بے شک ہم تجھ سے اس گاؤں اور اس کے اندر رہنے والوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے اس گاؤں
 اور اس کے اہلیان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔) اور حضرت کعب بن العزیز نے "الذی فلق البحر لموسیٰ" کی قسم
 کھائی کیونکہ یہ داؤد علیہ السلام کی دعائیں تھیں جب وہ دشمن کو دیکھتے (تو یہ دعا پڑھتے)۔ "اخرجه النسانی فی السنن
 الکبریٰ، کتاب عمل الیوم والليلة، باب ما یقول اذا رای قرية یرید دخولها، ۱۳۹/۶، الرقم: ۱۰۳۷۷، وابن حزیمة فی
 الصحیح، ۱۵۰/۳، الرقم: ۲۵۶۵، وابن حبان فی الصحیح، ۳۲۵/۶، الرقم: ۲۷۰۹، والنزاع فی المسند، ۲۳/۶،
 الرقم: ۲۰۹۳، والشاشی فی المسند، ۳۹۵/۲، الرقم: ۹۹۷)

سائل تیرے در کے شاہ و گدا محتاج تیرے ادنیٰ اعلیٰ معطیٰ و مخی ہے ذات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
 ہر عالم کا معبود ہے تو ساجد ہیں سب مجبود ہے تو مقصود دو عالم ذات تری سبحان اللہ سبحان اللہ

ہر شر سے بچاؤ کے لئے

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاقبل
 الليل قال: يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما
 يدب عليك واعوذ بالله من اسد واسود ومن الحية والعقرب من ساكن البلد ومن والد وما ولد .
 "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: حضور نبی اکرم ﷺ جب سفر کرتے اور رات آپڑتی تو
 آپ ﷺ فرماتے: (یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک ومن
 شر ما یدب علیک واعوذ باللہ من اسد واسود ومن الحیة والعقرب من ساکن البلد ومن والد وما ولد
 وما ولد) (اے زمین! میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تیری برائی سے اور ان چیزوں کی برائی سے
 جو تیرے اندر ہیں اور جو (چیزیں) تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں ان کی برائی سے، اور جو مخلوق تیرے اندر چلتی ہے ان
 (سب) کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور شیر، سانپ، بچھو وغیرہ کالی چیزوں سے اور شہر کے رہنے والوں، جننے
 والوں اور جن کو جتا گیا ان (سب) کی برائی سے) اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔" (اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الجهاد،
 باب ما یقول الرجل اذا نزل منزلاً، ۳۲/۳، الرقم: ۲۶۰۳، والنسانی فی السنن الکبریٰ، ۳۲۳/۳، الرقم: ۷۸۶۲،
 وايضاً، ۱۳۳/۶، الرقم: ۱۰۳۹۸، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱۳۲/۲، الرقم: ۶۱۶۱، وايضاً، ۱۲۳/۳، الرقم:

(۱۲۲۷۱)

چمک تیری عیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں جھلک تیری ہویدا چاند میں سورج میں تارے میں

روانی بحر میں اُفتادگی تیری کنارے میں
وہی نکبت چمن سے اڑ کے جا چمکی ستارے میں
جری قدرت نظر آئی مجھے اپنے نظارے میں
ملا وہ لطف آزادی مجھے تیرے سہارے میں
چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں
غضب کی آگ تھی پانی کے چھوٹے سے شرارے میں
شجر میں پھول میں حیواں میں پتھر میں شرارے میں

بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری ہستی
جو نکلا نامہ بن کر غنچہ منقارِ بلبل سے
مرے پہلو میں دل ہے یا کوئی آئینہ جادو کا
اتارا میں نے زنجیرِ رسومِ اہل ظاہر کو
شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوقِ تکلم میں
مجھے پھونکا ہے سوزِ قطرہ اشکِ محبت نے
جو ہے بیدار انساں میں وہ گہری نیند سوتا ہے

اچھے بُرے خواب دیکھنے پر کیا پڑھا جائے

عن ابی قتادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الرؤیا الصالحة من اللہ،
والحلم من الشیطان، فاذا حلم احدکم حلما یخافہ فلیبصق عن یسارہ، ولیتعوذ باللہ من شرہا،
فانہا لا تضرہ۔

”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور بُرا
خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ سو جب تم میں سے کوئی بُرا خواب دیکھے اور ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں
جانب تھوک دے اور کہے: (اعوذ باللہ من شرہا) پھر وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔“ (اخرجہ
البخاری فی الصحیح، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس وجنودہ، ۱۱۹۸/۳، الرقم: ۳۱۱۸، ومسلم فی الصحیح،
کتاب الرؤیا، ۱۷۷۱/۳، الرقم: (۱) ۲۲۶۱، والترمذی فی السنن، کتاب الرؤیا، باب اذا رای فی المنام ما یکرہ ما
یصنع، ۵۳۵/۳، الرقم: ۲۲۷۷، وقال: هذا حدیث حسن صحیح)

تو چاہے جسے عزت بخشے تو چاہے جسے ذلت بخشے ہے قادر مطلق ذاتی تری سبحان اللہ سبحان اللہ

☆ عن ابی قتادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: الرؤیا
الصالحة من اللہ والرؤیا السوء من الشیطان فمن رأى رؤیا فکفرہ منها شیئا فلیبصق عن یسارہ
ولیتعوذ باللہ من الشیطان لا تضرہ ولا یخبر بها احداً فان رأى رؤیا حسنة فلیبشر ولا یخبر الا
من یحب۔

”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بُرا
خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ سو جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اسے بری لگے تو اسے
چاہیے کہ تین بار اپنی بائیں جانب تھوک دے اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، تو پھر وہ خواب اسے کوئی
ضرر نہیں دے گا، اور وہ خواب کسی سے بیان بھی نہ کرنے اور اگر اچھا خواب دیکھے تو اسے بیان کرے اور صرف اس

سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہو۔“ (اخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب التعبیر، باب الرؤیا الصالحة جزء من ستة

واربعین جزء امن النبوة، ۲۵۶۳/۶، الرقم: ۶۵۸۵، ومسلم فی الصحيح، کتاب الرؤیا، ۱۷۷۲/۳، الرقم: (۳) ۲۲۶۱)

رابطہ اس کو ہے سب کی جان سے
ایک ہے اک گھونٹ سے گم کردہ ہوش
ایک جرء سے ہوا بے ہوش ایک
الغرض ہر اک بانداز خمار
غرق ہیں دریا میں سب جو یائے یار
غرق ہیں پانی میں اور پیاسے ہیں آہ
با نوا ہر اک ہے اس کے خوان سے
کر گیا ہے دو سرا دریا کو نوش
کر گیا دریائے وحدت نوش ایک
بے خود و سرمست ہے جو یائے یار
مست ہیں مستی میں اور مانگیں شراب
بے خود و سرمست ہیں اور بادہ خواہ

(حاجی امداد اللہ مہاجر کی)

اپنے پیارے سے خواب بیان کیا جائے

عن ابی سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: لقد کنت اری الرؤیا فتمر ضنی، حتی سمعت ابا قتادة
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: وانا کنت لاری الرؤیا تمر ضنی، حتی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یقول: الرؤیا الحسنة من اللہ، فاذا رای احدکم ما یحب فلا یحدث به الا من یحب واذا رای ما یکره
فلیتعوذ باللہ من شرها، ومن شر الشیطان، ولیتفل ثلاثا، ولا یحدث بها احدا فانها لن تضره۔

”حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب خواب دیکھتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں بھی جب خواب دیکھتا ہوں تو بیمار پڑھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں
نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی
پسندیدہ خواب دیکھے تو کسی سے اس کا ذکر نہ کرے مگر جس سے وہ محبت رکھتا ہو (تو اس سے بیان کرے) اور جب ایسی
چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اور تین مرتبہ اپنی (بائیں جانب)
تھکار دے اور اسے کسی سے بیان نہ کرے تو وہ (خواب) کوئی نقصان نہیں دے گا۔“ (اخرجه البخاری فی الصحيح،
کتاب التعبیر، باب اذا رای ما یکره فلا یخبر بها ولا یدکرها، ۲۵۸۲/۶، الرقم: ۶۶۳۷، ومسلم فی الصحيح، کتاب

الرؤیا، ۱۷۷۲/۳، الرقم: (۳) ۲۲۶۱)

ہر شی میں مضمّن نور ترا ہر رنگ میں رخ مستور ترا ہر سمت تجلیات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
ہر لحن میں ہر آواز میں تو ہر سوز میں تو ہر ساز میں تو ہر لب پر تسبیحات تری سبحان اللہ سبحان اللہ

بِأَخْوَابِ نَقْصَانٍ نَهْ بِهِنِجَائِی

عن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اذا

رای احدکم الرؤیا یحبها، فانها من الله، فلیحمد الله علیها ولیحدث بها واذا رای غیر ذلك مما یکره، فانما هی من الشیطان، فلیستعد من شرها، ولا یذکرها لا حد، فانها لن تضرہ .

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جسے وہ پسند کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اس پر خدا کا شکر ادا کرے اور اسے بیان کر دے اور جب اس کے برعکس دیکھے جسے وہ ناپسند کرے تو وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔“

(اخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب التعبیر، باب اذاری ما یکره فلا یخبر بها ولا یذکرها، ۲۵۸۲/۶، الرقم:

۶۶۳۸، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذاری رؤیا یکرهها، ۵۰۵/۵، الرقم: ۳۳۵۳،

والسنانی فی السنن الکبری، ۳۹۰/۳، الرقم: ۷۶۵۲، وایضا، ۲۲۳/۶، الرقم: ۱۰۷۲۹)

گونا مہ سیاہ کر دم از بسکہ گنہ گارم	اما نظرے بستہ بر رحمت غفارم
احباب بہ تکفیرم گر قلم وزباں راندند	حاشا کہ بحق شاں جز عفو روا دارم
در گونے خدا بیناں زان روز کہ شد گذرم	از مذہب خود بنی بیزارم و بیزارم
رم کردہ ز غیر اودارم دلکے شیدا	بے ہوشم و با ہوشم، بے کارم و با کارم
تاساتی متانم مے ریختہ در کام	عریان و خراباتم، رقصانم و شرمسارم
الملک لمن غلب نامیت زمین باقی	از قرب مع اللہی برتر شدہ زان کارم
از سلسلہ فقرم اے دوست چہ مے پرسی	دلدادہ بمیر آں شہ حیدر <small>رضی اللہ عنہ</small> کزارم

(حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی)

خواب تین قسم کے ہیں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا اقترب الزمان لم تکذب رؤیا المسلم تکذب وصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا ورؤیا المسلم جزء من خمس واربعمین جزء امن النبوة والرؤیا ثلاثة: فرؤیا الصالحة بشری من الله، ورؤیا تحزین من الشیطان، ورؤیا مما یحدث المرء نفسه فان رای احدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بها الناس . قال: واحب القید واکره الغل والقید ثبات فی الدین .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو قریب ہے کہ مسلمان کے خواب جھوٹے ہوں اور تم میں سے سچے خواب والا تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، اور مسلمان کا خواب نبوت کے پینتالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے اور خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک صالح خواب ہوتا

ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، اور غمگین و پریشان کر دینے والا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خواب انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں (جو وہ دن بھر سوچتا رہتا ہے۔) لہذا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے اور آپ ﷺ یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے (خواب میں) قید پسند ہے۔ رطوق کو میں پسند نہیں کرتا (کیونکہ) قید دین پر ثابت قدمی (کی علامت) ہے۔“

وزاد الترمذی : وکان یقول من رآنی فانی انا هو فانہ لیس للشیطان ان تمثل بی وکان یقول : لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح . وقال الترمذی : هذا حدیث حسن صحیح .

”امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ بیان کیا: ”اور آپ ﷺ یہ بھی فرماتے تھے: جس نے (خواب میں) مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میرا ہم شکل نہیں بن سکتا اور آپ ﷺ یہ بھی فرماتے: اپنا خواب کسی عالم یا اپنے کسی خیر خواہ کے سوا کسی اور کے سامنے بیان نہ کیا کرو۔“ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (اخرجہ مسلم فی الصحیح، کتاب الرؤیا، ۱۷۷۳/۳، الرقم: ۲۲۶۳، والترمذی فی السنن، کتاب الرؤیا، باب فی تاویل الرؤیا ما یستحب منها وما یکرہ، ۵۳۷/۳، الرقم: ۵۳۱، ۲۲۸۰، ۲۲۹۱، وابو داؤد فی السنن، کتاب الادب، باب ما جاء فی الرؤیا، ۳۰۴/۳، الرقم: ۵۰۱۹)

☆ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال : اذا رای احدکم الرؤیا یکرہها فلیصق عن یسارہ ثلاثا ولیستعد باللہ من الشیطان ثلاثا ولیتحول عن جنبہ الذی کان علیہ .

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو تین بار اپنی بائیں جانب تھوک دے اور تین بار شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کروٹ بدل لے۔“ (اخرجہ مسلم فی الصحیح، کتاب الرؤیا، ۱۷۷۲/۳، الرقم: ۲۲۶۲، وابن ماجہ فی السنن، کتاب تعبیر الرؤیا، باب من رای رؤیا یکرہها، ۱۲۸۶/۲، الرقم: ۳۹۰۸-۳۹۱۰، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳۵۰/۳، الرقم: ۱۳۸۴۲)

نشان ترا کہیں اے بے نشان نہیں ملتا	مکان تو ملتے ہیں پر لا مکان نہیں ملتا
نہ ہو جو چشم بصیرت تو کیا نظر آئے	کہیں بھی خالق کون و مکان نہیں ملتا
کمال یہ ہے دل عاشقاں میں رہتا ہے	یہ لطف ہے ہر محفل عیاں نہیں ملتا
ہر ایک ذرہ میں جلوہ نمائی ہے اس کی	یہ کیا کہا کہ وہ جان جہاں نہیں ملتا
تلاش اپنی ہے در پردہ جستجو اس کی	خود آپ ہی مجھے اپنا نشان نہیں ملتا
مجھے خبر نہیں ہرگز کہ گم ہوا ہے کہاں	بہت دنوں سے دل ناتواں نہیں ملتا

قسم خدا کی خدا اس کو مل نہیں سکتا جسے وہ سرور کون و مکار نہیں ملتا
 بغیر عشق محمد عبادت اے زاہد خیال خام ہے قصر جتاں نہیں ملتا
 مجھے یہ غم ہے کہ طیبہ چھٹے نہ اے زاہد تجھے یہ فکر کہ باغ جتاں نہیں ملتا
 تجھے خبر نہیں کس جاہ ہوا ہوں خاک نشیں میرا دماغ ہی اے آسماں نہیں ملتا

رنج و غم اور مصائب و آلام میں کیا پڑھا جائے؟

عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم، اجرني في مصيبتى واخلف لي خيرا منها، الا اجره الله في مصيبتى واخلف له خيرا منها قالت: فلما توفي ابو سلمة قلت: كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

”اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو بھی کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے: (انا لله وانا اليه راجعون، اللهم، اجرني في مصيبتى واخلف لي خيرا منها) (بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور بے شک ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اے اللہ! میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما۔) تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے اور اس کے بعد (اس کے لئے) بہتر آنے والے کو مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب (ان کے شوہر) حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کے امر کے مطابق یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان سے بہتر یعنی خود حضور نبی اکرم ﷺ کو میرے لئے مقرر فرما دیا (یعنی زوجیت رسول ﷺ میں آنے کا شرف حاصل ہوا)۔“
 (اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، ۶۳۲/۲، الرقم: (۳) ۹۱۸، و ابو داؤد في السنن، كتاب الجنائز باب في الاسترجاع، ۱۹۱/۳، الرقم: ۳۱۱۹، ومالك في المؤطا، كتاب الجنائز، باب جامع الحسبة في المصيبة، ۲۳۶/۱، الرقم: ۵۶۰، واحمد بن حنبل في المسند، ۳۰۹/۶، الرقم: ۲۶۶۷۷، والطبراني في المعجم الكبير، ۳۰۶/۲۳، الرقم: ۶۹۲)

یہ مانا میں نے کہ ناقوس بھی جس بھی ہے دل جزیں کا کوئی ترجمان نہیں ملتا
 جہاں کو چھان لیا خوب دیکھ بھال لیا کوئی رفیق دم امتحان نہیں ملتا
 ہر ایک باغ میں پھرتا ہوں مثل بلبل کے وہ شاخ گل مجھے وہ آشیاں نہیں ملتا
 جہاں پہ حضرت جبریل آتے جاتے تھے الہی کیوں مجھے وہ آستاں نہیں ملتا
 کوئی حسیں نہیں چچتا میری نگاہوں میں وہ دلربا مجھے وہ دستاں نہیں ملتا

فسانہ شبِ غم کون سننے والا ہے . . . کے سناؤں کوئی قدر داں نہیں ملتا
جنید و شبلی و عطار جس سے مست ہوئے . . . وہ جام کیوں مجھے پیر مغاں نہیں ملتا
بہت تلاش کیا ہم نے دونوں عالم میں . . . بجز حضور کوئی مہرباں نہیں ملتا
شکور تیری ہر اک بات میں ہے لطف عجیب . . . کسی سے بھی ترا طرزِ بیاں نہیں ملتا

(خواجہ عبدالشکور صادق شاہ نظامی کبیل پوش)

اپنے اوپر لازم کر لو

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كره امر قال: يا
حي يا قيوم برحمتك استغيث . وباسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظوابيا
ذاالجلال والاکرام .

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب کسی معاملہ سے پریشان ہوتے تو یہ دعا
فرماتے: (یا حی یا قیوم برحمتک استغیث) (اے زندہ اور قائم رکھنے والے (رب)! میں تیری رحمت کے
ساتھ (تیری) مدد کا طلب گار ہوں۔) اور اسی سند سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم (یا ذا الجلال
والاکرام) کا (ورد خود پر) لازم کر لو۔“ (اخرجہ الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۹۲)، ۵/۵۳۹، الرقم: ۳۵۲۳، والحاکم فی
المستدرک، ۱/۶۸۹، الرقم: ۱۸۷۵، وابن السنی فی عمل الیوم والمیلہ، ۱/۲۹۹، الرقم: ۳۳۷)

وفی روایة: عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اهمه الامر
رفع راسه الى السماء فقال: سبحان الله العظيم . واذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي ، يا قيوم .
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب کسی معاملہ میں مغموم ہوتے تو سر انور آسمان کی
طرف اٹھاتے اور یہ کلمات کہتے: (سبحان الله العظيم) اور جب گڑگڑا کر دعا فرماتے تو کہتے: (یا حی ، یا
قیوم)۔“ (اخرجہ الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما جاء ما يقول عند الكرب، ۵/۴۹۵، الرقم: ۳۳۳۶)

اے خدا تو رب موجودات ہے . . . حمد لکھوں میری کیا اوقات ہے
رات دن ہے مجھ کو تیری ہی تلاش . . . منزل مقصود تیری ذات ہے
دو جہاں محتاج تیرے لطف کے . . . تیری رحمت دافع آفات ہے
تیرے انعامات بے حد و حساب . . . قابلِ تحمید تیری ذات ہے
تو ہے جب دل سے کنیز سیدہ . . . اے نظافت پھر تیری کیا بات ہے

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا

عن سعد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذى النون اذ دعا

وهو في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين . فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له .

”حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو ان کے کلمات یہ تھے: (لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين) (تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی (اپنی جان پر) زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔) جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لئے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔“

(اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۸۲)، ۵۲۹/۵، الرقم: ۳۵۰۵، والنسائی فی السنن الکبری، ۱۶۸/۶، الرقم: ۱۰۳۹۲، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۱۷۰، الرقم: ۱۳۶۲)

☆ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دعوات المکروب: اللهم، رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا اله الا انت .

”حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مصیبت زدہ یوں دعا کرے: (اللهم، رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا اله الا انت) (اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ مجھے ایک پل کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے تمام حالات کو درست فرمادے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے)۔“ (اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، ۳۲۳/۳، الرقم: ۵۰۹۰، والنسائی فی السنن الکبری، ۱۶۷/۶، الرقم: ۱۰۳۸۷، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳۲/۵، الرقم: ۲۰۳۲۷، وابن ابی شیبۃ فی المصنف، ۲۰/۶، الرقم: ۲۹۱۵۳)

خستہ جاں بیمار کو دے دی شفا اچھا کیا
نال دی تو نے الہی ابتلا کی ساعتیں
زیر دستوں کو جہاں میں سرفرازی کی عطا
تیری قدرت کی کرشمہ سازیاں کیا ہوں بیاں
گو بجتی اب بھی وہاں ہے ”لن ترانی“ کی صدا
کھل گئے اسرار تیرے جس پہ مولا دیر میں
یہ کسی حسن عمل کا یا دعا کا تھا اثر
وجہ تخلیق جہاں یعنی وہ تیرا شاہکار!

مصیبت کے وقت کی دعا

عن اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا قالت: قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا اعلمک

کلمات تقولینهن عند الکرب او فی الکرب: اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً۔
 ”حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تم انہیں مصیبت کے وقت یا مصیبت میں کہا کرو: (اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً) (اے اللہ! اے اللہ! اے میرے رب! میں اس (پروردگار) کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا)۔“

وفی روایة: عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع اهل بیتہ فقال: اذا اصاب احدکم غم او کرب فلیقل: اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً۔

”اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا: جب تم میں سے کسی کو غم و تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ (یوں) کہے: (اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً) (اے اللہ! اے اللہ! اے میرے رب! میں اس (پروردگار) کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا)۔“ (اخرجه ابو داؤد فی السنن کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، ۸۷/۲، الرقم: ۱۵۲۵، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الدعاء، باب الدعاء عند الکرب،

۱۲۷۷/۲، الرقم: ۳۸۸۲، والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۱۶۶/۶-۱۶۷، الرقم: ۱۰۳۸۳، ۱۰۳۸۶)

کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب	نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب
کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا	کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب
گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر	سختیاں نزع کی کیونکر میں سہوں گا یا رب
نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا	تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب
قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے	حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب
گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہو گا	قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب
قبر محبوب کے جلوؤں سے بسا دے مالک	یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب
اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش! حضور	ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب

(محمد الیاس عطار قادری)

مشکل حل ہوگی، شہادت کا درجہ نصیب ہوگا

عن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا خیر کم او احدکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من الدنیا دعا به فرج عنہ فقیل له: بلی قال: دعاء ذی النون: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔

”حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں خبر نہ دوں یا فرمایا: تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت اور کسی

دنیاوی آزمائش میں مبتلا ہو تو اس کے تو سئل سے مانگنے پر اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حضرت ذوالنون علیہ السلام کی دعا: (لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) (تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی (اپنی جان پر) زیادتی کرنے والوں میں سے تھا)۔“

عن سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: هل ادکم علی اسم اللہ الاعظم الذی اذی دعی به اجاب واذا سئل به اعطی الدعوة الی دعاہا یونس حیث ناداه فی الظلمات الثلاث: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ (الانبیاء، ۸۷: ۲۱) فقال رجل: یا رسول اللہ، هل کانت لیونس خاصہ ام للمؤمنین عامہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا تسمع قول اللہ عزوجل: ونجینہ من الغم وکذلك ننجد المؤمنین۔ (الانبیاء، ۸۸: ۲۱) وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم دعاہا فی مرضہ اربعین مرۃ فمات فی مرضہ ذالک اعطی اجر شہید وان برأ برأ وقد غفر له جمیع ذنوبہ۔

(امام حاکم کی ایک روایت میں) حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو وہ اس دعا کو قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سے اس سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے اور یہ وہی دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اس طرح کہ جب انہوں نے تین تاریکیوں (یعنی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی اور سمندر کی تہ) میں اللہ تعالیٰ کو پکارا: (لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) تو ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا عام مؤمنین کے لئے بھی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا: (و ننجینہ من الغم و کذلك ننجد المؤمنین) (اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔) اور حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس مسلمان نے بھی چالیس دفعہ اپنی بیماری میں یہ دعا مانگی پھر اگر وہ اسی مرض میں فوت ہو گیا تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، اور اس کے تمام گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔“ (اخرجه النسائی فی السنن الکبری، کتاب عمل الیوم والليلة، باب ذکر دعوة ذی النون، ۱۶۸/۶، الرقم: ۱۰۴۹۱، والحاکم فی المستدرک، ۲۸۵/۱، الرقم: ۱۸۶۴-۱۸۶۵، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۲۱۳/۲، الرقم: ۳۰۳۲)

اے خالق وجود و عدم، صورت و خیال، اے مالک فنا و بقا، رب ذوالجلال
تو اصل ہر کمال ہے، تو شان ہر جمال، دنیا تمام ہے ترا آئینہ خیال

سب سلسلے ہیں تجھ سے غیاب و شہود کے
 ہر صبح تازہ تر ترے انوار کی نمو
 حادث ہر اک چیز ہے لیکن ترا وجود
 پیش از ازل یہی تری شانِ جمال تھی
 تیرا کوئی شریک، نہ ساتھی، نہ جوڑ کا
 پیرایہ نشاط ہے جاں کو تری لگن
 جس دل میں تیری شمعِ محبت ہو ضو فگن
 ادراک کیا کریں گے ترا عامیوں کے ذہن
 تجھ سا کوئی سمیع، نہ تجھ سا کوئی بصیر
 اک ذرہ بے حقیقت و نا چیز میں بھی ہوں
 تُو نے ہی دی ہے دل کو مرے روشنی کی دھن
 لغزش ہوئی ہے پائے کرم کو بھی با رہا

اے اللہ! قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه (اي ابن مسعود) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط اذا اصابه هم وحزن: اللهم، انى عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى . الا اذهب الله عز وجل همه وابدله مكان حزنه فرجا . قالوا: يا رسول الله، ينبغى لنا ان نتعلم هو لاء الكلمات؟ قال: اجل ينبغى لمن سمعهن ان يتعلمهن .

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب وہ غم و حزن میں مبتلا ہو تو یہ دعا مانگے: (اللہم، انى عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى) (اے اللہ! میں تیرا بند اور تیرے غلام اور تیری باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی (یعنی تقدیر) تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے حق میں مبنی بر عدل ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس اسم کے ذریعے سوال کرتا ہوں

جو تو نے اپنے لئے منتخب کیا ہے یا جو تو نے اپنی کتاب میں اُتارا ہے یا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا جسے تو نے اپنے پاس علمِ غیب میں محفوظ رکھا ہے، یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غم و حزن کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ (تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور فرماتا ہے اور اسے خوشی سے بدل دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم یہ کلمات سیکھ لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں جو شخص ان کلمات کو سنے اُسے چاہیے کہ وہ انہیں سیکھ لے۔ (اخرجه احمد بن حنبل فی المسند، ۴۵۲/۱، الرقم: ۲۳۱۸، وابن ابی شیبہ فی المصنف، کتاب الدعاء، باب ما قالوا فی الرجل اذا اصابه هم او حزن، ۴۰/۶، الرقم: ۲۹۳۱۸، وابن حبان فی الصحيح، ۲۵۳/۳، الرقم: ۹۷۲، وابو یعلیٰ فی المسند، ۱۹۸/۹، الرقم: ۵۲۹۷،

والحاکم فی المستدرک، ۶۹۰/۱، الرقم: ۱۸۷۷)

(یہ حدیث الفاظ کے قلیل تفاوت کے ساتھ آگے بھی آرہی ہے)

مشت گل کو آدم زندہ بنا دیتا ہے کون؟
 کون میرے ذہن میں کرتا ہے مضمونوں کی کاشت؟
 ہاتھ کس کا شب کی زلفوں میں پروتا ہے نجوم؟
 ننھی ننھی بوندیوں میں کون بھر دیتا ہے راگ؟
 آتی ہے دشت وچمن سے سانس لینے کی صدا
 آدمی تو دانہ بوتا ہے بطون کشت میں
 کس کا دست نقش گر کرتا ہے مٹی پر عمل؟
 کون رکھ دیتا ہے شب کو نطق بلبل میں غزل؟
 جب مسافر کے قدم رُک جائیں ہمت ٹوٹ جائے
 کس کا پا کر حکم پھر جاتے ہیں طوفانوں کے رُخ؟
 جب حجاب رو برو چھونے کی ہوتی ہے نظر
 کس کے دریا میں سفینوں کی طرح بہتے ہیں ہم

دل میں احساسات کی شمعیں جلا دیتا ہے کون؟
 میرے آگے شعر کے خرمن لگا دیتا ہے کون؟
 صبح کے زُخار پر سورج سجا دیتا ہے کون؟
 پارہ پارہ ابر کے آنچل اڑا دیتا ہے کون؟
 دفعتاً خوابیدہ مٹی کو جگا دیتا ہے کون؟
 لیکن اُس کو خوشہ زریں بنا دیتا ہے کون؟
 فرخ پر خوش رنگ تصویریں بچھا دیتا ہے کون؟
 صبح دم کلیوں میں چھپ کر مسکرا دیتا ہے کون؟
 منزل اُمید پر آکر صدا دیتا ہے کون؟
 ڈوبتی کشتی کو ساحل پر لگا دیتا ہے کون؟
 دیدہ تحقیق پر پردے گرا دیتا ہے کون؟
 ہاں اسی نادیدہ قوت کو خدا کہتے ہیں ہم

(عاصی کرتالی)

تیرا غم دور ہوگا اور گناہ معاف

عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلثا اللیل، قام فقال: یا ایہا الناس، اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ، قال ابی: قلت: یا رسول اللہ، انی اکثر الصلاة علیک، فکم

اجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فان زدت فهو خير لك . قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فان زدت فهو خير لك . قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فان زدت فهو خير لك . قلت: اجعل لك صلاتي كلها، قال: اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك .

”حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب رات کا دو تہائی حصہ گزر جاتا تو گھر سے باہر تشریف لے آتے اور فرماتے: لوگو! اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہلا دینے والی (قیامت) آگئی، پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا، موت اپنی تختی کے ساتھ آگئی، موت اپنی تختی کے ساتھ آگئی۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ لہذا (مجھے بتائیں کہ) میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس قدر تم بھیجنا چاہو؟ انہوں نے عرض کیا: کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لئے خاص کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس قدر تم چاہو لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) آدھا حصہ خاص کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس قدر تم چاہو لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) دو تہائی کافی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس قدر تم چاہو لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) تب میں ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لئے خاص کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تو یہ درود تمہارے تمام غموں کے (مداوا) کے لئے کافی ہو جائے گا اور (اس کی بدولت) تمہارے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔“ (احمرجہ

الترمذی فی السنن، کتاب صفة القيامة والرفائق والورع، باب: (منه)، ۶۳۶/۲، الرقم: ۲۳۵۷، واحمد بن حنبل فی المسند، ۱۳۶/۵، الرقم: ۲۱۲۸۰، والحاكم فی المستدرک، ۳۵۷/۲، الرقم: ۳۵۸، الرقم: ۳۵۷۸، ۳۸۹۴، وعبد بن

حميد فی المسند، ۸۹/۱، الرقم: ۱۷۰، والبيهقي فی شعب الايمان، ۱۸۷/۲، الرقم: ۱۳۹۹)

نقش ترا فزوں فزوں نام ترا رواں رواں	مدح تیری سخن سخن وصف تیرا بیاں بیاں
جلوہ ترا نظر نظر یاد تری نفس نفس	بات تری دہن دہن ذکر ترا زباں زباں
ابر ترے فلک فلک پھول ترے زمیں زمیں	چاند ترے فضا فضا نور ترا زماں زماں
روپ ترا افق افق رنگ ترا شفق شفق	آب تری گہر گہر موج تری کراں کراں
تیری مہک کرن کرن تیری صبا چمن چمن	تیری مہک سمن سمن تیرا کرم جہاں جہاں
تیری صدائیں ساز ساز تیری نوائیں راگ راگ	تیری طلب دعا دعا تیری پکار ازاں ازاں
میں نے تو رات رات بھر ذکر کیا اشک اشک	میں نے تجھے سحر سحر یاد کیا فغاں فغاں
کام مرا خطا خطا شاں تری عطا عطا	میرے خدا کرم کرم میرے کریم اماں اماں

(عاصی کرناہی)

اللہ تعالیٰ تیرے دنیا و آخرت کے معاملات کے لئے کافی ہوگا

عن حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلاً قال: یا رسول اللہ، اجعل ثلث صلاتی علیک؟ قال: نعم، ان شئت قال: الثلثین؟ قال: نعم، قال: فصلاتی کلها؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذن ینکفیک اللہ ما اہمک من امر الدنیا و آخرتک .

”حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اپنی دعا کا تیسرا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لئے خاص کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اگر تو چاہے (تو ایسا کر سکتا ہے۔) پھر اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) کیا دعا کا دو تہائی حصہ (آپ پر درود بھیجنے کے لئے خاص کر دوں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں پھر اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) کیا ساری دعا (آپ پر درود بھیجنے کے لئے خاص کر دوں)؟ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تو اللہ تعالیٰ تیرے دنیا اور آخرت کے معاملات کے لئے کافی ہو جائے گا۔“ (اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، ۳۵/۳، الرقم: ۳۵۷۴، وابن ابی عاصم فی الاحاد والمثنائی، ۱۲۲/۳، الرقم: ۲۱۲۲، والبیہقی فی شعب الایمان، ۲۱۷/۲، الرقم: ۱۵۸۰)

☆ عن الطفیل بن ابی عن ابیہ قال: قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: ارایت ان جعلت صلاتی کلها صلاة علیک قال: اذا ینکفیک اللہ ما اہمک من امر دنیاک و آخرتک .

”حضرت طفیل بن ابی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا: (یا رسول اللہ!) آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اپنی ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لئے خاص کر دوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا و آخرت سے متعلق تمام امور کے لئے کافی ہو جائے گا۔“ (اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف، باب فی ثواب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۲۵۳/۲، الرقم: ۸۷۰۶، وایضاً، ۳۲۵/۶، الرقم: ۳۱۷۸۳)

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی علی عند قبری و کل بہا ملک ینلغنی و کفی بہا امر دنیاہ و آخرتہ و کنت لہ شہیداً او شفیعاً .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اسے سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھے وہ درود پہنچاتا ہے اور یہ درود اس درود بھیجنے والے کی دنیا و آخرت کے معاملات کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور (قیامت کے روز) میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوگا۔“ (اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان، الخامس عشر من شعب الایمان، ۲۱۸/۲، الرقم: ۱۵۸۳، والخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد، ۲۹۶/۳، وابن عساکر فی تاریخ مدینۃ دمشق، ۳۰۲/۵۶، والسیوطی فی الدر المنثور، ۶/۲۵۳)

ہے جس کے ہاتھ میں یہ نظامِ ہست و بود
وہی قادر و قیوم ہر جگہ موجود
یہ رنگ و بو کا جہاں ہو کہ آسمانِ کبود
رہے گا تا بہ ابد جاری وہ الوہی سرور
اُسی کے اذن سے قائم ہے خاکداں کا وجود
ملائکہ کا کیا رب نے یوں اسے مسجود
وہی کرے گا عطا مجھ کو گوہرِ مقصود
عیان ہیں اس پہ برابر تمام غیب و شہود
کہ ٹھہرا عقدہ کُشا سر بہ سر سلام و درود

(ضیاء نیر)

جہاں کا خالق و مالک عظیم رب درود
چلا رہا ہے جو یہ کارخانہ عالم
ہر ایک شے کا ظہور اس کے امر "کن" سے ہوا
ازل کے ساز پہ جو اس نے چھیڑ رکھا ہے
یہ کائنات اُسی کے ہے حکم کی پابند
عطا تھا کرنا فضیلت کا تاج آدم کو
کرم کی بھیک کا خالق سے میں سوالی ہوں
نہیں ہے اس سے کہیں مخفی کوئی ذرہ بھی
قبولیت کے وہی کھولتا ہے در نیر

درود شریف گناہوں کو اس سے زیادہ مٹاتا ہے جتنا پانی آگ کو بجھاتا ہے

عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق
للخطایا من الماء للنار، والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عتق الرقاب، وحب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من مهج الانفس اوقال: ضرب السیف فی سبیل اللہ
عزوجل۔

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: حضور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا پانی کے آگ کو بجھانے
سے بھی زیادہ گناہوں کو مٹانے والا ہے اور حضور ﷺ پر سلام بھیجنا یہ غلاموں کو آزاد کرنے سے بڑھ کر فضیلت والا کام
ہے اور حضور ﷺ کی محبت یہ جانوں کے لئے روحوں سے بڑھ کر فضیلت والی ہے یا فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد
کرنے سے بھی بڑھ کر فضیلت والی ہے۔“ (اخرجہ الہندی فی کنز العمال، ۳۶۷/۲، الرقم: ۳۹۸۲، والخطیب

البغدادی فی تاریخ بغداد، ۱۶۱/۷، والسیوطی فی الدر المنثور، ۲۵۳/۶)

☆ عن عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من
كانت له الى الله حاجة او الى احد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين، ثم
ليشئ على الله، وليصل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ليقل: لا اله الا الله الحليم الكريم،
سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اسألك موجبات رحمتك، وعزائم
مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، لا تدع لي ذنباً الا غفرته، ولا هما الا
فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها، يا ارحم الراحمين۔

”حضرت عبد اللہ بن اونی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے کوئی حاجت ہو تو اُسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے دو نفل پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پیش کر کے یہ دعائے نگیں: (لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، لا تدع لي ذنبا الا غفرتة، ولا هما الا فرجتة، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها، يا ارحم الراحمين) (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بردبار بزرگ ہے، (اے اللہ!) عرش عظیم کے مالک! میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے (اے اللہ!) میں تجھ سے تیری رحمت کے ذرائع، بخشش کے اسباب نیکی کی توفیق اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں، میرے تمام گناہ بخش دے، میرے جملہ غم دور فرما دے اور میری ہر وہ حاجت جو تیری رضا مندی کے مطابق ہو پوری فرما۔ اے سب مہربانوں سے بڑھ کر رحمت والے! (میری حاجت پوری فرما دے۔ آمین)۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: اس حدیث کے راوی فاید بن عبد الرحمن، ابوالورقاء کوفی کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور وہ مستقیم الحدیث ہیں۔ امام منذری نے بھی فرمایا: اسے امام حاکم نے مختصراً روایت کر کے فرمایا: میں نے اس کے شواہد میں دیگر احادیث کی تخریج بھی کی ہے اور اس حدیث کا راوی فاید مستقیم الحدیث ہے۔

(اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الصلاة، باب ما جاء فی صلاة الحاجة، ۳۴۴/۲، الرقم: ۴۷۹، وابن ماجه فی السنن، کتاب القامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فی صلاة الحاجة، ۳۴۱/۱، الرقم: ۱۳۸۳، والبزار فی المسند، ۳۰۰/۸، الرقم: ۳۳۷۳)

کامل ہے جو ازل وہ ہے کمال تیرا	باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جمال تیرا
ان کی نظر میں شوکت چھتی نہیں کسی کی	آنکھوں میں بس گیا ہے جسکے جمال تیرا
دل ہو کہ جان تجھ سے کیونکر عزیز رکھیے	دل سے سو چیز تیری جاں سے سو مال تیرا
گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں	لیکن تھلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا
گلشن کے رنگ و بو تیرا پتا بتاتا	غنچے کی مسکراہٹ لائی پیام تیرا

اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: ان لله عز وجل ملائكة في الارض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فاذا اصاب احدكم عرجة في الارض، لا يقدر فيها على الاعوان فليصح فليقل: عباد الله، اغثونا او اعينونا رحمكم الله فانه سيعان وفي رواية روح: ان لله ملائكة في الارض يسمون الحفظة يكتبون ما يقع في الارض من ورق الشجر، فما اصاب احدا منكم عرجة او احتاج الى عون بفلاة من الارض فليقل: اعينونا، عباد الله، رحمكم الله فانه يعان

ان شاء اللہ ۔

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے، انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو درختوں کے پتوں کے گرنے تک کو لکھتے ہیں۔ پس تم میں سے جب کوئی کسی جگہ (کسی بھی مشکل میں گھر) جائے، جہاں بظاہر اس کا کوئی مددگار نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ پکار کر کہے: (عباد اللہ، اغیثونا او اعینونا رحمکم اللہ) (اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ہماری مدد کرو۔) تو اس کی مدد کی جائے گی اور حضرت روح کی روایت میں ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جنہیں ”حفظہ“ (یعنی حفاظت کرنے والے) کا نام دیا جاتا ہے، اور جو زمین پر گرنے والے درختوں کے پتے تک لکھتے ہیں، پس جب تم میں سے کوئی کسی جگہ محبوس ہو جائے یا کسی ویران جگہ پر اسے کسی مدد کی ضرورت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے: (اعینونا، عباد اللہ، رحمکم اللہ) (اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ہماری مدد کرو۔) تو ان شاء اللہ اس شخص کی (ضرور) مدد کی جائے گی۔“ (اخرجه ابن ابی شیبہ فی المصنف، ۹۱/۲، الرقم: ۲۹۷۲۱، والبیہقی فی شعب الایمان، ۲/۲۸، الرقم: ۷۶۹۷، وایضاً، ۱۸۳/۱، الرقم: ۱۶۷، والمناری فی فیض القدیر، ۳۰۷/۱، والہیثمی فی مجمع الزوائد،

(۱۳۲/۱۰)

منج ہے تو ہی جو وکرم، لطف و عطا کا
تار رگ جاں اور یہ سر رشتہٴ انفاس
دکھلاتا ہے منزل کا نشاں بھلکے ہوؤں کو
ہیں مست تیرے ذکر سے مرغانِ سحر خیز
مانا تیری رحمت کی نہیں کوئی نہایت
آہ دل مظلوم ہلا دیتا ہے پل میں
وہ تیرے ہی بندے ہیں سر مسند ارشاد
دیتے ہیں تجھے واسطہ ہم بارِ الہا
ہر نقش کف پا تیرے محبوب کا یا رب
مقبول دعا ہو زرہ لطفِ خدایا!
نے قوت اظہار ہے نے طاقتِ گفتار
خالق ہے تو اے مالکِ کل ارض و سما کا
ہے ہاتھ میں تیرے ہی فنا اور بقا کا
گمراہوں کو دیتا ہے پتا راہِ ہدیٰ کا
ہے زمزمہ خواں تیرا ہی ہر جھونکا ہوا کا
ظالم پہ مگر قہر بھی ہے تیرا بلا کا
پایہ سر افلاک تیرے عرشِ علیٰ کا
منصب ہے عطا جن کو ہوا راہ نما کا
سرکار دو عالم کا شہ ہر دو سرا کا!
ہے قبلہ مقصودِ نظر اہل وفا کا
صدقہ شہ سادات امام الشہداء رضی اللہ عنہم کا
حق کیسے ہو تیرے سے ادا تیری ثنا کا

(ضیاء تیرے)

فرشتوں کے وسیلہ سے دعا

عن اسامة بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتی الفجر

فصلی قریبا منه، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین خفیفین، فسمعه یقول: اللہم، رب جبریل ومیکائیل واسرافیل ومحمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، اعوذ بک من النار ثلاث مرات .

”حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ فجر کی دو رکعت نماز ادا کی اور وہ آپ ﷺ کے قریب ہی کھڑے تھے۔ آپ ﷺ نے دو رکعتوں میں آہستہ آواز میں قراءت فرمائی، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حضور نبی اکرم ﷺ (نماز سے فارغ ہو کر) یہ دعا فرما رہے ہیں: (اللہم، رب جبریل ومیکائیل واسرافیل ومحمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، اعوذ بک من النار) (اے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور محمد مصطفیٰ ﷺ کے رب! میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔) آپ ﷺ نے یہ تین کلمات تین مرتبہ ادا فرمائے۔“ (اخرجه الحاکم فی المستدرک، باب ذکر اسامة بن عمیر الہذلی والد ابی الملیح رضی اللہ عنہما، ۴۲۱/۳، الرقم: ۶۶۱۰، وابویعلی فی المسند، ۲۱۳/۸، الرقم: ۴۷۷۹، والطبرانی فی المعجم الکبیر،

۱۹۵/۱، الرقم: ۵۲۰، والمقدسی فی الاحادیث المختارة، ۲۰۵/۳-۲۰۶، الرقم: ۱۳۲۲-۱۳۲۳)

☆ عن عتبة بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عوناً، وهو بارض لیسن بہا انیس فلیقل: یا عباد اللہ، اغیثونی، یا عباد اللہ، اغیثونی، فان اللہ عباداً لا نراہم۔ وقد جرب ذالک۔

”حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ، حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، یا تم میں سے کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے: (یا عباد اللہ، اغیثونی، یا عباد اللہ، اغیثونی) (اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو) یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے (لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے پر مامور ہیں) اور (راوی بیان کرتے ہیں کہ) یہ تجربہ شدہ بات ہے۔“ (اخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر، ۱۱۷/۱،

الرقم: ۲۹۰، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۳۲/۱۰، والمنائوی فی فیض القدیر، ۳۰۷/۱)

☆ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا علی، الا اعلمک کلمات اذا وقعت فی ورطة قلتها؟ قلت: بلی، جعلنی اللہ فداک، کم من خیر قد علمتہ قال: اذا وقعت فی ورطة فقل: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، فان اللہ یصرف بہا ما یشاء من انواع البلاء۔

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے فرمایا: اے علی! کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، تو وہ کہو؟ میں نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، آپ نے کتنی ہی اچھی چیزیں مجھے سکھائی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، تو یوں

کہو: (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ) (اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو کہ نہایت بلند رتبہ اور عظمت والا ہے نیک کام کرنے کی طاقت اور قوت (کسی میں) نہیں۔) تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے انواع و اقسام کی آزمائشوں میں سے جو چاہتا ہے ٹال دیتا ہے۔“ (اخرجه ابن السنی فی عمل الیوم واللیلۃ، ۲۹۸/۱، الرقم: ۳۳۶، والطبرانی فی الدعاء، ۵۳۶/۱، الرقم: ۱۹۶۱، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۳۲۳/۵، الرقم: ۸۳۲۳، والقزوی فی التدوین فی اخبار قزوین، ۲۳۷/۱، والسیوطی فی الدر المنثور، ۲۶/۱)

زباں دے سنگ ریزوں کو گلی کو گلستاں کر دے
تری مرضی کی سب یہ صورتیں ہیں اے مرے مولا
تکبر تو مرے مالک تجھے ہی زیب دیتا ہے
کرم کی بات ہے تیرے کہ تیرا اک اشارہ ہی
ترا مندوب بھی ہے منتظر تیری توجہ کا
تری قدرت جسے چاہے زمیں سے آسماں کر دے
جسے چاہے نہاں کر دے جسے چاہے عیاں کر دے
مجھے بس عاجزی کے امتحاں میں کامراں کر دے
بیک لمحہ غریب شہر کو شاہِ جہاں کر دے
مرے مولا تو اس کی بے زبانی کو زباں کر دے
(مندوب)

آزمائش سے بچنے کی دعا

عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رای صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلاً الا عوفی من ذالک البلاء کائنا ما کان ما عاش۔ وفي رواية: لم یصبه ذالک البلاء۔

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ کلمات کہے: (الحمد لله الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلاً) (تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت دی۔) تو وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت سے عافیت میں رہے گا اور ایک روایت کے مطابق اس پر وہ مصیبت و آزمائش کبھی نہیں آئے گی۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا رای مبتلی، ۳۹۳/۵، الرقم: ۳۳۳۱-۳۳۳۲)

زمین لب کشائی کو فراز آسماں کر دے
تو چاہے تو سمو دے دریا کو قطرے میں
کرشمہ ہے یہ تیرے قبضہ قدرت کا ادنیٰ سا
عجب ہے ذکر خالق بھی اگر ٹھہرے کرم فرما
الہی لائق حرف سا میری زبان کر دے
جو تو چاہے تو اک قطرے کو بحر بے کراں کر دے
صدی کو پل نہیں کو ہاں خموشی کو ازاں کر دے
نفس کی آمد و شد میں اجالوں کو رواں کر دے

علم ٹھہرے جہاں میں دو جہاں کی سرفرازی کا
سوا ہے پھر تمنائے طوافِ خانہ کعبہ

وہ سر جس پر تو اپنی رحمتوں کو سائباں کر دے
قمر پر پھر کرم اے خالق کون و مکاں کر دے

(قمر وارثی)

ادائیگی قرض کے لئے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے غم اور قرض چٹ گئے ہیں۔ فرمایا: کیا میں تجھے وہ دعائے سکھا دوں کہ جب تو اسے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے غم مٹا دے گا اور تیرا قرض اتار دے گا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں ضرور، فرمایا روزانہ صبح و شام یہ (کلمات) پڑھ لیا کر۔

اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن
واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الدجال .

”اے اللہ! میں رنج و غم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور بے بسی و سستی سے تیری پناہ لیتا ہوں اور کنجوسی و بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قرض کے چھا جانے اور لوگوں کے غالب آ جانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔“

فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم مٹا دیا اور میرا قرض اتار دیا۔ (اخرجہ ابو داؤد فی السنن، ۹۳/۲، حدیث

رقم: ۱۵۵۵، مشکوٰۃ)

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکاتب (غلام) آیا اور اس نے عرض کی میں ادائے کتابت سے عاجز آ گیا ہوں، میری مدد فرمائیں فرمایا: کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے حضور علیہ السلام نے (اس مقصد کے لئے) سکھائے، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کر دے گا، یہ پڑھ کر۔

اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عن سواك .

”اے اللہ! مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے کافی ہو جا اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے ما سوا سے بے پروا کر

دے۔“ (اخرجہ الترمذی فی السنن ۲۲۰/۵، حدیث رقم: ۳۶۳۲، مشکوٰۃ)

بندگی کا سرور ملتا ہے	دیدہ دل کو نور ملتا ہے
ذکر سرکار سے خدا کی قسم	زندگی کا شعور ملتا ہے
دل کو کیف و سرور ملتا ہے	قرب رب غفور ملتا ہے
تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے	جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے

قحط مال، تیز آندھی، آسمانی بجلی اور بارش برسنے کے وقت کے اذکار اور دعائیں

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: اتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكى فقال: اللهم

اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل قال: فاطبقت عليهم السماء .

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ روتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور قحط سالی سے نجات کے لئے دعا کی درخواست کی) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: (اللہم اسقنا غیثا مغيثا مریثا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل) (اے اللہ! ہم پر (ایسی) بارش برسا جو ضرورت کو پوری کرے، اچھے انجام والی، سبز و اگانے والی، نقصان سے مبرا اور نفع مند ہو، جو جلد برسے والی، دیر نہ کرنے والی ہو۔) راوی کا بیان ہے کہ اسی وقت انہیں بادلوں نے گھیر لیا (اور خوب بارش ہوئی)۔“ (اخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع الیدین فی الدعاء، ۳۰۳/۱، الرقم: ۱۱۶۹، وابن خزیمہ فی الصحیح، ۳۳۵/۲، الرقم: ۱۳۱۶)

دیدارِ ہجر میں شمعیں جلا رہا ہے وہی
وہ بے نشان ہے مگر پھر بھی اپنی قدرت کے
اُسی کی ذات مری دستگیر ہے ہمہ حال
ہزار ماؤں کی ممتا سے بھی وہ بڑھ کر ہے
نویدِ وصل وہی دیتا ہے فراق کے بعد
سمایا ہے میری رگ رگ میں وہ لہو کی طرح
قریب تر ہے رگِ جاں سے ذاتِ پاک اُس کی
وہ اپنے ذکر سے مہکائے جان و دل میرے
پکارتا ہے مجھے دھیان کے دریچوں سے

مجھے وصال کا مژدہ سنا رہا ہے وہی
نشاں ہزارہا ہر سو دکھا رہا ہے وہی
ہر ابتلا میں مرا آسرا رہا ہے وہی
کہ دے کے تھکیاں ہر شب سلا رہا ہے وہی
پچھڑنے والوں کو پھر سے ملا رہا ہے وہی
مری تمنا مرا مدعا رہا ہے وہی
حریمِ ذات سے مجھے مجھ کو بلا رہا ہے وہی
مرا خرابہ گلستان بنا رہا ہے وہی
مرے شعور کو تیر جگا رہا ہے وہی

(ضیاء تیر)

اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: شکا الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له فی المصلی، ووعد الناس یوما یخرجون فیہ قالت عائشہ: فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بدأ حاجب الشمس فقعد علی المنبر فکبر وحمد اللہ عزوجل ثم قال: انکم شکوتم جذب ديارکم واستخار المطر عن ابان زمانہ عنکم وقد امرکم اللہ عزوجل ان تدعوه ووعدکم ان یتجیب لکم ثم قال: (الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم، انت الله لا اله الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علينا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین)

ثم رفع یدیه، فلم یزل فی الرفع حتی بدأ بیاض ابطیه، ثم حول الی الناس ظهره، وقلب او حول

رأده وهو رافع يديه، ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فانشا الله سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله، فلم يات مسجده حتى سألت السيول، فلما رأى سرعتهم الى الكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: اشهد ان الله على كل شىء قدير وانى عبد الله ورسوله .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ ﷺ کے حکم پر عید گاہ میں منبر رکھ دیا گیا اور ایک مقررہ دن میں لوگ باہر نکل آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: سورج نظر آتے ہی رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لے آئے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے آپ ﷺ نے تکبیر کہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا: تم نے اپنے علاقوں کی خشک سالی اور مدت سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم فرمایا ہے کہ اُس کی بارگاہ میں دعا کرو اور اس نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشے گا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ دعا فرمائی: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم، انت الله لا اله الا انت الغنى ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغاً الى حين) (سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا، اور روز جزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اے اللہ! تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، (اے اللہ!) تو ہی غنی ہے اور ہم (تیری بارگاہ میں) تہی دست (آئے) ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما اور ایسی بارش برس جو ایک مدت تک ہمیں قوت اور فائدہ دے۔) پھر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک بلند فرمائے اور برابر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، پھر آپ ﷺ نے لوگوں کی جانب پیٹھ کر کے اپنی چادر الٹ لی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے نیچے اترے اور دو رکعتیں پڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے بادل ظاہر فرمادئے جن میں گرج اور چمک ہوئی پھر وہ بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے برسنے لگے ابھی آپ ﷺ مسجد نبوی تک نہیں پہنچے تھے کہ نالیاں چلنے لگیں۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کی (بارش سے بچنے کے لئے) تیزی دیکھی تو ہنس پڑے یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور بے شک میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔“ (اخرجه ابو داؤد فى السنن، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين فى الاستسقاء، ۳۰۳/۱، الرقم: ۱۱۷۳، وابن حبان فى الصحيح، ۲۷۱/۳، الرقم: ۹۹۱، وايضاً، ۱۰۹/۷، الرقم: ۲۸۶، والطحاوى فى شرح معانى الآثار، ۳۲۵/۱، والحاكم فى المستدرک، ۳۷۶/۱، الرقم: ۱۲۲۵، والطبرانى فى الدعاء، ۵۹۵/۱، الرقم: ۲۱۷۳)

رب اکبر وہ ہر کسی کا ہے سو بسو تذکرہ اسی کا ہے

ظلمتِ بحر و بر میں نام اس کا
نطق میں بھی کھلے ہیں رنگ اس کے
ہے علیم وخبیر ذات اس کی
رزق پتھر میں دے جو کیڑے کو
ابتلاء، رنج و غم میں ہر لمحہ
حق وہی ہے جو اس نے فرمایا
لے کے آدم سے ذات احمد تک
اسوۃ سید البشر خیر

آئینہ دار رونی کا ہے
وہ جو گنجینہ نامشی کا ہے
اک خزینہ وہ آگہی کا ہے
وہی رازق ہر آدمی کا ہے
دھیان اسی کی طرف سبھی کا ہے
راستہ اسکا راستی کا ہے
ایک ہی دین ہر نبی کا ہے
رہنما صلح و آشتی کا ہے

(ضیاء خیر)

اے اللہ! اپنی رحمت کو پھیلا دے اور مردہ شہروں کو زندہ فرما

عن عمرو بن سعيب عن ابيه عن جده رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استسقى قال: اللهم، اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت .

”حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ بارش کی دعا ان الفاظ میں فرماتے: (اللهم، اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت) (اے اللہ! اپنے بندوں اور اپنے چوپایوں کو سیراب فرما اور اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ شہروں کو حیاتِ نو بخش دے)۔“ (اخرجه ابو داؤد في السنن، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، ۳۰۵/۱، الرقم: ۱۱۷۶، وايضاً في المراسيل، ۱۰۹/۱، الرقم: ۶۹)

☆ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع، ولا يخطر لهم فحل فصعد المنبر، فحمد الله، ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريثا طبقا مريعا غدقا عاجلاً غير راث ثم نزل فما ياتيه احد من وجه من الوجوه الا قالو: قد احيينا .

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی، حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں ایسی قوم کی جانب سے حاضر ہوا ہوں جن کے چرواہوں کے پاس کوئی توشہ نہیں اور ان کا کوئی نر جانور (کنزوری کی وجہ سے) حرم نہیں اچھالتا (یعنی اس شخص نے قحط سالی کی شکایت کی) تو آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر یہ دعا فرمائی: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريثا طبقا مريعا غدقا عاجلاً غير راث) (اے اللہ! ہمیں پانی پلا، زمین کو بھرنے والا (جس سے

تالاب وندیاں بھر جائیں) خوب برسنے والا، جلد برسنے والا نہ کہ تاخیر سے برسنے والا، جو نفع مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔) پھر آپ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لے آئے اس کے بعد جس جانب سے بھی کوئی آتا یہی کہتا کہ ہمارے ہاں بارش ہوئی ہے۔“ (اخرجه ابن ماجہ فی السنن، کتاب اقامة الصلاة والسنة فیہا، باب ما جاء فی الدعاء فی الاستسقاء، ۴۰۴/۱، الرقم: ۱۲۷۰، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۳۲۳/۶، الرقم: ۳۱۷۷۱، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲۳۵/۴، الرقم: ۱۸۰۹۰، والطیالسی فی المسند، ۱۶۶/۱، الرقم: ۱۲۰۰، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۱۳۰/۱۲، الرقم: ۱۲۶۷۷)

جو نورِ خالقِ ارض و سما شام و سحر چمکا
اسی کی جلوہ افشانی مکان و لامکان میں ہے
رضائے مولائے جائے جسے وہ بخت آور ہے
زمینوں آسمانوں میں وہی ہے جلوہ گر ہر سو
نجوم و ماہ کی شمعیں ہیں اس کے نور سے روشن
وہی کرتا سرِ شب ہے فلک پر قمقمے روشن
اسی کا نور ہی ہے جلوہ گستر سارے عالم میں
یہ کس نور میں کی آمد آمد ہے سرِ بطحا
ہوائے رحمتِ باری چلی تیرے جو گلشن میں
تو پھر اس نور ہی سے قریہ قریہ ہر نگر چمکا
ضیا پاشی سے اس کی ہی یہ ارض مستقر چمکا
نصیب اس بندۂ خاکی کا روئے خاک پر چمکا
اسی نورِ ازل سے ہی جہانِ بحر و بر چمکا
دلِ ہر بندۂ مومن بھی اس سے سر بہ سر چمکا
اور اس کے اذن سے ہی سو بسو نورِ قمر چمکا
تجلی سے اسی کی نجمِ تقدیر بشر چمکا
کہ ہر ذرہ زمیں کا مثل خورشیدِ سحر چمکا
تو اس خاکسترِ جاں میں محبت کا شرر چمکا

(خورشید بیک میلوئی)

خیر کا سوال اور شر سے پناہ

عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصف الریح قال: اللهم، انی اسألك خیرها، وخیر ما فیہا، وخیر ما ارسلت بہ، واعوذ بک من شرها، وشر ما فیہا، وشر ما ارسلت بہ۔

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب زور کی آندھی آتی تو حضور نبی اکرم ﷺ (یہ دعا) فرماتے: (اللهم، انی اسألك خیرها، وخیر ما فیہا، وخیر ما ارسلت بہ، واعوذ بک من شرها، وشر ما فیہا، وشر ما ارسلت بہ) (اے اللہ! میں تجھ سے اس (بارش) کی خیر کا، جو اس میں ہے اس کی خیر کا اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے، جو اس میں ہے اس کے شر سے اور جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں)۔“ (اخرجه مسلم فی الصحیح، کتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الریح واللہم والفرح بالمطر، ۶۱۶/۲، الرقم: (۱۵) ۸۹۹، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما یقول

اذا هاجت الريح، ۵۰۲/۵، الرقم: ۳۳۲۹، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في السنن، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل اذا راي السحاب والمطر، ۱۲۸۰/۲، الرقم: ۳۸۸۹

☆ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، فروح الله تاتي بالرحمة وتاتي بالعذاب، فاذا رايتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرا واستعينوا بالله من شرها.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنحضرت نے فرمایا کہ جو بھی رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب، سو جب تم اسے دیکھو تو برا نہ کہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔“ (اخرجه ابو داؤد في السنن، كتاب الادب، باب ما يقول اذا هاجت الريح، ۳۲۶/۳، الرقم: ۵۰۹۷، وابن ماجه في السنن، كتاب الادب، بالنهي عن سب الريح،

۱۲۲۸/۲، الرقم: ۳۷۲۷، والنسائي في السنن الكبرى، ۲۳۰/۲، الرقم: ۱۰۷۲۵-۱۰۷۲۸)

☆ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راي ناشئا في افق السماء ترك العمل وان كان في صلاة، ثم يقول: اللهم، اني اعوذ بك من شرها، فان مطر قال: اللهم، صيا هنيئا.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کنارے سے ابر اٹھتا ہوا دیکھتے تو کام کاج چھوڑ دیتے خواہ نماز میں ہی کیوں نہ ہوتے اور فرماتے: (اللهم، اني اعوذ بك من شرها) (اے اللہ! میں اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔) اگر بارش ہونے لگتی تو فرماتے: (اللهم، صيا هنيئا) (اے اللہ! خوشگوار اور (نفع مند) بارش عطا فرما۔)“ (اخرجه ابو داؤد في السنن، كتاب الادب، باب ما يقول اذا هاجت الريح، ۳۲۶/۳،

الرقم: ۵۰۹۹، وابن ماجه في السنن، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل اذا راي السحاب والمطر، ۱۲۸۰/۲)

جتنی محنت میں نے کی اتنا صلہ تو نے دیا
تیرے جلوے دیکھنے کو دل رُبا یہ کائنات
ابتلا کی آزمائش میں رجوع تجھ سے کیا
تیری رحمت بیکراں دامن ہے میرا کتنا تنگ
دم بہ خود تیری عدالت میں کھڑا ہوں اے خدا
وقت کے سفاک طوفانوں سے گھبرائے ہوئے
جو ملے آزار سب اپنے کیے کی تھی سزا
معنی تقدیر کا یہ فلسفہ تو نے دیا
ہاتھ میں میرے بنا کر یہ آئینہ تو نے دیا
ہر مصیبت کی گھڑی میں آسرا تو نے دیا
میں نے جو مانگا مجھے اس سے سوا تو نے دیا
ہے سر تسلیم خم جو فیصلہ تو نے دیا
ناتواں دل کو ہمیشہ حوصلہ تو نے دیا
اور جو سکھ چین کا لمحہ ملا تو نے دیا

(غلام حسن حسنی)

یہ وعید شدید ہے

عن عامر بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان (عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما) اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: (و يسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفة) (الرعد، ۱۳: ۱۳) ثم يقول: ان هذا لوعيد لا اهل الارض شديد .

”حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب کبھی آسمانی کڑک کی آواز سنتے تو اپنی بات منقطع کر دیتے اور فرماتے: (و يسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفة) ”(بجلیوں اور بادلوں کی) گرج (یا اس پر متعین فرشتے) اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں یہ اہل زمین کے لئے سخت وعید ہے۔“

وفی رواية: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذی يسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته وهو علی کل شیءٍ قدير فان اصابته صاعقة فعلى دينه .

ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے آسمانی کڑک کی آواز سنی اور یہ کہا: (سبحان الذی يسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته وهو علی کل شیءٍ قدير) ”پاک ہے وہ ذات! (بجلیوں اور بادلوں کی) گرج (یا اس پر متعین فرشتے) اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (ان کلمات کو کہنے کے بعد) پھر اگر اس شخص کو آسمانی بجلی نے نقصان پہنچایا تو اس کی دیت میرے ذمہ ہے۔“

ہوا خیال منور مہک گیا احساس
اُسی کے ذکر میں مشغول نغمہ انفاس
اُسی کے حکم پہ غیب و شہود کی ہے اساس
تو حکمتیں بھی ہیں اُسی کی ورائے عقل و قیاس
اُسی کے لطف سے قائم ہے اعتدال حواس
بغیر چوب کیا خیمہ فلک کو راس
کچھ اس طرح سے گلوں میں نہاں ہو جیسے ہاس
ہر ایک بیکس و درمانہ کا ہے قدر شناس
انہیں بنایا گیا ایک دوسرے کا لباس
جنہیں نہ خوف نہ خطر ہے کوئی نہ رنج و ہراس

جو اسم ذات ہویدا ہوا سر قرطاس
اُسی کے فکر میں مصروف بربط ہستی
اُسی کے اذن سے ہے کاروان زیست رواں
اگر ہیں نعمتیں اس کی شمار سے باہر
ہے ارتباط عناصر اُسی کی قدرت سے
کئے خلا میں معلق ثوابت و سیار
بسا ہوا وہ رگ و پے میں کائنات کے ہے
ہر ایک مومن و منکر کا ہے وہ رزق رساں
بڑھائی اس نے زن و آدمی کی یوں توقیر
مجھے شریک کرے کاش ایسے بندوں میں

اٹھا کے ہاتھ اسی کو پکارتا ہوں میں
مقام جس کا ہے میری رگِ حیات کے پاس
تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تا کہ ہم بھی یہ دعا پڑھتے

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سفر فاصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب رضي الله تعالى عنه: من قال حين يسمع الرعد: (ويسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته) (الرعد، ۱۳: ۱۳) ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا فعوفينا ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بعض الطريق فاذا برودة قد اصابته فاثرت بي فقلت: ان كعبا حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرعد: (ويسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته) (الرعد، ۱۳: ۱۳) عوفي مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فهلا اعلمتمونا حتى نقوله .

(ایک روایت میں) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہمیں سخت کڑک، بجلی اور اولوں نے آلیا، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ہمیں کہا کہ جس شخص نے آسمانی بجلی کی کڑک کی آواز سن کر یہ آیت تین دفعہ پڑھی: (و يسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته) ”(بجلیوں اور بادلوں کی) گرج (یا اس پر متعین فرشتے) اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔“ تو وہ اس آسمانی بجلی کی کڑک میں جو کچھ ہے اس سے عافیت میں رہے گا۔ پھر میں (ایک دن) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے راستے میں کسی جگہ ملا تو کیا دیکھا کہ ایک اولان کی ناک کولگا اور وہاں نشان ڈال دیا۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین بتیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اولہ جو میرے ناک پر لگا ہے اس نے وہاں نشان ڈال دیا ہے تو میں نے عرض کیا: حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جب آسمانی کڑک کی آواز سنی تو ہمیں کہا کہ جو شخص آسمانی بجلی کی کڑک سن کر یہ آیت پڑھے: (و يسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته) ”(بجلیوں اور بادلوں کی) گرج (یا اس پر متعین فرشتے) اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔“ تو وہ اس (نقصان دہ) چیز سے عافیت میں رہے گا جو اس آسمانی بجلی کی کڑک میں ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا تو ہم عافیت میں رہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تا کہ ہم بھی یہ دعا پڑھتے (اور اولے سے محفوظ رہتے)؟ (اخرجه مالك في الموطأ، كتاب الكلام، باب القول اذا سمعت الرعد، ۲/۹۹۲، الرقم: ۱۸۰۱، والبخاری في الادب المفرد / ۲۵۲، الرقم:

۷۲۳، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۲۷/۶، الرقم: ۲۹۲۱۲، واحمد بن حنبل فی الزهد، ۲۰۱/۱)

بنا دیا جو حبیب اپنا نمگسار اناس
رسول وہ جو ہوا اس کی شان کا عکاس
سکھا گیا جو خدائی کو حمد و شکر و سپاس

کیا یہ خاص کرم اُسے نوعِ انساں پر
حبیب وہ جو بنا کائنات کا نوشاہ
حبیب وہ جو محمد بھی ہے تو احمد بھی

نبی وہ جس کے لئی محملِ زمانہ رُکا
کتاب اُس پر اُتاری تو وہ کتابِ ہمیں
اُسی نے مدحِ رسالتِ مآب کی خاطر
کرم ہو شاملِ حال اسکا تو ہے اک نعمت
پکارتا ہے کوئی میں نہیں ہوں تجھ سے دور
تسلیاں مجھے ہر آن کوئی دیتا ہے
عجیب ذکرِ الہی میں ہے اثرِ تائب

نبی وہ جس نے کیا لامکاں میں اجلاس
جو نورِ رُشد و ہدایت ہے قاطعِ وسواس
دیا گداز لب و لہجہ کو زباں کو مٹھاس
وگرنہ کربِ مسلسل طبیعتِ حساس
ہجومِ غم میں کسی وقت بھی جو دل ہوا اُداس
نہ کر سکیں گے ہراساں مجھے کبھی غم و یاس
مٹائے زیست کی تلخی بجھائے روح کی پیاس

(حفظِ تائب)

☆ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم، لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا فرماتے: (اللهم، لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك) (یا اللہ! ہمیں اپنی ناراضگی سے ہلاک نہ کرنا اور نہ ہی اپنے عذاب سے ہلاک کرنا، اور ہمیں اس سے قبل ہی معاف فرما دینا)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما يقول اذا سمع الرعد، ۵/۵۰۳، الرقم: ۳۳۵۰، والنسائی فی السنن الكبرى، ۶/۲۳۰، الرقم: ۱۰۷۶۳-۱۰۷۶۴، واحمدین حنبلی فی المسند، ۲/۱۰۰، الرقم: ۵۷۶۳)

☆ عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى المطر قال: اللهم، صيباً نافعاً.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بارش دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: (اللهم، صيباً نافعاً) (اے اللہ! ہمیں نفع مند بارش عطا فرما)۔“

(اخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب الاستسقاء، باب ما يقال اذا امطرت، ۱/۳۳۹، الرقم: ۹۸۵، والنسائی فی السنن، کتاب الاستسقاء، باب القول عند المطر، ۳/۱۶۳، الرقم: ۱۵۲۳)

خالق تے مولا والی تے وارث جہان دا
ہر چیز کائنات دی اوہدا ظہور اے
گلشن دے بوٹے بوٹے دے پتے تے ڈالیاں
سب لوڑ دے نیں اوہنوں کسے دی وی لوڑ نیں
چاہوے تے بادشاہواں نوں دے خاک وچہ رلا
بندیاں دے دل دے ساریاں بھیاں نوں جاندا
ہر روشنی چہ اوس دے جلوے دا نور اے
پھل کلیاں دس دے اوہدیاں شاناں نرالیاں
اوہدے خزانیاں چہ کسے دی تھوڑ نیں
مرضی ہو دے فقیر نوں دے تخت تے بٹھا

اوہوں سمجھ نہ سکا کہے۔ دا شعور اے اس ذات کبریا نوں ای سج دا غرور اے
جائز نہیں اوہوں جو وی کرے بے نیازیاں لُج پالیاں سخاوتاں بندہ نوازیاں
سوچاں وی ہار گئیاں اوہا سوچ کے خیال اتھے ظہوری کون کسے دی اے کیہ مجال
گھر میں آتے جاتے وقت حضور علیہ السلام کون سے کلمات ادا فرماتے

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دخل الرجل
بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم
يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال: ادركتم
المبيت والعشاء .

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے گھر میں جائے اور
گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے، تو شیطان (خود سے) کہتا ہے کہ یہاں نہ
تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے نہ ہی کھانے کی، اور جب کوئی شخص گھر جائے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ
لے تو شیطان (خود سے) کہتا ہے کہ تم نے اپنا ٹھکانا پالیا، اور جب وہ کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان
کہتا ہے تم نے ٹھکانا اور کھانا دونوں پالئے ہیں۔“ (اخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب الاشرية، باب آداب الطعام
والشرب واحكامها، ۱۵۹۸/۳، الرقم: (۱۰۳) ۲۰۱۸، وابو داؤد فى السنن، كتاب الاطعمة، باب التسمية على
الطعام، ۳۳۶/۳، الرقم: ۳۷۶۵)

☆ عن ابى مالك الاشعري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا
ولج الرجل بيته فليقل: اللهم، انى اسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله
خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على اهله .

”حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل
ہونے لگے تو یوں کہے: (اللهم، انى اسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله
خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا) (اے اللہ! میں تجھ سے (گھر میں) بھلائی کے ساتھ داخل ہونے اور بھلائی کے
ساتھ باہر نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور اپنے
رب اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔) پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔“ (اخرجه ابو داؤد فى السنن، كتاب الادب، باب ما
جاء فىمن دخل بيته ما يقول، ۳۲۵/۳، الرقم: ۵۰۹۶، والطبرانى فى المعجم الكبير، ۲۹۶/۳، الرقم: ۳۳۵۲)

☆ عن ام سلمة رضى الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع
طرفه الى السماء فقال: اللهم، اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او

اجہل او یجہل علی ۔

”حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: حضور نبی اکرم ﷺ جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھتے: (اللہم، اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی) (اے اللہ! میں گمراہ ہونے یا گمراہ کئے جانے، بہکنے یا بہکائے جانے، ظلم کرنے یا ظلم کئے جانے اور جاہل بننے یا جاہل بنائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں)۔“ (اخرجہ ابو داؤد فی السنن، کتاب الادب، باب ما جاء فیمن دخل بیتہ ما یقول، ۳۲۵/۳، الرقم: ۵۰۹۳، والنسائی فی السنن، کتاب الاستعادة، باب الاستعادة من الضلال، ۲۶۸/۸، الرقم: ۵۵۳۹، ۵۳۸۶)

☆ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا بنی، اذا دخلت علی اهلك فسلم یکن بركة علیک وعلی اهل بیتک ۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے فرمایا: اے میرے بیٹے! جب اپنے گھر میں داخل ہو تو (اہل خانہ کو) سلام کیا کرو۔ تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لئے باعث برکت ہوگا۔“ (اخرجہ الترمذی فی السنن، کتاب الاستئذان، باب ما جاء فی التسلیم اذا دخل بیتہ، ۵۹/۵، الرقم: ۲۶۹۸، والطبرانی فی المعجم الاوسط، ۱۲۳-۱۲۵، الرقم: ۵۹۹۱، وایضاً فی المعجم الصغیر، ۱۰۰/۲-۱۰۲، الرقم: ۸۵۶)

شان یا رب تری نرالی ہے	مرتبہ تیرا سب سے عالی ہے
داغ بیل اس کی تو نے ڈالی ہے	تو ہی باغِ جہاں کا بانی ہے
ترے اوصاف کا ٹھکانا کیا	تو جمالی ہے تو جلالی ہے
اور کوئی تیرا شریک نہیں	تو ہی دونوں جہاں کا والی ہے
جس نے دل سے تری عبادت کی	اس نے اپنی مراد پالی ہے
تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود	کون سی چیز اس سے خالی ہے
غم نہیں ہے سرور کو کوئی	اس نے اب تجھ سے لو لگالی ہے

(سرور بخوری)

شیطان کا اس پہ بس نہیں چل سکتا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تو یہ کلمات ادا کرے: بسم اللہ

تو کلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

اللہ ہی کے نام سے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت تب اس (شخص) کو کہا جاتا ہے تجھے ہدایت و کفایت دی گئی اور تو محفوظ کر دیا گیا، پھر شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے تو دوسرا شیطان پہلے کو کہتا ہے

کیف لك برجل قدهدى وكفى ووقى - اس شخص سے تیرا کیا تعلق جو ہدایت دیا گیا اور کفایت کیا گیا اور (تیرے شر سے) بچالیا گیا (اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۲۵/۳ حدیث رقم: ۵۰۹۵، والترمذی، ۱۵۲/۵، حدیث

رقم: ۳۳۸۶، وابن ماجہ، ۱۲۷۸/۲، حدیث رقم: ۳۸۸۶، مشکوٰۃ)

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے پر غیبی فرشتہ اس سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تو نے بسم اللہ کی برکت سے ہدایت پائی اور تو کل علی اللہ کے وسیلہ سے کفایت اور لا حول کے واسطہ سے حفاظت تین چیزوں پر تین نعمتیں ملیں۔ خیال رہے کہ اگرچہ ہم فرشتے کا یہ کلام سنتے نہیں مگر جب حضور انور ﷺ کی معرفت ہم تک یہ کلام پہنچ گیا تو اسی کا کہنا عبث نہ ہو لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ جب ہم اس فرشتہ کا یہ کلام سنتے نہیں تو اس کا کہنا بیکار ہے نیز فرشتہ کے اس کلام کا عملی طور پر ظہور بھی ہو جاتا ہے کہ اس بندہ کو یہ تینوں نعمتیں مل جاتی ہیں۔

فرشتے کے اس کہہ دینے پر (کہ تجھے ہدایت و کفایت دی گئی اور تو محفوظ کر دیا گیا) اس کا قرین شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اس سے بھاگ جاتا ہے پھر جب شام کو شیاطین کا سردار ابلیس اس سے دن بھر کی کارکردگی کا امتحان لیتا ہے تو یہ قرین اس بندے کی دعا کا ذکر کر کے افسوس کرتا ہے کہ میں آج اسے بہکانہ سکا۔ تب ابلیس اس کی تسلی کے لئے کہتا ہے کہ تجھ پر کوئی عتاب نہیں تو معذور تھا وہ بندہ فرشتہ کی امن میں آچکا تھا اس کی اور شرحیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ شرح قوی ہے اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فرشتہ کی امان میں آ جانا امن و امان کا ذریعہ ہے۔ پھر حضور انور ﷺ کی امان میں آ جانا اس کا کیا کہنا دوسرے یہ کہ ابلیس فرشتوں اور ان کی امان و حفاظت کو دیکھتا ہے بدر میں ابلیس نے امدادی فرشتوں کو دیکھا تھا اور کہا تھا انسی اری مالا ترون تیرے یہ کہ حضور سے کوئی ناری اور نوری مخلوق چھپی ہوئی نہیں حضور فرشتوں شیاطین کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں اور ان کے کلام بھی سنتے ہیں۔ پھر ہم خاکی مخلوق حضور علیہ السلام سے کیسے چھپ سکتے ہیں۔ (مرآۃ)

☆ عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال
يعنى اذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله، يقال له: كفت
ووقيت، وتنحى عنه الشيطان .

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باہر جاتے وقت یہ کلمات کہے: (بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ) (اللہ تعالیٰ کے نام سے) (باہر نکلتا ہوں)، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی طاقت اسی (کی توفیق) سے ہے۔ (تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کر دی گئی، اور تو) (شر سے) بچالیا گیا اور شیطان اس سے دور رہتا ہے۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما يقول اذا خرج من بيته، ۳۹۰/۵، الرقم: ۳۳۲۶، وابو داؤد فی السنن، کتاب الادب، باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول، ۳۲۵/۳، الرقم: ۵۰۹۵)

☆ عن أم سلمة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال: بسم

اللہ تو کلت علی اللہ اللہم، انا نعوذ بک من ان نزل او نضل او نظلم او نظلم او نجھل او یجھل علینا۔

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ گھر سے باہر تشریف لے جاتے وقت یہ کلمات کہتے: (بسم اللہ تو کلت علی اللہ اللہم، انا نعوذ بک من ان نزل او نضل او نظلم او نظلم او نجھل او یجھل علینا) (اللہ تعالیٰ کے نام سے) (نکلتا ہوں) اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا۔ اے اللہ! ہم لغزش کرنے، گمراہ ہونے، ظلم کرنے یا کئے جانے، جاہل ہونے یا جاہل بنائے جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۳۵) منه، ۴۹۰/۵، الرقم: ۳۳۲۷، والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۲۶/۶، والرقم:

۹۹۱۵، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳۰۶/۶، الرقم: ۲۶۶۵۸)

ظاہر ہر ایک ذرہ سے تیری ہی شان ہے
تیرا مقام ارفع و اعلیٰ نشان ہے
ہے کس کو حوصلہ کہ تیری حمد کر سکے
ہر چیز کی جہاں میں تجھ سے نمود ہے
ابر کرم گہے، گہے دریائے جود ہے
پنہاں ہر اک نظر سے ہے تو اور عیاں بھی ہے
ہے جستو میں تیری پریشان ہر کوئی
لیکن کسے نصیب ہوئی تیری آگہی

تابع تری خدائی کا کون و مکان ہے
اور ذات تری برتر از وہم و گمان ہے
تیری ثنا کے پھولوں سے دامن کو بھر سکے
تو خالق جہات تو رب وودو ہے
تیرے کرم سے سلسلہ ہست و بود ہے
ہاں ہاں ہمیں بتا کوئی تیرا نشان بھی ہے
گرداں تیری تلاش میں دنیا کے فلسفی
ہرگز کسی پہ تیری حقیقت نہ کھل سکی

(عبدالرحمن قاضی)

بیت الخلاء میں آتے جاتے وقت کون سے کلمات پڑھے جائیں۔

نبی اکرم ﷺ نہ صرف مسجد اور گھر میں آنے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے کلمات اپنی پاک زبان سے ادا فرماتے بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بھی ایسے کلمات ادا فرماتے کہ جن سے شان خداوندی کا ظہور ہوتا۔

☆ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل (و فی روایة:

اذا اراد ان یدخل) الخلاء قال: اللہم، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے (اور ایک روایت کے

مطابق: جب داخل ہونے کا ارادہ فرماتے) تو کہتے: (اللہم، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث) (اے

اللہ! میں ناپاکوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (اخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب الوضوء، باب ما یقول

عند الخلاء، ۶۶/۱، الرقم: ۱۳۲، وایضاً فی کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الخلاء، ۲۳۳۰/۵، الرقم: ۵۹۶۳،

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا کرتے: (غفرانک) (اے اللہ! میں تیری بخشش چاہتا ہوں)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الطہارۃ، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، ۸/۱، الرقم: ۳۰)

☆ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یوں دعا کرتے: (الحمد لله الذی اذهب عنی الاذی وعافانی) (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی)۔“ (ابن ماجہ، ۱۱۰/۱، ۳۰۱، ابن ابی شیبہ، ۱۲/۱، رقم ۸-۱۳)

صرف اک رب ہے رب کے سوا کون ہے
ذڑے ذڑے میں جلوہ نما کون ہے
آگ پانی ہوا کس کی تخلیق ہیں
کس کے در کے ہیں محتاج شاہ و گدا
بخش دیں جس نے انساں کو عظمتیں
تذکرہ کس کا ہے راحتِ قلب و جاں
چاہتا ہے زیادہ جو ماں باپ سے
بے طلب بھر رہا ہے جو دستِ طلب
وہ کسی اور سے مانگتے ہی نہیں
میں کسی در پہ کیوں جا کے سجدہ کروں
کس سے اعجاز سب مانگتے ہیں دعا

دوستو! اور مشکل کشا کون ہے
آئینہ گر ہے کون آئینہ نما کون ہے
ہے جو خلاق ارض و سما کون ہے
دونوں عالم کا فرمانروا کون ہے
دونوں عالم میں اس سے بڑا کون ہے
ماورائے خرد کون تھا کون ہے
مہرباں ایسا رب کے سوا کون ہے
کر رہا جو سب کچھ عطا کون ہے
جاننے ہیں جو حاجت روا کون ہے
ہے خبر مجھ کو میرا خدا کون ہے
وہ جو سنتا ہے سب کی صدا کون ہے

(اعجازِ رحمانی)

نیالباس پہن کر اللہ کی شان بیان کرنا، بزبانِ مصطفیٰ ﷺ

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من لبس ثوبا جدیدا فقال: الحمد لله الذی کسانی ما اوارى به عورتی، واتجمل به فی حیاتی، ثم عمد الی الثوب الذی اخلق فتصدق به، کان فی کف اللہ وفی حفظ اللہ وفی ستر اللہ حیا ومیتا۔

”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھے: (الحمد لله الذي كساني ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى) (اللہ تعالیٰ کی ذات لائق ستائش ہے جس نے مجھے لباس پہنایا کہ میں اس سے اپنا ستر ڈھانپتا ہوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔) پھر (اگر طاقت رکھے تو) پرانے کپڑے صدقہ کر دے تو وہ زندگی بھر اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حمایت، حفاظت اور پردے میں رہے گا۔“

(اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۱۰۸)، ۵/۵۵۸، الرقم: ۳۵۲۰، وابن ماجہ فی السنن، کتاب اللباس، باب ما يقول الرجل اذا لبس ثوباً جديداً، ۲/۱۱۷۸، الرقم: ۳۵۵۷)

☆ عن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء، ثم يقول: اللهم، لك الحمد انت كسوتنيه، اسألك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له.

”حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا خاص نام لیتے مثلاً عمامہ، کرتہ یا چادر، پھر دعا فرماتے: (اللهم، لك الحمد انت كسوتنيه، اسألك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له) (یا اللہ! تمام حمد و ثناء تیرے لئے ہی ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لئے یہ بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ نیز اس کے شر اور جس کے لئے یہ بنایا گیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں)۔“ (اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب اللباس، باب ما يقول اذا لبس ثوباً جديداً، ۳/۲۳۹، الرقم: ۱۷۶۷، وايضاً فى الشمالى المحمدية، ۱/۷۰، الرقم: ۶۱، و ابو داؤد فى السنن، كتاب اللباس، باب: (۱)، ۳/۴۱، الرقم: ۴۰۲۰، والنسائى فى السنن الكبرى، ۶/۸۵، الرقم: ۱۰۱۲۱، واحمد بن حنبل فى المسند، ۳/۳۰، الرقم: ۱۱۲۶۶)

عادل ہے مستجیب ہے بے حد حلیم ہے
ہر شے آشنا ہے خیر و علیم ہے
اے رب ذوالجلال! تو سب سے عظیم ہے
واحد ہے تو کہ تیرا کوئی مشترک نہیں
واقف تیرے رموز سے جبریل تک نہیں
اے رب ذوالجلال! تو سب سے عظیم ہے
رازق ہے تو ہر ایک کا پروردگار ہے
محتاج تیرے سب ہیں تو باختیار ہے

اے رب ذوالجلال ! تو سب سے عظیم ہے

مولا ہے دو جہاں کا بندہ نواز ہے ہر شے تیری رہین ہے تو بے نیاز ہے
مالک ہے ہست و بود کا تو کار ساز ہے واحد ہمارے بخت کا تو ہی قسم ہے

اے رب ذوالجلال ! تو سب سے عظیم ہے

ہم ذکر تیرے نام کا صبح و مسا کریں جی چاہتا ہے سجدے پہ سجدہ کیا کریں
کس طرح شکر ہم مولا ادا کریں قلب جمیل میں تو ہمیشہ مقیم ہے

اے رب ذوالجلال ! تو سب سے عظیم ہے

(جمیل عظیم)

پہلے پچھلے گناہ معاف

☆ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من لبس ثوبا فقال:
الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تاخر.

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھی: (الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) (تمام تعریفات اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ (لباس) پہنایا اور بغیر ہمت اور قوت کے مجھے یہ عطا کیا۔) تو اس کے اگلے، پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“ (اخرجه ابوداؤد فی السنن، کتاب اللباس، باب: (۱)، ۴۲/۳، الرقم: ۴۰۲۳، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الاطعمة، باب ما يقال اذا فرغ من الطعام، ۱۰۹۳/۲، الرقم: ۳۲۸۵، والدارمی فی السنن، ۳۷۸/۲، الرقم: ۲۶۹۰، وابو یعلیٰ فی المسند، ۶۲/۳، الرقم: ۱۴۸۸)

☆ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رای علی عمر قمیصا ابيض فقال: ثوبك هذا غسيل ام جدید؟ قال: لا بل غسيل. قال: البس جدیدًا، وعش حمیدًا، ومت شهیدًا. وزاد احمد وعبد الرزاق: اظنه قال: ويرزقك الله قرۃ عین فی الدنيا والآخرة.

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک سفید (اُجلی) قمیص میں دیکھا تو فرمایا: تمہارا یہ کپڑا دھلا ہوا ہے یا نیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: (یا رسول اللہ! نیا) نہیں ہے بلکہ دھلا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (البس جدیدًا، وعش حمیدًا، ومت شهیدًا) (نیا کپڑا پہنو، اچھی زندگی گزارو، اور شہادت کی موت عطا ہو۔)“

اور امام احمد اور عبدالرزاق نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: ”(راوی بیان کرتے ہیں:) میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے) یہ بھی فرمایا: (و یرزقک اللہ قرۃ عین فی الدنیا والآخرۃ) (اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے)۔

(اخرجه ابن ماجہ فی السنن، کتاب اللباس، باب ما یقول الرجل اذا لبس ثوبا جدیدًا، ۱۱۷۸/۲، الرقم: ۳۵۵۸،

والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۸۵/۶، الرقم: ۱۰۱۳۳، واحمد بن حنبل فی المسند، ۸۸/۲، الرقم: ۵۶۲۰، وعبد

الرزاق فی المصنف، ۲۲۳/۱۱، الرقم: ۲۰۳۸۲، وابن حبان فی الصحیح، ۳۲۰/۱۵، الرقم: ۶۸۹۷)

کیسے کیسے انعامات ہیں جو معمولی معمولی کاموں پہ زبانِ مصطفوی سے ہمیں عطا ہوئے اس پر ہم اپنے آقا علیہ السلام کی تعریف کر کے آپ کا شکر یہ ادا نہ کریں تو کیا کریں جبکہ عام بندے کے بارے میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ حضور تو پھر محبوب خدا ہیں۔

خدا کی غایت اولیٰ محمد	بنائے دو جہاں کھٹا محمد
محمد خاص مسجد ملائک	محمد قبلہ و کعبہ محمد
محمد انتہائے ہر بلندی	ازل سے ارفع و اعلیٰ محمد
یہی مطلوب کل مقصود کل ہے	خدائے ہر دو عالم یا محمد
کنارہ ہی نہیں ملتا ہے جس کا	وہی قلمزم وہی دریا محمد
محمد رونق باغ رسالت	گل زیبا گل رعنا محمد
مثال خود خواب نہ دارند	کہ اندر دو جہاں یکتا محمد
جہاں کے شاہ سب ان کے گدا ہیں	شہ خواباں سے بطحا محمد
محمد وحدت و کثرت کی تفسیر	کہیں بندہ کہیں مولا محمد
محمد روح کل جانِ مدینہ	مکیں گنبد خضرا محمد
محمد احمد و محمود و حامد	مکمل شرح کل اسما محمد
غلام اُن کا ہوں میں ان کا گدا ہوں	مرے آقا مرے مولا محمد
انہی پر ناز مجھ کو دو جہاں میں	میرے ملجا مرے ماوا محمد
نظر آیا نہ انور کوئی ان سا	مجسم نور بے سایہ محمد

(صلی اللہ علیہ وسلم)

نیا چاند دیکھنے کی دعا

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال قال: اللهم، اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربى وربك الله .

وفى رواية: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى الهلال قال: الله اكبر، اللهم، اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله .

”حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: ”اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْيَمَنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ“ (اے میرے اللہ! اس چاند کا طلوع ہونا ہمارے لئے امن و امان، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ (اے چاند) میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔“

اور ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: ”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ، أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ“ (اللہ اکبر، اے اللہ! اس چاند کا طلوع ہونا ہمارے لئے امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس چیز کی توفیق کا ذریعہ بنا جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے اور اسے پسند فرماتا ہے۔ (اے چاند!) ہمارا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔“

آخر جہ الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما یقول عند رؤیة الهلال، ۵/۵۰۳، الرقم: ۳۳۵۱، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۱۶۲، الرقم: ۱۳۹۷، والدارمی فی السنن، ۲/۷، الرقم: ۱۶۸۷، وأبو یعلیٰ فی المسند، ۲/۲۵-۲۶، الرقم: ۶۶۱-۶۶۲،

انبیاء نے بھی دیا درس آپ کی تقلید کا
سنگ ریزوں نے بھرا دم آپ کی تائید کا
آپ ہی کو حق نے بخشا ہے شرف تجدید کا
حل نہ کوئی کر سکا یوں فلسفہ توحید کا
گرچہ دنیا میں ہزاروں نکتہ در پیدا ہوئے

تعریف اس خدا کی جو ایک مہینے کو لے گیا اور دوسرے کو لے آیا

عن قتادة رضي الله عنه انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال قال: هلال خيبر ورشد، هلال خيبر ورشد، هلال خيبر ورشد، آمنت بالذي خلقتك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا .

”حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے: ”هَيْلَالُ خَيْبَرَ وَرُشْدٍ، هَيْلَالُ خَيْبَرَ وَرُشْدٍ، هَيْلَالُ خَيْبَرَ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ“ (بھلائی

اور ہدایت کا چاند، بھلائی اور ہدایت کا چاند، بھلائی اور ہدایت کا چاند، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں (اے چاند!) جس نے تجھے پیدا کیا) پھر فرماتے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا" (سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پچھلے مہینے کو لے گیا اور اس (نئے) مہینے کو لے آیا)۔"

اس حدیث کو امام ابوداؤد، عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔
 أخرجه أبو داود في السنن، كتاب لأدب، باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، الرقم: ۳۲۳/۲، الرقم: ۵۰۹۲، وأيضاً في المراسل، الرقم: ۳۵۵/۱، الرقم: ۵۲۷، وعبد الرزاق في المصنف، الرقم: ۱۶۹/۳، الرقم: ۷۳۵۳، وابن أبي شيبة في المصنف، الرقم: ۳۳۳/۲، الرقم: ۹۷۳۷،

☆ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله اكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اسألك خير هذا الشهر، واعوذ بك من شر القدر، ومن سوء الحشر .

”حضرت عباده بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے: ”اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدْرِ، وَمِنْ سُوءِ الْحَشْرِ“ (اے اللہ! میں تجھ سے اس مہینے کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور تقدیر کے شر اور حشر کے برے انجام سے تیری پناہ مانگتا ہوں)۔“

أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، الرقم: ۳۲۹/۵، الرقم: ۲۲۸۳۳، وابن أبي شيبة في المصنف، الرقم: ۳۳۲/۲، الرقم: ۹۷۳۷، وأيضاً، الرقم: ۹۳/۶، الرقم: ۲۹۷۳۳، والربيع في المسند، الرقم: ۱۹۹/۱، الرقم: ۳۹۲،

عرش کرسی آسماں شمس و قمر پیدا ہوئے
 حور و غلمان و ملک ، جن و بشر پیدا ہوئے
 روز و شب پیدا ہوئے شام و صبح پیدا ہوئے
 جنت و کوثر بنے نخل و حجر پیدا ہوئے
 آپ کے صدقے میں جملہ بحر و بر پیدا ہوئے

نئے مہینے کی خیر و فتح، نصرت و نور کا سوال

عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم اني اسألك خير هذا الشهر، فتحه ونصره ونوره ونعوذ بك من شر ما بعده .

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ“ (اے اللہ! میں تجھ سے اس مہینے کی خیر، فتح، نصرت اور نور کا سوال کرتا ہوں اور ہم اس کے بعد (آنے والے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں)۔“

وفي رواية: عن علي رضي الله عنه انه كان يقول إذا رأى الهلال: اللهم، اني اسألك خير هذا الشهر، فتحه ونصره وبركته وطهوره ورزقه ونوره .

”اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَطَهْرَهُ وَرِزْقَهُ وَنُورَهُ“ (اے اللہ! میں تجھ سے اس ماہ کی خیر، فتح، نصرت، برکت، طہارت، رزق اور نور کا سوال کرتا ہوں)۔“

أخرج الطبرانی في الدعاء، ۱/۲۸۳، ۲۸۳، الرقم: ۹۰۹، ۹۱۰

☆ عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر الى الهلال قال: اللهم اجعله هلال يمن ورشد. وامنت بالله الذي خلقتك فعدلك فتبارك الله احسن الخالقين.

(وقال الهيثمي: وفيه احمد بن عيسى اللخمي ولم اعرفه وبقيه رجاله ثقات)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب (نیا) چاند دیکھتے تو فرماتے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هِلَالَ يُمْنٍ وَرُشْدٍ. وَآمَنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ فَعَدَلَكَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ (اے اللہ! اس چاند کو برکت والا اور رشد و ہدایت والا بنا اور میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر جس نے (اے چاند!) تجھے بھی پیدا کیا اور متناسب بنایا، پھر (اس) اللہ نے بڑھا (کر محکم و جود بنا) دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے)۔“

اس حدیث کو امام ابن السنی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ہیثمی نے فرمایا: اس کی سند میں احمد بن عیسیٰ نخعی راوی کو میں نہیں جانتا جبکہ اس کے بقیہ تمام رجال ثقہ ہیں۔

أخرج ابن السني في عمل اليوم والميلة/ ۵۹۷، الرقم: ۶۳۳، والطبرانی في المعجم للأوسط، ۱/۱۰۱، الرقم: ۳۱۱، وابن عدي في الكامل، ۳/۲۲۲، والهيثمی في مجمع الزوائد، ۱۰/۱۳۹، والناوي في فيض القدير، ۵/۱۶۵-

جب کیا دعویٰ نبوت کا شہ ابرار نے
حجت اعجاز بنی پیش کی کفار نے
نور ایماں ان کو بخشا احمد مختار نے
کردیے سوکھے شجر پل میں ہرے سرکار نے
شاخیں پھوٹیں اور شاخوں میں ثمر پیدا ہوئے

امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور رضائے رحمن کا سوال

عن عبد الله بن هشام رضي الله عنهما قال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر: اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمان وجواز من الشيطان.

وقال العسقلاني: وهذا موقوف على شرط الصحيح، وقال الهيثمي: واسناده حسن.

”حضرت عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سال یا مہینے کے شروع ہونے کے لئے یہ دعا سیکھتے: ”اللَّهُمَّ ادْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ وَجِوَارٍ مِنَ الشَّيْطَانِ“ (اے اللہ! اس مہینے کو ہمارے لئے امن، ایمان، سلامتی، اسلام،

رحمن کی رضا اور شیطان سے چھٹکارے کے ساتھ شروع فرما)۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام عسقلانی نے فرمایا: یہ حدیث صحیح حدیث کی شرط پر موقوف ہے اور امام بیہقی نے فرمایا: اس کی سند حسن ہے۔

أخرج الطبرانی في المعجم الاوسط، ۶/۲۲۱، الرقم: ۶۲۳۱، والعسقلانی في الاصابه، ۳/۲۵۵، الرقم: ۵۰۱۰، والبیہقی في مجمع الزوائد، ۱۰/۱۳۹

وفی روایة: عن عثمان بن ابی العاتکہ عن شیخ من اشیخہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الهلال قال: اللّٰهُمَّ، ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والسکينة والعافية والرزق الحسن۔

”اور ایک روایت میں حضرت عثمان بن ابی عاتکہ اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے چاند کو دیکھتے تو فرماتے: ”اللّٰهُمَّ ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والسکينة والعافية والرزق الحسن“ (اے اللہ! اس ماہ کو ہمارے لئے امن، ایمان، سلامتی، اسلام، سکون، عافیت اور رزق حسن کے ساتھ شروع فرما)۔“ حوالہ اگلی روایت کے بعد آئے گا۔

بتاؤ مہر منور میں نور کس کا ہے میان انجم تاباں ظہور کس کا ہے

یہ تجھ میں اے دل شاعر سرور کس کا ہے دماغ فلسفی تجھ میں شعور کس کا ہے

یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں

وہی ہے رعد میں بجلی میں اور بادل میں اسی کے دم سے ہے منگل ہر ایک جنگل میں

اسی کی بو ہے گلوں میں اسی کا رس پھل میں اسی کی نکبت تر ہے صبا کے آنچل میں

یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں

ہر ایک برگ چمن اس کا ہے پتہ دیتا جو گل سے پوچھو تو وہ بھی مسکرا دیتا

ہر ایک سرو جو انگلی ہے یوں اٹھا دیتا نشان اس کا ہمیں ہے یہ بر ملا دیتا

یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں

چمن میں دشت میں وادی میں کوہ و صحرا میں کبر میں اولے میں شبنم میں ابر و دریا میں

شرر میں شعلے میں آتش میں برق سینا میں شمیم گل میں نسیم مسرت افزا میں

یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں

اسی کے جلوے ہیں سارے جو چشم بینا ہو تمام ذرے ہیں تاباں جو چشم بینا ہو

وہ روبرو ہے ہمارے جو چشم بینا ہو بشر زباں سے پکارے جو چشم بینا ہو

یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں

اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لئے بابرکت بنا دے

و فی روایۃ: عن حسین بن علی رضی اللہ عنہ قال: سألت هشام بن حسان ای شیء کان الحسن یقول اذا رأى الهلال؟ قال: کان یقول: اللّٰهُمَّ اجعلہ شہر بركة ونور واجر ومعافاة، اللّٰهُمَّ انک قاسم بین عبادک فیہ خیرا فاقسم لنا فیہ من خیر کما قسمت فیہ بین عبادک الصالحین۔

”اور ایک روایت میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ہشام بن حسان سے پوچھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب چاند کو دیکھتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ یوں کہا کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اجعلہ شہر بركة ونور واجر ومعافاة، اللّٰهُمَّ انک قاسم بین عبادک فیہ خیرا فاقسم لنا فیہ من خیر کما قسمت فیہ بین عبادک الصالحین۔“ (اے اللہ! اس ماہ کو (ہمارے لئے) برکت، نور اور اجر اور بخشش کا ماہ بنا، اے اللہ! تو اس ماہ میں اپنے بندوں کے لئے خیر تقسیم فرمانے والا ہے، تو اس میں ہمارے لئے بھی خیر کی خیرات رکھ دے جیسا کہ تو نے اپنے نیکو کار بندوں کے لئے رکھی۔)۔“

آخر جہ ابن ابی ہبیبہ فی المصنف، باب ما قالوا فی الهلال یری ما یقال، ۲/۳۳۲، الرقم: ۹۷۳۳، وأیضاً، ۶/۹۵، الرقم: ۲۹۷۵۰، وابن سیران فی سلاح المؤمن فی الدعاء، ۱/۳۶۶، الرقم: ۸۷۷۔

پشت ابراہیم میں تھا نور ختم المرسلین بن عمی گلزار جنت وہ فضائے آتشیں
امتی ان کا کوئی دوزخ میں جا سکتا نہیں وہ شفیع المذنبین وہ رحمۃ للعالمین
سرد کرنے کے لئے نار سقر پیدا ہوئے

اللہ تعالیٰ سے ہدایت، عافیت و رزق وغیرہ کا سوال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یوں کہا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ انی اسئلك الهدی والتقی والعفافی والغنی (اخرجه مسلم فی صحیحہ ۴/۲۰۸۷، مشکوٰۃ)

اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامی اور تو بگری کا سوال کرتا ہوں۔

نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں جن اذکار سے شفا طلب کی اور لوگوں کو اس کی تلقین کی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس بحث کا عنوان بھی شانِ خدا بزبانِ مصطفیٰ ہی ہے۔

اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر ہر چیز کو تخلیق کیا یار کی خاطر

ہر بات سے تنقید کا پہلو نہ نکالو محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر

صلی اللہ علی النبی الامی والہ وسلم

صلوة وسلاما علیک یا رسول اللہ

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي . اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے ٹھیک رکھ۔
اور فرمایا! ہدایت سے راستہ کی ہدایت کا خیال کرنا اور درستی سے تیر جیسی درستی مراد لینا۔

(مسلم شریف ۳/۲۰۹۰، نمبر ۷۸-۷۹-۲۷۲۵-مشکوٰۃ)

حضرت ابو مالک اشجعی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تو حضور علیہ السلام اس کو نماز سکھاتے اور پھر فرماتے ان الفاظ سے دعا مانگا کر: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي
اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے روزی عطا کر۔

(مسلم شریف ۳/۲۰۷۳ حدیث رقم: ۶۹۷، ۳۵-مشکوٰۃ شریف)

تیرا ذکر ہی تو نماز ہے تیری شان ہی تو نیاز ہے
بڑی سہل ہے تیری بندگی تیری شان جل جلالہ
کبھی مست دیکھ کے پھول کو کبھی تیرے حسن قبول کو
یہی کہہ رہی ہے کلی کلی تیری شان جل جلالہ
تو ہی خود نشاں تو ہی بے نشاں تو ہی خود عیاں تو ہی خود نہاں
تو ہی رب بھی راہبر و راہنما تیری شان جل جلالہ
نہیں راز میرا چھپا ہوا تیری چشم بندہ نواز سے
جو تیری خوشی وہ میری خوشی تیری شان جل جلالہ

کلام الہی سے شفا کا حصول

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفث علی نفسه فی المرض الذی مات فیہ بالمعوذات فلما ثقل کنت انفث . علیہ بہن ، وامسح بید نفسه لبرکتھا . فسالت الزہری : کیف ینفث ؟ قال : کان ینفث علی یدیه ، ثم یمسح بہما وجہہ .

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں معوذات (یعنی سورہ فلق اور سورہ والناس) پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور جب تکلیف زیادہ ہوگئی تو میں یہی سورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا (اپنا) دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم (کے جسم اقدس) پر پھیرا کرتی۔ میں (امام معمر) نے (امام ابن شہاب) الزہری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کس طرح کیا کرتے تھے؟ فرمایا: سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے۔“ (بخاری شریف، ۵/۲۱۶۵، نمبر ۵۴۰۳، مسلم شریف، ۳/۱۷۲۳، نمبر ۲۱۹۲)

☆ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من

اہلہ، نفث علیہ بالعمو ذات فلما مرض مرضہ الذی مات فیہ . جعلت انفث علیہ وامسحہ بید
نفسہ . لانہا کانت اعظم برکۃ من یدی (متفق علیہ واللفظ لمسلم)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار
ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات (یعنی سورہ فلق اور سورہ والناس) پڑھ کر دم فرماتے، جب آپ صلی
اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں مبتلا تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر (معوذات سے) دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دست اقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں
میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت تھی۔“

اخرج البخاری فی الصحیح، کتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، ۴/۱۹۱۶، الرقم: ۴۷۲۸، و مسلم فی الصحیح، کتاب السلام، باب رقیۃ الریض
بالمعوذات والنفث، ۴/۱۷۲۳، الرقم: ۲۱۹۳

خداوند امرے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سن لے
میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو طوفانوں نے گھیرا ہے
نبی کے واسطے سے آج یہ فریاد لایا ہوں
اٹھانے کی بھی طاقت دے کرم کر مہرباں مجھ پر
طلب کرتا ہوں تیرا فضل دونوں ہاتھ پھیلا کر
جو میری مشکلیں ہیں ان کو آسانی عطا کر دے
مری بگڑی ہوئی قسمت بنا دے اپنی قدرت سے
ابوبکر و عمر عثمان علی ان چار کا صدقہ
تصدق پنجتن کا اہل بیت پاک کا صدقہ
اللہ العالمیں مردان حق آگاہ کا صدقہ
شہیدان عظیم الشان کا حسنین کا صدقہ
الہی کھول دے میرے لئے رحمت کے دروازے
ترا محتاج ہوں تو اپنی قدرت سے غنی کر دے
بنیں موتی خوشی کے جو مری آنکھوں میں آنسو ہیں
بجھا دے پیاس میری یا خدا رحمت کے پانی سے
قبول اپنی کریمی کے عوض کر لے دعا میری

اللہ العالمیں مجھ غم زدہ کی التجا سن لے
بہت دن سے مرے چاروں طرف غم کا اندھیرا ہے
بہت مجبور ہوں بیکس ہوں دنیا کا ستایا ہوں
الہی تو نے ڈالی ہیں جو ذمہ داریاں مجھ پر
پکارا ہے تجھے میں نے مدد اے میرے مولا کر
یہ تنگی دور کر یا رب فراوانی عطا کر دے
ترا فرمان ہے ایسا نہ ہو مایوس رحمت سے
شہنشاہ دو عالم سید ابرار کا صدقہ
الہی خاندان سرور لولاک کا صدقہ
مرے اللہ اصحاب رسول اللہ کا صدقہ
علی کا، فاطمہ کا، ان کے نور عین کا صدقہ
جو تیرے اولیائے پاک ہیں ان کے وسیلے سے
الہی میرے دامن کو تو اپنے فضل سے بھر دے
الہی پھول میرے باغ کے محروم خوشبو ہیں
مری عسرت کو عشرت میں بدل دے مہربانی سے
اللہ العالمیں تو سن رہا ہے التجا میری

مٹی اور لعاب سے شفا

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الرقیة: تربة ارضنا، وریقة بعضنا، یشفی سقیمنا، باذن ربنا

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت (یہ الفاظ) فرمایا کرتے تھے: ”تُرْبَةُ اَرْضِنَا، وَرِیْقَةُ بَعْضِنَا، یُشْفِی سَقِیْمُنَا، بِاِذْنِ رَبِّنَا“ (ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کے (بابرکت) لعاب دہن سے، ہمارے پروردگار کے حکم سے، ہمارے مریض کو شفا ملتی ہے)۔“

(أخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب الطب، باب رقیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۵/۲۱۶۸، الرقم: ۵۳۱۳، وسلم فی الصحیح، کتاب السلام، باب استحباب الرقیة من العین والاسنة والحمة والنظرة، ۴/۱۷۲۳، الرقم: ۲۱۹۳)

☆ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتكى منا انسان مسحہ بيمينه ثم قال: اذهب الباس، رب الناس، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما. متفق علیہ واللفظ لمسلم.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے پھر (یہ کلمات ادا) فرماتے: (أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا) (اے انسانوں کے پروردگار! تکلیفوں کو دور کر دے، شفاء عطا فرما دے، بے شک تو ہی شفاء عطا فرمانے والا ہے، تیری شفاء کے سوا اور کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفاء عطا فرما جو بیماری کو بالکل ختم کر دے)۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔

أخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب الطب، باب رقیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۵/۲۱۶۸، الرقم: ۵۳۱۳، وسلم فی الصحیح، کتاب السلام، باب استحباب رقیة المریض، ۴/۱۷۲۱، الرقم: ۲۱۹۱

سب کا پروردگار بھی تو ہے
رحمت بے شمار بھی تو ہے
جان و دل کا قرار بھی تو ہے
زینتِ لاله زار بھی تو ہے
جب مرا غم گسار بھی تو ہے
راز تو، راز دار بھی تو ہے
بے گمان تو ہی انتہا ٹھہرا

خالق روزگار بھی تو ہے
تو ہی کرتا ہے لطف کی بارش
تو ہی ہے باعثِ سکونِ نظر
تو ہی شام و سحر کی رعنائی
کیوں مجھے مشکلات کا غم ہو
کس کو معلوم ہے مرے دل کا
بالیقیں تو ہی ابتدا ٹھہرا

مقبول شارب

درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر دم کرنا

عن عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ، انه شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجده فی جسده منذ اسلم، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ضع یدک علی الذی تألم من جسدک وقل: باسم اللہ ثلاثا وقل سبع مرات: اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر

”حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی تکلیف بیان کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے جسم میں جہاں درد ہے اس جگہ ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ اور سات بار (یہ کلمات) کہو: اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ (میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت کی اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں (ڈرانے والا) پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں)۔“

ہر وقت ہو اللہ ہو ہر آن ہو اللہ ہو	یوں ذکر کرو اپنی پہچان ہو اللہ ہو
آقا کے رہا لب پر یہ ذکر پیارا ہے	یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم
ہر غم کی دوا یہ ہے ہر دکھ کی شفا یہ ہے	رحمت کی گھٹا یہ ہے نبیوں نے کہا یہ ہے
سب درد کے ماروں کا یہ ذکر سہارا ہے	یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم
صحراؤں میں اللہ ہو گلشن میں ہے اللہ ہو	مومن کے لبوں پر بھی اور من میں ہے اللہ ہو
ترا ذکر رہے جاری یہی ذکر کنارا ہے	یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم
اشجار کا ذکر یہی ابجار کا ذکر یہی	پھولوں کا ہے ذکر یہی مہکار کا ذکر یہی
یہ ذکر عطا کرتا انوار کا دھارا ہے	یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم
مطلوب ہو ذکر یہی محبوب ہو ذکر یہی	مرغوب ہو ذکر یہی مقصود ہو ذکر یہی

اس ذکر نے ذاکر کا ہر کام سنوارا ہے

یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم

بابرکت کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو دم کرنا

ولفظ الترمذی و ابو داؤد: قال: اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجع قد کان یهلکنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: امسح بيمينک سبع مرات وقل: اعوذ بعزة اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد. قال: ففعلت فاذهب اللہ ما کان بی فلم ازل امر به اہلی وغیرہم.

امام ترمذی اور ابو داؤد نے یہ الفاظ بیان فرمائے: ”حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں ایسے شدید درد میں مبتلا تھا جو مجھے ہلاک کئے جا رہا تھا۔ حضور

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (درد کی جگہ) سات مرتبہ دایاں ہاتھ پھیرو اور یوں کہو: "أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ" (میں اللہ تعالیٰ کی عزت، قدرت اور غلبہ کے ساتھ اس درد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔) آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو درد فوراً رفع ہو گیا اور اب میں ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتا ہوں۔"

آخر جہ مسلم فی الصحیح، کتاب السلام، باب استحباب وضع یدہ علی موضع الألم مع الدعاء، ۳/۱۷۲۸، الرقم: ۲۲۰۲، والترندی فی السنن، کتاب الطب باب ۲۰۸/۳، الرقم: ۲۰۸

ہر لب پہ اس کی ہے گفتگو سجانہ سجانہ
بھرتا ہے رگ رگ میں لہو سجانہ سجانہ
جلوہ اسی کا ہے ہو بہو سجانہ سجانہ
سب چاک کرتا ہے رفو سجانہ سجانہ
فرمان ولا تقنطوا سجانہ سجانہ

ہر دل میں اس کی آرزو سجانہ سجانہ
سارا نظام جسم و جاں ہے حکم سے اس کے رواں
ہر رنگ ہر آہنگ میں تارے میں پھول میں سنگ میں
ہر بہتری دیتا ہے وہ غم میں خوشی دیتا ہے وہ
جائے اماں ہے اس کا گھر عاصی کی ڈھارس اس کا در

دیکھ اس کی قدرت کے نشاں ہر شی سے ہوتے ہیں عیاں
نازش یہی رکھ درد تو سجانہ سجانہ

(محمد حنیف نازش قادری)

جبریل علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کو دم کرنا

عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان جبریل اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا محمد، اشتکیت؟ فقال: نعم، قال: باسم اللہ ارقیک من کل شیء یوذیک من شر کل نفس او عین حاسد . اللہ یشفیک باسم اللہ ارقیک .

(رواہ مسلم و الترمذی و ابن ماجہ و النسائی و احمد . وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین)

"حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا محمد! کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! حضرت جبرائیل نے یہ کلمات کہے: "بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ . اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ" (اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کے شر سے اور ہر نفس اور ہر حسد والی آنکھ کے ضرر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتا ہوں۔)"

(اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔)

و فی روایۃ: عن عائشۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت: کان اذا اشتکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقاہ جبریل قال: باسم اللہ یریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین .

”اور ایک روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے: ”بِاسْمِ اللّٰهِ یُبْرِئُکَ وَمِنْ کُلِّ دَآءٍ یَّشْفِیْکَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَ شَرِّ کُلِّ ذِی عَیْنٍ“ (اللہ کے نام سے، وہ آپ کو تندرست کرے گا، اور ہر بیماری سے شفاء عطا کرے گا اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔“

تیری ذات عقل سے ماور اتری شانِ جل جلالہ
ترا نور شمس و قمر میں ہے تو سدا دلوں کے نگر میں ہے
تو ورائے عقل و شعور بھی تو ہے پاس بھی تو ہے دور بھی
ترا ذکر دل کا قرار ہے تری یاد روح بہار ہے
تری رحمتیں تری بخششیں دو جہاں یہ تیری عنایتیں
وہ جو غمزدوں کو پناہ دے جو مصیبتوں میں امان دے
مجھے گردشوں نے جو آلیا، میں بس ایک پل میں ہوار ہا
تو علیم ہے تو خبیر ہے تو قدیر ہے تو بصیر ہے

(پروفیسر محمد اکرم رضا)

حاسدوں کے حسد سے بچنے کا دم

و فی روایۃ: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی فقال لی: الا ارقیک برقیۃ جاء نی بها جبرائیل قلت: بابی و امی بلی یا رسول اللہ، قال: بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسدا اذا حسد . ثلاث مرات .

”اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ دعا پڑھ کر دم نہ کروں جو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس

لائے ہیں! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باریہ دم فرمایا: ”بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ، وَ مِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ“ (اللہ تعالیٰ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھے ہر اس بیماری سے نجات دلائے جو تجھ میں ہے اور تجھے شفاء دے گا نٹھوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے اور ہر حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے)۔“

آخر جہ مسلم فی الصحیح، کتاب السلام، باب الطب والمرض والرقی، ۱۷۱۸/۳، الرقم: ۲۱۸۶-۲۱۸۵، والترمذی فی السنن، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی العوذ للمریض، ۳۰۳/۳، الرقم: ۹۷۲، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الطب، باب ما عوذ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما عوذ بہ، ۱۱۶۳/۲، الرقم: ۳۵۲۳-۳۵۲۴۔

سارے جہاں کے مالک سارے جہاں کے والی تیری ہی ذات افضل تیری ہے شان عالی
تو نے لگائے سارے پھل پھول اور پودے دنیا کے باغ کا ہے تو ابتداء سے والی
تو دو جہاں کا آقا تو دو جہاں کا مولیٰ کوئی بھی تیرے در سے آتا نہیں ہے خالی
تو نے بنایا عالم تو نے بسایا عالم کرتی ہے ذکر تیرا گلشن کی ڈالی ڈالی
یا رب ہماری تجھ سے اتنی ہی آرزو ہے
جائیں نہ تیرے در سے خالی تیرے سوالی

عرشِ عظیم کے رب سے شفا کا سوال کرنا

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: یوما من عبد مسلم یعود مریضاً لم یحضر اجله فیقول سبع مرات: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عوفی .

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان بندہ کسی ایسے بیمار کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت قریب نہ ہو اور سات باریوں کہے: ”اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيْكَ اِلَّا عَوْفِي“ (میں اللہ بزرگ و برتر اور عرشِ عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفاء عطا فرمائے۔) تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔“

رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی و البخاری فی الادب . وقال الترمذی: هذا حدیث حسن، وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری .

اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور بخاری نے الادب المفرد، میں روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا: یہ حدیث امام بخاری کی شرائط پر صحیح ہے۔

آخر جہ الترمذی فی الصحیح، کتاب الطب، باب: (۳۲)، ۴۱۰/۳، الرقم: ۲۰۸۳، و ابو داؤد فی السنن، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمریض عند العیادة،

۳/۱۸۷، رقم: ۳۱۰۶

ذروں کو مہر بنایا تو نے
معراج میں اور جلوہ نما جسم کے ساتھ
بے مانگے مجھے نورِ مجسم بخشا
رحمت کا بھرم اس سے زیادہ کیا ہو
کچھ مہرِ منور ہی کی تخصیص نہیں

صحرا کو بہشتوں سے سجایا تو نے
محبوب کو تا عرش بلایا تو نے
اور نور کا خود رکھ لیا سایہ تو نے
مجھ سے مری لغزش کو چھپایا تو نے
مٹی کا مقدر بھی جگایا تو نے

شاہ انصاری آبادی

شفایابی یقینی ہے

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من اشتكى منكم شيئا او اشتكاه اخ له فليقل: ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمك امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمة من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع . فیبراً
وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد .

”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جس کو کوئی تکلیف ہو یا اس کا کوئی مسلمان بھائی اس سے اپنی بیماری کی شکایت کرے تو (وہ یوں) کہے: ”رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحِمْتَنَا فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْاَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هَذَا الْوَجْعِ“ (ہمارا رب اللہ ہے جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے۔ (اے اللہ!) تیرا نام پاک ہے۔ تیرا حکم آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تیری رحمت جیسی آسمانوں میں ہے ویسی ہی زمین میں بھی عطا فرما، ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما تو پاک لوگوں کا رب ہے۔ اپنی رحمت میں سے رحمت اور اپنی شفاء میں سے شفاء اس تکلیف پر نازل فرما) تاکہ یہ تندرست ہو جائے۔ (تو وہ شخص شفایاب ہو جائے گا۔“

(أخرجه ابو داؤد فی السنن، کتاب الطب، باب کیف الرقی، ۱۲/۳، رقم: ۳۸۹۲، والنسائی فی السنن الکبری، ۶/۲۵۶-۲۵۷، رقم:

۱۰۸۷۶-۱۰۸۷۷، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۶/۲۰، رقم: ۲۳۰۰۳، والحاکم فی المسند، ۳/۲۳۳، رقم: ۷۵۱۲۔)

تو ہی معبودِ برحق ہے تیری ساری خدائی ہے
حقیقت میں حقیقی ہے تو ہی خالق تو ہی رزاق
ہمیشہ سے ہمیشہ تک تیری فرمانروائی ہے
فقط ارشاد ”کن“ سے تو نے یہ ساری دنیا بنائی ہے
زمانوں سے مکانوں سے منزہ ذات ہے لیکن
ہر اک ذرے میں تیرے نور کی جلوہ نمائی ہے

زمین کو تو نے زینت دی گلوں سے لالہ زاروں سے
جلالی و جمالی سب مظاہر تجھ سے قائم ہیں
جسے چاہے تو عزت دے جسے چاہے تو ذلت دے
ہے اعلیٰ سے تو ہی اعلیٰ اور اونچوں سے تو ہی اونچا
خبیر و عالم و شاہد مکان و لامکان میں تو
مناجات و دعا میں ذکر و فکر و حمد سے یا رب
طفیل مصطفیٰ بخشش ملے اس یوسفی کو بھی

ردائے آسماں سورج سے تاروں سے سجائی ہے
ترے اوصاف کی ہر نقش دل میں دربائی ہے
ترے در پہ دو عالم نے سدا گردن جھکائی ہے
بڑوں سے بھی بڑا تو ہے تری سب پر بڑائی ہے
تیری ہی ذات اقدس سے جہاں کی خوشنمائی ہے
تیرے در تک تیری توفیق سے ملتی رسائی ہے
دہائی ہے ترے اسم گرامی کی دہائی ہے

(صاحبزادہ محمد اللہ دتہ یوسفی)

التعوذات

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم من الحمی ومن
الاجوع کلہا ان یقول: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر
البار۔

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور ہر قسم کے درد میں ان
الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کی تعلیم فرماتے: ”بِسْمِ اللّٰهِ الْکَبِیْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَرَقٍ نِّعَارٍ وَ مِنْ
شَرِّ حَرِّ النَّارِ“ (اللہ تعالیٰ بڑائی والے کے نام سے، ہر پھڑکنے والی رگ اور دوزخ کی گرمی کے شر سے عظمت والے
رب کی پناہ چاہتا ہوں)“ رواہ الترمذی وابن ماجہ و عبدالرزاق وابن ابی شیبہ۔ وقال الحاکم: ہذا حدیث صحیح الاسناد

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد

ہے۔

آخر جہ الترمذی فی السنن، کتاب الطب، باب: (۲۶)، ۳۰۵/۲، رقم: ۲۰۷۵، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الطب، باب مایعوذ بہ من الحمی، ۱۱۶۵/۲،
رقم: ۳۵۲۶، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳۰۰/۱، رقم: ۲۷۲۹

اس کو تعویذ دو

عن سهل بن حنیف رضی اللہ عنہ یقول: مررنا بسیل فد خللت فاغتسلت فیہ فخرجت محموماً
فسمی ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: مروا ابا ثابت یتعوذ قالت (أی الرباب
جلسة عثمان بن حکیم): فقلت: یا سیدی والرقی صالحہ فقال: لا رقیة الا فی نفس او حمة او
لدغة۔ قال ابو داؤد: الحمة من الحیات وما یلسع۔

وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد۔

”حضرت ہبل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ندی کے پاس سے گزرا تو میں نے اس میں اتر کر نہا لیا۔ جب میں باہر نکلا تو مجھے بخار ہو گیا۔ اس بات کی خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ثابت کو تعویذ لینے کا حکم دو۔ (صحابی حضرت ہبل بن حنیف سے روایت کرنے والی تابعیہ حضرت رباب بیان کرتی ہیں کہ) میں نے (حضرت ہبل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے) عرض کیا: میرے آقا! کیا دم سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: دم صرف نظر بد، سانپ کے ڈسے اور بچھو کے کاٹے کا ہوتا ہے۔“ (امام ابو داؤد نے فرمایا: الحمة سانپ وغیرہ زہریلے جانور کا کاٹنا)۔“

(أخرج أبو داؤد في السنن، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقي، ۱۱/۳، الرقم: ۳۸۸۸، والنسائي في السنن الكبرى، ۷/۲، الرقم: ۱۰۸۷۳، ۱۰۸۷۴، والحاكم في المستدرک، ۳/۳۵۸، الرقم: ۸۲۷۰)

ذکر اللہ کا جو گھر میں ہے	روشنی دیر سے نظر میں ہے
پار تو ہی اسے لگائے گا	جو سفینہ مرا بھنور میں ہے
تیرے ہی نام کا ہے یہ موتی	جو بھی آنسو کہ چشم تر میں ہے
اے خدا منزلوں پہ پہنچانا	کارواں دل کا رہگزر میں ہے
عمر کٹ جائے تری اطاعت میں	یہی سودا ہمارے سر میں ہے
کوئی دیکھے تو چشم ساگر سے	اک تعلق جو بحر و بر میں ہے

ندیم ساگر

ایک تعویذ مبارک جو حضور علیہ السلام کو پہنایا گیا

اس تعویذ مبارک کو مختلف ائمہ و محدثین نے اپنی اپنی کتب میں معمولی لفظی فرق کے ساتھ نقل کیا ہے اور ساتھ ایک روایت بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تعویذ مبارک بہ طور آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”جب سیدۃ النساء آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے۔ انہوں نے سیدہ طاہرہ آمنہ علیہا السلام سے عرض کیا:

آپ کو ساری کائنات میں سے افضل ترین ہستی کا حمل ہے جب آپ ان کو جنیں تو ان کا نام (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور سونے کے طباق میں ایک تعویذ رکھا ہوا پیش کیا کہ یہ ان کو ولادت کے بعد پہنادیں۔ (تعویذ یہ ہے)

اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، وکل خلق رائد من قائم وقاعد، عن السبیل عائد علی الفساد
جاہد، من نافث او عاقد وکل خلق مارد، یاخذ بالمرصد فی طرق الموارد، انہا ہم عنہ باللہ
الاعلیٰ واحوطہ منہم بالید العلیا والکف الذی لا یری، ید اللہ فوق ایدیہم وحباب اللہ دون

عادیہم لا یطرده ولا یضروه فی مقعد ولا منام ولا مسیرو ولا مقام اول اللیالی و آخر الايام . اس
تعوید کو جن ائمہ و محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے ان کے نام درج ذیل ہیں:

- 1- کتاب العظمت (ترجمہ: اسرار کائنات) امام ابن حبان، صفحہ ۲۳۱
- 2- دلائل النبوة: امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی صفحہ ۱۳۹
- 3- المختصر الکبریٰ، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی جلد اول صفحہ ۱۰۴
- 4- مواہب لدنیہ: امام احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب قسطلانی شافعی جلد اول صفحہ ۸۰

ہے ذکر تیرا گلشن گلشن
سجان اللہ سجان اللہ
مصرف ثنا ہے سرومن
سجان اللہ سجان اللہ
مطلوب بھی تو مقصود بھی تو
سجان اللہ سجان اللہ
تو روح صبا توں جان چمن
سجان اللہ سجان اللہ
ہر نقش تیری قدرت کا نشاں
سجان اللہ سجان اللہ
ہر بزم میں تو موضوع سخن
سجان اللہ سجان اللہ
غنجوں کی چمک شبنم کی ضیاء
سجان اللہ سجان اللہ
قائم ہے تجھی سے حسن چمک

آشوب چشم کا دم

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اصابه رمد او احدا
من اہله واصحابه دعا بہولاء الکلمات: اللّٰهُمَّ متعنی ببصری واجعله الوارث منی وارنی فی
العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی .

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل
خانہ میں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو اگر آشوب چشم ہو جاتا تو وہ ان کلمات سے دعا کرتے:
”اللّٰهُمَّ متعنی ببصری واجعله الوارث منی وارنی فی العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی“
(اے اللہ! مجھے میری نگاہ سے لطف اندوز کر اور اس کو میرا وارث بنا، اور مجھے اپنے دشمن کا انتقام دکھا اور جس نے مجھ پر
ظلم کیا اس پر میری مدد فرما)۔“

(آخر جہ الحاکم فی المستدرک، کتاب الرقی والتمايم، ۳/۳۵۹، الرقم: ۸۲۷۲، وابن السنی فی عمل الیوم، الملیۃ/۵۱۳، الرقم: ۵۶۵، والحکیم الترمذی فی

نوادیر الاصول، ۱/۳)

☆ عن علی رضی اللہ عنہ قال: من قال عند عطسة سمعها: الحمد لله رب العالمین علی کل

حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الاذن ابدا .

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے چھینک سن کر یہ کہا، ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَي كُلِّ حَالٍ“ (ہر حال میں جو بھی ہو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں) تو وہ داڑھ اور کان کا درد کبھی نہیں پائے گا۔“

آخر جہ البخاری فی الأدب المفرد، باب: من سمع العطسة / ۳۱۹، الرقم: ۹۲۶، والحاکم فی المستدرک، ۴/ ۳۵۹، الرقم: ۸۲۷۳، والعسقلانی فی فتح الباری، ۱۰/ ۶۰۰، والسیوطی فی الدر المنثور، ۱/ ۳۲، والنادوی فی فیض القدر، ۱/ ۳۰۳۔

گو عیاں ہے مگر نہاں تو ہے
پھر بھی دکھتا نہیں، کہاں تو ہے
رونقِ دشت و گلستاں تو ہے
حسن کا بحر بے کراں تو ہے
کارواں میرِ کارواں تو ہے
ہر تجلی میں ضوِ فشاں تو ہے
سب ہی بندوں پہ مہرباں تو ہے
اور خداوندِ دو جہاں تو ہے

خالقِ نظم دو جہاں تو ہے
ذرے ذرے میں تیری جلوہ گری
ذرے ذرے میں عکس ہے تیرا
قطرے قطرے میں حسن ہے تیرا
خالقِ انبیائے نوع بشر
نگہِ خلق سے نہاں ہو کر
سب پہ یکساں ہے تیرا لطف و کرم
ہے شریفِ حزیں ترا بندہ

شریف امر دہوی

بچھو پر خدا کی لعنت ہو.....

عن علی رضی اللہ عنہ قال: بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة یصلی فوضع یدہ علی الارض فللدغته عقرب فتناولها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال: لعن اللہ العقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ او نبیا ولا غیرہ الا لدغتهم ثم دعا بملح وماء فجعله فی اناء ثم جعل یصبہ علی اصبعہ حیث لدغته ویمسحہا ویعوذہا بالمعوذتین .

رواہ ابن ماجہ مختصرا وابن ابی شیبہ واللفظ لہ والبیہقی والطبرانی . وقال الہیثمی: واسنادہ حسن .

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس زمین پر رکھا تو اس پر ایک بچھو نے ڈس لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے نعلین مبارک سے مار ڈالا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: بچھو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ وہ نمازی، غیر نمازی اور نبی اور غیر نبی کسی کو بھی بلا امتیاز ڈسنے سے باز نہیں آتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر انہیں ایک برتن میں حل فرمایا اور پھر اسے اپنی اس انگلی پر ڈالنا شروع کر دیا جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا اور اس پر اپنا دست اقدس پھیرنے لگے اور اس انگلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر دم فرمانے لگے۔“

و فی روایۃ للطبرانی والبیہقی: رواہ ابن فضیل عن مطرف: لم یذکر تناولها بالفعل قال: ثم دعا بماء وملح وجعل یمسح علیہا ویقرأ: "قل هو اللہ احد" و "قل اعوذ برب الفلق" و "قل اعوذ برب الناس"

امام طبرانی اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ امام ابن فضیل نے حضرت مطرف سے روایت کی، انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچھو کو مار دیا۔ (صرف اتنا بیان کیا کہ) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا یا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگشت مبارکہ پر اپنا دست اقدس پھیرنا شروع کیا اور ساتھ یہ (سورتیں): "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" اور "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" اور "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" پڑھ کر دم فرمایا۔

أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها في السنن، كتاب اقامة الصلاة والسنن فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، ۱/۳۹۵، الرقم: ۱۲۲۶، وابن أبي شيبة في المصنف، ۵/۲۳، الرقم: ۲۳۵۵۳، والطبرانی في المعجم لأوسط، ۶/۹۱، الرقم: ۵۸۹۰۔

مشت گل ہوں، وہ خرام ناز دیتا ہے مجھے
کہنہ ہونے ہی نہیں دیتا وہ میری داستاں
آپ ہی رکھتا ہے میرے سامنے سربستہ راز
زندہ رکھتا ہے مجھے رنج و خوشی کے درمیاں
شب کے پردے میں مجھے کرتا ہے انجام آشنا
جب میں لوٹ آتا ہوں دشت چار سو کو چھان کر
دور رکھتا ہے وہ عاصی! مجھ سے ساری ذلتیں
عرش تک گنجائش پرواز دیتا ہے مجھے
جب بھی لکھتا ہے، نیا انداز دیتا ہے مجھے
آپ کی توفیق کشف راز دیتا ہے مجھے
ساز دیتا ہے، شکست ساز دیتا ہے مجھے
دن کی صورت اک نیا آغاز دیتا ہے مجھے
دل میں چھپ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے مجھے
وہ کریم اعزاز پر اعزاز دیتا ہے مجھے

(محترم پروفیسر عاصی کرتالی)

دم کرنے پہ معاوضہ لینا

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب فلم یقروہم فبینما ہم کذالک اذ لدغ سید اولئک فقالوا: هل معکم من دواء اور اراق فقالوا: انکم لم تقرونا ولا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لہم قطیعا من الشاء فجعل یقرأ بام القرآن ویجمع بزاقہ ویثفل فبراً فاتوا بالشاء فقالوا: لا ناخذہ حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوہ فضحک وقال: وما ادراک انہا رقیۃ خذوها واضربوا لی بسہم۔

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ حضرات قبائل عرب میں سے ایک قبیلے میں گئے تو ان قبیلے والوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران ان

کے سردار کو بچھونے کاٹ لیا تو وہ (ان صحابہ کرام کے پاس آ کر) کہنے لگے: کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا دم کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا: چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی لہذا ہم اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے ساتھ کچھ (معاوضہ) مقرر نہ کر لو۔ تو انہوں نے کچھ بکریاں دینا منظور کیا چنانچہ (ان میں سے ایک نے) سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوک منہ میں جمع کر کے بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر تھوک دیا تو اس کی تکلیف (اسی وقت) دور ہو گئی۔ وہ لوگ (طے شدہ معاملہ کے مطابق) بکریاں لے کر آئے تو ان (صحابہ کرام میں سے بعض) نے کہا کہ (یہ بکریاں) ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھ نہ لیں۔ سو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں (حاضر ہو کر) دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (سارا ماجرا سن کر) ہنس پڑے اور فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ (سورہ فاتحہ) دم کرنے کی چیز ہے؟ خیر تم وہ بکریاں لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی نکالنا۔“

أخرج البخاری فی الصحیح، کتاب الطب، باب الرقی بفاتحہ الكتاب، ۵/۲۱۶۶، الرقم: ۵۴۰۴، و مسلم فی الصحیح، کتاب السلام، باب جواز أخذ لآجرۃ علی الرقیۃ بالقرآن والآذکار، ۴/۱۷۲۷، الرقم: ۲۳۰۱، والترغی فی السنن، کتاب الطب، باب ماجاء فی أخذ لآجر علی التعویذ، ۴/۳۹۸، الرقم: ۲۰۶۳، و أبو داؤد فی السنن، کتاب الطب، باب کیف الرقی، ۴/۱۳، الرقم: ۳۹۰۰، و ابن ماجہ فی السنن، کتاب التجارات، باب أجز الرقی، ۲/۷۲۹، الرقم: ۲۱۵۶، و التسانی فی السنن الکبری، ۴/۳۶۷، الرقم: ۷۵۴۷، و أحمد بن حنبل فی المسند، ۳/۴۴، الرقم: ۱۱۴۱۷۔

کچھ حد سے سوا اور نہ کم مانگ رہے ہیں
خبرے میں ہے اب عزت و ناموس مسلمان
یا رب ہمیں گمراہی و ذلت سے بچالے
یا رب ہمیں دے اپنی ہی چوکھٹ کی گدائی
محراب نبی میں ملے سجدوں کی سعادت
اب سامنے عصیاں کی کڑی دھوپ کھڑی ہے
پھر بارگر حاضری بیت حرم ہو
اللہ سے ہم اس کا کرم مانگ رہے ہیں
ہم دہر میں بس اپنا بھرم مانگ رہے ہیں
ہر لمحہ دعا تجھ سے یہ ہم مانگ رہے ہیں
وہ اور ہیں جو شوکت جم مانگ رہے ہیں
ہم زیر جبیں نقش قدم مانگ رہے ہیں
ہم سایہ دیوار حرم مانگ رہے ہیں
عابد دعا دن رات یہ ہم مانگ رہے ہیں

(پروفیسر سید عابد میر قادری سلطانی)

اس میں کوئی حرج نہیں

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: کان اهل بیت من الانصار یقال لہم آل عمرو بن حزم یرقون من الحمة و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہی عن الرقی فاتوا فقالوا: یا رسول اللہ، انک قد نہیت عن الرقی وانا نرقی من الحمة فقال لہم: اعرضوا علی فعرضوا علیہ فقال: لا باس ہذہ ہذہ موثیق۔

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک خاندان تھا جنہیں آل عمرو بن حزم کہا جاتا تھا۔ یہ (بچھو، سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کے) ڈنگ کا دم کر۔ لگتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سے منع فرمایا تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیا جبکہ ہم ڈنگ کا دم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم مجھے دم (کے کلمات) سناؤ انہوں نے وہ کلمات سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو وعدے ہیں۔“

اس حدیث کو امام ابن ماجہ، عبدالرزاق اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث مختصراً صحاح میں بھی موجود ہے اور اس کے رجال بھی صحیح حدیث کے رجال ہیں سوائے قیس بن ربیع کے، اور انہیں بھی امام شعبہ اور ثوری نے ثقہ قرار دیا ہے۔

وفی روایۃ ایضاً: عن جابر رضی اللہ عنہ قال: کان رجل یرقی من العقرب فنبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقی فقال: یا رسول اللہ، انک نہیت عن الرقی وانی کنت ارقی من العقرب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل. رواہ ابو یعلیٰ والطحاوی وابن حبان والحاکم. وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم.

ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا: ایک آدمی بچھو کے ڈنگ کا دم کرتا تھا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمادیا تو اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے دم سے منع فرمادیا ہے جبکہ میں بچھو کے ڈنگ سے دم کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں جو اپنے بھائی کو نفع دینے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ دم کر لیا کرے۔“

آخر جابن ماجہ فی السنن، کتاب الطب، باب ما رخص فیہ من الرقی، ۱۱۶۱/۲، الرقم: ۳۵۱۵، وعبدالرزاق فی المصنف، ۱۱/۱۶، الرقم: ۱۹۷۷، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۱۷/۳۷، الرقم: ۷۳، و ابو یعلیٰ فی المسند، ۳.....۹، الرقم: ۲۰۰۶، والطحاوی فی شرح معانی الآثار، ۳/۳۲۸، وابن حبان فی الصحیح، ۱۳/۳۶۳، الرقم: ۶۰۹۷، والحاکم فی المستدرک، ۳/۳۶۰، الرقم: ۸۲۷۷، والعسقلانی فی الاسابجہ، ۳/۶۲۶، الرقم: ۵۸۲۳، والبیہقی فی مجمع الزوائد،

-۱۱۱/۵

تو ہی میرا عقیدہ اور مرا ایمان یا اللہ
تیری ہی بندگی ہے زندگی اہل محبت کی
مہ دمہر و نجوم کہکشاں تیرے ہی جلوے ہیں
جمادات و نباتات و فلک جن و بشر سارے
ترا انعام ہے لاکھوں شہیدوں کی امانت ہے
تیرے ہی نام خالق مالک اور رحمان اے اللہ
چراغ ہستی ہے ترا قرآن یا اللہ
بہر گلشن نمایاں ہے تیری ہی شان یا اللہ
تری خلافت کے ہیں یہ کچھ عنوان یا اللہ
قیامت تک رہے قائم پاکستان یا اللہ

تجھے ڈھونڈوں تجھے دیکھوں ترے قربان ہو جاؤں ازل سے ہے یہی دل میں میرے ارمان یا اللہ
دم آخر کب عابد پہ جاری ہو یہی کلمہ کرم ہو جائے یا سبحان یا سلطان یا اللہ

(پروفیسر عابد سلطانی برہانپوری)

سانپ وغیرہ سے بچاؤ کا عمل

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قال حین یمسی: اعوذ
بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره حیة تلك اللیلة قال: وکان اذا لدغ
من اہله انسان قال: ما قال الکلمات. و قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم.
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے شام کے وقت
تین دفعہ یہ دعا پڑھی: ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ“ (میں مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کلمات
نامہ کی پناہ مانگتا ہوں) تو اس رات سانپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے
اگر کسی انسان کو سانپ وغیرہ ڈس لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس نے وہ کلمات نہیں پڑھے۔“
(أخرجه الحاکم فی المستدرک، کتاب الرقی والتأمم، ۳/۴۶۱، الرقم: ۸۲۸۰، والقزوينی فی التذوین فی أخبار قزوين، ۲/۲۳۳، والخطیب البغدادي فی
تاریخ بغداد، ۳/۹۴، الرقم: ۱۷۴۱)

ہر لقب بے نظیر بخشا ہے مرتبہ بھی کبیر بخشا ہے
اک متاع قلیل سے دنیا حق نے ان کو کثیر بخشا ہے
(انا اعطیناک الکوثر)

حضور علیہ السلام کا حسین کریمین کو دم فرمانا

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین
(رضی اللہ عنہما) ویقول ان ابا کما کان یعوذ بہا اسماعیل واسحاق: اعوذ بکلمات اللہ التامة
من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة. و قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح
”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی
اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور ان سے فرماتے کہ ان کے جدا مجد (حضرت ابراہیم علیہ السلام) بھی حضرت
اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے: ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامِيَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِيَةٍ“ (میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان (کے شر)
سے اور موذی جانوروں اور حشرات سے اور ہر نظر بد سے۔“

(أخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب الانبیاء، باب (یزنون) النسلان فی المشی، ۳/۱۲۳۳، الرقم: ۳۱۹۱، والترمذی فی السنن، کتاب الطب، باب ما جاء فی

الرقیة من العین، ۳/۳۹۶، الرقم: ۲۰۶۰،)

☆ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجنان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان فلما نزلنا أخذبهما وترك ما سواهما. وقال الترمذی: وهذا حدیث حسن.

”حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین (سورہ فلق اور سورہ الناس) نازل ہوئیں۔ ان کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اختیار فرمایا اور ان کے سوا باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔“

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب الطب، باب ماجاء فی الرقیة بالمعوذتین، ۳/۳۹۵، الرقم: ۲۰۵۸، والنسائی فی السنن، کتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من عین الجن، ۸/۲۷۱، الرقم: ۵۳۹۳)

ہم سب غمزدوں کے غم کا مداوا تمہی تو ہو	فرقت نصیب دل کا سہارا تمہی تو ہو
نقش و نگار عاجم بالا تمہی تو ہو	ترکین بزم عرش معلی تمہی تو ہو
کیا کیا لقب حضور کے حق نے عطا کئے	یسین تمہیں منزل و طہ تمہی تو ہو
جن و بشر ملائک و غلاماں تو اک طرف	پتھر بھی جن کا پڑھتے ہیں کلمہ تمہی تو ہو
محشر میں انبیاء کو ہی ہے جس کی جستجو	اے صاحب شفاعت کبریٰ تمہی تو ہو
دامن تمہارا چھوڑ کے جائے تو کس طرف	تائب کا اور کون ہے آقا تمہی تو ہو

(حفظ تائب)

حضور علیہ السلام نے دم فرمایا تو مریض بالکل تندرست ہو گیا

عن ابی لیلی رضی اللہ عنہ قال: کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ اعرابی فقال: ان لی اخا وجعا قال: ما وجع اخیک؟ قال: بہ لمم قال اذهب فاتنی بہ قال: فذهب فجاء بہ، فاجلسہ بین یدیه فسمعتہ عوذه بفاتحة الكتاب، واربع آیات من اول البقرة، و آیتین من وسطها (والہکم اللہ واحد) وایة الكرسي و ثلاث آیات من خاتمتها، و آية من آل عمران احسبه قال: (شهد اللہ انه لا الہ الا هو) و آية من الاعراف: (ان ربکم اللہ الذی خلق) الآیة و آية من المومنین: (ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برهان له بہ) و آية من الجن: (وانہ تعالیٰ جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) و عشر آیات من اول الصافات و ثلاث آیات من آخر الحشر و (قل هو اللہ احد) و المعوذتین فقام الاعرابی قد برأ لیس بہ باس.

”حضرت ابولیلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک اعرابی نے

بازگاہِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اسے کیا مرض ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اسے (یہاں) لے آؤ وہ اعرابی اسے لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھی۔ پھر سورہ بقرہ کی شروع کی چار آیات اور پھر درمیان کی دو آیات: (وَاللَّهُ كُتْمُ إِلَهٍ وَاحِدٌ) پڑھیں۔ پھر آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیات پڑھیں اور ایک آیت سورہ آل عمران کی غالباً (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) پڑھی۔ پھر سورہ اعراف کی ایک آیت: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ) پڑھی اور ایک آیت سورہ مومنون کی (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ) پڑھی اور ایک آیت سورہ جن کی (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا) پڑھی اور سورہ الصافات کی شروع کی دس آیات پڑھیں اور آخری تین آیات سورہ حشر کی پڑھیں اور (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) اور معوذتین (سورہ فلق اور سورہ والناس) پڑھیں تو وہ اعرابی (اسی وقت) اچھا ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی کوئی بیماری ہی نہ تھی۔“

(رواہ ابن ماجہ و احمد و الطبرانی و ابو نعیم۔ وقال الحاکم: قد احتج الشيخان رضی اللہ عنہما برواۃ هذا الحدیث کلہم عن آخرہم غیر ابی جناب الکلبی و الحدیث محفوظ صحیح) اس حدیث کو امام ابن ماجہ، احمد، طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: امام بخاری و مسلم نے اس حدیث کے شروع سے آخر تک راویوں کو قابل حجت و دلیل مانا ہے سوائے ابو جناب کلبی کے اور یہ حدیث محفوظ اور صحیح ہے۔ (آخر جہاں ماجہ فی السنن، کتاب الطب، باب الفروع و الأرق و ما جعوز منہ، ۱۱۷۵/۲، الرقم: ۳۵۴۹، و أحمد بن حنبل فی المسند، ۱۲۸/۵، الرقم: ۲۱۲۱۲، و الحاکم فی المستدرک، کتاب الرقی و التمام، ۳/۳۵۸، الرقم: ۸۲۶۹، و الطبرانی فی الدعاء، ۱/۳۳۰، الرقم: ۱۰۸۰، و ابو نعیم فی دلائل النبوة، ۱/۱۱۷، الرقم: ۱۲۲-)

اے خدا! تو نے اپنے بندوں کو
تو نے ہم کو بشر کیا پیدا
خاتم الانبیاء کی امت میں
اچھی صورت سے سرفراز کیا
رنج سے فکر سے کیا آزاد
علم کا شوق بھر دیا دل میں
بخشی پاکیزگی خیالوں کی
نام جس کا ہے ارض پاکستان
زندگی کی ہر ایک نعمت دی
دو جہاں میں بشر کو عظمت دی
کر کے شامل بڑی سعادت دی
ساتھ کے ساتھ نیک سیرت دی
سکھ دیا راحت و مسرت دی
نیکیاں سیکھنے کی عادت دی
اور کردار کی شرافت دی
ایں اک بے مثال جنت دی

(پروفیسر عاصی کرنالی)

بیماری تیمارداری کے وقت شانِ خدا کے کلمات بزبانِ مصطفیٰ (ﷺ)

عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: هل کنت تدعو بشیء او تسالہ ایاہ؟ قال: نعم، کنت أقول: اللّٰهُم ما کنت معاقبی بہ فی الاخرة، فعجلہ لی فی الدنیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ لا تطیقه او لا تستطیعه افلا قلت: اللّٰهُم اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار؟ قال: فدعا اللہ له، فشفاه۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی عیادت کی جو (بیماری سے) چوزے کی طرح لاغر ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا مانگتے تھے یا اس سے کسی چیز کا سوال کیا کرتے تھے؟ تو اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) جی ہاں! میں یہ سوال کرتا تھا: اے اللہ! تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے سو اس کے بدلہ میں مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ! (حالانکہ) تم اس (کے معمولی سے عذاب کو بھی برداشت کرنے) کی طاقت نہیں رکھتے یا فرمایا: تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی: (اللّٰهُمَّ اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّ قِنَّا عَذَابَ النَّارِ) (اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں (بھی) بھلائی عطا فرما اور آخرت میں (بھی) بھلائی (سے نواز) اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔) راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرمادی۔“

(أخرج مسلم فی الصحیح، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب کرہیۃ الدعاء بجمیل العقوبۃ فی الدنیا، ۳/۲۰۶۸، الرقم: ۲۶۸۸، والترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التبیح بالید، ۵/۵۲۱، الرقم: ۳۳۸۷، والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۶/۲۶۰، الرقم: ۱۰۸۹۲، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳/۱۰۷، الرقم: ۱۲۰۶۸)

اک اشارہ ترا عالم کن فکاں	اک کرشمہ ترا یہ زمیں آسماں
کوئی مانے نہ مانے تجھے ہے مگر	نام تیرا ہی ہر لب پہ رطب اللساں
تری عظمت کے آگے ہے خم ہر جبیں	کبریائی ہے زیبا تجھے بے گماں
تو ہے مستور و محبوب پھر بھی نظر	ڈھونڈتی ہے بہر سمت تیرا نشان
غنچے غنچے کے لب پر ترا تذکرہ	ذکر تیرا ہی ہے گلستاں گلستاں
ہر فسانہ ہے بے رنگ تیرے بغیر	بن ترے نامکمل ہے ہر داستاں
تجھ سے ہے مشکبو میرا ہر نفس	ہے ثنا خواں ترا میرا رواں رواں
ہے بصیرت میں جلوہ نمائی تری	ہے بصارت کے پردے سے تو گو نہاں

کون ہے جو حقیقت تری پا سکے ترے اوصاف ہیں ماورائے بیاں
چاند تاروں سے تو نے چراغاں کیا تو نے پھولوں سے مہکائی ہیں وادیاں
تو ہی نور السموت والارض ہے تیری ہی روشنی ہے کراں تا کراں
تو نے ازراہ احساں عطا کر دیا ہم خطا کاروں کو شافع انس و جاں
گنج مخفی تری ذات ہی تھی مگر عکس محبوب میں تو ہوا ہے عیاں
تیری توحید برحق مگر بالیقین تیرا مظہر ہوئے رحمت دو جہاں
لب کشا تیرا نیز ہوا ہے مگر
مدح کو تیری لائے کہاں سے زباں

(ضیاء نیز)

یا اللہ اس کو عافیت و شفاء عطا فرما

عن علی رضی اللہ عنہ قال: کنت شاکیا فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اقول: اللہم ان کان اجلی قد حضر فارحنی، وان کان متأخرا فارفغنی، وان کان بلاءا فصبرنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیف قلت؟ قال: فاعاد علیہ ما قال قال: لضر به برجله فقال: اللہم عافه او اشفه، شعبة الشاک، فما اشتکیت وجعی بعد۔

(قال الترمذی: وهذا حدیث حسن صحیح، وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشيخین)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں کہہ رہا تھا: یا اللہ! اگر میری موت (قرب) آچکی ہے تو مجھے راحت بخش، اگر کچھ تاخیر ہے تو مجھے اٹھالے، اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے کیا کہا؟ بیان کیا کہ میں نے وہی کلمات دہرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پاؤں مبارک مار کر فرمایا: (اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اشْفِهِ) (یا اللہ! اسے عافیت دے۔ یا فرمایا: شفاء عطا فرما!) راوی شعبہ کوشک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی درد کی شکایت نہیں ہوئی۔“

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الریض، ۵/۵۶۰، رقم: ۳۵۶۳، والنسائی فی السنن الکبریٰ، ۶/۲۶۱، رقم: ۱۰۸۹۷، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۸۳، ۱۰۷، ۱۲۸)

☆ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سبب الاسقام. قال المقدسی: اسنادہ صحیح۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ) (اے اللہ! میں برص، دیوانہ پن، کوڑھ اور جملہ موذی بیماریوں سے تیری پناہ لیتا ہوں)۔“

(اخرجہ أبو داؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب فی الاستعاذۃ، ۹۳/۲، الرقم: ۱۵۵۳، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱۹۲/۳، الرقم: ۱۳۰۲۷، وابن حبان فی الصحیح، ۲۹۵/۳، الرقم: ۱۰۱۷)

تیرے لئے مخصوص ہیں یا رب انواع تعریف تو ہے پالنہار جہاں کا، سب کا ہے رازق تیری قدرت سے پکتے ہیں، پھل، میوے، فصلیں تیری مرضی سے اک ذرہ کوہ گراں پر بھاری غم کے بھاری پتھر، جس کو ریزہ ریزہ کر دیں سورج، چاند، ستارے، سب پر، حکم ہے تیرا جاری قادر ہے، اور قادر مطلق، مالک لوح و قلم کا دل کی گہرائی سے واجد، کر اللہ کی حمد ہر نوع تعریف ہے، تیری ذات کا وصف شریف نہ کوئی تیرا سا جھی ہے اور نہ کوئی تیرا حریف تیری حکمت کی مظہر ہیں فصل، ربیع و خریف تیرے حکم سے ہاتھی پر ہے غالب مور نحیف تیرا دست کرم کرتا ہے، اس دل کی تالیف کر نہیں سکتے سارے مل کر، ذرہ بھر تحریف کیا جانیں، کتنی دنیا کیں، ہیں تیری تصنیف بیچ ہیں اس وادی میں سارے قافیے اور ردیف

(ولی محمد واجد)

بندش بول کا دم

عن أبي الدرداء رضي الله عنه انه اتاه رجل فذكر ان اباہ احتبس بوله فاصابته حصاة البول فعلمه رقية سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ربنا الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين فانزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع . فيبرأ وامره ان يرقيه بها فرقاها بها فبرأ .

”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور بتلایا کہ اس کے والد کا پیشاب بند ہو گیا ہے، اور اسے پیشاب میں پتھری کی شکایت ہے تو انہوں نے اسے وہ دم سکھایا جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا۔ (اور وہ یہ ہے:) (رَبُّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحِمْتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْاَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَاَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحِمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ) (ہمارا رب وہ ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے۔ (اے میرے رب!) تیرا نام پاک ہے، اور تیری بادشاہت آسمان اور زمین میں

ہے جیسا کہ تیری رحمت آسمان میں ہے ایسی ہی رحمت زمین پر بھی نازل فرما اور ہمارے گناہ اور لغزشیں معاف فرما۔ تو طیب لوگوں کا رب ہے، سو تو اپنی شفاء اور رحمت اس درد میں مبتلا شخص پر نازل فرما۔) تو وہ شخص صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ بھی اپنے والد کو اسی دعا کے ساتھ دم کرے، اس نے ایسا ہی کیا تو اس کے والد صحت یاب ہو گئے۔“

اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، مذکورہ الفاظ نسائی کے ہیں اور امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

(أخرج أبو داؤد في السنن، كتاب الطب، باب كيف الرقي، ۱۲/۴، الرقم: ۳۸۹۲، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول من كان به أسر، ۶/۲۵۶-۲۵۸، الرقم: ۱۰۸۷۴-۱۰۸۷۵، وأحمد بن حنبل في المسند، ۶/۲۰، الرقم: ۲۳۰۰۳، والحاکم في المسند، ۱/۳۹۳، الرقم: ۱۲۷۲)

تو خدائے انس و جاں ہے خالق تقدیر ہے
خاک کے ذروں کو دیتا ہے پہاڑوں کا جلال
تیرے ارشادات ہیں قرآن میں بکھرے ہوئے
سن کے ارشادات تیرے سنگدل بھی موم ہوں
اے خدائے پاک میری بھی دعا مقبول ہو
جو بھی تیرے جادہ حق پر چلے، ہے معتبر
واسطہ تجھ کو خدایا اس شہ کونین کا
ہو رضا کی التجا مقبول رب دوسرا

تو اگر ہو لطف فرما، خاک بھی اکسیر ہے
تیری رحمت ہو اگر تو کون پھر دلگیر ہے
تیرا ہر اک حکم، صبح نور کی تنویر ہے
تیرا ہی ارشاد، برحق اور پرتاثر ہے
تیری رحمت کی سوالی میری ہر تدبیر ہے
نام لیوا ہو تیرا جو صاحب توقیر ہے
جس کا کردار حسین قرآن کی تفسیر ہے
نام لیوا ہے تیرا چاہے یہ پد تفسیر ہے

(پروفیسر محمد اکرم رضا)

مر جائے تو شہید بنج جائے تو گناہ معاف

عن سعد بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: (لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين) (الانبياء: ۲۱: ۸۷) ايما مسلم دعا بها في مرضه اربعين مزة فمات في مرضه ذلك اعطى اجر شهيد وان برا برا وقد غفر له جميع ذنوبه .

”حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان (لا اله الا انت سبحانک انى كنت من الظالمين) (تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے، بیشک میں ہی اپنی جان پر) زیادتی کرنے والوں میں سے تھا) کے متعلق فرمایا: جو مسلمان اپنی بیماری کے دوران اس کے توسل سے چالیس دفعہ دعا کرے، پھر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا ثواب ملتا ہے اور اگر وہ شفا یاب ہو

جائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“

(أخرج الحاكم في المستدرک، کتاب الدعاء والتسبیح والتسبیح والذکر، ۱/۵۰۶، الرقم: ۱۸۶۵، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۳/۱۶۷، الرقم: ۵۲۸۲)

☆ عن واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ ان رجلا شکى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجع حلقه قال: عليك بقراءة القرآن .

”حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں شدید تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو (گلے کی تکلیف جاتی رہے گی)۔“ (أخرج البيهقي في شعب الایمان، ۲/۵۱۹، الرقم: ۲۵۸۰)

☆ عن طلحة بن مصرف رضی اللہ عنہ قال: كان يقال: ان المريض اذا قرأ عندہ القرآن وجد له خفة، فدخلت علی خيشمة وهو مريض فقلت: انى اراك اليوم صالحا قال: انه قرأ عندي القرآن:

”حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ بیشک مریض کے قریب جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنی تکلیف میں افاقہ محسوس کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خیشمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لئے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں آج آپ کو بہتر حالت میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا: (آج) میرے پاس قرآن مجید پڑھا گیا ہے (یہ اسی کی برکت سے ہوا ہے)۔“ (أخرج البيهقي في شعب الایمان، ۲/۵۱۸، الرقم: ۲۵۶۷۹)

☆ عن علی رضی اللہ عنہ قال: خمس يذهبن بالنسيان ويزدن في الحفظ ويذهبن البلغم: السواك والصيام وقراءة القرآن والعسل واللبان

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: پانچ چیزیں نسیان (یعنی بھولنے کی بیماری) دور کرتی ہیں، حافظہ میں اضافہ کرتی ہیں اور بلغم کو ختم کرتی ہیں (وہ چیزیں یہ ہیں: مسواک، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، شہد اور دودھ)۔“ (أخرج البيهقي في سنن الفردوس، ۲/۱۹۷، الرقم: ۲۹۸۰)

اللہ کھل رہی ہے زباں کس حساب میں	حمد خدا میں، نعت رسالت مآب میں
اللہ! ان کا حسن تکلم تو دیکھنا	جھڑتے ہیں جیسے بھول بہار شباب میں
اللہ! ان کا صحن چمن میں خرام نار	مہتاب چل رہا ہے شب ماہتاب میں
اللہ! ان کی چشم خدا مست کا خمار	مینا میں وہ اثر ہے نہ جام شراب میں
اللہ! ان کے سامنے کس کی مثال دوں	نور ازل چھپا ہے بشر کے حجاب میں
اللہ! ان کی راہ میں جاں سے مجھے گزار	یہ شرط اولیں ہے وفا کے نصاب میں

اللہ! ان کے نام پر ہر شے فدا کروں لکھ دے غلام زار کی قسمت کے باب میں

(غلامِ مصطفیٰ مجددی)

میت کے لئے اور زیارت قبور کے وقت شانِ خدا بزبانِ مصطفیٰ کے کلمات

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حضرتم المريض، او الميت، فقولوا خيرا. فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت: فلما مات ابو سلمة رضى الله عنه اتيت النبی صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ان ابا سلمة قد مات قال: قولي: اللهم، اغفر لي وله، واعقبني منه عقبى حسنة قالت: فقلت، فاعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو (اس کے بارے میں) کلمہ خیر (یعنی اچھی بات) کہو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب (ان کے شوہر) حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! (میرے شوہر) ابو سلمہ فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دعا پڑھو: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَاعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبِي حَسَنَةً) (اے اللہ! میری اور میرے شوہر کی مغفرت فرما اور ان کے بعد میرے لئے ان سے اچھا شخص مقرر کر دے۔) پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ان کے بعد ان سے بہتر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمادیا (یعنی زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کا شرف حاصل ہوا)۔“

اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت، ۶۳۳/۲، الرقم: ۹۱۹، والترذی فی السنن، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی تلقین المريض عند الموت والدعاء له عندہ، ۳۰۷/۳، الرقم: ۹۷۷، والنسائی فی السنن، کتاب الجنائز، باب کثرة ذکر الموت، ۴/۳، الرقم: ۱۸۲۵۔

یا الہی تو مکیں لا مکاں
یا علیم یا لطیف یا قدیر
تیری قدرت پہ ہوئیں حیراں عقول
تو ہی خالق تو ہی ہے پروردگار
یا الہی کبریائی تیری شان
رحمتِ رحمن بے حد و بے حساب
بخش دے گا وہ اسے جو دم بھرے گا پیار کا
شک نہیں کہ ہے نبی کونین اس کے واسطے
واسطے دیتا ہے ساجد تجھ کو تیرے یار کا
ہیں تری ہی ملک یہ سارے جہاں
سب جہانوں میں نہیں تیرا شریک
ہے نہیں صنعت میں تیری کچھ فضول
بیکسو کی تو ہی سنتا ہے پکار
ناتوانوں کے لئے جائے امان
تابیوں کے واسطے تو التواب
پیار میں جو چوم لے گا نام اس کے یار کا
وہ کہ جس نے ہیں دکھائے رب کے سیدھے راستے
بخش دینا یا الہی سوال ہے گنہگار کا

نماز جنازہ کی دعا

عن ابی ابراہیم الاشہلی عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال: اللّٰهُمَّ، اغفر لِحینا ومیتنا، وشاہدنا وغائبنا، وصغیرنا وکبیرنا، وذکرنا وانسانا. وعن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك وزاد فیہ: اللّٰهُمَّ، من احييته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفيته منا فتوفه علی الایمان .

”حضرت ابو ابراہیم اشہلی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے: (اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحِينَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَانْسَانَا) (اے اللہ! ہمارے زندوں، مردوں، حاضر، غائب، چھوٹوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں سب کو بخش دے۔) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے: (اللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلٰى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ) (اے اللہ! ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے)۔“

(رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ۔ وقال الترمذی: حدیث والد ابی ابراہیم حدیث حسن صحیح۔ وقال الحاكم: ہذا حدیث صحیح علی شرط الشيخین ولہ شاہد صحیح علی شرط مسلم)

اس حدیث کو امام ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا: ابو ابراہیم کے والد کی روایت حسن صحیح ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے اور اس کے دیگر شواہد بھی صحیح مسلم کی شرائط پر موجود ہیں۔

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب الجنائز، باب ما یقول فی الصلاۃ علی المیت، ۳/۳۳۳، الرقم: ۱۰۲۳، وأبوداؤد فی السنن، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت، ۳/۳۱۱، الرقم: ۳۲۰۱، والنسائی فی السنن، کتاب الجنائز، باب الدعاء، ۴/۷۳، الرقم: ۱۹۸۶)

یا رب تیری عطا سے جئے جا رہا ہوں میں
تیرے کرم کے جام پئے جا رہا ہوں میں
ہے تیرا ذکر باعث تسکین قلب و جاں
لے لے کے تیرا نام لئے جا رہا ہوں میں
اٹھوں جب اس جہاں سے تو ایماں کے ساتھ ہو
دن رات یہ دعائیں کئے جا رہا ہوں میں
تاریکی لحد میں اجالوں کے واسطے
مژگاں پہ کچھ چراغ لئے جا رہا ہوں میں
چاہت میں تیری سر کو کٹانا ہی ہے حیات
راز بقا جہاں کو دیئے جا رہا ہوں میں
یا رب تو ہی کریم ہے غفار بھی ہے تو
اس آس پہ گناہ کئے جا رہا ہوں میں
تیرے کرم سے بنتی ہے عابد کی بگڑی بات
ہر آن تجھ کو یاد کئے جا رہا ہوں میں

(پروفیسر سید عابد میر قادری سلطان)

کاش یہ میت میں ہوتا!

عن عوف بن مالك الاشجعي رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وتلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجته وفتح القبر وعذاب النار قال عوف: فتمنيت ان لو كنت انا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ذلك الميت .

”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَآكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَفِيهِ فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ النَّارِ“ (اے اللہ! اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے معاف فرما، اسے عافیت میں رکھ، اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، اس کے مدخل کو وسیع کر، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اسے (دنیاوی) گھر کے بدلے میں اچھا گھر عطا فرما اور (دنیاوی) گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے عطا فرما اور (دنیا کی) بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی عطا فرما۔ اسے عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔) حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میت کے لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر (اس وقت) میں نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ میری میت ہوتی۔“

آخر جہ مسلم فی الصحیح، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت فی الصلاة، ۲/۶۲۳، رقم: (۸۶) ۹۶۳، والترذی فی السنن، کتاب الجنائز، باب ما یقول فی الصلاة علی المیت، ۳/۳۳۵، رقم: ۱۰۲۵

اے خدائے زمیں اے خدائے زماں	حمد میں خلق تیری ہے رطب اللسان
تیری قدرت کے مداح کون و مکاں	تیری رحمت کا ممنون ہے ہر جہاں
راز تیرا بھلا کیسے سمجھے بشر	جبکہ عقل و گماں سے ہو بالاتر
پاک و پاکیزہ ہے تو ہر ایک عیب سے	رزق دیتا ہے سب کو تو ہی غیب سے
تو ہے ربّ علا تو ہے ربّ جلیل	ساری مخلوق کا ہے تو تنہا کفیل
عاصیوں کے لئے تو ہی غفار ہے	بے کسوں کے لئے تو ہی غمخوار ہے
بھیک پاتے ہیں تجھ سے امیر و گدا	تیرے نکلڑوں پہ شاہوں کا ہے آسرا
گرچہ بندے تیرے ہیں یہ کارہم	پر ترے رحم کے ہیں طلب گار ہم

ہم گناہ گار ہیں اور تو غفار ہے ہم خطا کار ہیں اور تو ستار ہے
جو ہیں مجبور و ناچار غربت زدہ حاجتیں پوری کر ان کی تو اے خدا
واسطہ اے خدا تجھ کو محبوب کا
یونس غمزدہ کی تو سن لے دعا

(صوفی محمد یونس اشرفی سمنانی)

اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو

عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ویس قلب القرآن لا یقرؤها رجل یرید اللہ والدار الاخرة الا غفر له اقرؤها علی موتاکم (رواہ ابو داؤد والنسائی واللفظ له وابن ماجہ واحمد۔ وقال الہیثمی: رواہ احمد وفيه راو لم یسم وبقیة رجالہ رجال الصحیح)

”حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ یسین قرآن کا دل ہے اسے جو شخص بھی خالصتہ اللہ تعالیٰ اور دیر آخرت کے لئے پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔“

اس حدیث کو امام ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ امام بیہقی نے فرمایا: اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور اس میں انہوں نے ایک راوی کا نام بیان نہیں کیا۔ علاوہ ازیں بقیہ رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔

أخرج ابوداؤد فی السنن، کتاب الجنائز، باب القراءة عند المیت، ۱۹۱/۳، الرقم: ۳۱۲۱، والنسائی فی السنن الکبری، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب ما قرأ علی المیت، ۲۶۵/۶، الرقم: ۱۰۹۱۳-۱۰۹۱۴، وابن ماجہ فی السنن، کتاب ما جاء فی الجنائز، باب ما جاء فی الاوقات التي لا یصلی فیہا علی المیت ولا یدفن، ۴۸۷/۱، الرقم: ۱۵۲۲، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲۶/۵، الرقم: ۲۰۳۱۵، ۲۰۳۱۶۔

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے اس کے لئے دعا کیا کرو۔“

أخرج ابوداؤد فی السنن، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت، ۲۱۰/۳، الرقم: ۳۱۹۹، وابن ماجہ فی السنن، کتاب ما جاء فی الجنائز، باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاة علی الجنائز، ۴۸۰/۱، الرقم: ۱۳۹۷۔

☆ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا وضعتم موتاکم فی القبر فقولوا: بسم اللہ وعلی سنة (وفی رواية: وعلی ملة) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ النسائی

واحمد وابن ابی شیبہ وابن حبان۔ و قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین۔
 ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اپنے مردوں کو
 قبر میں رکھو تو (یوں) کہو: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى مِلَّةِ) رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ“ (اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر
 (اسے تیرے سپرد کرتے ہیں)۔“

اس حدیث کو امام نسائی، احمد، ابن ابی شیبہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام خاکم نے فرمایا: یہ حدیث بخاری و مسلم
 کی شرائط پر صحیح ہے۔

(أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي اسْنَنِ الْكَبْرَى، كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي اللَّحْدِ، ۶/۲۶۸، الرِّقْمُ: ۱۰۹۲۷، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ،
 ۲/۳۰، ۲۷، ۵۹، ۹۶، ۱۲۷، الرِّقْمُ: ۳۸۱۲، ۳۹۹۰، ۵۲۳۳، ۵۳۷۰، ۶۱۱۱)

یا الہی تو ہے رحمان ورحیم	صاحب جو دو کرم فضیل عمیم
یا الہی تو ہے خلاق جہاں	مالک دارین شاہ انس و جاں
تو ہے سلطان دو عالم سب فقیر	تو ہے زور آور قوی اور سب حقیر
گرچہ دو عالم سے ہے تو بے نیاز	لیک بے چاروں کا تو ہے چارہ ساز
دنگیر بیکساں ہے تیری ذات	مستغنیث عاجزاں ہے تیری ذات
مونس غمخوار گاں ہے تیری ذات	چارہ بے چارگاں ہے تیری ذات
ہے پناہ بے پناہاں تیری ذات	ہے عفو پر گناہاں تیری ذات
ہے مریض لادوا کی تو دوا	ہے ہر اک حاجت کا تو حاجت روا
آسرا بے آسروں کا ہے تو ہی	بے سہاروں کا سہارا ہے تو ہی
ہے مرے ہر درد کی تو ہی دوا	ہے تو ہی مرہم مرے ہر زخم کا
ہے انیس وحشت فرقت تو ہی	ہے رفیق شدت غربت تو ہی
مرا مونس بیکسی میں ہے تو ہی	میرا حامی بے بسی میں ہے تو ہی
رنج و غم میں ہے مرا غمخوار تو	
تنگی و سختی میں حامی کار تو	

(حاجی امداد اللہ مہاجر کی علیہ الرحمہ)

نماز جنازہ کی ایک اور دعا

عن وائل بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من

المسلمین فسمعتہ يقول: اللّٰهُمَّ، ان فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبدالرحمان:
من ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحمد، اللّٰهُمَّ فاغفر
له وارحمه انك انت الغفور الرحيم.

”حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان شخص کی نماز میں یہ دعا پڑھانی تھی کہ: ”اللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ فَفِيْهِ فِتْنَةُ الْقَبْرِ“ (اے اللہ! فلاں بن فلاں تیرے سپرد ہے۔ پس تو اسے قبر کی آزمائش سے بچا۔) راوی عبدالرحمن نے یہ الفاظ بیان کئے: ”مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ فَفِيْهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ“ (اے اللہ! (یہ تیرا غلام) تیرے ہی سپرد ہے اور تیری رحمت کا سہارا لیتا ہے لہذا اسے قبر کی آزمائش اور دوزخ کے عذاب سے بچا اور تو پورا اجر دینے والا اور مستحق تعریف ہے۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

أخرج أبو داود في السنن، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، ۳/۲۱۱، الرقم: ۳۲۰۲، وابن ماجه في السنن، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز، ۱/۲۸۰، الرقم: ۱۳۹۹، وأحمد بن حنبل في المسند، ۳/۳۹۱، الرقم: ۱۶۰۶۱

تو میرے خانہ دل میں کیسے ہے گھر کی طرح
تو اس کے دل میں بھی بیٹھا ہوا ہے ڈر کی طرح
تو میرے تن میں ہے آرام جان کی صورت
اک آرزو کی طرح تو رہے میرے دل میں
مرے خیال سے گزرے تو مثل موج صبا
جو دن کو شمس کی صورت ہے روشنی تیری
بوقت شام شفق کی طرح تری سرخی
ہے تو کہ عطا ہے تری بغیر حساب
میں زندگی کی کڑی دھوپ میں ہوں گرم سفر
تو میرے دیدہ مینا میں ہے نظر کی طرح
تو اس کے دل میں بھی بیٹھا ہوا ہے ڈر کی طرح
تو میرے سر میں ہے آسودگی سر کی طرح
مرے دماغ میں ٹھہرے تو اک اللہ کی طرح
مرا خیال کہ ہے تیری رہگزر کی طرح
تو رات کو ہے تیری چاندنی قمر کی طرح
سحر کے ساتھ سپیدی تری سحر کی طرح
بشر کہوں میں کہ خطا کار ہوں بشر کی طرح
کہ میرے سر پہ تری چھاؤں ہے چتھر کی طرح

(صوفی فقیر محمد)

قبرستان جانے کی دعا

عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته تعني النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو بالبقيع فقال:
السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم لنا فرط وانا بكم لا حقون. اللّٰهُمَّ لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا
بعدهم

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنی جگہ پر موجود) نہ پایا (تلاش کرنے پر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں موجود پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اہل قبرستان سے) فرمایا: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرِطٌ وَأَنَا بِكُمْ لِأَحْقُونَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ“ (اے مومن قوم کی ملت سے تعلق رکھنے والو! تم پر سلامتی ہو، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم (بھی عنقریب) تم سے آملنے والے ہیں۔ اے اللہ! تو ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ رکھ اور ان کے بعد ہمیں فتنہ میں بھی مبتلا نہ کرنا)۔“

(أخرج ابن ماجه في السنن، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال اذا دخل المقابر، ۱/۳۹۳، الرقم: ۱۵۳۶، والنسائي في السنن الكبرى، ۵/۲۸۸-۲۸۹، الرقم: ۸۹۱۳، وأحمد بن حنبل في المسند، ۶/۷۱، ۷۶، ۷۷، الرقم: ۲۳۳۶۹، ۲۳۵۱۹، ۲۳۸۳۵)

☆ عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا، ان شاء الله، للاحقون . اسأل الله لنا ولكم العافية

”حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو یوں کہیں: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْأَحْقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ“ (اے مسلمانوں اور مومنوں کی ملت سے تعلق رکھنے والو! تم پر سلامتی ہو، ان شاء اللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لئے عافیت کا سوال کرتا ہوں)۔“ (أخرج مسلم في الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها، ۲/۶۷۱، الرقم: ۹۷۵)

بنا کر چاند سورج اور ستارے
کھلائے پھول ہر گلشن میں اُس نے
اُسی نے کھانے پینے کو دیا ہے
چلاتا ہے نظامِ دو جہاں وہ
مسلمانوں کا ہے ایمان اس پر
سُرور اس کو نہ کیوں حاصل ہو عظمت
دکھائے اپنی قدرت کے نظارے
خوش آباد کی ہرمن میں اُس نے
اُسی نے رزق کا ذمہ لیا ہے
دکھاتا ہے خدائی کے نشاں وہ
ہماری جان ہے قربان اس پر
بسائی جس نے دل میں اُس کی اُلفت

جامع، ماثورہ دعاؤں اور اذکار میں شانِ خدا بزرگانِ مصطفیٰ (ﷺ)

عن ابی ہریرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء،
وذكر الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الاعداء .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آزمائش کی سختی سے، بدبختی

کے آنے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے تمسخر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔“

(اُخرجہ البخاری فی الصحیح، کتاب القدر، باب من تعوذ باللہ من درک الشقاء وسوء القضاء، ۶/۲۳۳۰، الرقم: ۶۲۳۲، وأيضاً فی کتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء، ۵/۲۳۳۶، الرقم: ۵۹۸۷، ومسلم فی الصحیح، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب فی التعوذ من سوء القضاء ودرک الشقاء وغیرہ، ۲/۲۰۸۰، الرقم: ۲۷۰۷)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے احزاب (خندق) کے دن مشرکین ہر (ان الفاظ سے) دعا کی: **اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ** اے اللہ! اے کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے اے اللہ! اے اللہ! انہیں شکست سے دوچار فرما اور انہیں ہلا دے۔ (اُخرجہ البخاری فی صحیح، ۶/۱۰۶، حدیث رقم ۲۹۳۳، ومسلم فی صحیح، ۳/۱۳۶۳، حدیث رقم (۲۱-۱۷۲ مشکوٰۃ)

نکاح کے وقت کیا پڑھا جائے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی کے نکاح پہ دعا کرتے تو یوں فرماتے۔

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی میں جمع رکھے۔

(ابوداؤد، ۲/۲۳۱، نمبر ۲۱۳۰، ترمذی، ۲/۲۷۶، نمبر ۹۷، دارمی، ۲/۱۸۰، نمبر ۲۱۷۳، ابن ماجہ، ۱/۶۱۳، نمبر ۱۹۰۵)

☆ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا غلام خریدے تو یوں کہہ لیا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

اے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔

اور (فرمایا) جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کوہان پکڑ کر یہی الفاظ کہہ لے اور ایک روایت میں ہے عورت اور خادم کا بھی ذکر ہے پھر اس کی پیشانی پکڑ کر برکت کی دعا کرے۔

(اُخرجہ ابوداؤد فی السنن مشکوٰۃ، ۲/۲۳۸، حدیث رقم: ۲۱۶۰، وابن ماجہ، ۱/۶۱۷، حدیث رقم: ۱۹۱۸)

جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا

وہ راز اک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

☆ عن ابی مالک عن ابیہ رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اتاه رجل فقال: یا رسول اللہ، کیف اقول حین اسأل ربی؟ قال: قل: اللّٰهُمَّ اغفر لی، وارحمنی، وعافنی، وارزقنی، ویجمع اصابعہ الا الابهام فان هولاء تجمع لك دنیاك و آخرتك .

”حضرت ابو مالک (الاشجعی) اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي" (اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق (حلال) عطا فرما۔) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کے سوا تمام انگلیاں جمع فرمائیں اور فرمایا: یہ کلمات تمہاری دنیا اور آخرت کے لئے جامع ہیں۔

آخر جہ مسلم فی الصحیح، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب فضل التلطیل والتسبیح والدعاء، ۳۰۷، رقم (۳۶) ۲۶۹۷

☆ عن عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم مارزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغاً لي فيما تحب .

”حضرت عبداللہ بن یزید خطمی الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِي مِمَّا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِي مِمَّا تُحِبُّ" (یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس ذات کی محبت عطا فرما، جس کی محبت مجھے تیری بارگاہ میں نفع دے۔ یا اللہ! جو تو نے مجھے میری پسند میں سے رزق عطا فرمایا اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا اور میری پسند میں سے جو تو نے مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کر ان سے فارغ البال بنا دے۔)

جلوۂ کعبہ سے دل مدہوش ہے	کس غضب کا آج کیف و جوش ہے
دیکھ کر انوار بیت اللہ کے	دل ہے سکتے میں زباں خاموش ہے
سایۂ میزابِ رحمت میں ہوں میں	واہطیم پاک کی آغوش ہے
چاہِ زمزم پر کھڑے ہیں تشنہ لب	ہر طرف گلاب تک نوشا نوش ہے

حیدر صدیقی لکھنؤی

حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا

عن ابي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داؤد يقول: اللهم اني اسألك حبك، وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي، واهلي، ومن الماء البارد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر داؤد عليه السلام يحدث عنه قال: كان اعبد البشر .

”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يَبْلُغُنِي حُبَّكَ،

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ“ (یا اللہ! میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت، اور تیری محبت پیدا کرنے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ! اپنی محبت میرے لئے، میرے نفس، میری اولاد اور (شدید گرمی میں) ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔) راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کا جب بھی ذکر فرماتے اور آپ سے کوئی بات نقل کرتے وقت فرماتے وہ (اپنے دور کے) انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان تھے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابو نعیم اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا: اس کی سند صحیح ہے۔

(اُخرج الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب: (۷۳)، ۵۲۲/۵، الرقم: ۳۳۹۰، و ابو نعیم فی حلیۃ لأولیاء، ۱، ۲۲۷، والحاکم فی المستدرک، ۲، ۴۷۰/۲، الرقم: ۳۶۲۱)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے یا نماز ادا فرماتے تو کچھ کلمات کہتے۔ میں نے حضور علیہ السلام سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا:

اگر اچھی بات کی جائے تو ان پر روز قیامت مہر ہو جائے گی اور اگر بری بات کی گئی تو اس کا کفارہ ہو جائیں۔ (کلمات یہ ہیں:)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

(اُخرج النسائی فی السنن حدیث رقم ۱۶۰۰، مشکوٰۃ)

الہی تو پاک ہے، تیری حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

یہ بھی اللہ کی شان ہوتی ہے
ذات جب مہربانی ہوتی ہے
آنسوں کی زبان ہوتی ہے
ہے جو مقبول بارگاہ حضور

جب زباں اعتراف کرتی ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، ہم جب بھی (بلندی پر) چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب اترتے تو تسبیح کہتے۔

(اُخرج البخاری فی صحیحہ ۱۳۵/۶ حدیث رقم: ۲۹۹۳، والدارمی فی السنن ۳۷۳/۲ حدیث رقم: ۲۶۷۳، و احمد فی المسند ۳۳۳/۳ مشکوٰۃ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز غمگین کرتی تو آپ یہ کلمات ادا فرماتے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

اے دائمی زندہ، اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔

(اُخرج الترمذی فی السنن ۲۰۱/۵، حدیث رقم ۲۵۹۳ مشکوٰۃ)

جب زباں اعتراف کرتی ہے رحمت حق معاف کرتی ہے
جن کے دل میں ہو یا وصل علی ان کا رحمت ”طواف“ کرتی ہے

☆ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم، انى اسألك تمام النعمة، فقال: اى شىء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها ارجو بها الخير قال: فان من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار.

قال الترمذى: هذا حديث حسن، وقال الزيلعى: حديث حسن.

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ“ (یا اللہ! میں تجھ سے پوری پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں۔) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (دریافت) فرمایا: پوری پوری نعمت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) یہ دعا مانگنے سے میرا مقصد بہتری کا ارادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پوری نعمت تو جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات ہے۔“

(أخرج الترمذى فى السنن، كتاب الدعوات، باب: (۹۴)۔ ۵/۵۳۱، الرقم: ۳۵۲۷، وأحمد بن حنبل فى المسند، ۵/۲۳۱، الرقم: ۲۲۰۷۰، وابن أبى حنبل فى المصنف، ۶/۲۶، الرقم: ۲۹۳۵۶، وبخارى فى الأدب المفرد/۲۵۳، الرقم: ۷۲۵)

آباد رہے وہ شاد رہے	جس دل میں خدا کی یاد رہے
سرور کرے ہر دم ہم کو	نزدیک نہ آنے دے غم کو
آساں ہمارا کام رہے	دنیا میں ہمارا نام رہے
چمکائے ستارا قسمت کا	پیغام سنائے عظمت کا
ساحل پہ سفینہ لے جائے	امید ہمیشہ بر لائے
بندوں کو راحت سے رکھے	محفوظ مصیبت سے رکھے
ہر کام ضرور اُس کا ہو گا	عادی جو سرور اُس کا ہو گا

(سرور بخوری)

اے اللہ مجھے اپنی محبت کا رزق عطا فرما

حضرت عبداللہ بن یزید خطی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی دعا میں یہ الفاظ ادا فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحْبَبْتُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ.

اے اللہ! مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی محبت بھی جس کی محبت تیرے ہاں نفع دے۔ اے اللہ! مجھے جو بھی تو میری پسندیدہ چیز عطا کرے تو اس میں مجھے اس کی قوت بخش جسے تو پسند فرماتا ہے، الہی جو میری محبوب چیز تو مجھ سے دور رکھے تو اب سے میرے لئے اپنی محبوب چیز میں فراغت بنا دے۔ (اخرج الترمذى فى السنن ۵/۲۸۸، حدیث رقم: ۳۴۹۱۔ مکتوٰۃ)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی مجلس سے اٹھتے ہوں اور اپنے صحابہ

کرام علیہم الرضوان کے لئے یہ دعائے کی ہو۔

اللَّهُمَّ اقْسِمْنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ
الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ
الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَيَّ مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَيَّ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا
تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّمِنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَسْلِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. (ترمذی ۵/۲۹۳ نمبر ۳۵۰۲، مشکوٰۃ)

الہی! ہمیں اپنے خوف سے وہ حصہ عطا فرما جس سے تو ہمارے اور اپنی نافرمانیوں کے درمیان آڑ ہو جائے اور اپنی
اطاعت سے وہ حصہ دے جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے اور یقین کا وہ حصہ دے جس سے تو ہم پر دنیاوی
مصیبتیں آسمان کر دے اور ہمیں ہمارے کانوں اور آنکھوں اور قوت سے نفع دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اور
اسے ہمارا وارث بنا اور ہمارا غضب اس پر ڈال جو ہم پر ظلم کرے اور ہم کو ان پر فتح دے جو ہم سے دشمنی کریں اور
ہمارے دین میں ہم پر مصیبت نہ دے اور دنیا کو ہمارا نہ بڑا مقصود بنا اور نہ ہمارے علم کا منہا بنا ہم پر اسے مسلط نہ فرما جو
ہم پر رحم نہ کرے۔

وہ بڑا قادر بڑا رحمان ہے
کفر سے محفوظ اگر ایمان ہے
فتح دنیا کس قدر آسان ہے
زندہ قوموں کی یہی پہچان ہے
جب ہمارا راہبڑ قرآن ہے
میرے دل میں بس یہی ارمان ہے

جس کے قبضے میں ہماری جان ہے
پھر کسی شے کو بھی کچھ خطرہ نہیں
رکھ خدا پر آسرا اور دیکھ تو
حق کی خاطر کھیلتی ہیں جان پر
پیروی ہم کیوں کریں اغیار کی
غم کے ماروں کو میسر ہو سرور

سرور بخوری

دفع بخش کلمات

عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی: یا حصین کم تعد
اليوم الها؟ قال ابی: سبعة ستة فی الارضی واحدا فی السماء قال: فايهم تعد لرغبتك ورهبتك؟
قال: الذی فی السماء قال: یا حصین، اما انک لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک قال: فلما
اسلم حصین قال: یا رسول اللہ، علمنی الکلمتین اللتین وعدتني، فقال: قل: اللهم، الهمني
رشدي، واعذني من شر نفسي .

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے (جبکہ
انہوں نے ابھی قبول اسلام نہیں کیا تھا) فرمایا: اے حصین! آج کل تم کتنے معبودوں کو پوجتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا:

چھ زمین میں اور ایک آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہاری امید و خوف ان میں سے کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: آسمان والے رب کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حصین! اگر تم اسلام لاتے تو میں تمہیں دو نفع بخش کلمات سکھاتا۔ حضرت عمران فرماتے ہیں جب حضرت حصین رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وہ دو کلمات سکھائیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھو: ”اللَّهُمَّ، اَلْهِمْنِي رُشْدِي وَاَعِزِّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي“ (یا اللہ! مجھے میری ہدایت (کی راہ) دکھا اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ)۔“

وقال الترمذی: هذا حديث حسن، وقال العسقلانی: وسنده صحيح . وزاد الحاكم: اللهم، قني شر نفسي، واعزم لي على ارشد امری، اللهم، اغفر لي ما اسررت وما اعلنت، وما اخطات وما عمدت، وما علمت وما جهلت . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔ امام عسقلانی نے فرمایا: اس کی سند صحیح ہے۔

اور امام حاکم نے یہ اضافہ فرمایا: ”اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاَعِزِّمْ لِي عَلَى ارْشَادِ امْرِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا اسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَخْطَاْتُ وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهَلْتُ“ (اے اللہ! مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما، اور مجھے میرے صحیح کام کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ! میں نے جو گناہ چھپ کر کئے یا اعلانیہ کئے، جو خطا کئے یا عمد کئے، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا سب معاف فرما۔

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی جامع الدعوات عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۵/۵۱۹، الرقم: ۳۳۸۳، والتسائی فی السنن الکبریٰ، ۶/۲۳۶، الرقم: ۱۰۸۳۰-۱۰۸۳۲-۱۰۸۳۳، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۴/۳۳۳، الرقم: ۲۰۰۰۶)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چہرہ انور کے پاس شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ سنی جاتی تھی۔ ایک دن آپ پر وحی اتری تو ہم کچھ ٹھہرے پھر وہ حالت جاتی رہی۔ حضور علیہ السلام نے قبلہ کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاکْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْظِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضْنَا وَارْضَ عَنَّا .

یا اللہ ہمیں بڑھادے اور ہمیں نہ گھٹا اور ہمیں عزت دے اور ہمیں ذلیل نہ فرما۔ ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ کر اور ہمیں ترجیح دے اور ہم پر (کسی کو) ترجیح نہ دے اور ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔

پھر فرمایا! میرے اوپر دس آیات نازل ہوئی ہیں جو انہیں قائم کرے (ان پر عمل کرے) وہ جنتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت فرمائی۔ (اخرج الترمذی فی السنن ۵/۵۳۰، حدیث رقم: ۳۵۹۹، مشکوٰۃ)

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم

میرے لئے ہر چیز روشن ہوگئی

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فی روایۃ طویلۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی قمت من اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی فاستشقلت، فاذا انا بربی تبارک وتعالیٰ فی احسن صورۃ، فقال: یا محمد، قلت: لیک رب، قال: فیم یختصم الملاء الاعلیٰ؟ قلت: لا ادری، رب قالها ثلاثا قال: فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد انا ملہ بین یدیی، فتجلی لی کل شیء وعرفت قال: سل قل: اللہم، انی اسألك فعل الخیرات، وترك المنکرات، وحب المساکین، وان تغفر لی وترحمنی، واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون، اسألك حبك وحب من یحبك، وحب عمل یقرب الی حبك، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انها حق فادرسوها ثم تعلموها۔

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں رات کو نیند سے بیدار ہوا، وضو کیا اور جتنی اللہ نے طاقت دی نماز (تہجد) ادا کی، پھر نماز ہی میں مجھے اونگھ آگئی اور میرا جسم (نیند کی وجہ سے) بوجھل ہو گیا، اچانک میں نے خود کو اپنے رب تعالیٰ کے پاس پایا جو کہ نہایت ہی حسین صورت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! میں نے عرض کیا: اے میرے رب! حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: ملاءِ اعلیٰ کے فرشتے کس چیز پر جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! میں نہیں جانتا۔ ایسا آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، پھر میرے لئے ہر چیز روشن و نمایاں ہوگئی، اور میں نے ہر چیز جان لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مانگیں، کہیں: ”اللہم انی اسألك فعل الخیرات، وترك المنکرات، وحب المساکین، وان تغفر لی وترحمنی، واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون، اسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل یقرب الی حبك“ (اے اللہ! میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے، برے کاموں کو ترک کرنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور اگر تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے بغیر آزمائش میں ڈالے موت دے دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے کا سوال کرتا ہوں۔) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمات حق ہیں انہیں پڑھو اور سیکھو۔“

قال الترمذی: سالت محمد بن اسماعیل (ای البخاری) عن هذا الحدیث فقال: هذا حدیث حسن صحیح، وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری۔ وقال الہیثمی: ورجاله نقات۔

امام ترمذی نے فرمایا: میں نے امام محمد بن اسماعیل (یعنی امام بخاری) سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام حاکم نے بھی فرمایا: یہ حدیث امام بخاری کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا: اس کے رجال ثقہ ہیں۔ (باختلاف الفاظ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے آگے بھی آرہی ہے)

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب تفسیر القرآن، باب من سورۃ ص، ۵/۳۶۸-۳۶۹، الرقم: ۳۲۳۵، وما لک فی الموطأ، کتاب القرآن، باب العمل فی الدعاء، ۱/۲۱۸، الرقم: ۵۰۸، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۵/۲۲۳، الرقم: ۲۲۱۲، وأيضاً، ۱/۳۶۸، الرقم: ۳۲۸۳، وابن حبان فی المسند، ۱/۲۲۸، الرقم: ۶۸۴)

جس کی اللہ کی رحمت پہ نظر ہوتی ہے
نام اللہ کا لے غم سے نہ گھبرا اے دل!
پہلے کرتی ہے یہ اقرار ہو اللہ احد
وہ دعا ہاں وہ دعا جس میں یقین شامل ہو
ہر طرف اُس کے ہی جلوؤں کی ہے رونق ماہر
زندگی اُس کی اُمنگوں میں بسر ہوتی ہے
ان دُھند لکوں سے نمودار سحر ہوتی ہے
پھر نسیم سحری گرم سفر ہوتی ہے
کون کہتا ہے کہ محروم اثر ہوتی ہے
دل کی دھڑکن سے بھی تائید نظر ہوتی ہے

ماہر القادر

میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے جسے میں کبھی نہیں چھوڑتا۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرَ ذِكْرِكَ وَأَتْبَعَ نَصِيحِكَ وَأَحْفَظَ وَصِيَّتِكَ .
الہی مجھے تو ایسا کر دے کہ تیرا بہت شکر کروں اور تیرا بہت ذکر کروں اور تیری نصیحت کی پیروی کروں اور تیری وصیت کی حفاظت کروں۔ (اخرج احمد فی المسند ۲/۳۱۱ مشکوٰۃ)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ
اے اللہ میں تجھ سے تندرستی پاک دامنی امانت داری اور اچھے اخلاق اور تقدیر پر رضا مانگتا ہوں۔

(اخرج ابن ماجہ فی کنز العمال ۲/۱۸۳ الحدیث رقم: ۳۶۵۰ مشکوٰۃ)

حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔
اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِبَابِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ
خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
الہی میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو دکھلا دے سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو بددیانتی سے پاک رکھ کیونکہ تو جانتا ہے کہ خیانت والی آنکھ کو اور اس کو جسے سینے چھپاتے ہیں۔

(اخرج البخاری ذکرہ فی کنز العمال ۲/۱۸۳ الحدیث رقم: ۳۶۶۰ مشکوٰۃ)

ہم تیری بارگہ میں دُعا مانگتے رہے
جو بھی ہمارے دل نے کہا مانگتے رہے
ہو جائے ہم پہ تیری عطا مانگتے رہے
اس ذات کے طفیل شفا مانگتے رہے
تجھ سے سارے شاہ گدا مانگتے رہے

مقبول احمد قادری

جس چیز کی طلب تھی سدا مانگتے رہے
معلوم کچھ نہیں تھا کہ ”اچھا ہے یا بُرا“
ہو جائے ہم پہ تیرا کرم اے خدائے پاک
وہ جس کو تو نے رحمۃ للعالمین کہا
مقبول کی جیسی ترے آگے ہے سجدہ ریز

ہر حال میں اللہ کا شکر ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللّٰهُمَّ، انْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَعَلَّمْتَنِیْ مَا یَنْفَعُنِیْ وَزِدْنِیْ عِلْمًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ .
رواہ الترمذی وابن ماجہ والنسائی والحاکم وزاد: وارزقنی علما تنفعنی بہ . وقال الترمذی:
هذا حدیث حسن، وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: ”اللّٰهُمَّ انْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَعَلَّمْتَنِیْ مَا یَنْفَعُنِیْ وَزِدْنِیْ عِلْمًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ“ (یا اللہ! تو نے جو علم عطا فرمایا اس سے مجھے نفع دے اور (مزید) نفع بخش علم عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں اہل جہنم کے حال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے یہ اضافہ فرمایا: ”وَارْزُقْنِیْ عِلْمًا تَنْفَعُنِیْ بِہِ“ اور مجھے ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعے تو مجھے (دنیا و آخرت میں) نفع عطا فرمائے۔“ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔

(أخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب فی العفو والعافیۃ، ۵/۵۷۸، الرقم: ۳۵۹۹، وابن ماجہ فی السنن، المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، ۱/۹۲، الرقم: ۳۵۱، وأيضاً فی کتاب الدعاء، باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۲/۱۲۶۰، الرقم: ۳۸۳۳)

کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے
میزباں تو ہے مہماں تو ہے
جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے
خوب دیکھا تو باغباں تو ہے
جس کو کہتے ہیں راز داں تو ہے

تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں
نہیں تیرے سوا یہاں کوئی
نہ مکاں میں نہ لا مکاں میں کچھ
رنگ تیرا چمن میں بو تیری
محرم راز تو بہت ہیں امیر

میرزا نال

اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: قل: اللّٰهُمَّ، اجعل سریرتی خیراً من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ، اللّٰهُمَّ، انی اسألك من صالح ما توئی الناس من المال والاهل والولد غیر الضال ولا المضل.

”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی: ”اللّٰهُمَّ اجعل سریرتی خیراً من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ، اللّٰهُمَّ انی اسألك من صالح ما توئی الناس من المال والاهل والولد غیر الضال ولا المضل“ (یا اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو بھی اچھا فرما دے۔ یا اللہ! میں تجھ سے اس نیک کمائی، صالح اہل خانہ اور صالح اولاد کا سوال کرتا ہوں۔ جو تو لوگوں کو غلط فرماتا ہے جو نہ تو گمراہ ہوں اور نہ ہی گمراہ کرنے والے)۔“

أخرجہ الترمذی فی السنن، کتاب الدعوات، باب (۱۲۰)، ۵/۵۷۳، رقم: ۳۵۸۶، وابن ابی حنیہ فی المصنف، ۶/۱۰۳، رقم: ۳۹۸۲۳، والطبرانی فی الدعاء، ۱/۳۲۳، رقم: ۱۳۳۱۔

ہے مجھے شاہی گدائی میں تری ہے نوا سب بیوائی میں تری
خواری و رسوائی و ذلت مری تیرے کوچہ کی ہے بس عزت مری
عزت و ذلت تماشای شکر و صحو ہے رضا و نارضا میں تیری محو
تو ہے گر راضی تو ہے عزت مری تیری ناراضی ہے بس ذلت مری
الغرض پھر پھر کے آخر در بدر اب تو آ رکھا ہے تیرے در پہ سر
سو بہو سر کو مرے اے سرفراز گر کیا سجدے سے اپنے سرفراز
یونہی آنکھوں کو بھی مری سر بسر جلوۂ دیدار سے روشن تو کر
کہ مرے کانوں کو اسراروں کا گھر
سر سبر میں ہوائے شوق ہر

(موسیقی: اللہ مہاجر کی)

اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے اسے شفا دیدی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی بیمار پرسی فرمائی جو بہت کمزور ہو گیا تھا کہ جوڑہ کی طرح ہو گیا تھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ سے کوئی خاص دعا کرتا تھا یا کوئی دعا مانگتا تھا وہ بولا ہاں میں یہ کہتا تھا۔

اللّٰهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا

الہی! تو مجھے جو سزا آخرت میں دینے والا ہو وہ مجھے دنیا میں ہی دیدے۔

پس اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تو اس کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا تو نے یہ کیوں نہ کہا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

خدایا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔

فرماتے ہیں اس نے اللہ سے یہی دعا مانگی اور اللہ نے اسے شفا بخشی۔

(اخرجہ المسلم فی صحیحہ ۴/۲۰۶۸ حدیث رقم (۲۳-۲۶۸۸) والترمذی فی السنن ۵/۲۸۷ حدیث رقم: ۳۲۸۷، واحمد فی المسند ۳/۱۰۷، مشکوٰۃ)

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَبْغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ .

مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے لوگوں نے پوچھا حضور کیسے ذلیل کرے؟ فرمایا: اپنے کو ان آفتوں پر

پیش کرے جن کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ (اخرجہ الترمذی فی السنن ۴/۲۵۳ حدیث رقم: ۲۲۵۴، واحمد فی المسند ۵/۴۰۵، مشکوٰۃ)

اس عاجزی کی تصویر بنا دے	چیز جو تیرے پاس نہیں ہے
حسن عمل کو تحریر بقا دے	نامہ عمل احسن تو نہیں مگر
اپنی محبت کی جاگیر ذرا دے	تقسیم کروں میں ہاتھوں سے اپنے
خواب میں ہی تعمیر بتا دے	آتا نہیں مجھے زندگی کا سلیقہ
سرگوشی دل کی ضمیر سنا دے	اپنے گناہوں پر نادم ہوں شرمسار
طالب نہیں ہوں تشہیر سوا دے	بندہ تیرا ہے سب یہی پکاریں
فرزند کی یا رب توقیر بڑھا دے	ہوتی رہے آمد لفظوں کے سہارے

سید فرزند علی زیدی

اللہ کی پناہ اس علم سے جو نفع نہ دے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ یقول: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اللّٰهُمَّ انی اعوذ

بک من الاربع من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا یسمع .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے

تھے: ”اللّٰهُمَّ انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع،

ومن دعاء لا یسمع“ (اے اللہ! میں چار چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے

جس میں (تیری) خشیت نہ ہو، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو)۔“

امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی اس کی تائید

میں اور شواہد بھی ہیں۔

آخر جزا ابو داؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب فی الاستعاذۃ ۹۲/۲، الرقم: ۱۵۳۸، والنسائی فی السنن، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من نفس لا تشیع، ۲۶۳/۸، الرقم: ۵۳۶۷، وأيضاً فی باب الاستعاذۃ من دعاء لا یسمع، ۲۸۳/۸، الرقم: ۵۵۳۶-۵۵۳۷۔ وأيضاً فی السنن الکبریٰ، ۳۴۵/۳، الرقم: ۷۸۶۹-۷۸۷۰۔

سبحان اللہ، سبحان اللہ	ہے رب کو بقا اور سب کو فنا
سبحان اللہ، سبحان اللہ	کرتے ہیں دو عالم اس کی ثنا
رحمن وہی رزاق ہے وہی	مالک ہے وہی خالق ہے وہی
سبحان اللہ، سبحان اللہ	ہر ایک کا ہے وہ عقدہ کشا
مسجود عرب، معبود عجم	مقصودِ رسل مطلوبِ امم
سبحان اللہ، سبحان اللہ	روشن ہیں اسی سے ہر دوسرا
حوروں کی ادا غلاماں کی دعا	نبیوں کی ولا، ولیوں کی صدا
سبحان اللہ، سبحان اللہ	از تحتِ ثریٰ تا عرشِ علی
ہر بزم کا وہ موضوع سخن	وہ نورِ زمن وہ حسنِ چمن
سبحان اللہ، سبحان اللہ	ہر رنگ میں ہے وہ جلوہ نما
ہر سنگ و شجر ہر برگ و ثمر	یہ شام و سحر وہ شمس و قمر
سبحان اللہ، سبحان اللہ	ہر چیز ہے محو ذکرِ خدا
عاجز ہے قلم قاصر ہے زباں	عظمت اس کی ہو کیسے بیاں
سبحان اللہ، سبحان اللہ	نقوی ہے سراپا جرم و خطا

(سید محمد امین علی نقوی)

اسے بخش دیا گیا

عن حنظلة بن علی ان محجن بن الادرع رضی اللہ عنہ حدثہ قال: دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فاذا هو برجل قد قضی صلاتہ وهو یتشهد وهو یقول: اللّٰهُمَّ، انی اسألك یا اللّٰهُ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم قال: فقال: قد غفر له قد غفر له ثلاثا .

وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، وقال المزی: رواه ابو داؤد عن ابی معمر فوافقناہ فیہ بعلو

”حضرت حنظلہ بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مجن بن الادرع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی اپنی نماز پوری کر کے تشہد پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْآخِذُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ (اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ! تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ (تو نے) کسی کو پیدا کیا اور نہ (تو) کسی سے پیدا ہوا ہے اور تیری برابری کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں) (تجھ سے التجاء ہے) کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بخش دینے والا مہربان ہے۔) راوی کا بیان ہے کہ (اس شخص کی یہ دعائیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: اسے بخش دیا گیا، اسے بخش دیا گیا، اسے بخش دیا گیا۔“

امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام مزنی نے فرمایا: اسے امام ابوداؤد نے امام ابو معمر سے روایت کیا ہے جن کے علوم مرتب پر ہمیں ان سے موافقت ہے۔

(أخرج أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد، ۱/۲۵۹، الرقم: ۹۸۵، والنسائي في السنن، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، ۳/۵۲، الرقم: ۱۳۰۱، وأيضاً في السنن الكبرى، ۱/۳۸۶، الرقم: ۱۲۲۳)

یہ فصل گل بھی تری، گلستاں بھی تیرا ہے
فضائے ارض و سما، لامکاں بھی تیرا ہے
اندھیری رات میں روشن سماں بھی تیرا ہے
تیرا وجود یہاں بھی وہاں بھی تیرا ہے
امید و بیم کا سارا جہاں بھی تیرا ہے
بھری بہار بھی دور خزاں بھی تیرا ہے
خیال تیرا ہے حرفِ بیاں بھی تیرا ہے

زمیں بھی تیری ہے اور آسماں بھی تیرا ہے
عدم وجود یقین اور گمان بھی تیرا ہے
یہ چاندنی کی فضا میں یہ جگنوؤں کی چمک
مفر کہیں بھی نہیں ہے وجود سے تیرے
کہیں یقین کی صورت کہیں گماں کی طرح
کہیں شمیم کے جھونکے کہیں پہ صرصر ہے
زبان سے ہوتا ہے صدیق کی ادا، لیکن

صدیق فتح پوری

جو مانگا وہ ضرور عطا ہوگا

عن انس رضی اللہ عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یصلی ثم دعا: اللّٰهُمَّ، انی اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لقد دعا اللہ باسمه العظیم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطی۔ و قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس آدمی نے دعا کی: ”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ“ (اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریف تیرے لئے ہی ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بہت زیادہ احسان فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور بخشش والے! اے ہمیشہ زندہ! اے ہمیشہ قائم رہنے والے! (میری دعا قبول فرما)۔“ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی دعا سن کر) فرمایا: اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے (اس) اسمِ اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو (لازمی) قبول ہو اور جس کے واسطے سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔“ امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔

(آخر جہا بود اودنی السنن، کتاب الصلاة، باب الدعاء، ۲/۷۹، الرقم: ۱۳۹۵، والترندی فی السنن، کتاب الدعوات، باب خلق اللہ مکہ رحمۃ، ۵۵۰/۵، الرقم: ۳۵۴۳، والنسائی فی السنن، کتاب السہو، باب الدعاء بعد الذکر، ۳/۵۲، الرقم: ۱۳۰۰-۱۳۰۱، وأيضاً فی العتوت وقلبا سماء والصفات، ۱/۲۸۸، الرقم: ۱۳۳)

یہاں بھی تو وہاں بھی تو زمیں تیری فلک تیرا
صفات و ذات میں یکتا ہے تو اے قادرِ مطلق
کسی کو کیا خبر کیوں خیر و شر پیدا کیا تو نے
تیرے فیضِ کرم سے نار و نور آپس میں یک دل ہیں
زبانِ حلق پہ ہر دم جو نام ہے تیرا
مقامِ ہو سے بھی آگے مقام ہے تیرا
تو ہی ہے واقف رازِ جلی و رازِ خفی
کلامِ حق ہی کا مطلب کلام ہے تیرا

مکمل خیر کا سوال

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمها هذا الدعاء: اللّٰهُمَّ انی اسألك من الخیر كلہ عاجلہ واجلہ ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كلہ عاجلہ واجلہ ما علمت منه وما لم اعلم۔ اللّٰهُمَّ انی اسألك من خیر ما سالك عبدك ونبیک واعوذ بك من شر ما عاذبه عبدك ونبیک۔ اللّٰهُمَّ انی اسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيتہ لی خیرا۔ وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا تعلیم فرمائی تھی: ”اللّٰهُمَّ انی اسألك من الخیر كلہ عاجلہ واجلہ ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كلہ عاجلہ واجلہ ما علمت منه وما لم اعلم۔ اللّٰهُمَّ انی اسألك من خیر ما سالك عبدك ونبیک“

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِىْ خَيْرًا“ (اے اللہ! میں تجھ سے تمام خیر مانگتی ہوں۔ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی جو مجھے معلوم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں۔ میں دنیا اور آخرت کے ہر شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی۔ اے اللہ! میں تجھ سے وہ بھلائی مانگتی ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور اس کے قریب کرنے والے اعمال و اقوال بھی اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں دوزخ سے اور ہر اس قول و عمل سے جو دوزخ کے قریب کرے اور میں تجھ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ تو نے میری بابت جو فیصلہ فرمایا ہے اسے خیر بنا دے۔“

(أخرج ابن ماجه فى السنن، كتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء، ۱۲۶۳/۲، الرقم: ۳۸۳۶، وأحمد بن حنبل فى المسند، ۱۳۳/۶، الرقم: ۱۳۶، الرقم: ۲۵۰۶۳، وابن أبى شيبة فى المصنف، ۴۱/۶، الرقم: ۲۹۳۳۵، وابن حبان فى الصحيح، ۱۵۰/۳، الرقم: ۸۶۹، وأبو يعلى فى المسند، ۴۳۶/۷، الرقم: ۴۳۷۳، والطحاوى فى المسند، ۲۱۹/۱، الرقم: ۱۵۶۹، والبخارى فى الأدب المفرد، ۲۲۲/۲، الرقم: ۶۳۹، والحاكم فى المستدرک، ۷۰۲/۱، الرقم: ۱۹۱۳)

نفس نفس بخدا اک پیام ہوتا ہے
عجیب منظر باب السلام ہوتا ہے
حضور سرور عالم کا نام ہوتا ہے
جب اپنے سامنے بیت الحرام ہوتا ہے
جو وقت صبح حرم میں امام ہوتا ہے
یہیں پہ سریر اک تشنہ کام ہوتا ہے
ہر اہل دل کا الگ اک مقام ہوتا ہے

رسول پاک کا جب لب پہ نام ہوتا ہے
وہ سب کا ذوقِ حضوری وہ شوق کا عالم
ہر اک زباں پہ پس لا الہ الا اللہ
زہے سرور خوشا لذت رکوع و سجود
وہ اس کی قرأتِ دلکش میں کیفِ وجدانی
ہجومِ عام رہے کیوں نہ چاہِ زم زم پر
حضور رو شوق کی منزل عجیب منزل ہے

حیدر صدیقی لکھنوی

بازار کے خسارے سے کیسے بچا جائے؟

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوتے تو یوں کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوذُ بِكَ اَنْ اُصِيبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً

اللہ کے نام سے، یا اللہ میں تجھ سے اس بازار کی خیر اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس بازار کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس سے کہ گھائے کا سودا کروں (رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر۔ مشکوٰۃ)

☆ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ہو کر روئے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی اور امن مانگو کیونکہ کسی کو ایمان کے بعد امن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی۔

(اخرجہ الترمذی فی السنن ۵/۵۲۱، حدیث رقم: ۳۵۵۸، ابن ماجہ ۲/۱۲۶۵، حدیث رقم: ۳۸۳۹، مسند احمد ۳/۱- مشکوٰۃ)

☆ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوی ذالک .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جامع کلمات کو پسند فرماتے اور جو ایسے نہ ہوتے انہیں چھوڑ دیتے۔“

(اخرجہ ابوداؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب الدعاء، ۲/۷۶۔ الرقم: ۱۳۸۲، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۶/۱۸۹، الرقم: ۲۵۵۹۶، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۶/۲۱، الرقم: ۲۹۱۶۵)

ملیں گے دو جہاں تجھ کو طلب کی انتہا بن جا
در محبوب پہ جا کر تو صرف التجا بن جا

محمد مصطفیٰ کے در کا تو گدا بن جا
کرم پر پھر کرم ہو گا عطاؤں پر عطا ہو گی

ذکر و شکر اور حسن عبادت پہ استعانت کی دعا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتحبون ان تجتهدوا فی الدعاء؟ قولوا: اللہم، اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک .

(وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد، وقال الہیثمی: ورجالہ رجال الصحیح غیر موسی بن طارق وهو ثقہ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم دعا میں خوب کوشش کرو؟ تو یوں کہو: ”اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک“ (اے اللہ! تیرا شکر ادا کرنے، تیرا ذکر کرنے اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرنے کی ہمیں مدد تو توفیق عطا فرما)۔“

امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام ہیثمی نے فرمایا: اور اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں سوائے موسیٰ بن طارق کے اور وہ ثقہ ہیں۔

(اخرجہ أحمد بن حنبل فی المسند، ۲/۲۹۹، الرقم: ۷۹۶۹، والحاکم فی المسند، ۱/۶۷۷، الرقم: ۱۸۳۸، وأبو نعیم فی حلیۃ لأولیاء، ۹/۲۲۳، وابن سیرین فی سلاح المؤمن فی الدعاء، ۱/۵۰۷، الرقم: ۹۶۹، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۱۷۲، والسیوطی فی الدر المنثور، ۱/۳۶۸، وابن القیم فی الوابل الصیب، ۲۳۲)

اس حدیث کو یاد کر لو

عن سعید بن جبیر قال: کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول: احفظوا هذا الحدیث وکان یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یدعو بہ بین الرکنین: رب، فمعنی بما رزقتنی وبارک

لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ (وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد)
 ”حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: اس حدیث کو یاد کر لو، اور وہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً روایت کرتے تھے، اور وہ ان الفاظ کے ذریعے دو رکعتوں کے درمیان دعا مانگا کرتے تھے: ”رَبِّ، قَنِعِنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِبَخَيْرٍ“ (اے میرے رب! تو نے جو رزق مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھے قانع رکھ اور اس میں برکت عطا فرما اور ہر جگہ میری غیر موجودگی میں تو میرا محافظ بن جا۔)۔“

(أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، باب الدعاء بين الركعتين أن يرزق الله الدعاء القائله بما رزق ويبارك له فيه، ۳/۲۱۷، الرقم: ۲۷۲۸، وابن أبي شيبة في المصنف، ۳/۲۳۶، الرقم: ۱۵۸۱۵، وأيضاً، ۶/۸۲، الرقم: ۲۹۶۳۳، والبخاري في الأدب المفرد، ۲۳۷، الرقم: ۶۸۱، والحاكم في المستدرک، ۱/۲۲۶، الرقم: ۶۹۰، الرقم: ۱۷۷۳، ۱۸۷۸)

اے خدا شان تیری عالی ہے	دونوں عالم کا تو ہی والی ہے
یہ کرشمہ ہے تیری قدرت کا	مہکی مہکی جو ڈالی ڈالی ہے
دونوں عالم کا تو ہی ہے داتا	تیرے در کا ہر اک سوالی ہے
ہر زبان پر ہے تذکرہ تیرا	تو ہی آقا ہے تو ہی والی ہے
تیرا جلوہ ہے ذرے ذرے پر	ذات تیری ہی بے مثالی ہے
کیا سے کیا ہو گیا وہ دنیا میں	تو نے جس پر نگاہ ڈالی ہے
کوئی تجھ سا نہیں دو عالم میں	شان تیری بڑی نرالی ہے

آگ سے نجات کا سوال

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللّٰهُمَّ، انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار۔ (رواه الحاکم وابن سرايا۔ وقالوا: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم)
 ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی: ”اللّٰهُمَّ انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار“ (اے اللہ! ہم تجھ سے تیری رحمت کے ذرائع اور تیری بخشش اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں اور ہر نیکی کی غنیمت اور جنت میں کامیابی اور تیری مدد و نصرت سے آگ سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔)۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور ابن سرايانے روایت کیا اور دونوں نے فرمایا: یہ حدیث مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔

(اُخرجہ الحاکم فی المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر والتحمیل والتسبیح والذکر، ۱/۷۰۶، الرقم: ۱۹۲۵، وابن سرائی فی سلاح المؤمن فی الدعاء، ۱/۵۰۶، الرقم: ۹۶۸، والنووی فی ریاض الصالحین/۳۳۳، الرقم: ۳۳۳)

اُس کو پسند ہے دُعا میری زبان سے
جاری رہے یہ سلسلہ اپنی زبان سے
نکلا ہے جب بھی یا خدا میری زبان سے
یا رب درود ہو ادا میری زبان سے
نکلا جیسی تو شکر یہ میری زبان سے
بس وہ دعائیں ہوں ادا میری زبان سے

حمد وثنائے کبریا میری زبان سے
اُس کو پکارتا رہوں ہر لمحہ ہر گھڑی
محسوس وہ ہوا مجھے اپنے قریب تر
تشریف لائیں جب مرے سرکار قبر میں
اظہارِ عجز کی مجھے توفیق دی گئی
قرآن میں دعائیں جو تعلیم کی گئیں

اپنی دعائیں یوں کہا کرو.....

عن بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال: قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل: اللّٰهم انی
ضعیف فقوفی رضاک ضعفی وخذلی الخیر بنا صیتی واجعل الاسلام منتھی رضائی، اللّٰهم انی
ضعیف، فقونی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی. وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح
الاسناد.

”حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: (اپنی دعائیں یوں)
کہو: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَوِّیْ فِیْ رِضَاکَ ضَعْفِیْ وَخُدْلِی الْخَیْرَ بِنَا صِیْتِیْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰی
رِضَایْنِیْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَوِّیْ وَاِنِّیْ ذَلِیْلٌ فَاِعْزِزْنِیْ وَاِنِّیْ فَاقِرٌ فَاَرْزُقْنِیْ“ (اے اللہ! میں کمزور ہوں تو
میری کمزوری کو اپنی رضا میں طاقتور کر دے، اور مجھے پیشانی سے پکڑ کر خیر تک پہنچا) (یعنی میرے مقدر میں ہی خیر لکھ
دے) اور اسلام کو میری رضا کی انتہا بنا دے۔ اے اللہ! بے شک میں کمزور ہوں تو مجھے طاقتور بنا دے اور میں ذلیل
ورسوا ہوں تو مجھے عزت دار بنا دے اور میں فقیر ہوں مجھے رزق عطا فرما دے۔“

(اُخرجہ الحاکم فی المستدرک، کتاب الدعاء، والتکبیر والتحمیل والتسبیح والذکر، ۱/۷۰۸، الرقم: ۱۹۳۱، وابن ابی شیبہ فی المصنف، ۶/۳۵، الرقم:
۲۹۳۵۳، وعبدالرزاق فی المصنف، ۱۰/۳۳۳، الرقم: ۱۹۶۵۱، والطبرانی فی المعجم لأوسط، ۶/۳۳۶، الرقم: ۲۵۸۵)

اللہ تجھ کو واسطہ ذات و صفات کا
رکھ یا حمید مائل حمد و ثناء ہمیں
یا ماحصی حصار حریفان شکست کر
یا مبدئ قلوب میں پیدا وہ جوش کر
کر پھر سے عیش و امن کی تخلیق یا معید
صدقہ رسول تاجور کائنات کا
کر ذوق نعت رحمت عالم عطا ہمیں
ہم کو ابھار حوصلے اعداء کے پست کر
بندے ترے مٹا سکیں دنیا سے شور و شر
ہر رات شب برأت ہو ہر دن ہو روز عید

دے یا محی روح مسلمان میں تازگی آجائے جس سے دین میں ایمان میں تازگی
یا حی نیم جاں ہیں مسلمان حیات دے جو رو جفائے اہل جفا سے نجات دے
قیوم تیری ذات ہے اے خالق انام
قائم نبی کا دین رہے تاحد قیام

(مولانا ضیاء دہلوی)

تمام موذی امراض سے خدا کی پناہ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوه والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة واعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء واعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسىء الاسقام .

(رواه الحاكم والطبرانى، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح، وقال المقدسى: اسناده صحيح)

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبُكْمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ“ (اے اللہ! میں عاجزی، سستی، بزدلی، کنجوسی، بڑھاپے، سخت دلی، غفلت، محتاجی، ذلت اور رسوائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، (یا اللہ!) میں فقر، کفر، فسق، بدبختی، نفاق، شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور بہرے پن، گونگے پن، جنون، کوڑھی، برص (اور جملہ) موذی بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام ہیثمی نے فرمایا: اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں اور امام مقدسی نے فرمایا: اس کی سند صحیح ہے۔

(أخرج الحاكم في المستدرک، کتاب الدعاء والکبیر والتحلیل والتسبیح والذکر، ۱/۱۲۷، الرقم: ۱۹۴۳، والطبرانی في المعجم الصغير، ۱/۱۹۸، الرقم: ۳۱۶، وأيضاً في الدعاء، ۱/۳۰۰، الرقم: ۱۳۳۳)

جو بھی مانگا ہے تجھ سے پایا ہے
ان میں تیرا ہی رنگ آیا ہے
نور تجھ سے ہی سب نے پایا ہے

تو نے سارا جہاں سجایا ہے
رنگ جتنے بھی یہ دھنک میں ہیں
مہر و ماہ و نجوم روشن ہیں

شاء الله من اصحابه فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من هذا؟ فقيل: عبد الله بن مسعود فقال: ان عبد الله يقرأ القرآن غضا كما انزل فائني عبد الله على ربه وحمده فاحسن في حمده على ربه ثم سألته فاجمل المسألة وسأله كاحسن مسألة سألتها عبد ربه ثم قال: اللهم، اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين في جناتك جنان الخلد . قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعط سل تعط مرتين فانطلقت لا بشره فوجدت ابا بكر قد سبقني وكان سباقا بالخير . (رواه ابو يوسف والحاكم واللفظ له . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ نماز ادا کر رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک عبد اللہ بڑی ملائمت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے۔ پس حضرت عبد اللہ نے اپنے رب کی ثابیان کی اور اس کی حمد بیان کی اور نہایت بہترین طریقے سے حمد بیان کی۔ پھر اپنے رب سے سوال کیا اور نہایت اختصار سے سوال کیا اور رب تعالیٰ سے اتنے خوبصورت انداز سے سوال کیا جتنے خوبصورت انداز میں کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے پھر کہا: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ فِي جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ الْخُلْدِ“ (اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان جو کبھی تبدیل نہ ہو، ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو اور اعلیٰ علیین میں، جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی تیری جنت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (ان کی دعائیں کر) فرماتے جا رہے تھے: (اے عبد اللہ!) مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ (اور) مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ دو مرتبہ فرمایا اور بیان کیا کہ میں انہیں یہ خوشخبری سنانے کے لئے نکلا تو میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر سبقت لے جا چکے تھے (یعنی انہیں پہلے ہی یہ خبر سنا چکے تھے) اور وہ نیکی میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔“

(أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار، باب السهو، ۱/۳۳، الرقم: ۲۱۹، والحاكم في المستدرک، کتاب ذکر مناقب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ۳/۳۵۸، الرقم: ۵۳۸۶، وابن عبد البر في الاستيعاب، ۳/۹۹۰، ومجتبى الدين الطبري في الرياض النضرة، ۱/۳۵۵، الرقم: ۸۳)

اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے
ظالم یا چارہ گر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے
لگا رہے ہیں کہ بھر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے
کن رستوں سے گزر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے

پیٹ غریبوں کے خالی ہیں ہم دونوں ہاتھوں سے
کس کے خون کی چادر اوڑھی کس کی کھال اتاری
زخموں سے ہم کو ہے کتنی والہانہ دلچسپی
محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے

اللہ کا ہے خوف مظفر کتنا ہم بندوں کو بندوں سے کتنا ڈر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے

مظفروارثی

اچھی آزمائش کا سوال

عن ابی عبیدۃ قال: کان عبد اللہ رضی اللہ عنہ اذا اجتهد فی الدعاء قال: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الَّذِیْ اَفْضَلْتَ عَلَیْ وَبِلائِکَ الْحَسَنَ الَّذِیْ اَبْتَلِیْتَنِیْ وَنِعْمَاتِکَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیْ اَنْ تُدْخِلَنِیْ الْجَنَّةَ، اللّٰهُمَّ اَدْخِلَنِیْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ وَمَغْفِرَتِکَ وَفَضْلِکَ۔ رواه ابن ابی شیبۃ والطبرانی والدیلمی، وقال الہیثمی: ورجالہ رجال الصّحیح۔

”حضرت ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جب خوب گڑگڑا کر دعا کرتے تو فرماتے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الَّذِیْ اَفْضَلْتَ عَلَیْ وَبِلائِکَ الْحَسَنَ الَّذِیْ اَبْتَلِیْتَنِیْ وَنِعْمَاتِکَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیْ اَنْ تُدْخِلَنِیْ الْجَنَّةَ، اللّٰهُمَّ اَدْخِلَنِیْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ وَمَغْفِرَتِکَ وَفَضْلِکَ“ (اے اللہ! میں تجھ سے تیرے اس فضل کا سوال کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا اور تیری اس اچھی آزمائش کا جس میں تو نے مجھے مبتلا کیا، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ! مجھے اپنی رحمت، مغفرت اور فضل کے واسطے جنت میں داخل فرما۔“

أخرج ابن ابی شیبۃ فی المصنف، کتاب ما جاء عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ۶/۶۸، الرقم: ۲۹۵۲۹، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۹/۱۸۶، الرقم: ۸۹۱۷، والدیلمی فی سند الفردوس، ۱/۳۵۵، الرقم: ۱۸۳۹، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۱۸۳-۱۸۵۔

کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں کیوں اسکی تلاش میں ہوتے ہو گم
کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے بتلائیں گے ہم یہ پردہ سے
وہ تو پاس تھے پر دیکھا ہی نہیں لو چپکے سے ہم کو سنا بھی چلے
جب من کان اللہ ہوئے پھر کان اللہ لہ ٹھہرے
یہی کہتا ہے اشرفی مسکین نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں
(اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی مہاں)

مجلس کا آخری کلام یہ ہونا چاہئے

عن علی رضی اللہ عنہ قال: من احب ان یکتال بالمکیال الاوفی من الاجر یوم القیامۃ فلیکن آخر کلامہ فی مجلسہ: سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون ۵ وسلام علی المرسلین ۵ والحمد للہ رب العالمین ۵ (الصافات، ۳۷: ۱۸۱)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا: جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال روز قیامت اجر کے پورے

پورے پیمانے سے ماپا جائے تو اس کا اپنی مجلس میں آخری کلام یہ ہونا چاہئے: ”سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝“ (آپ کا رب، جو عزت کا مالک ہے ان (باتوں) سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ۝ اور (تمام) رسولوں پر سلام ہو ۝ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ۝)۔“

(ذکرہ ابن کثیر فی تفسیر القرآن العظیم، ۲/۲۶، والزیلعی فی تخریج لا حادیث والآثار، ۳/۱۸۲، الرقم: ۱۰۹۵، والسنائی فی الفتح السماوی، ۳/۹۵۷، الرقم: ۸۳۵)

دل میں تری محبت لب پر تری ثنا ہے
کرنوں میں نور تیرا تاروں میں تو بسا ہے
تیرا کرم ہے ہم پر ہم پر تیری عطا ہے
ہر دل کا ہے سہارا ہر دل کا آسرا ہے
ہم کو دکھا خدایا سیدھا جو راستہ ہے

خلیق قریشی

پروردگار تو ہے تو مہرباں خدا ہے
کلیوں میں تیری رنگت پھولوں میں تیری خوشبو
رحمن تو ہے یا رب! تو ہے رحیم یا رب!
تو بے نظیر بھی ہے تو دستگیر بھی ہے
تیرے حضور جھک کر ہم تجھ سے مانگتے ہیں

پاک ہے وہ ذات

پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے یہ مبارک دعائیں اور پاکیزہ اذکار عطا فرمائے جن کو پڑھ کر ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اور اس کی بھڑکائی ہوئی دوزخ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔

تمام خوبیاں اللہ عزوجل اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اطاعت گزار بندوں سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا اور منکرین کو عذابِ جہنم کی وعید سنائی اور جس نے اس کی مضبوط بادشاہت کا انکار کیا اس پر اپنا غضب فرمایا، نافرمانوں کی پردہ پوشی فرمائی، اپنے گناہوں کا عذر پیش کرنے والوں کا عذر قبول فرمایا، جس نے اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے اس کی مغفرت فرمادی، جو اس کی رضا کے لئے شکستہ دل ہو اور عزوجل نے اسے درست کر دیا، جو کامیاب ہو اسی کی مدد سے ہوا، جس نے اس کے عظیم احسانات کو یاد رکھا اس کو اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ تمام نوری مخلوق، دائرے میں گھومتا آسمان، بجلی اپنی چمک دمک کے ساتھ، چلتے ہوئے بادل اور ہوا، بہتی نہریں، درختوں کی ٹہنیاں، رنگ برنگی کلیاں، پرندے اپنی غمزہ آواز میں، باغات اپنے سبزے کے ساتھ، خشک میدان اپنے ٹیلوں کے ساتھ اور سمندر اپنی مچھلیوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر ایک اپنی انوکھی زبان میں اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جو معبودِ عظیم، زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، جس نے رزق کی تقسیم، طے شدہ موت اور ہر چیز کے لئے مقررہ وقت کا اندازہ لگایا، جس کی معرفت پانے میں عقل و سمجھ حیران و ششدر ہے، جس نے اپنے نورِ رحمت سے اپنے خاص بندوں کے

لئے جنت بنائی جنہیں وہ مہر لگی ہوئی صاف و شفاف پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا اور جہنم کو اپنے شدید غضب سے ان نافرمان بندوں کے لئے پیدا کیا جن کے لئے شقاوت لکھ دی گئی تھی، اس میں انہیں ہلاکت و بربادی، المناک عذاب اور سخت ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے جہنم کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو سب کا خدا ہے، ہمیشہ سے عظیم، قوت والا، شان و شوکت اور حسن و جمال والا ہے، اپنی بادشاہی میں یکتا ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اپنے اطاعت گزار کے لئے جنت بنائی اگرچہ وہ حبشی غلام ہی ہو، اور نافرمان کے لئے جہنم بنائی اگرچہ وہ قریش کا آزاد شخص ہی کیوں نہ ہو اور اس کو مشرکین و کفار کا ٹھکانہ، بد بختوں اور فاسقوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ . وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

لیکن چونکہ اہل ایمان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حمد خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ضروری ہے اس شرط کے

ساتھ کہ

پہلے حمد سے زبان پاک کر لو تو پھر نام لینا حبیب خدا کا

صلی اللہ علی النبی الامی والہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله .

تو میرے راستے میں پھول اور کلیاں کھلاتا ہے
تو صحرا میں مری خاطر اٹھا کر ابر لاتا ہے
تو سورج چاند تارے میری خاطر لے کر آتا ہے
مرے مالک! مجھے تو شعر کی صورت دکھاتا ہے
کسی صورت میں تیری بات کو جھٹلا نہیں سکتا

جاوید اقبال

اے اللہ! ہماری دعا قبول فرما

☆ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِحَقِّ رِزْقِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ! ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق مبارک کے صدقے رزق عطا فرما!“

☆ اَللّٰهُمَّ نُوِّرْ قُلُوْبَنَا بِحَقِّ قَلْبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ! ہمارے دلوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے صدقے منور فرما!“

☆ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ رَحْمَةً لِّىْ بِيُوْتِنَا بِحَقِّ بَيْتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے ہمارے اللہ تعالیٰ! ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کے

صدقے!“

☆ اَللّٰهُمَّ سَهِّلْ اُمُوْرَنَا بِحَقِّ بَرَكَاتِ اِسْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے ہمارے اللہ تعالیٰ! ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے صدقے!“

☆ اللَّهُمَّ نَوِّرْ أَجْسَادَنَا بِحَقِّ جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ! ہمارے جسموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے صدقے نوری کر دے!“

☆ اللَّهُمَّ نَوِّرْ حَيَاتِنَا بِحَقِّ حَيَاةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ! ہماری زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مقدسہ کے صدقے منور فرما!“

☆ اللَّهُمَّ أَخْرِجِ الشَّيْطَانَ الْمَرْدُودَ مِنْ حَيَاتِنَا بِحَقِّ تِلَاوَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ تعالیٰ! حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوتِ مبارک کے صدقے ہماری زندگیوں سے شیطان مردود کو نکال دے!“

☆ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا بِحَقِّ دُعَاءِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ تعالیٰ! حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما!“

☆ اللَّهُمَّ أَعْطِنَا حُبَّ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى بِحَقِّ حُبِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ تعالیٰ! حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما!“

☆ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى بِحَقِّ مِعْرَاجِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ تعالیٰ! ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما!“

☆ اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا بِحَقِّ طَعَامِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ تعالیٰ! ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے صدقے کھلا!“

☆ اللَّهُمَّ طَهِّرْنَا بِحَقِّ طَهَارَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ تعالیٰ! ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے صدقے (گناہوں سے) پاک کر دے۔“

☆ اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الشَّقَاءَ بِحَقِّ بَرَكَاتِ مَسْكَنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ! حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش (مدینہ منورہ) کی برکات کے صدقے ہم سے بدبختی دور فرما!“

☆ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا بِحَقِّ عِلْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اے اللہ تعالیٰ! حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے صدقے ہمیں علم عطا فرما!“

☆ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ بِحَقِّ تِلَاوَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ”اے اللہ تعالیٰ! حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مبارک کے صدقے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما!“

☆ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ بِحَقِّ ذِكْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ”اے اللہ تعالیٰ! حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے صدقے ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرما۔“

تری ذاتِ مظہر عدل کل ترا وصف عین کمال ہے تری حمد کیسے بیاں کروں مری زندگی کا سوال ہے
 کسی خضرِ راہ سے پوچھئے کسی اہلِ عشق سے جانئے وہ کہاں نہیں وہ کہیں نہیں یہ یقین ہے یہ خیال ہے
 نظر اپنی جس کی طرف اٹھی کسی جلوہ زار میں کھو گئی تری شمعِ حسن کی ہر کرن رخِ مصطفیٰ کا مال ہے
 جو کسی کا کوئی نہ ہو سکا تو ترے کرم نے کرم کیا مری معصیت کا طلسم بھی تری رحمتوں کا کمال ہے
 تری مدح پاک ہو کیا ادا تو خیال و وہم سے ماورئی تری ابتداء ہے نہ انتہا ترا ایک ماضی و حال ہے
 شاہ انصاریؒ آبادی

مختلف اوراد و وظائف مختلف کتب کے حوالوں سے

اس عنوان پہ پہلے چند ضروری مسائل ذہن نشین کر لیں جو اگرچہ بے ربط ہیں لیکن بہت ہی مفید ہیں۔

گر تو خواہی زیستن با آبرو یاد او کن یاد او کن یاد او
 ہر گدرا ذکر او سلطان کند ذکر او بس زیور ایمان بود

☆ دن میں سو مرتبہ تیسرا کلمہ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ۔ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان ایک بار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے ہم دس بار اس مومن پر رحمت بھیجتے ہیں۔

☆ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عرش اللہ کے خزانوں کا قیمتی جوہر ہے اس میں ۹۹ بیماریوں کی شفاء ہے۔

یاد رہے: جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے خدا اس پر دس دفعہ رحمت بھیجتا ہے۔ شفاعت واجب ہوتی ہے۔ ملائکہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درجات بلند ہوتے ہیں۔ پہاڑ کے مطابق ثواب ملتا ہے اور مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں تنگی معیشت دور ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے۔ دشمنوں پر مدد ملتی ہے اور قلب کے نفاق اور زنگ سے صفائی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے اور ایک بار واجب

- ☆ ہے۔
- ☆ اللہ کا ذکر دل کی بیماریوں کی شفا ہے اور اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔
- ☆ عبادتِ نفلیہ کی کوتاہی کثرتِ ذکر سے زائل ہوتی ہے۔
- ☆ غافلین میں ذکرِ شخص ایسا ہے جیسا کہ جہاد سے بھاگنے والوں میں سے ایک شخص جم کر کفار کا مقابلہ کر رہا ہو۔ یہ بھی جہاد ہی ہے۔
- ☆ علم ہی اللہ کے ذکر کے قریب لے جاتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ اگر عالم اللہ کے دوست نہیں تو کوئی بھی اللہ کا دوست نہیں۔
- ☆ جو شخص چاہے کہ اس کی اللہ تک رسائی ہو جائے تو ضروری ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے ذکر کثرت سے کرے۔
- ☆ جتنا ذکر میں اضافہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوگا۔ برعکس اس کے جتنی ذکر میں غفلت ہوگی اتنی ہی اللہ سے دوری ہوگی۔ اللہ کا ذکر دل کے لئے ایسا ہے جیسا کہ مچھلی کے لئے پانی۔ ذکر کی مجلسیں ملائکہ کی مجلسیں ہیں اور لغویات کی مجلسیں شیاطین کی مجلسیں ہیں۔ ذکر سہل ترین عبادت ہے لیکن بڑی فضیلت کا حامل ہے جس شخص کے لئے ذکر کا دروازہ کھل گیا۔ وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ جتنا زیادہ ذکر کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ شکر ادا ہوگا۔
- ☆ کلمہ طیبہ کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سب نیکیوں سے افضل ہے۔ سچی اور سچی بات سے مراد کلمہ طیبہ ہی ہے۔ قرآن اور توحید کا مفہوم کلمہ طیبہ ہے۔ تمام اذکار سے افضل ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد درود شریف اور الحمد للہ کہنا چاہئے تاکہ ایسی نعمت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔
- ☆ استغفار اور الحمد للہ بھی افضل دعاؤں میں سے ہیں۔
- ☆ اسمِ اعظم اللہ ہے۔ بعض کے نزدیک یا حی یا قیوم ہے۔ اسمِ اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم ہے۔ اسمِ اعظم سے دعا قبول ہوتی ہے۔
- ☆ آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا چاہئے۔
- ☆ جو شخص رات کو جاگ کر عبادت نہ کر سکے بخل کی وجہ سے خیرات نہ کر سکے اور بزدلی کی وجہ سے جہاد نہ کر سکے تو اس کو چاہئے کہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت تک پہنچانا مقصود ہے اور زیادتی مراتب کے لئے بھی۔ اللہ کے درود سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے۔ اہل سنت ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضور پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے اتارو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں۔ لہذا درود کے ذریعہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتارا جاسکتا ہے۔
- ☆ نیکی کا ثواب جمعہ کے روز ستر گنا ملتا ہے۔

- ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا اور وہ عرش اللہ کے سایہ میں ہوگا۔
- ☆ سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام دس دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ قیامت کے دن اس کو میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔
- ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں جس کے اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو۔ دعا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے وہ حجاب ہٹ جاتا ہے۔
- ☆ بزرگان دین نے فرمایا کہ کثرتِ درود سے نزع بھی آسان ہو جاتی ہے۔
- ☆ بعد نماز صبح اور عصر تین دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
- ☆ کلمہ طیبہ بار بار پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔
- ☆ کھیتی بھی تسبیح کرتی ہے اور کھیتی والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی حد مقرر کی ہے۔ سوائے ذکر کے۔ لہذا ذکر جاری و ساری رہنا چاہئے۔
- ☆ خدا کی محبت بندے کے لئے اور بندے کی خدا کے لئے ضروری ہے۔ اللہ محبت سے بندے کو نعمتیں عطا فرمائے اور بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔
- ☆ جب کوئی اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہو جاتا ہے۔
- ☆ ذکر خفی ذکر جلی سے ستر درجہ افضل ہے۔
- ☆ سات بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جملہ مومنین اور جملہ مومنات پر صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
- ☆ ہر چیز کے لئے کوئی صیقل ہے۔ دلوں کا صیقل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
- ☆ اگر سورہ اخلاص گیارہ دفعہ پڑھ کر مردوں کو ثواب بخشا جائے تو موافق شمار مردوں کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔
- ☆ جس نے اللہ کہہ کر پکارا گویا اس نے اللہ کے سارے صفاتی ناموں سے پکارا۔
- ☆ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں پڑھ لیں۔
- ☆ مسجدوں میں جماعتوں کا بلند آواز سے ذکر کرنا مستحسن ہے۔ بشرطیکہ کسی سونے والے نمازی یا قاری کو پریشانی نہ ہو اور یہ کہ اس میں ریانا نہ ہو۔ ذکر خفی میں ریانا نہیں ہو سکتی لہذا ذکر خفی کے متعلق حکم ہے کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ زاری سے اور ڈر سے اور بغیر آواز نکالنے صبح اور شام خفیہ دعا اعلانیہ دعا سے ستر حصہ زیادہ بہتر ہے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ دنیاوی بادشاہت بھی ایسا اطمینان نہیں دے

سکتی۔ یکدم با خدا بودن یہ از تخت سلیمانی۔

☆ اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کرتا ہے اور عذاب سے بچاتا ہے۔

☆ ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر خیرات سے سات لاکھ گناہ افضل ہے۔ یہ غربا کے لئے خوشنودی کا باعث ہے۔

☆ جو لوگ محض اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوتے ہیں ان کے متعلق آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم بخش دیئے گئے ہو اور

تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں۔ (سبحان اللہ)

☆ اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔

☆ خواہشات اور غفلت دل کا زنگ ہیں۔ جن کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

☆ کلمہ لا الہ الا اللہ ۹۹ قسم کی بلائیں دور کرتا ہے۔

☆ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے پر چوبیس ہزار نیکیاں مل سکتی ہیں۔

☆ صبح کی نماز کے وقت دس دفعہ تعوذ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کو ایک فرشتہ کے ذریعے سے دور رکھتا ہے۔

☆ جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے۔

☆ نازل ہونے والی آفت سے پہلے اگر دعا مانگ لی جائے تو آفت اور دعا کا رستے میں ہی میل ہو جاتا ہے اور قیامت تک کشمکش

میں دعا آفت کو آگے آنے سے روکتی ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کی وقعت نہیں۔ دعا آسمان اور زمین کا نور ہے۔

☆ سختی اور مصیبت کے وقت اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگنی چاہئے اور بوقت دعا منہ قبلہ کی طرف کرنا چاہئے۔ دوزانو

ہو کر بیٹھنا چاہئے۔ دعا سے پہلے اور بعد خدا کی حمد و ثنا کرو۔ اول اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دعا ہاتھ پھیلا کر

مانگو۔ سائل کی طرح ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور ہاتھ موٹھوں تک لے جاؤ۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگو۔ دعا

بے دلی سے نہ مانگی جائے۔ ایک ہی مقصد کے لئے بار بار دعا مانگو۔ یعنی کم سے کم تین دفعہ۔ دعا صرف کار خیر کے لئے مانگونہ

کہنا جائز بات کے لئے چھوٹی بڑی حاجات یعنی تمام جائز حاجات کے لئے دعا خدا سے مانگو۔ ان ربی سمیع الدعاء ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہئے۔

☆ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگو۔ انشاء اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔

☆ تین بار یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا مانگو۔ انشاء اللہ قبول ہوگی۔ دعا قبول ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

☆ جب دعا میں پانچ بار ربنا کہہ کر دعا مانگی جائے تو دعا کی قبولیت کی قوی امید ہو جاتی ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کرتے رہنا چاہئے۔ اس کے لئے وضو کی قید نہیں لگائی گئی۔

☆ مصیبت کو رفع کرنے کے لئے اللہ کا ذکر کسیر ہے۔

- ☆ درود شریف شفاء ہے۔
- ☆ صبح اور شام اللہ کے ذکر کے لئے اچھے وقت ہیں۔ یہ زندگی کی دکان کھلنے اور بند ہونے کے اوقات ہیں۔
- ☆ سبحان کی تسبیح کا ورد کرنے والے کے عیوب انشاء اللہ فنا ہو جائیں گے اور نیک اخلاق نصیب ہوں گے کیونکہ رب کے نام کا اثر ورد کرنے والے پر ہوتا ہے۔ جیسے شانی کے ورد سے شفا اور غفور کے ورد سے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔
- ☆ جو کوئی یا قہار ایک ہزار بار پڑھ لے گا۔ اس کے دل سے خلقت کا خوف دور ہو جائے گا۔
- ☆ دعاؤں اور وظیفوں کے اثر کے لئے کسی صاحب اثر کی اجازت چاہئے۔
- ☆ سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لئے شفاء ہے۔ اس کے ساتھ تعوذ بھی مفید ہے۔
- ☆ فجر کی سنتوں کے بعد ستر بار استغفار اول آخر تین بار درود شریف ہر مصیبت کا دافعہ ہے اور رزق کی برکت کا ذریعہ بھی۔
- ☆ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصہ میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔
- ☆ برے خیال کو وسوسہ اور اچھے خیال کو الہام کہتے ہیں۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے اور الہام فرشتوں کی طرف سے۔
- ☆ وسوسہ پر لا حول پڑھو اور الہام پر الحمد للہ۔ نفس امارہ کے غلبہ کے وقت وسوسے زیادہ ہوتے ہیں اور نفس مطمئنہ کے غلبہ کے وقت الہام زیادہ۔
- ☆ شیطان دشمن ہے مگر دوست بن کر گمراہ کرتا ہے۔ بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم پر چلنے کی اور شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)
- ☆ اللہ کی یاد گناہوں کے لئے ایسی ہے۔ جیسے پلیدی کے لئے دریا کا پانی۔
- ☆ جب میت کو قبر میں اتارو تو کہو بسم اللہ علی ملتہ رسول اللہ۔
- ☆ درود پڑھنا دراصل رب سے مانگنے کی ایک ترکیب ہے۔
- ☆ ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ صرف درود شریف ہی پڑھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ سب حاجات پوری کر دے گا۔
- ☆ طلوع فجر سے لے کر نماز فجر تک اگر سو بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیا جائے تو دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔
- ☆ گلاب کا سرخ پھول سو گھنٹے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہئے۔
- ☆ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لئے ایک فرشتہ قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ (سبحان اللہ)
- ☆ حنان وہ ہے جو اپنے سے اعراض کرنے والے پر متوجہ ہو اور منان وہ ہے جو سوال سے پہلے ابتدا بخشش کرے۔ (سبحان اللہ)
- ☆ سورہ فاتحہ پڑھنے والے پر دوزخ کے ساتوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
- ☆ حضرت خضر اور حضرت الیاس سے مروی ہے کہ بندہ اگر جمعہ کے روز نماز عصر پڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یا اللہ، یا رحمن،

غروب آفتاب تک پڑھتا رہے تو جو کچھ خدا سے مانگے مل جاتا ہے۔

☆ جو شخص بوقت صبح دس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لاقول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھے گا گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔

☆ جس شخص کا کوئی کامل مرشد نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم کرے پہلے سورۃ اخلاص پڑھے۔

☆ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ انشاء اللہ واصل بحق ہو جائے گا۔

☆ جو شخص بسم اللہ پڑھے گا اس کو ہر حرف کے بدلے چار ہزار نیکیاں ملیں گی۔ چار ہزار گناہ معاف ہوں گے اور چار ہزار درجے

بلند ہوں گے۔

☆ جو شخص تین بار سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کے لئے اس کے گھر والوں کے لئے اور اس کے پڑوسیوں کے لئے برکت ہوگی

اور سارے قرآن شریف کا ثواب ملے گا۔

☆ گنہگار زیادہ استغفار پڑھے اور دوسرا زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔

☆ جو شخص بعد نماز بھی سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پڑھے گا اس کے اعمال عرش، کرسی اور دنیا کے سب پہاڑوں سے

زیادہ وزنی ہوں گے۔

☆ گھبراہٹ کے وقت تیسرا کلمہ صحیح ہتھیار کا کام دیتا ہے۔ لہذا اس کلمہ کے پڑھنے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔

☆ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو۔ میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔

☆ ثواب ملنے کی شرط ایمان اور اخلاص ہے اور ثواب کی مقدار اخلاص کی مقدار پر منحصر ہے۔

☆ ہجوم افکار و مصائب کے وقت حسینا اللہ و نعم الوکیل کا در مشکلات کا حل ہے۔ ہزار بار پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق بذات خود ایک نعمت ہے۔ آخرت کی جزا اس کے علاوہ ہے۔

☆ جب آدمی کی دعا کا نتیجہ اس کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس طرف پھیر دیتا ہے جو اس کے لئے مفید ہو۔

(الحمد للہ)

☆ ذکر خفی یہ ہے کہ زبان نہ ہلائی جائے اور دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر جہر میں زبان اور دل دونوں ذکر اللہ میں مشغول

ہوں۔ ذکر جہر بھی بہت بلند آواز سے نہیں بلکہ متوسط آواز سے کرنا چاہئے اور ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل پر طاری

رہنا چاہئے۔

☆ جو لوگ عبادت اور یادِ خدا میں لگے رہتے ہیں وہ گویا مقبول درگاہ ہیں۔

☆ ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے لیکن اگر جہاد کی اشد ضرورت ہو تو جہاد سب عبادات سے افضل ہے۔

☆ سورۃ اخلاص اور درود شریف کا ورد بندے کو خدا اور رسول خدا کے قریب کرتا ہے۔

☆ اگر مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آئے تو صرف ایک بار درود پڑھنے سے واجب کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔

- ☆ سلطان الاذکار ذکر نفی و اثبات ہے۔ (یعنی لا الہ الا اللہ) اس نعمت سے دل روشن کرو۔
- ☆ جو شخص ذکر حق سے غافل ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ اور پتھر جیسا ہو جاتا ہے۔
- ☆ جس نے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود پڑھا اس کی ستر حاجتیں آخرت کی اور تیس دنیا کی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ یعنی کل سو حاجتیں پوری ہوں گی۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کی یاد سے شکر ادا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔
- ☆ غصہ کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہئے۔ اگر آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھوئے اور سجدہ میں گر جائے ناک میں پانی ڈالنے سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔
- ☆ خدا کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ کام دنیا کی دولت یا دوسری دنیاوی نعمتیں نہیں کر سکتیں۔
- ☆ قرآن شریف کے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ہیں۔ حرف سے مراد حرف ہے نہ کہ لفظ۔
- ☆ جب بلندی پر چڑھو تو کہو اللہ اکبر اور جب نشیب میں اترو تو کہو سبحان اللہ۔
- ☆ سورہ یسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے۔
- ☆ مردے کے پاس غسل سے پہلے قرآن پڑھنا مناسب نہیں۔ اگر پڑھو تو پہلے میت کو ڈھانک لو۔
- ☆ اللہ کا ذکر کثرت سے اور اخلاص سے کرنے والے موت کے بعد بھی زندوں کے حکم میں ہیں۔
- ☆ لا الہ الا اللہ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ برے کاموں سے بندہ رُک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قلعہ ہے جو اس میں آئے گا محفوظ رہے گا۔
- ☆ جس نے عاشورہ کی شب کو عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے زندہ رکھے گا۔
- ☆ ذکر خفی بندے اور خدا کے درمیان مخفی رہتا ہے۔ فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔
- ☆ دعا کے وقت جب بیمار خدا کو پکارے تو کہے یا شافی الامراض محتاج کہے یا قاضی الحاجات۔ گنہگار کہے یا غفار لذنوب۔
- ☆ انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے بھی دعا مانگ سکتا ہے یعنی کہے اے میرے مالک اگر میرا فلاں کام قبول ہے تو میری یہ دعا قبول فرما۔
- ☆ حبیبِ خدا ﷺ سے محبت اور عقیدت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہوتا ہے۔
- ☆ ایمان والوں کو کلمہ طیبہ اپنی برکت سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھتا ہے۔
- ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل وہی افضل ہے جس میں بیہنگی ہو خواہ تھوڑا ہو۔
- ☆ اعوذ آبِ رحمت کا دریا ہے جو اس میں غوطہ لگائے گا پاک ہو جائے گا۔ انبیاء کرام نے ہر مصیبت کے وقت اعوذ پڑھی۔ اس کے پڑھنے سے بندے اور شیطان کے درمیان تین سو پردے حائل ہو جاتے ہیں۔
- ☆ رات کا آخری حصہ اُکروں کے لئے نزولِ رحمت کا وقت ہے۔

- ☆ دعا آہستہ اور خفیہ کرنی چاہئے۔ جب کسی دوسرے کے لئے دعا کرو تو اپنے لئے بھی کرو تا کہ یہ محسوس ہو کہ تم بھی دعا کے محتاج ہو۔
- ☆ دلائل الخیرات کے خطبہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم محبت والوں کے درود تو خود سنتے اور غیر محبین کا درود ہم پر پیش کر دیا جاتا ہے۔
- ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لئے زیادتی درود شریف اور آپ کے اقوال زندگی کا مطالعہ ضروری ہے۔
- ☆ شیخ محی الدین بن عربی سے یہ حدیث مروی ہے کہ ستر ہزار بار کلمہ طیبہ پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے۔
- ☆ عبادت میں مشقت اٹھانا سنت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔
- ☆ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ تین بار یہ دعا پڑھے گا کہ اے پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو نیک کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت پر رحم کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو خوشحال کر۔ اس کا نام ابدیوں میں لکھا جائے گا۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہئے)
- ☆ اگر مسلسل ذکر اور گوشہ نشینی سے اکتا جائے تو لوگوں سے انس و محبت رکھ کر دل کو اندھا ہونے سے بچالینا چاہئے۔ البتہ غافلوں کی صحبت سے بچنا چاہئے اور نیک اور باشعور اشخاص سے مجالست رکھنی چاہئے۔
- ☆ عبادت اتنی ہونی چاہئے کہ تمام لغزشوں کا کفارہ ہو جائے۔
- ☆ میزانِ عدل میں پورا کلمہ طیبہ سب وزنوں سے بھاری ہوگا۔
- ☆ قیامت میں ہمارا وسیلہ کلمہ طیبہ ہے۔
- ☆ اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے۔ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہئے۔ حصولِ علم نافع اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی خدا سے ہی مانگتے رہنا چاہئے۔
- ☆ کوئی ایسی دعا رد نہیں ہوتی جس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔
- ☆ قیامت کے روز سورۃ بقرہ اور آل عمران بادل کی صورت میں اپنے قاری کے حق میں شفاعت کریں گی۔
- ☆ حدیث میں ہے کہ اخیر شب میں بندہ اللہ کے ہاں بہت مقرب ہوتا ہے۔ یہ ذکر کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے۔
- ☆ حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔
- ☆ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے۔
- ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باغات بہشت کی ہوا کا متمنی ہو اسے چاہئے کہ ذکر حق کثرت سے کیا کرے۔
- ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا الہی مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جنہیں تجھ سے محبت ہے۔

- ☆ دل کی تکلیف کے مریض کو چاہئے کہ بار بار یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ انشاء اللہ آرام ہوگا۔
- ☆ درود شریف میں نماز سے بھی زیادہ فضیلت ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں جس سے اللہ کی رحمت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات بھی شامل ہے۔
- ☆ سانپ کے کاٹنے کی جگہ پر پانی میں نمک گھول کر زخم پر ملتے جاؤ اور سورۃ اخلاص پڑھتے جاؤ۔
- ☆ اگر مرشد کامل نہ مل سکے تو سورۃ اخلاص اور درود شریف کا ورد کرنا چاہئے۔
- ☆ سورۃ فاتحہ ایک سانس سے گیارہ دفعہ پڑھ کر دم کرنا درگرددہ کے لئے سریع الاثر ہے۔
- ☆ تمام اذکار سے افضل لا الہ الا اللہ اور تمام دعاؤں سے افضل الحمد للہ ہے۔
- ☆ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو آدمی نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم صبح اٹھ کر کلمہ شہادت ہی پڑھ لیا کرے۔

عبادت کی برکات

- ☆ روزی کا بڑھنا، زندگی کا پر لطف ہونا۔ ہر قسم کی بلا کا ٹلنا، سچی عزت و آبرو کا مل جانا۔ دن بدن نعمت میں ترقی ہونا، دل اور راحت میں ترقی ہونا، زندگی میں نیکی بشارتیں ہونا، عمر کا بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ جاتا رہنا وغیرہ وغیرہ عبادت کی برکات سے ہیں۔
- ☆ حمد و ثنا کرنا مومن کی بہار ہے۔
- ☆ جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہئے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بکثرت پڑھے۔ اس کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ صحت مندی لاتا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جس سے ستر بلاؤں سے عافیت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو دس بار پڑھنے سے بندہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔
- ☆ اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے اور جنت میں آپ کو فضیلت، بلند درجات اور مقام وسیلہ عطا فرمائے اور یہ بھی دعا مانگو کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت شفاعت کی اجازت عطا فرمائے وسیلہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت ہوگی۔ یہ مقام عرش اللہ کے بہت قریب ہے اور خدا تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔
- ☆ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود شریف بکثرت پڑھنا چاہئے۔ کثرت درود سے باطن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس سے منازل سلوک طے ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان، اعانت اور امداد حاصل ہو جاتی ہے۔ بعد اذائے فرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا سفر حج میں بہترین عبادت ہے۔ درود شریف سے فرائض کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ (الحمد للہ)
- ☆ کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فجر کا وقت اجابت دعا کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب فریاد سننے والا ہے۔ بندہ اگر خدا کی طرف چل کر آئے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہے۔
- ☆ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔

- ☆ سوتے وقت ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد و للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھنے سے تھکان کا ازالہ اور قوت کی زیادتی ہوتی ہے۔
- ☆ جو شخص سو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفاق اور جہنم سے بری کر دے گا۔ درود اور سلام کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
- ☆ درود پڑھنے والے کو خود اس کے بیٹے اور پوتے تک کو فائدہ پہنچتا ہے۔
- ☆ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے سننے والے اس کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔
- ☆ جن کو دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات میں لذت نہیں پاتے۔
- ☆ دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما۔
- ☆ خوفِ الہی میں آنسو اور زیادہ ذکر اللہ دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں۔
- ☆ پہلے اپنے لئے پھر اپنی اولاد کے لئے پھر سب مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ رب کو بار بار پکارنا چاہئے۔
- ☆ امام بخاری کا قول ہے کہ ہر ختم قرآن کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اور وہ قبول ہو گیا تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
- ☆ قرآن شریف کی ایک آیت کا حفظ کرنا فرض عین اور دوسری کا واجب عین ہے۔ سارے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔
- ☆ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ قرآن شریف کا پڑھنا بھی، دیکھنا بھی اور چھونا بھی یہ تینوں عبادت ہیں۔
- ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بازار میں چوتھا کلمہ پڑھا اس کے دس لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو دس لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں اور اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔
- ☆ جو کوئی فجر اور مغرب کے بعد اول، آخر درود شریف اور درمیان میں ۳۱ بار یا حی یا قیوم پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ خاتمہ بالخیر ہو گا۔
- ☆ سفر میں اگر کوئی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتا رہے گا تو سفر اس پر انشاء اللہ آسان ہوگا۔
- ☆ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دعاؤں اور وظیفوں کے الفاظ بدلنے سے ان کی تاثیر جاتی رہتی ہے۔ صرف ثواب باقی رہ جاتا ہے۔
- ☆ چونکہ ہر بھلائی کا مرکز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لہذا انسان کا عابد ہونا ضروری ہے۔ (باقیات صالحات)

عظمت کبریٰ (جل و علا) بفرمان مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء

لائق حمد تری ذات کہ محمود ہے تو لائق سجدہ تری ذات کہ مسجود ہے تو
انکساری مرا مقسوم کہ بندہ ہوں میں خود نمائی ترا دستور کہ معبود ہے تو
بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ مری جان میں موجود ہے تو

ہے وراحد تعین سے تری ذات قدیم کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو
حسن پردے میں بھی بے پردہ نظر آتا ہے اتنا چھپنے پہ بھی منظور ہے مشہود ہے تو
میری کیا بود کہ معدوم تھا معدوم ہوں میں تیری کیا شان کہ موجود تھا موجود ہے تو
اک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز ترا سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو

سب تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور مختلف چیزوں کو مختلف صورتیں عطا فرمائیں۔
انسان کو پانی سے بنایا اور اسے قوتِ سماعت و بصارت عطا کی اور اپنی قدرت سے تقدیر کو مقرر فرمایا اور اپنی حکمت سے اپنی نشانیوں
سے عبرتیں ظاہر فرمائیں اور نیک عمل کرنے والوں کو اعمال کا قابلِ فخر لباس پہنایا جو اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اور شکستہ دلی کے
ساتھ کھڑا ہوا اللہ عزوجل نے اس کے دل کو جوڑ دیا، جس نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور محتاجی میں اس کی طرف رجوع
کیا اس نے اسے اپنے فضل سے مالا مال کر دیا۔

پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس کی وحدانیت کے قریب پہنچ سکتا ہے، وہ سمیع و بصیر
ہے جو سنتا اور دیکھتا ہے، اس نے پانی کی طرف نظر فرمائی تو وہ اس کی ہیبت و جلال سے پتھر بن گیا، پتھروں کی طرف نظر فرمائی تو وہ
اس کی رحمت سے سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ اس نے نیلگوں آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا اور اس میں سورج، چاند کو بنایا اور اسے
چمکتے ہوئے ستاروں سے سجایا اور وہ چمک دار ستارے موتیوں کے مشابہ ہیں اور اپنی رحمت سے ہوائیں بھیجیں، اور ستارے کورات
کے وقت چلنے کا حکم دیا تو وہ چلنے لگا، اور بادل کو بارش برسانے کا حکم دیا، اور آسمانی قلعہ کی حفاظت پر شہاب ثاقب کو مامور فرمایا لہذا
اب چوری چھپے سننے والے شیاطین کچھ نہیں سن سکتے۔ انسانی فکر اس ذات کو نہ سمجھ سکی اور ناکام ہو کر واپس لوٹ آئی اور چشیل میدان
میں حیران و پریشان بھٹکنے لگی جس نے اس کا انکار کیا اور سرکشی کی اسے اس نے عذاب میں مبتلا فرما دیا، اور جس نے اس کی طرف
رجوع کیا، اس کی وحدانیت کا اعتراف کیا، عاجزی کی اور تکبر نہ کیا تو اس نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ نافرمانوں کو سزا دینے سے
پہلے عبرت کے لئے کڑک بھیجی اور بارش کی خوشخبری دیتے ہوئے بجلی چمکائی اور اپنی قدرت کی تیز ہواؤں سے بادل کو گرج عطا
فرمائی، اپنے کرم کے خزانوں سے اپنی نعمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلائیں تو اہل معرفت نے اس سے مشک و عنبر کو سونگھ لیا اور انہیں نیکی اور
برائی کا خفیہ راز معلوم ہو گیا۔

اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عم نوالہ، اللہ جل جلالہ

تیرے نام پہ اے مرے خدا، میرا دل فدا میری جاں فدا
میری روح کی ہے یہی غذا ترا نام لب پہ رہے سدا
اسے جپتا جاؤں میں کو بکو اللہ جل جلالہ
ہے تری رضا مری آبرو اللہ جل جلالہ
ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ
میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ

نہیں ہو سکا تراحق ادا ترا رحم و فضل ہے بے بہا
 سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ
 جو بہ روز حشر حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو
 نہ سوال ہو نہ جواب ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ
 تری شانِ عم نوالہ

اسے بتادو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اسے سورہ اخلاص پہ ختم کرتا، جب دستہ واپس لوٹا تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: سلوہ لای شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو وہ کس وجہ سے ایسا کرتا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا: لانہا صفة الرحمن وانا احب ان اقرء بہا۔ اس (سورہ) میں اللہ تعالیٰ کی صفت (وحدانیت و صمدیت) ہے اس لئے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اخبروہ ان اللہ یحبہ۔ اس کو بتادو (کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت سے محبت کرتا ہے) اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔

(اخرج البخاری فی الصحیح، کتاب التوحید باب ماجاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ، ۶/۲۶۸۶، الرقم: ۶۹۳۰، مسلم،

۱/۵۵۷، الرقم: ۸۱۳)

تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ	تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ
تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے	ذات تیری سب سے برتر یا اللہ یا اللہ
وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے	تسبیح ہر خشک وتر ہے یا اللہ یا اللہ
تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے	واصف ہر اک گل و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ
دنیا جب پانی کو تر سے رم جھم رم جھم برکھا بر سے	ہر اک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ
رات نے جب سر اپنا چھپایا چیزوں نے یہ ذکر سنایا	نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ
بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس آقا کا	جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جب اپنی ایک صفت کے ساتھ محبت کرنے والے پر اس قدر مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو کن کن انعامات سے نوازتا ہوگا۔

ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی (میں تو بس) اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: انت مع من احببت تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ (بخاری شریف ۳/۱۳۳۹ حدیث نمبر ۳۳۸۵، مسلم شریف ۲/۲۰۳۲ حدیث نمبر ۲۶۳۹)

مست جام عشق سے ہیں عاشقان فانی و باقی ہیں اس سے عارفاں

اہل باطن جامِ وحدت سے ہیں مست
اہل ظاہر دوغِ کثرت سے ہیں مست
مومنوں میں مخمور از جامِ طہور
کافروں میں مست پیکر آبِ سور
زاہد اس کے جام سے گم کردہ ہوش
رند اور اوباش اس کے دردِ نوش
صومع و مسجد کنشت و دہر میں
شہر جنگل جائے شر و خیر میں
مومن و ترسا و رند و خمر خوار
عاشق اس کے ہیں نہاں و آشکار

(حاجی امداد اللہ مہاجر کی)

ایمان کس کا مکمل ہے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان .

جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کی، اور اللہ تعالیٰ کے لئے (کسی سے) عداوت رکھی اور اللہ تعالیٰ کے لئے (اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے کسی کو) دیا اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر (ناپسندیدہ امور میں خرچ کرنے سے ہاتھ) روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ (ابوداؤد، کتاب السنۃ ۴/۲۲۰، حدیث نمبر ۲۶۸۱)

☆ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله .

اللہ تعالیٰ کے نزدیک، سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لئے دشمنی رکھنا ہے۔

(ابوداؤد شریف، ۴/۱۹۸، حدیث نمبر ۲۵۹۹)

☆ انہی سے ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بندہ کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا، فرمایا: اے ابو

ذر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ عرض کی، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا: فانك مع

من احببت تو یقیناً انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ (ابوداؤد، ۴/۳۳۳، حدیث نمبر ۵۱۲۶)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

من اثار محبة الله على محبة نفسه كفاه الله مؤنة الناس

جس نے اللہ کی محبت کو اپنی ذات کی محبت پر ترجیح دی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی اذیت سے محفوظ فرمائے گا۔

(کنز العمال، ۱۵/۷۹۰، نمبر ۴۳۱۲)

فروغ دیدہ تر مانگتا ہوں خداوند ترا در مانگتا ہوں

مرے دل میں تیرا ارماں سمائے صدف خالی ہے گوہر مانگتا ہوں

اے قطرے کو سمندر مانگنے والے۔ میں قطرہ ہوں سمندر مانگتا ہوں

مجھے عشقِ نبی میں رنگِ مولا جمالِ شاہِ کوثر مانگتا ہوں
 میں دیکھوں سبز گنبد کا نظارہ مدینہ پاک میں گھر مانگتا ہوں
 مجھے مل جائے نعلینِ شہِ دیں یہ تاجِ سر، سراسر مانگتا ہوں
 مجھے امید سے بھی ماسوا دے تیری چوکھٹ پہ گر کر مانگتا ہوں
 گلستاں میں خزاں کا دور چھایا تمنا کے گل تر مانگتا ہوں
 غلامِ زار کو سدرہ نشیں کر
 تری توحید کے پر مانگتا ہوں

(غلامِ مصطفیٰ مجددی)

میری یاد سے ان کی یاد اور ان کی یاد سے میری یاد آ جاتی ہے

حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی (کسی سے) ناراض اور اللہ ہی کے لئے کسی سے راضی نہ ہو (یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط ذاتِ الہی ہو جائے) اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پالیا۔ (انہی خوش نصیبوں کے لئے فرمان ہے) وان احبائی و اولیاء ی الذین یذکرون بذكری و اذکر بذكرہم اور بیشک میرے پیارے اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میری یاد سے ان کی یاد وابستہ ہے اور ان کی یاد سے میں یاد آ جاتا ہوں۔ (مسند احمد بن حنبل ۳/۴۳۰:۱۵۶۲)

☆ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (حدیث قدسی میں) ”میری محبت ان لوگوں کے لئے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لئے برحق ہے جو میرے لئے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لئے برحق ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لئے برحق ہے جو میری رضا کے لئے ایک دوسرے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لئے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔“

(مسند احمد ۴/۳۸۶، حدیث نمبر ۱۹۳۵)

اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے دشمنی کو ایمان کی سب سے افضل ترین کڑی قرار دیا گیا۔ ان اوسط عری الايمان ان تحب فی اللہ و تبغض فی اللہ (مسند احمد ۴/۳۸۶، حدیث نمبر ۱۸۵۴ عن البراء بن عازب)

☆ حضرت سالم جو کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان کے بارے میں فرمایا ان سالما شدید الحب للہ تعالیٰ، بے شک سالم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے۔ (اخرجہ الدیلمی فی مسند الفردوس ۱/۲۳۳ نمبر ۸۹۶)

اصل ہے سودائے عشق ہے اس کی تمام سب درخاں جہاں رقصاں مدام

کوہ دشت و بحر و بربا لاؤپست
کیا ملک کیا انس و جن کیا وحش و طیر
جملہ عالم کیا عقیل و کیا وحوش
مست انساں ہے شراب خاص سے
انبیاء سرور جام وصل سے
سب شراب شوق سے اس کے ہیں مست
عشق نیکی ہے ہر ایک کی جس میں سیر
ہیں شراب عشق سے سب درد نوش
عشق میں دیتا ہے جاں اخلاص سے
اولیاء محمود بادہ اصل سے

(حاجی امداد اللہ مہاجر کی)

اس کو دیکھو: اللہ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا جو ایک مینڈھے کی کھال کے گرد لپیٹے چلے آ رہے تھے تو (صحابہ کرام کو) فرمایا:

انظروا الی هذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ لقدر ایتہ بین ابوین یغدوانہ با طیب الطعام والشراب
ولقد رایته علیہ حلہ شراہا او شریث بمائتی درہم فدعاہ حب اللہ وحب رسولہ الی ماترون .

اس شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے۔ میں نے اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے اور میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی جسے دوسو درہم میں اس نے خود خریدا یا وہ اس کے لئے خریدی گئی تھی اور اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔

(اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان والمنذری فی الترغیب والترہیب والغزالی فی احیاء العلام
وابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء)

کسی طرح کبھی غمگین وہ نہیں ہوتے
تمہاری یاد نے بخشی ہے روشنی جن کو
نبی کے نام پہ سو جاں سے جو قربان ہوتے ہیں
جو ان کی یاد کی محفل سجاتے ہیں محبت سے
سرور کیف کے پیہم وہ جام پیتے ہیں
وہ خوش نصیب تو بس ظلمتوں میں جیتے ہیں
خدا شاہد وہی تو صاحب ایمان ہوتے ہیں
رسول اللہ ان کے گھر میں خود مہمان ہوتے ہیں

سنایہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: ای رب ابن ابغیک؟ یارب! تجھے کہاں تلاش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم . مجھے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کر۔ انی ادنو منہم کل یوم باعاً ولولا ذلك لا نہدموا . کیونکہ میں ہر روز ایک ہاتھ ان کے قریب ہوتا ہوں۔ (اپنی شان کے مطابق) اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ (ہجر و فراق کی وجہ سے) منہدم ہو جاتے۔ (اخرجہ احمد بن حنبل فی الزہد: ۱۲۰)

غم فراق میں جو اشک بہتے رہتے ہیں
ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں

سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں

نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے

حب الہی کے بارے میں اہل محبت کی باتیں

قال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه : اعلم الناس بالله اشدهم حبا، وتعظيما لاهل لا اله الا الله .

”حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں (اہل توحید) کی تعظیم کرتا ہے۔“ (اخرجہ اشعرانی فی الطبقات الکبریٰ: ۳۳)

☆ قال ابو يزيد البسطامي رحمه الله: ان لله عبادا لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث اهل النار من النار .

”حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محجوب رکھے تو وہ جنت سے بچنے کی اسی طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ سے بچنے کی کریں گے۔“ (اخرجہ القشیری فی الرسالة: ۳۲۱)

☆ قال الشبلي رحمه الله: سميت المحبة محبة، لانها تمحو من القلب ما سوى المحبوب .

(ایضاً ص: ۳۲۱)

”حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا: محبت کو محبت اس لئے کہا گیا کہ یہ دل سے محجوب کے سوا تمام چیزوں کو محو کر دیتی ہے۔“

☆ قال السري السقطي رحمه الله: اللهم ما عذبتني بشيء ، فلا تعذبني بذل الحجاب .

(اخرجہ السلسی فی الطبقات الصوفیة: ۵۱)

”حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا: اے اللہ! تو نے مجھے کسی چیز کا عذاب نہیں دیا پس مجھے حجاب (دوری) کا ذلت آمیز عذاب نہ دینا۔“

لالہ وگل سے عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
میں نے کعبہ میں کبھی دیر میں تجھ کو ڈھونڈا
صورتِ امر تھا موجود میری سانسوں میں
تو ہے صانع تری ہر چیز ہے خود اپنی مثال
خواہشیں، آرزوئیں، جاہ و حشم کی حسرت
دیکھ کر جلوۂ زیبا نہ رہا ہوش مجھے
نعت اور حمد کی نعمت مرے سینے میں اویس
تو مری روح تھا جاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
ٹوٹے دل میں تو یہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
تو قریب رگِ جاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
ہر نہاں مجھ پر عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
میں بھی کیا محو بتاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
دل کہاں دھیاں کہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
چشمِ نور رواں تھا مجھے معلوم نہ تھا

(میاں اویس احمد مظہر)

محبتِ الہی کا حصول دس چیزوں سے ممکن ہے

قال السرى السقطى رحمه الله: للمريد عشر مقامات، التحبب الى الله بالنافلة، والتزین عنده بنصيحة الأمة، والأنس بكلام الله، والصبر على أحكامه، والأثرة لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوه، والرضاء بالقلّة، والقناعة بالخمول .

”حضرت سري سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا: دس چیزوں پر عمل کے ذریعے محبتِ الہی کا حصول ممکن ہے۔ (۱) نوافل پڑھنا (۲) خیر خواہی (۳) قرآن سے محبت کرنا (۴) احکامِ الہی پر صبر کرنا (۵) امرِ الہی کو ترجیح دینا (۶) حیا پیدا کرنا (۷) محبتِ الہی میں مشقت برداشت کرنا (۸) قلیل پر راضی ہونا (۱۰) قناعت سے کام لینا۔“

(اخرج ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۱۱۷)

☆ قال الجنید رحمه الله: المسير من الدنيا الى الآخرة سهل هين على المؤمن . وهجران الخلق في جنب الله شديد . والمسیر من النفس الى الله صعب شديد . والصبر مع الله أشد .

”حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا: مومن کے لئے دنیا سے آخرت تک کا سفر آسان اور ہلکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر مخلوق سے کنارہ کش ہونا تکلیف دہ ہے اور نفس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سفاذیت ناک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔“ (اخرج ابن قیم الجوزیۃ فی مدارج السالکین، ۲/۱۱۷)

☆ قال محمد بن عليان رحمه الله: من سكن الى الله تعالى، أهمله تعالى وتركه، ومن سكن الى الله تعالى، قطع عليه طريق السكون الى شيء سواه .

”محمد بن علیان رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ (کسی) اور ذات میں سکون و راحت محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ سے راحت و سکون ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ (اس کے لئے) اپنی ذات کے علاوہ سکون کے اور راستوں کو منقطع کر دیتا ہے۔“ (اخرج السلمی فی طبقات الصوفیۃ: ۳۱۹)

☆ قال أبو عبد الله القرشي رحمه الله: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن احببت، فلا يبقى لك منك شيء . (اخرج القشيري في الرسالة: ۳۲۱)

”حضرت ابو عبد اللہ قرشی رحمہ اللہ نے فرمایا: حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کلیتاً محبوب کے حوالے کر دے یہاں تک کہ تیرے پاس اپنی ذات میں سے کچھ بھی نہ رہے۔“

☆ قال يوسف بن علي رحمه الله: لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو أعطى مثل ملك سليمان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عين . (ابن ص ۳۱۵)

”یوسف بن علی رحمہ اللہ نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں عارف نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کی یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ اگر اسے سلیمان علیہ السلام جتنی حکومت عطا کر دی جائے تب بھی یہ سلطنت اسے ایک لمحہ کے

لئے بھی اللہ سے غافل نہ کر سکے۔“

☆ قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ان الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح

لغيره وهو قائم يصلي . (ايضاً)

”حضرت ابو سليمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عارف کے لئے اس کے بستر پر وہ باتیں کھول دیتا ہے جو اوروں کے

لئے کھڑے نماز پڑھتے بھی نہیں کھولتا۔“

خوشبو ہے دہن میں مرے، تاثیر زباں میں
پر ڈھونڈنے پر یا یا عیاں میں نہ نہاں میں
پائے گا موحد ہی جگہ باغ جناں میں
تاثیر نظر آئے نہ کیوں آہ و فغاں میں
ہر جھیل میں، ہر ابر میں، ہر آب رواں میں
جو بات یقین میں ہے کہاں وہم و گماں میں
رکھی ہے سکینت تو فقط امن و اماں میں
وہ رات تھی ایسی کہ زماں میں نہ مکاں میں

تحمید کی کشتی ہے رواں موج بیاں میں
موجود نشاں رب کا ہے ہر ایک نشاں میں
جو کافر و منکر ہے جہنم میں جلے گا
جب دل سے پکارا ہے مصیبت میں خدا کو
پانی ہے جو نازل کیا خلاق جہاں نے
اللہ پہ ایقان سے سب کام بنے ہیں
رب چاہتا ہے، اس کے نہ بندے کبھی جھگڑیں
محمود جو اک رب و نبی کی تھی ملن رات

(راجا رشید محمود)

اللہ کو دوست بنالے اور لوگوں سے کنارہ کش ہو جا

قال محمد بن اسحاق رحمه الله: أخبرني أبي، قال: قلت لأبراهيم بن ادھم رحمه الله: اوصني

فقال: اتخذ الله صاحباً، وذر الناس جانباً .

”محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد محترم نے بتایا کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے

عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کریں، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنالے اور لوگوں سے کنارہ کش ہو

جا۔“ (اخرجہ السلسلی فی طبقات الصوفیہ: ۲۷)

☆ قال ابو حفص رحمه الله: من تجرع كأس الشوق يهيم هياماً، لا يفيق الا عند المشاهدة

واللقاء . (ايضاً: ۱۱۹)

”حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جام شوق نوش کر لیتا ہے پھر وہ اسی مستی و عشق و محبت میں مارا مارا پھرتا

رہتا ہے اس کو مشاہدہ اور ملاقات سے ہی آفاقہ ہوگا۔“

☆ قال ابو حفص رحمه الله: اذا رأيت المحب ساكناً هادئاً، فاعلم انه وردت عليه غفلة، فان

الحب لا يترك صاحبه يهدأ بل يزعجه في الدنو والبعث، واللقاء والحجاب . (ايضاً)

”حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی عاشق کو حالت سکون و اطمینان میں دیکھے تو جان لے کہ اس وقت اس پر حالت غفلت وارد ہو چکی ہے کیونکہ عشق عاشق کو آرام نہیں کرنے دیتا بلکہ وہ اس کو کبھی پاس بلا کر، کبھی دور کر کے، کبھی ملاقات دے کر اور کبھی حجابات اوڑھ کر تنگ کرتا ہے۔“

☆ قال محمد بن الفضل رحمه الله: المعرفة حياة القلب مع الله تعالى .

(اخرجه القشيري في الرسالة: ۲۱۷)

”محمد بن الفضل رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ دل کے زندہ رہنے کا نام معرفت ہے۔“

☆ قال ابو حفص رحمه الله: ما ظهرت حالة عالية، الا من ملازمة اصل صحيح .

”حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا: اس وقت تک صحیح اور بلند مرتبہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ صحیح اور اصل تعلق پیدا

نہ ہو جائے۔“ (اخرجه السلمي في طبقات الصوفية: ۱۲۱)

☆ قال أحمد بن عاصم الانطاكي رحمه الله: من كان بالله اعرف كان له اخوف .

(اخرجه القشيري في الرسالة: ۲۱۳)

”احمد بن عاصم الانطاکی رحمہ اللہ نے فرمایا: جس قدر کسی کو عرفان باللہ حاصل ہوگا اسے اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف نصیب ہوگا۔“

☆ قال يحيى بن معاذ رحمه الله: حقيقة المحبة ما لا ينقص بانجفاء . (ايضا: ۳۲۲)

”حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: حقیقی محبت وہ ہے جو جفا پر بھی کم نہ ہو۔“

☆ نظر يحيى بن معاذ يوما الى انسان وهو يقبل ولدا له صغيرا فقال: اتجبه؟ قال: نعم . قال:

هذا حبك له اذ ولدته فكيف بحب الله له اذ خلقه؟! (اخرجه ابو نعيم في حلية الاولياء ۱۰/۵۲)

”یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے ایک روز ایک شخص کو اپنے چھوٹے بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا تو اس

سے محبت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اولاد ہونے کے ناطے تجھے اس سے اتنا پیار ہے،

اندازہ کرو اللہ کو اس سے کتنا پیار ہوگا جس نے اسے پیدا کیا ہے۔“

حماں اوہدیاں سارے کر دے پھل بوٹے چن تارے کر دے

حماں کر دیا ذرہ ذرہ ملک فلک نے سارے کر دے

دشت و جبل نے حماں کر دے نہراں دریا دھارے کر دے

حماں کرن فرشتے حوراں نبی اللہ دے پیارے کر دے

رائی برابر محبت الہی.....

قال يحيى بن معاذ رحمه الله: مثقال خردلة من الحب احب الى من عبادة سبعين سنة

بلاحب۔ (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۳۲۶)

”حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: محبت اگر رائی کے دانے جتنی بھی ہو تو مجھے وہ ایسی ستر سالہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے جو بغیر محبت کے کی جائے۔“

☆ قال یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ: من نشر المحبة عند غیر أهلها فهو فی دعواه دعویٰ۔ (ایضاً: ۳۲۷)

”حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص نااہل لوگوں میں محبت کا ذکر کرے، وہ اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔“

☆ عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال: قيل: المحبة نار فی القلب تحرق ما سوی مراد المحبوب۔ (ایضاً: ۳۲۳)

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ محبت دل میں ایک آگ ہوتی ہے جو محبوب کی مراد کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے۔“

☆ عن الامام القشیری قال: قيل: ان عتبة الغلام بات ليلة يقول الی الصباح: ان تعذبنی فانا لك محب، وان ترحنی فانا لك محب۔ (ایضاً: ۱۹۶)

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: مروی ہے کہ عتبۃ الغلام ساری رات صبح تک یہ الفاظ کہتے رہے کہ اگر تو مجھے سزا دے تو تب بھی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور اگر تو مجھ پر رحم فرمائے تو تب بھی میں تجھ سے ہی محبت رکھتا ہوں۔“

☆ قال أبو یعقوب السوسی رحمہ اللہ: لا تصح المحبة الا بالخروج عن رؤية المحبة الی رؤية المحبوب بفناء علم المحبة۔ (ایضاً: ۳۲۳)

”حضرت ابو یعقوب السوسی رحمہ اللہ نے فرمایا: محبت صرف اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب محبت اپنی محبت کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنی محبت کا علم مٹا کر اپنے محبوب کے دیدار کی طرف لگا رہے۔“

بیاں ہو حمد تیری کس طرح ہم ناتوانوں سے
گلستانِ جہاں میں سب تری تسبیح کرتے ہیں
بلاشک تو ہے سب عیبوں سے پاک اور متصف ہے تو
ازل سے حمد ہوتی ہے ابد تک ہوتی جائے گی
تری وہ حمد ہے جو تو نے اپنی آپ فرمائی
جہاں سارا طلب کرتا ہے تجھ سے اپنی ہر حاجت
مٹاتا ہے کوئی درہم کوئی زر نام پر تیرے
عزیزوں کو کٹانا گھر لٹانا جان دے دینا
کہ تو برتر ہے وہموں سے خیالوں سے گمانوں سے
لسانِ حال سے دل سے جوارح سے زبانوں سے
تمام اوصاف سے اور خوبیوں کی ساری شانوں سے
کہاں حق حمد کا ہو گا ادا ان مدح خوانوں سے
کہ بالاتر ہے وہ محدود لفظوں اور بیانیوں سے
ہر اک کی جھولیاں بھرتا ہے تو اپنے خزانوں سے
گزر جاتے ہیں اس کوچہ میں کتنے اپنی جانوں سے
تیرے عشاق گھبراتے ہیں کب ان امتحانوں سے
کرے اجمل ثنا کیونکر کہ ناواقف ہے منزل سے

وہی چلتا ہے اس راہ میں جو واقف ہے نشانوں سے

(مولانا محمد اجمل شاہ)

جس نے اپنا قبلہ اپنے رب کو نہ بنایا

قال بندار رحمہ اللہ: من لم يجعل قبلته . علی الحقیقیة . ربہ ، فسدت عنہ صلاحہ .

(اخرجه السلسلی فی طبقات الصوفیة: ۳۶۸)

”حضرت بندار بن حسین رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے اپنا قبلہ اپنے رب کو نہ بنایا اس کی نماز (اور دیگر عبادات) بے کار ہو جاتی ہیں۔“

☆ قال أبو الحسین رحمہ اللہ: مخافة خوف القطیعة اذبلت نفوس المحبین . وأحرقت أكباد العارفين، وأسهرت لیل العابدین، وأظمات نهار الزاهدين، وأكثرت بكاء التائبين، ونغصت حياة الخائفين . (ایضاً: ۳۰۰)

”حضرت ابوالحسین وراق رحمہ اللہ نے فرمایا: محبوب حقیقی سے تعلق ٹوٹ جانے کے خوف نے مجہین کے نفوس کو پگھلا کر رکھ دیا، عارفین کے جگروں کو جلا کر رکھ دیا، عابدین کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں، زاہدین کی نہروں کو پیا سا کر دیا تو بہ کرنے والوں کی آہ و بکا کو اور زیادہ بڑھا دیا اور ڈرنے والے کی زندگی کو بے کیف کر دیا۔“

☆ قال رویم رحمہ اللہ: الرضا: أن لوجعل الله جهنم علی یمینہ ما سأل ان یحولها الی یسارہ . (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۱۹۵)

”حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رضایہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کو کسی شخص کے دائیں ہاتھ پر رکھ دے تو وہ یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ! اسے بائیں ہاتھ پر رکھ دے۔“

خدا یا ہمیں فتح و نصرت عطا کر
صدقت کا پرچم سدا جگمگائے
خلاؤں سے نکرائیں تیرے فدائی
ہمیں سرفرازی کے جھولے

ہمیں دو جہاں کی حکومت عطا کر
چٹانوں کو توڑیں وہ فطرت عطا کر
سمندر سے کھیلیں وہ جرأت عطا کر
ہمیں جانثاری کی عادت عطا کر

میری عرض سن کملی والے کا صدقہ
تجھے ہز گنبد کے ہالے کا صدقہ

(ساغر صدیقی)

اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے

عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تعالیٰ یقول یوم

القیامة: این المتحابون بجلالی؟ الیوم اظلمهم فی ظلی . یوم لا ظل الا ظلی .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔“

(اخرج مسلم فی الصحیح، کتاب: البر والصلة والآداب، باب: فی فضل الحب فی اللہ، ۱۹۸۸/۴، الرقم: ۶۵۶۶، وابن حبان فی الصحیح، ۳۳۲/۲، الرقم: ۵۷۴، والدارمی فی السنن، ۴۰۳/۲، الرقم: ۲۷۵۷، والبیہقی فی السنن الکبریٰ، ۲۳۲/۱۰، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۲۳۷/۲، الرقم: ۷۲۳۰)

عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم : ان رجلا زار اخاله فی قرية أخرى . فارصد اللہ له، علی مدرجته ملکا . فلما اتی علیہ قال : این ترید؟ قال : ارید أخالی فی هذه القرية . قال : هل لك علیہ من نعمة تربها؟ قال : لا . غیر انی احبته فی اللہ عزوجل قال : فانی رسول اللہ الیک، بان اللہ قد احبك كما احبته فیہ .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لئے ایک دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو بھیج دیا، جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا: کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا: اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے پوچھا: کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے کہا: اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔“

(اخرج مسلم فی الصحیح، کتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الحب فی اللہ، ۱۹۸۸/۴، الرقم: ۶۵۶۶، وابن حبان فی الصحیح، ۳۳۲/۲، الرقم: ۵۷۴، ۵۷۶، ۵۷۷، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۴۰۸/۲، الرقم: ۹۲۸۰، وأبو یعلیٰ فی المعجم، ۲۱۱/۱، الرقم: ۲۵۳، والبیہقی فی شعب الایمان، ۶، الرقم: ۴۸۸، وابن البارک فی الزہد، ۲۳۷/۱، الرقم: ۷۱۰)

☆ عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ان اللہ عزوجل قال : اذا تلقانی عبدی بشیر، تلقیتہ بذراع . واذا تلقانی بذراع، تلقیتہ بباع، واذا تلقانی بباع . جنتہ ایتہ باسرع .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بھڑتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور جب وہ میری طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں (یعنی بکثرت اس پر اپنی رحمت اور مدد و نصرت فرماتا ہوں)۔“

(اُخرجہ مسلم فی الصحیح، کتاب: الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب: الحث علی ذکر اللہ تعالیٰ، ۲/۲۰۶۱، الرقم: ۲۶۷۵، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۲/۳۱۶، الرقم: ۸۱۷۸، وأيضاً، ۳/۲۸۳، الرقم: ۱۳۰۳۵)

تری شان سب سے عظیم ہے	تری ذات سب سے قدیم ہے
ترے نام دل کا سرور ہیں	ترے نام آنکھوں کا نور ہیں
تجھے اپنے ناموں کا واسطہ	ترا فضل ہم پہ رہے سدا
کوئی ماہ ہو کوئی سال ہو	ترا لطف شامل حال ہو
کوئی مرحلہ ہو حیات کا	رہے آسرا تری ذات کا
ملیں دو جہانوں کی دولتیں	ترے سب خزانوں کی دولتیں
کبھی لب پہ تیری ثنا رہے	کبھی ذکر صل علی رہے
اے ملوک و مالک و کبریا	نہیں اور کوئی ترے سوا

عابد نظامی

کیا تمہیں کچھ اور چاہئے؟

عن صہیب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة، قال: يقول اللہ عزوجل: تريدون شینا ازیدکم؟ فيقولون: الم تبیض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما اعطوا شینا احب اليهم من النظر الی ربهم عزوجل ثم تلا هذه الآیة: (للذین احسنوا الحسنی و زیادة) (یونس، ۱۰-۲۶)

”حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ عزوجل فرمائے گا: تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں دوں؟ وہ عرض کریں گے: (اے ہمارے رب! کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیئے کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی۔ فرمایا: اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا، انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: (ایسے لوگوں کے لئے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے) (بلکہ) اس پر اضافہ بھی ہے۔“

(اُخرجہ مسلم فی الصحیح، کتاب: الایمان، باب: اثبات روایۃ المؤمنین الآخرۃ ربہم، ۱/۱۶۳، الرقم: ۱۸۱، والترمذی فی السنن، کتاب: تفسیر القرآن، باب: من سورۃ یونس، ۵/۲۸۶، الرقم: ۳۱۰۵، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳/۳۳۲، وعبد اللہ بن أحمد فی السنۃ، ۱/۲۳۵، الرقم: ۴۳۹، والمذری فی الترغیب والترہیب، ۳/۳۰۹، الرقم: ۵۷۳۳)

خدایا خدائی تو لاریب ہست زمین آسماں قدرتت سبب ہست

تو آن سب کر دی ذکر مان پُر
یکے کرم را اژدہا گشت جان
چوادر اک راسوئے توراہ نیست
فلک یا ملک یا خلقها زمین
تو کر دی وحش و طيور و پری
تو رزاق ہر جاندارے توئی
یہ بنی گناہم بہ پوشی عجب
توئی واحد لا شریکی خدا
زمین آسمان خلق چو پوست است
نہ جنبد کسے تانہ جنبند آن
بہر جا کہ بنی ظہور آن بداں
ہمہ نیستند وہمہ نیستند
خمشو بکن ای نواز غریب
تو خود گل گلی و تو خود عندلیب

(سلطان محمد نواز علیہ الرحمۃ)

جنت کا بازار

عن سعید بن المسيب انه لقي ابا هريرة رضي الله عنه فقال ابو هريرة رضي الله عنه: اسال الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقال سعيد: او فيها سوق؟ قال: نعم اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم، فيوزن لهم في مقدار يوم الجمعة من ايام الدنيا فيزورون ربهم، ويرزلهم عرشه .

قال ابو هريرة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال: نعم، هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا، قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عزوجل ولا يبقى في ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة.....

ثم ننصرف الى منازلنا، فيتلقانا ازواجنا فيقلن: مرحبا واهلا لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا عليه، فيقول: انا جالسنا اليوم ربنا الجبار (عزوجل)، ويحق لنا ان نقلب بمثل ما انقلبنا .

”حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ سعید کہنے لگے: کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے عملوں کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ دنیا کے جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور وہ ان کے لئے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، کیا تم سورج اور چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہِ راست گفتگو نہ فرمائے۔“

”انہوں نے کہا کہ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آجائیں گے۔ ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی خوش آمدید، خوش آمدید، تم واپس آئے ہو، تو تمہارا حسن و جمال ہم سے جدا ہوتے وقت سے بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے گا: آج ہماری مجلس ہمارے رب جبار سے ہوئی ہے۔ ہم اسی (خوبصورت) شکل و صورت میں تبدیل ہونے کے حق دار تھے۔“

(آخر جہ الترمذی فی السنن، کتاب: صفۃ الجنت، باب: ماجاء فی سوق الجنت، ۶۸۵/۴، الرقم: ۲۵۳۹، وابن ماجہ فی السنن، کتاب: الزہد، باب: صفۃ الجنت، ۱۳۵۰/۲، الرقم: ۴۳۳۶، وابن حبان فی الصحیح، ۴۶۴/۱۶، الرقم: ۴۳۳۷، وابن ابی عاصم فی السنن، ۲۵۸/۱، الرقم: ۵۸۵-۵۸۶، والترمذی فی الترغیب والترہیب، ۳۰۱/۴، الرقم: ۵۷۲۸)

اللق حمد بھی،	تو	میرا معبود بھی	خدا بھی
تیرے اسرار کون	جان سکے	سب میں موجود اور	جدا بھی
بے نواؤں کی	آخری امید	بے سہاروں کا	آسرا بھی
التجا سب ترے	حضور کریں	سب کی سنتا رہے	دعا بھی
تو ہی سب سے	بڑا مسیحا ہے	سب مریضوں کو	دے شفا بھی
باعث ابتدا ہے	ذات تری	واقف راز	انتہا بھی
جو نہ کوئی بھی	جانے تو جانے	آرزو تو ہے	اور رضا بھی
تیرے در کے	سبھی سوالی ہیں	قلب کا	عرض مدعا بھی
تجھ سے	ظاہر ظہور ہے	سب کا	اور ظہوری کی ہے

اللہ کی محبت واجب ہوگئی

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: قال اللہ

تعالیٰ: وجبت محبتی للمتحابین فی، والمتجالسین فی، والامتزاورین فی، والمتبازلین فی۔

رواہ مالک باسنادہ الصحیح وابن حبان۔ (وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح)

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر مجلسیں قائم کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لئے میری محبت واجب ہوگئی۔“

(أخرج مالک فی الموطأ، ۲/۹۵۳، الرقم: ۱۷۱۱، وإسنادہ صحیح، وصحیح ابن حبان فی الصحیح، ۲/۳۳۵، الرقم: ۵۷۵، والحاکم فی المستدرک، ۲/۱۸۶، الرقم: ۷۳۱۳، والبیہقی فی السنن الکبری، ۱۰/۲۳۳، وصحیح، ودوافع الذہبی، وقال ابن عبدالبر: اسنادہ صحیح)

☆ عن معاذ رضی اللہ عنہ انه سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن افضل الايمان؟ قال: ان تحب الله، وتبغض الله، وتعمل لسانك فی ذکر الله، قال: وما ذا یا رسول الله؟ قال: وان تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك۔

”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اللہ کے لئے محبت کرے اور اللہ کے لئے ہی نفرت کرے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لوگوں کے لئے وہ چیز پسند کر جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور ان کے لئے وہ چیز ناپسند کر جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے۔“ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔

(أخرج أحمد بن حنبل فی المسند، ۵/۲۲۷، الرقم: ۲۲۱۸۳، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۲۰/۱۹۱، الرقم: ۴۲۵)

☆ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال: سمعت عن لسان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: حقت محبتی للمتحابین فی، وحقت محبتی للمتبازلین فی، وحقت محبتی للمتصادقین فی،

والمتواصلین (رواہ احمد باسناد صحیح)

”حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (اللہ رب العزت کے حوالے سے) بیان فرماتے ہوئے سنا: میری خاطر محبت کرنے والوں کے لئے میری محبت برحق ہے، میری خاطر صلہ رحمی کرنے والوں کے لئے بھی میری محبت برحق ہے، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لئے بھی میری محبت برحق ہے اور میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے والوں کے لئے بھی میری محبت برحق ہے۔“

(أخرج أحمد بن حنبل فی المسند، ۵/۲۲۹، الرقم: ۲۲۰۵۵، وابن حبان فی الصحیح، ۲/۳۳۸، الرقم: ۵۷۷، والحاکم فی المستدرک، ۲/۱۸۷، الرقم: ۷۳۱۵)

مجھے حمد و ثناء سے آشنا کر میری روح کو فنا سے پھر بقا کر
الہی مجھ کو رومی کا قلم دے مجھے جامی کا ذوق نوت عطا کر

مؤذن عشق احمد کا بنوں میں مجھے روح بلالی بھی عطا کر
زباں میری موثر ہو اثر میں ثناء خوانوں کا مجھ کو ہم نوا کر
بوصیری کا ہے خادم ہاشمی بھی بفیض برداء ابیض شفا کر

جن پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے

عن أبی مالک الأشعری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: یا ایہا الناس، اسمعوا واعقلوا واعلموا ان اللہ عزوجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء. یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ: فجاء رجل من الاعراب من قاصیة الناس والوی بیدہ الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: نبی اللہ، ناس من الناس، لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ انعتہم لنا یعنی صفہم لنا، شکلہم لنا، فسروجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسؤال الاعرابی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ہم ناس من افناء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بینہم ارحام متقاربة، تحابوا فی اللہ وتصافوا. یضع اللہ لہم یوم القیامة مناہر من نور، فیجلسہم علیہا، فیجعل وجوہہم نورا، وثیابہم نورا، یفزع الناس یوم القیامة ولا یفزعون، وہم اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.

”حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! سنو، سمجھو اور معلوم کر لو کہ اللہ عزوجل کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہداء لیکن نبی اور شہیدان کے مراتب اور اللہ کے ہاں تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ دور سے آنے والے ایک بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا: یا رسول اللہ! جو لوگ نہ نبی ہوں اور نہ شہید لیکن انبیاء اور شہداء ان کی مسند اور اللہ کے تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے، ان کی خوبی اور ان کا حلیہ ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی کے اس سوال سے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لوگ وہ ہیں جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیامت کے دن نور کے منبر لگائے گا، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ان کے چہرے اور کپڑے پر نور بنا دے گا (باقی) لوگ گھبرائیں گے (لیکن) یہ نہیں گھبرائیں گے۔ یہی اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔

(أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند، ۵/۳۳۳، رقم: ۲۲۹۵۷، وابن المبارک فی الزہد، ۱/۲۳۸، رقم: ۷۱۳)

الہیٰ دل میں مضمر ہے یہ کیسی آرزو تیری لئے پھرتی ہے مجھ کو قریہ قریہ جستجو تیری جھلکتے ہیں تیری قدرت کے جلوے ڈرتے ڈرتے میں نظر آتی ہے اہل دل کو صورت سو بسو تیری

اُنق سے تا اُنق یا رب ترا ہی بول بالا ہے
نبوت سے من و تو میں یہ حسن ارتباط آیا
تلاوت ہی سے ملتی ہے زباں الفاظِ قرآن کو
ہماری بندگی کا الغرض یہ بھی تقاضا ہے
ہجومِ غم سے اب تک قلبِ افسر بند ہو جاتا

نمازیں جا بجا تیری اذانیں کو بہ کو تیری
وہی ہے آبرو میری وہی ہے آبرو تیری
زالی خامشی تیری انوکھی گفتگو تیری
کہ ہم سے ہو نہیں سکتی عبادت بے وضو تیری
مگر دیتی ہے تسکین آئیے لا تقنطوا تیری

افسردہ پوری

اللہ تعالیٰ محبت اور محبوب کو جمع کر دے گا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو ان عبدین تحاببا فی اللہ عزوجل، واحدا فی المشرق و آخر فی المغرب، لجمع اللہ بینہما یوم القیامۃ، یقول: هذا الذی کنت تحبہ فی (رواہ البیہقی فی شعب الایمان، ۲/۳۹۲، رقم: ۹۰۲۲)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر دو بندے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ (ان میں سے) ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں (بھی) ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ضرور ملا دے گا اور فرمائے گا: یہ ہے وہ (شخص) جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا۔“

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیبعثن اللہ اقواما یوم القیامۃ فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ یغبطہم الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء قال: فجئنا اعرابی علی رکتیہ فقال: یا رسول اللہ، حلہم لنا نعرفہم۔ قال: ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتی و بلاد شتی یجتمعون علی ذکر اللہ یدکرونہ۔

”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے (قبروں) سے اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوگا۔ وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے۔ لوگ ان پر رشک کریں گے، نہ ہی وہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدوی گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! ان کے متعلق ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی ان کا علم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف علاقوں میں رہتے ہیں لیکن اللہ کی یاد کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔“

(أخرج الطبرانی فی المعجم الکبیر، ۳/۲۹۱، رقم: ۳۳۳۵، و ذکرہ المنذری فی الترغیب والترہیب، ۲/۲۶۲، رقم: ۲۳۲۷، والبیہقی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۷۷)

جو اول ہے وہی آخر جو باطن ہے وہی ظاہر
خدائے لم یزل ہے قدیم وقائم وقادر
سک سے تا فلک ہر شے پہ ہے ناخذ حکم اس کا
وہ ہر شے میں نہیں ہے، ہے وہی ہر چیز سے ظاہر

اسی کے نام میں ستار و غفار و غنی مالک کروڑوں سال سے جو تھا مگر اک کنز مخفی تھا ازل سے تا ابد قیوم و قائم نام ہے جس کا زمین و آسمان، لوح و قلم جن و بشر سب کچھ بنا گئے اپنا عابد کو کیا اس کی عنایت ہے وہی ہے قابض و باسط وہی قاہر وہی اجابہ وہ خود منظور تھا اور آپ ہی خود اپنا تھا ناظر وہی ہے حی و قیوم اور وہی ہے اول و آخر بنائے صرف کن کہہ کر وہ کیا خلاق ہے ماہر و گرنہ مجھ سے بہتر لاکھوں ہی ہوں گے یہاں شاعر

(پروفیسر سید عابد میر قادری سلطانی)

اللہ کے لئے محبت کرنے والوں کے اقوال زریں

قال عمر رضی اللہ عنہ: واللہ، لقد لان قلبی فی اللہ حتی لہو الین من الزبد، ولقد اشتد قلبی فی

اللہ حتی لہو أشد من لبجر. (اخرجہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء ۱/۵۱)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میرا دل خدا کے لئے اس قدر نرم ہو گیا کہ مکھن بھی اتنا نرم نہیں ہوگا اور خدا ہی (کی محبت میں اس کے دشمنوں) کے لئے میرا دل اس قدر سخت ہو گیا کہ پتھر بھی اس کے مقابلے میں سخت نہ ہو گا۔“

☆ قال معروف الکرخی رحمہ اللہ: للفتیان علامات ثلاث: وفاء بلا خلاف، ومدح بلا جود،

وعطاء بلا سوال. (اخرجہ نسیمی فی طبقات الصوفیۃ: ۸۹)

”حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی محبت والفت میں پروان چڑھے نوجوانوں کی تین نشانیاں ہیں بغیر کسی خوف و ڈر کے وفا کرتے ہیں، بغیر مبالغے کے تعریف کرتے ہیں اور بغیر سوال کے عطا کرتے ہیں۔“

☆ سنل معروف عن المحبة، فقال: المحبة لیست من تعلیم الخلق، انما هی من مواهب الحق

وفضله. (ایضاً)

”حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ کوئی مخلوق کی تعلیم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ حق تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ اور اس کا فضل ہے۔“

☆ قال یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ: علی قدر حبك اللہ تعالیٰ یحبك الخلق، وبقدر خوفك

من اللہ تعالیٰ یهابك الخلق، وعلی قدر شغلك باللہ یشغلك فی امرك الخلق. (ایضاً: ۱۱۱)

”حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا: جس قدر تم اللہ سے محبت کرو گے اسی قدر مخلوق خدا تم سے محبت کرے

گی اور جس قدر تم اللہ سے خوف کھاؤ گے اسی طرح مخلوق خدا تم سے خوف کھائے گی اور جس قدر اللہ کے احکام کی

پابندی کرو گے اسی قدر مخلوق خدا تمہارے حکم کی تعمیل کرے گی۔“

نہا نے ہم کو انعامات بخشے سرت کے حسین لمحات بخشے

رسولِ پاک کی الفتِ عطا کی
فلک پر خوشنما تارے سجائے
نظارہ اپنی قدرت کا دکھایا
نرالے پھول پودوں پر سجائے
ہمارا خون گرمانے کو بخشیں
کہ جس کے لطف سے ہے جسم میں جاں

ہمیں ایمان کی دولت عطا کی
زمیں پر خوبصورت پھول اگائے
جدا ہر چیز کا نقشہ بنایا
ریلے پھل درختوں پر لگائے
ہزاروں نعمتیں کھانے کو بخشیں
سرورِ ان کی عنایت پر ہے نازاں

سرورِ بخورانی

عارف باللہ کو اللہ کے علاوہ کوئی چیز دکھانی ہی نہیں: یتیم

قال أبو يعقوب النهر جوری رحمہ اللہ: قلت لأبي يعقوب أنسوسی: هل بتأسف العارف علی
شیء غیر اللہ عزوجل؟ فقال: وهل یری غیرہ فی تأسف عنیہ؟ قلت: فبأی غیر بنظر الی الأشیاء؟
فقال: بعین الفناء والزوال. (اخرجه القشیری فی الارسال: ۳۱۵)

”شیخ ابو یعقوب نہر جوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو یعقوب موسیٰ رحمہ اللہ سے پوچھا: کیا عارف اللہ تعالیٰ
کے سوا کسی اور چیز (کے نہ ملنے) پر بھی افسوس کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا اسے اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی دیتی
ہے کہ وہ اس پر افسوس کرے؟ میں نے عرض کیا: پھر اسے دنیا کی اشیاء کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہئے؟ فرمایا: زوال اور فنا
کی نگاہ سے۔“

☆ عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال: قیل: أوحی اللہ عزوجل الی داؤد علیہ السلام: لو بعلم
المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم وشوقی الی ترک معاصیہم لما توأشوقا انی،
وانقطعت أوصالہم من محبتی، یا داؤد، ہذہ ارادتی فی المدبرین عنی، فکیف ارادتی فی
مقبلین الی؟ (ایضاً: ۳۲۲)

”امام قشیری رحمہ اللہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے
منہ موڑ لیتے ہیں، یہ جان لیں کہ میں ان کی کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کے
معصیت کار یوں کو ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں تو وہ میرے شوق میں مرجائیں اور ان کے جوڑ میری محبت کی وجہ
سے منقطع ہو جائیں۔ اے داؤد! یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں پس جو لوگ میری
طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا؟“

☆ عن الامام القشیری، قال: قیل: العارف قد أنس بذکر اللہ فاوحشہ من خلقہ، وافتقر الی اللہ
فاغناہ عن خلقہ، وذل لہ تعالیٰ فأعزہ فی خلقہ. (ایضاً: ۳۱۵)

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ عارف چونکہ ذکر اللہ کے ساتھ انس حاصل کر چکا ہوتا ہے اس لئے اللہ (یا اللہ کا انس) اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ذلیل رہتا ہے اس لئے اللہ اسے مخلوق میں معزز بنا دیتا ہے۔“

☆ عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال: قال بعضهم: من عرف الله تعالى تبرم بالبقاء، وضافت عليه الدنيا بسعتها. (ایضاً: ۳۱۳)

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کسی صوفی سے مروی ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ دنیا میں زندہ رہنے سے تنگ آجاتا ہے اور دنیا اس قدر وسعت کے باوجود اس کے لئے تنگ معلوم ہوتی ہے۔“

خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں	کچھ بھی ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں
رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا	ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا
خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے	آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلانے ہوئے
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے	دل مرتضیٰ سوز صدیق دے
الہی غیب سے سامان کر دے	مدینے کا ہمیں مہمان کر دے
وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم	خاک در رسول کا سرمہ بنائیں ہم
دل درد سے بسکل کی طرح لوٹ رہا ہو	سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو
گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو	جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو

ہزاراں درود ہزاراں سلام	بروح محمد علیہ السلام
ہر دم ازما صد درود و صد سلام	بر رسول وآل واصحابہ تمام
الہی بحق محمد رسول	دعا ہم گنہ گاروں کی کر قبول
الہی بحق نبی فاطمہ	کہ بر قول ایماں کنم خاتمہ
اگر دعوتم رد کنی ور قبول	من و دست و دامان آل رسول

دنیا و آخرت کا شرف حاصل کرنے والے

قال جعفر رحمہ اللہ: سمعت سمنون رحمہ اللہ يقول: ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب (متفق عليه)، فهم مع الله تعالى. (ایضاً: ۳۲۲)

”حضرت جعفر رحمہ اللہ نے سمنون رحمہ اللہ سے روایت کی کہ محبت کرنے والے دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کریں گے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (متفق علیہ حدیث میں) فرمایا: المرء مع من أحب ”انسان اسی کے

ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہو۔ لہذا وہ اللہ کے ساتھ ہوئے۔“

☆ قال عبد الله الأنصاري رحمه الله: سمعت الحسين الأنصاري رحمه الله يقول: رأيت في النوم كان القيامة قد قامت وشخص قائم تحت العرش فيقول الحق، سبحانه: يا ملائكتي، من هذا؟ فقالوا: الله أعلم، فقال: هذا معروف الكرخي سكر من حبي فلا يفيق الابلقائي.

(ایضاً: ۳۳۱)

”حضرت عبد اللہ الانصاری نے حسین الانصاری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے اور ایک شخص عرش کے نیچے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے: یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ معروف کرخی ہے، یہ میری محبت میں مدہوش ہے، اب وہ میری ملاقات کے بغیر ہوش میں نہیں آسکتا۔“

کریں جس کے دیوار دور اللہ اللہ
کیے جاؤ شام و سحر اللہ اللہ
نہیں سائل در بدر اللہ اللہ
زباں پر ہو وقت سفر اللہ اللہ
تو دیکھا ہے اس کا اثر اللہ اللہ

مقدر ہوا ہے وہ گھر اللہ اللہ
اگر نفس کا تزکیہ چاہتے ہو
گدائے در خالق مصطفیٰ ہوں
ثنائے خدا میں کئے زندگانی
دعا سچے دل سے کبھی کی جو ازہر

از بہر درانی

حمد ہے اس ذات کو.....

تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اپنی مخلوق میں سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو پسند فرمایا اور ان کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جنہوں نے اس سے کئے ہوئے عہد کو پورا کیا تو اس نے ان کا تذکرہ پوری کائنات میں پھیلا دیا، زمانے کو ان کی برکت سے زینت عطا فرمائی، ان کے عرفان کی مہک سے تمام عالم کو معطر فرما دیا، انہیں اپنا قرب عطا فرما کر ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ ان کی محبت کو ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا بنا دیا، انہوں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنے سر جھکا دیئے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے دی تو اس نے بھی انہیں اجر و ثواب کے خزانے عطا فرما دیئے، انہوں نے اپنے محبوب حقیقی عزوجل کی رضا کے لئے بخوشی تکالیف برداشت کیں اور کڑوی چیز کو میٹھا سمجھا، رب عزوجل کی تلاش میں دیوانوں کی طرح گھومتے رہے اور اس کو پانے میں اپنی جان تک قربان کر دی اور محبت کی بیڑیوں میں اسیر ہو گئے، ان کو خزانے پیش کئے گئے مگر انہوں نے ٹھکرادیئے، دنیا ان پر فدا ہونے کی کوشش کرتی رہی لیکن انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، انہوں نے فقر و فاقہ اختیار کیا۔ اللہ عزوجل نے انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا تو انہوں نے ان احسانات پر شکر ادا کیا اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ شیطان نے ان پر اپنے مکر و فریب کا جال ڈالنے کی کوشش کی لیکن اس کا ان پر کوئی بس نہ چل سکا اور وہ انہیں دھوکا دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ صرف اللہ

عزوجل کے محتاج ہیں اور اس کی عطا سے غنی ہو گئے جنہیں غیر خدا ہے مستغنی کر دیا گیا اور سحری کے وقت ان کے لئے پردے اٹھا دیئے گئے۔

اللہ کرم اللہ کرم	حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم
اللہ کرم اللہ کرم	دینا ہے صدا یہ چشم نم
اللہ کرم اللہ کرم	ہیت سے ہر اک گردن خم ہے
اللہ کرم اللہ کرم	ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم
اللہ کرم اللہ کرم	جن لوگوں پہ ہے انعام ترا
اللہ کرم اللہ کرم	مختر میں میرا رو جائے بھرم
اللہ کرم اللہ کرم	ہر سال طلب فرما مجھ کو
اللہ کرم اللہ کرم	ہر سال کروں میں طنو حرم
اللہ کرم اللہ کرم	میری آنے والی سب نسلیں
اللہ کرم اللہ کرم	اسباب ہوں ان کو ایسے بھم

ایک رقت انگیز دعا

اے میرے مالک و مولیٰ عزوجل! اگر ہم گناہوں کی وجہ سے تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں تو حسن ظن نے ہمیں تیرے ثواب کی بھی طمع دے رکھی ہے۔ اگر تو معاف فرما دے تو تجھ سے زیادہ کون اس کا حق رکھتا ہے؟ اور اگر تو عذاب دے تو تجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے؟ اے میرے پروردگار عزوجل! اگر تو عبادت و ریاضت کرنے والوں پر رحم فرمائے گا تو خطا کاروں پر کرم کون کرے گا؟ اگر تو صرف مخلصین کے اعمال قبول فرمائے گا تو ہم جیسے ریاکاروں کا کیا بنے گا؟ اگر تو صرف محسنین کو عزت سے نوازے گا تو ہم جیسے بدکار کہاں جائیں گے؟ یا الہی عزوجل! میری حسرت کتنی زیادہ ہے کہ میں نے دوسروں کو تو نصیحت کی لیکن خود غافل رہا۔ اے میرے مولیٰ عزوجل! کتنی سخت مصیبت ہے مجھ پر کہ دوسرے بیدار ہیں اور میں سویا ہوا ہوں۔ اے میرے مالک عزوجل! میرا معاملہ کتنا شدید ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہوں اور خود حیران و پریشان ہوں۔ اے میرے رب قدر عزوجل! عفو و درگزر کے ساتھ پرخطر اور تکلیف دہ راستے میں میری مدد فرما۔ یا الہی عزوجل! جب تو نے اپنی راہ پر چلنے والوں کی رہنمائی فرمائی تو وہ تجھ تک پہنچ گئے۔ اے میرے خالق حقیقی عزوجل! اگر میرا کلام خالص تیری رضا کے لئے نہیں تو اس بھری محفل میں کوئی ایسا شخص تو ہوگا جو خالص تیری رضا کے لئے حاضر ہوا ہوگا اپنے نور کے واسطے مجھ خطا کار کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرما اور یا ارحم الراحمین! ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔

انت وفقت من الیک انا با
انت اصلحت من اصاب الصوابا
انت حبت ماتحب الیہم
ثم اعطیتہم علیہ ثوابا

انت عرفتهم كنوز المعالي فغدوا يبحثو عنها طلابا

ترجمہ: (۱)..... اے اللہ عزوجل! تو نے اپنی طرف رجوع کرنے والے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہی حق تک پہنچنے والے کو ہدایت عطا فرمائی۔

(۲)..... جو چیز (یعنی توبہ) تجھے پسند ہے اس کی محبت تو نے بندوں کے دلوں میں ڈال دی پھر اس پر انہیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دیا۔

(۳)..... تو نے ان کو عزت و مرتبہ کے خزانوں کی پہچان کرائی پس وہ ان خزانوں کی بہت زیادہ جستجو کرنے لگے۔

گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی
تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے
میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی
مرے غوث کا واسطہ یا الہی

ہائے افسوس ان پر

آہ علی المذنبین او اہ
آہ علی من عصاب غفلتہ
آہ علی المذنب الحزین اذا
آہ علی من یفوتہ اسفا
آہ من یبیع مغتبننا
سبحان من تصدق علیکموا بصیامکم
تأتون یوم القیامة وصومکم من فوقکم
محمول فوق الغنائم علی ید الملئکة
وتقدمون الموقف تحلوا علی کل الامم
وقد صفا الوقت لما نادا کمو مولا کم
هذا جمالی تبدی والحب عنکم رفعت

ترجمہ: (۱)..... افسوس نافرمانوں پر کہ (نافرمانی کے باوجود) رب کی پناہ طلب کرتے ہیں، افسوس اس پر جس کا رب اس سے ناراض ہو۔

(۲)..... افسوس اس پر جس نے اپنی غفلت کے سبب کھلے عام نافرمانی کی اور اپنی خطاؤں سے توبہ نہ کی۔

(۳)..... افسوس اس غمزدہ گنہگار پر جو (گناہ کرتے وقت) تو اللہ عزوجل سے نہیں ڈرتا پھر خوفزدہ ہوتا ہے۔

(۴)..... افسوس اس پر جو ایسے بابرکت مہینے میں بھی اللہ عزوجل کی بارگاہ سے معافی نہ پاسکا۔

(۵)..... افسوس اس پر جس نے دھوکے میں دیر آخرت کو دنیا کے گھر کے بدلے بیچ دیا۔

(۶)..... اے امت محمدیہ! پاک ہے وہ ذات جس نے تم پر وزوں کے سبب احسان فرمایا اور تمہیں اپنی خاص عنایات سے نوازا۔
(۷)..... قیامت کے دن تم آؤ گے اور تمہارا روزہ تمہارے اوپر اس طرح ہوگا کہ تم جدھر متوجہ ہو گے وہ بھی ہوگا اور تم جدھر چلو گے وہ بھی چلے گا۔

(۸)..... فرشتے اپنے ہاتھوں میں انعامات اٹھائے ہوں گے اور ان کی کرنیں کثرتِ انوار سے جگمگا رہی ہوں گی۔

(۹)..... تم سب سے پہلے میدانِ محشر میں پہنچو گے اور تمام امتوں کے سامنے سورج کی طرح چمک رہے ہو گے اور تم میں سے بعض کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔

(۱۰)..... جب تمہارا رب عزوجل تمہیں فرمائے گا: اے میرا دیدار کرنے والو! کھڑے ہو جاؤ اور آ کر میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جاؤ۔

(۱۱)..... میں نے اپنا جمال تم پر ظاہر کر دیا ہے اور تمہارے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیئے۔ پس اس وقت ہمارا نور چمک اٹھے گا اور تمام کثافتیں ختم ہو جائیں گی۔

رونے والی آنکھیں مانگور و ناسب کا کام نہیں
ذکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں

جلوے شانِ الہی کے زبانِ مصطفوی سے

تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو صفتِ جمال کی معرفت عطا فرمائی تو انہوں نے عرفانِ خداوندی کی لازوال دولت حاصل کر لی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں انیسیت عطا فرمائی تو وہ اس سے مانوس ہو گئے، ان کے دلوں میں اپنے راز ڈالے تو اس کی توفیق سے وہ اس کا ذکر کرنے لگے۔ اللہ عزوجل ان کے احوال بیان کر کے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ عزوجل ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ عزوجل سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے ان کے دلوں کی سلطنت غفلت سے محفوظ فرمائی تو انہوں نے اس کی بارگاہ کو لازم پکڑ لیا اور اپنی ساری زندگی اخلاص کو اپنایا اور اسی پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے اپنے نامہ اعمال کو نافرمانیوں سے خالی رکھا اور اسے صحیح رکھنے کی پوری کوشش کی۔ وہ روزِ جزاء کی رسوائی سے خوفزدہ ہوئے تو انہوں نے اس امانت کی حفاظت کی جو ان کے سپرد کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوبِ حقیقی عزوجل سے اپنا مقصود بھی پایا اور طلب سے بھی سوا پایا۔ مگر محروم کو بد نصیبی کے میدان میں چھوڑ دیا جائے گا، اس پر رحم نہ کیا جائے گا۔ اسے میدانِ محشر میں شرمساری ہوگی اور اسے اس دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا جس دن کچھ منہ روشن اور کچھ سیاہ ہوں گے۔

تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے کائنات کو بغیر کسی شریک و مددگار کے پیدا کیا، وہ اپنی بلند شان میں اس سے پاک ہے کہ اسے طاقت و قدرت اور وجود دیا جائے۔ اس نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ وہ استغفار کرنے والوں کے لئے (اپنی شان کے مطابق) اول آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ وہ بروزِ قیامت سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کے حکم سے سب آسمان لپیٹ دیئے جائیں گے، وہ فرماتا ہے: "احسن کل شیء خلقه و بذا خلق الانسان من طین" (پ ۲۱ السجدہ: ۷) جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتداء مٹی سے فرمائی۔ اس نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا

اور اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق فرماتا ہے: ”فاذا هو خصيم مبين“ (پ ۲۳، یسین: ۷۷) جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔“

اللہ عزوجل نے اس پر شہوت مسلط کی تاکہ اسے اپنا انتہائی ذلیل ہونا معلوم ہو جائے۔ نافرمانوں کی آنکھوں سے عبرت کے آنسو خشک ہو گئے پھر بھی ان کا کوئی مددگار نہیں لیکن اس کے دروازے پر پہنچنے والے محبوب بندوں کو ان کا محبوب حقیقی یہ ندا دیتا ہے: ”وسار عوا الی مغفرہ من ربکم وجنة عرضها السموت والارض اعدت للمتقين“ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۳) اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان وزمین آجائیں، پرہیزگاروں کے لئے تیار رکھی ہے۔“ سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس کو حوادثِ زمانہ نہیں بدل سکتے، اور نہ ہی زمانوں کی تبدیلی اس کو پرانا کر سکتی ہے، وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے: ”یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور“ (پ ۲۴، المؤمن: ۱۹) اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔“

وہ نہ جسم ہے، نہ جوہر، نہ عرض، نہ عنصر۔ وہ نورانی پردے سے پاک ہے۔ اسے فارغ سمجھنے والا اندھا ہے، اس کا انکار کرنے والا بے بصیرت ہے، اس کے لئے جسم ثابت کرنے والا کمزور نظر والا ہے اور کسی کو اس کے مشابہ قرار دینے والا جہالت کی جیل میں قید ہے۔ اس نے بادلوں سے زور کا پانی برسایا اور اس کے ذریعے بہت سی اکٹھی اور بکھری ہوئی نباتات کو پیدا فرمایا اور ان کی غذائیں بنائیں اور حیوانات سے مذکورہ موانع پیدا کرنے کے لئے پانی سے مادہ منویہ بنایا تاکہ اس میں اس کا فضل اور عدل ظاہر ہو اور پیدا ہونے والی مخلوق تو عاجز و مجبور ہے۔ اس نے ابتدائے آفرینش سے لوح محفوظ میں انسان کی نجات و ہلاکت کے کلمات لکھ دیئے۔ پس سب کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو وہ اپنے اندازے سے نہیں جان سکتے اور امور کا انجام ان سے مخفی کر دیا گیا۔ پھر موت کا تیران کی طرف پھینکا تو اس نے انہیں ہلاک کر دیا پھر اپنے اس فرمان سے اسے نصیحت کی تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں عدل کرنے والا ہے اور وہ ظلم نہیں کرتا: ”کل نفس ذائقة الموت“ وانما توفون اجور کم یوم القیمة“ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز“ (پ ۴، آل عمران: ۱۸۵) ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔“

پاک ہے وہ رب عزوجل جو فیصلہ کرتا ہے لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، جو صحیح کو توڑتا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، میں اس کی رحمت کی امید رکھنے والے جیسی حمد کرتا ہوں کیونکہ وہ اسے غفور و رحیم جانتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں نے یہ گواہی روزِ محشر کے لئے تیار کر رکھی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے خاص بندے اور رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ کر کے تو بہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم

(الروض الفائق فی المواعظ والرقائق للشیخ شعیب حرثیش)

میری نگاہ سے مرے وہم وگماں سے دور
راحت سے پاک رنج سے پاک ابتلا سے پاک
میری خرد سے دور مری این وآن سے دور
ہر بیش وکم سے ہر غم سود و زیاں سے دور
حاجت سے پاک عجز سے پاک امتحاں سے دور
حسرت سے پاک سوز سے پاک آرزو سے پاک
جو ہے ہر اک بشر کی چنین وچناں سے دور
کون و مکاں میں صرف وہی ایک ذات ہے
ظاہر ہے ہر نشاں سے مگر ہر نشاں سے دور
اعظم وہ ایک ایسی حقیقت ہے بے نشاں
(اعظم چشتی)

رحم مادر میں انسانی تخلیق کے ارتقائی مراحل میں شانِ خداوندی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صادق و مصدوق نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (غائبانہ حقیقت) کو بیان فرمایا۔

ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه اربعین یوما نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یرسل الیہ الملك فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات: بکتب رزقه واجله وعمله وشقی اوسعیّد، فوالله الذی لا اله غیره ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یكون بینہ وبينها الا ذراع، فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها، وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یكون بینہ وبينها الا ذراع، فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلها .

(بخاری شریف جلد 2، صفحہ 241، کتاب المخلوق رقم 3036، مسلم شریف جلد 7 صفحہ 260، کتاب القدر رقم 6599، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 20، مسند حمید رقم الحدیث: 126)

بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں رکھنا ہے پھر چالیس دن بعد گاڑھا خون بن جاتا ہے اور پھر چالیس دن میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے پھر اللہ عزوجل اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اس فرشتے کو چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے یعنی اس (بچے) کے رزق، عمر، عمل اور سعادت و شقاوت کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے بس اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تم میں کوئی اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر الہی اس کی طرف سبقت کرتی ہے تو اس کا خاتمہ اہل جہنم کے اعمال پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی جہنمیوں کے سے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر تقدیر الہی اس کی طرف سبقت کرتی ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر ہوتا ہے پس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

ہر کوئی عاجز تیرے اگے تنیوں سب وڈیاں
توں سمھناں دا خالق مولا تیرے کل پیارے
اک پتے دیاں کئی کروڑاں ون سونیاں شکلاں
باہجوں امر ترے دے سائیاں پتہ مول نہ بل دا
بن منگیاں جے توں دے دیویں کیہہ جاندا اے تیرا
منگ ظہوری اہدے در توں کوئی نہ جاوے خالی

ہر اک شے دا والی توں ایس سب دنیا دیا سائیاں
عرشی فرشی جن ملائک سورج چن ستارے
جوں جوں سوچ وچارن سوچاں گم ہو جاوے عقلاں
تیرا شروع اخیر نہ کوئی کدھرے پتہ نہ ملدا
کہہ منگاں کس چیز نے منگاں کیہ میرے وچ میرا
دیوں کارن داتا ہوندا منگن لئی سواں

تقدیر معلق و مبرم

اس حدیث میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کو اجمالاً بیان فرمایا ہے جو کہ اللہ عزوجل کے کلام جو سورہ ”مومنون“ میں موجود ہے اس کی تفسیر ہے اس کے بعد تقدیر کے متعلق بیان کیا ہے اس کی دو اقسام ہیں۔

(۱) تقدیر مبرم، (۲) تقدیر معلق اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

معلق بدلتی رہتی ہے اور تقدیر مبرم اٹل اور محکم ہے اس میں تبدیلی محال ہے کیونکہ تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کے علم ازلی سے عبارت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تبدیلی جہل کو مستلزم ہے نہ اس کا علم بدل سکتا ہے نہ تقدیر مبرم بدل سکتی ہے۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ مثلاً لورج محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص شقی ہے یا سعید ہے، یا فلاں کی عمر اتنی ہے پھر اگر وہ کوئی نیک کام کرے یا کوئی نیک شخص اس کے حق میں دعا کرے تو اس کی شقاوت، سعادت سے بدل جاتی ہے یا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور اگر وہ نیک کام نہ کرے یا کوئی نیک شخص اس کے حق میں دعا نہ کرے تو وہ بدستور شقی رہتا ہے اور اس کی عمر اتنی ہی رہتی ہے اور اس کو محو اور اثبات سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ مقرر ہوتا ہے کہ وہ بالآخر شقی ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کی عمر بڑھے گی یا نہیں اور یہی تقدیر مبرم ہے اس کو اُم الکتاب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت سے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا استنباط کیا ہے۔

یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

(رعد: 39)

اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

اس آیت میں محو اور اثبات سے مراد قضاء معلق ہے اور اُم الکتاب سے مراد قضاء مبرم ہے۔

قضاء معلق کا ذکر ان احادیث میں ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

”حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر کو صرف دعا نال سکتی ہے اور

عمر نیکی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“ (ترمذی)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر صرف نیکی سے زیادہ ہوتی ہے

اور تقدیر صرف دعا سے ملتی ہے اور انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

یارب دو جہاں یا رب دو جہاں ہر سمت تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں

پتھر میں کیڑوں کو رزق کھلائے تو دل میں آس اُمید کے دیپ جلائے تو
 بچھڑے ہوؤں کو اک مرکز پہ لائے تو اپنے کرم کے کیا کیا رنگ دکھائے تو
 میں بندہ تیرا مولا تیرے نام پہ میں قرباں

بلبل طوطی پروانے کی یہی صدا اے خدا مشکل میں کام آیا مولا نام تیرا
 ذرہ ذرہ کرتا ہے تیری حمد و ثناء تیرے دم سے شام و سحر اے مالک انس و جاں
 گلشنِ خوشبو نور اجالے تیرے ہیں چاند کے گرد یہ نور کے ہالے تیرے ہیں
 عزت و دولت رزق نوالے تیرے ہیں سب سے مولا کام نرالے تیرے ہیں
 میرے واسطے ہے ایماں اللہ تیرا قرآن

تیرے کرم کی مولا بات نرالی ہے تیرا ذکر یہ غنچہ ہر ڈالی ہے
 کوئی نہیں جس کا تو اس کا والی ہے شیرازی تیرا ادنیٰ ایک سوالی ہے
 پیدا کر دے مولا میری بخشش کا ساماں

یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں ہر سمت تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں

کہاں ہیں معرفت و احسان والے؟

بکھرے بال، آزرده صورت ہوتے ہیں کچھ اہل معرفت بدرنگ یہ شان ہے ان کی بات نہ ٹالے رب العزت

☆ عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله
 الاولين والآخرين ينادى مناد فى صعيد واحد من بطنان العرش. اين اهل المعرفة بالله؟ اين
 المحسنون؟ قال: فيقوم عنق من الناس حتى يقفوا بين يدي الله، فيقول: وهو اعلم بذلك: ما
 انتم؟ فيقولون: نحن اهل المعرفة الذين عرفتنا اياك وجعلتنا اهلا لذلك. فيقول: صدقتم. ثم
 يقول للآخرين: ما انتم؟ قالوا: نحن المحسنون. قال: صدقتم، قلت لنبى: (ما على المحسنين
 من سبيل) (التوبة: 91) ما عليكم من سبيل، ادخلوا الجنة برحمتى. ثم تبسم رسول الله صلى
 الله عليه وسلم فقال: لقد نجاهم الله من احوال بوائق القيامة.

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب اولین
 و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا عرش کے پایوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا: کہاں ہیں
 اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے؟ کہاں ہیں صاحبانِ احسان؟ فرمایا: لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے
 کھڑا ہوگا۔ پس وہ کہے گا، حالانکہ وہ (اللہ تعالیٰ) بہتر جاننے والا ہے: تم کون ہو؟ پس وہ کہیں گے: ہم اہل معرفت
 ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہمیں اس معرفت کا اہل بنایا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم نے سچ کہا: پھر دوسرے

گروہ سے پوچھے گا: تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہم صاحبانِ احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم نے سچ کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا: ”صاحبانِ احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں۔“ لہذا تم پر بھی (طعنہ زنی کی) کوئی راہ نہیں۔ میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے احوال اور سختیوں سے نجات دے دے گا۔“

(آخر جہانِ نبوی فی کتاب الأربعین، ۱/۱۰۰، الرقم: ۵۱، والنسائی فی فیض القدر، ۱/۴۲۰، الرقم: ۴۰)

میرا دل غرقِ محبتِ پا کاں ہے مجھ پر یہ کتنی عنایتِ یزداں ہے
کہتا ہوں میں مدحِ کرمِ صحابہ کرام انور یہ دلیلِ پختگیِ ایماں ہے

کہاں ہیں جبارین و متکبرین؟

حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم حدثنی ابی عن عید اللہ بن مقسم عن عبداللہ بن عمر انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر یقول یاخذ الجبار سماواتہ وارضیہ بیدہ وقبض بیدہ فجعل یقبضها ویسطها ثم یقول انا الجبار این الجبارون این المتکبرون قال ویتمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی نظرت الی المنبر یتحک من اسفل شیء منه حتی انی اقول اساقط هو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو قیامت کے دن اپنے دستِ اقدس میں لے کر (اپنی شان کے مطابق) ہاتھ کو بلند کرے گا، پھیلائے گا اور فرمائے گا: انا الجبار این الجبارون این المتکبرون

میں ہوں جبار، کہاں ہیں (دنیا کے) جبار و متکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں ملاحظہ فرماتے جاتے جبکہ منبر مبارک اٹل رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں منبر حضور علیہ السلام سمیت الٹ نہ جائے۔ (ابن ماجہ شریف باب فیما انکرت الخمیة، حدیث نمبر ۱۹۹)

آپ نے بے بدل نظر پائی خلق میں اور حق نگر پائی
دو جہاں کے علوم کلی سے آپ کی ذات بہرہ ور پائی

☆ حدثنا حرملہ بن یحییٰ ویونس بن عبد الاعلیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب حدثنی سعید بن المسیب انا ابا ہریرۃ کان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض اللہ الارض یوم القیامۃ ویطوی السماء بیمنہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ قیامت کے دن زمین کو

پکڑے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔ (ابن ماجہ باب فیما انکرت لجمیۃ حدیث نمبر 192)

اے خدا عزوجل! کیا پاک ہے تو شان میں تیری طاقت ہے بڑی اور تیری قدرت ہے بڑی تو رحیم بھی تو کریم بھی ہے تو عدیم المثال بھی قدرتوں کی حد نہیں طاقت کی تیری حد نہیں تو خالق مخلوق ہے تو لائق جمود ہے اک گدا سے شاہ کر کے حکمراں کرنا اسے وصف عالی ہے تیرا اے مالک کون و مکاں فضل و رحمت کے بھروسے پر ہے یہ عاجز کھڑا

لا شریک وحدہ بے مثل ہے تو شان میں ہر وصف میں تو ہے بڑا بے مثل اپنی شان میں ہیں منہدم سب طاقتیں تیری طاقت لازوال میں شاہ و گدا اک جا کھڑے تیری قدرت بے نیاز میں مدح خواں جن و بشر تیری ذات عالی صفات میں کن سے فیکون کرنا قدرت لازوال میں طاقتیں سب ہیج ہیں تیری طاقت بے مثال میں منظور ہو تو کرم ہے نکتہ نوازی شان میں

تیرے یہاں کمی نہیں، اہل ایمان سے پہلا کلام اور حسن ظن

حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون و انبانا محمد بن اسحاق عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمین اللہ ملآن لا یغیضها شیء سحاء اللیل والنهار و بیده الاخری المیزان یرفع القسط و یخفض قال ارایت ما انفق منذ خلق اللہ السموات و الارض لم ینقص مما فی یدیہ شیئا .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ رزق سے بھرا ہوا ہے اور دن رات خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوتی اور اس کے بائیں ہاتھ میں ترازو ہے جسے اونچا کرتا ہے اور نیچے کرتا ہے (یعنی جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے) پھر آپ نے فرمایا اس نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں، مسلسل خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ (ابن ماجہ شریف)

☆ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان شتمت انبائکم ما اول ما یقول اللہ عزوجل للمومنین، وما اول ما یقولون له یوم القیامۃ . قلنا: نعم یا رسول اللہ، قال: ان اللہ عزوجل یقول للمومنین: هل احببتم لقائی؟ فیقولون: نعم، یا ربنا، فیقول: لم؟ فیقولون: رجونا عفوک و مغفرتک . فیقول: قد وجبت لکم مغفرتی .

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عزوجل مومنوں سے پہلی بات کیا کرے گا اور وہ مومن اسے پہلی بات کیا کہیں گے؟ ہم نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل مومنوں سے فرمائے گا کہ کیا تم میری ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ وہ

عرض کریں گے: اے رب! ہاں۔ تو وہ فرمائے گا: کیوں؟ وہ عرض گزار ہوں گے: (اس لئے کہ) ہم تیری معافی اور بخشش کی امید رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں اپنی بخشش دے دی۔“

(أخرج أحمد بن حنبل في المسند، ۵/۲۳۸، الرقم: ۲۲۱۲۵، والطبرانی في المعجم الكبير، ۲۰/۱۲۵، الرقم: ۲۵۱)

☆ حسن ظن کے بارے میں فرمایا گیا حسن الظن من حسن العبادة اچھا گمان رکھنا (اللہ اور اس کی مخلوق کے بارے میں)

حسن عبادت میں سے ہے۔ (أخرج ابوداؤد في السنن كتاب الادب باب في حسن الظن ۳/۲۹۸، الرقم: ۴۹۹۳، عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

پھر قرآن مجید میں مخلوق کے بارے میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ان بعض الظن اثم۔ الحجرات۔ تو خالق کائنات کے بارے میں بدگمانی کس قدر گناہ اور بدبختی ہوگی۔ اس بارے میں چند احادیث اس حمد کے بعد ملاحظہ ہوں۔

صفناں تیریاں کراں بیاں کیویں خالق مالک کریم وود توں ایں
جس دے اگے کائنات پئی جھک دی اے میرے مالکا اوہ مسجود توں ایں
تیری قدرت دے تھاں تھاں ہین جلوے جگہ جگہ دے اتے موجود توں ایں
حکم دینا ایں آپ شہاب تائیں خود وی سوہنے تے گھلدا درود توں ایں
کیوں کراں میں تیری تعریف ربناقص عقل تے ناقص زبان رکھنا
نہ ای پڑھیاں نحو گریراں میں نہ ای سینے وچ علم دی کان رکھنا
نہ میں قاضی عیاض دا ہم پایہ نہ میں وانگ صحابہ دے شان رکھنا
راضی ہون شہاب حضور میرے ایہو دل دے وچ ارمان رکھنا

حسن ظن کے بارے میں احادیث

عن وائل بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: انا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء.

”حضرت وائل بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے، نابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے لہذا وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھے۔“

اس حدیث کو ابن حبان، دارمی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

(أخرج ابن حبان في الصحيح، ۲/۴۰۱، الرقم: ۶۳۳، والحاكم في المستدرک، ۳/۲۶۸، الرقم: ۷۶۰۳، والدارمی في السنن، ۲/۳۹۵، الرقم: ۲۷۳۱، وأحمد بن

حنبل في المسند، ۳/۴۹۱، والطبرانی في مسند الشاميين، ۲/۳۸۴، الرقم: ۱۵۴۶، والبيهقي في موارد الظمان، ۱/۱۸۳، الرقم: ۷۱۷)

☆ عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: قال الله تعالى: عبدی عند

ظنہ بی وانا معہ اذا دعانی ان ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی

ملا خیر منہ واطیب ۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا بندہ اپنے گمان کے مطابق میرے ساتھ ہوتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے خفیہ طور پر یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ جماعت میں یاد کرتا ہوں۔“ (اخرجا بن حبان فی الصحیح، ۳/۹۵، الرقم: ۸۱۲)

☆ عن عبدالرحمن بن سمرة، فی رواية طويلة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت البارحة عجباً رأيت رجلاً من امتى قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى ۔

”حضرت عبدالرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: گزشتہ شب میں نے خواب میں عجیب چیز دیکھی، میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا کہ وہ پل صراط پر خوف کے مارے کانپ رہا ہے جیسا کہ کھجور کی شاخ (ہوا سے لرزتی ہے)۔ پس اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آتا ہے تو اس کی کپکپاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے گزر جاتا ہے۔“

(اخرجا الکلیم الترمذی فی نوادر الاصول، ۳/۲۳۳، والبیہقی فی مجمع الزوائد، ۷/۱۷۹، ۱۸۰، وابن رجب الحسنبلی فی التوفیق من النار، ۱/۳۲، والواسطی فی تاریخ واسط، ۱/۱۶۹، ۱۷۰)

يَا حَيِّبَ الْقَلْبِ مَالِي سِوَاكَ . فَارْحَمِ الْيَوْمَ مُذْنِبًا قَدْ آتَاكَ

يَا رَجَائِي وَرَاحَتِي وَ سُرُورِي . قَدْ أَسَى الْقَلْبُ أَنْ يُحِبَّ سِوَاكَ

ترجمہ: اے دل کے دوست! تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اپنی بارگاہ میں حاضر اس گنہگار پر رحم فرما، اے میری امید، میری راحت اور اے میرے سرور! دل نے تیرے سوا کسی اور سے محبت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

روز پڑھتا ہوں گفتگو تیری	حمد کرتا ہوں با وضو تیری
ہے نگاہوں کو جستجو تیری	اے جمال جہان کے خالق
ہے سوا سب سے آبرو تیری	ما سوا تیرے کوئی ہے قیوم
خارزاروں میں بھی ہے بو تیری	رنگ پھیلے ہیں باغ میں تیرے
یاد ہوتی ہے کو بکو تیری	ذکر ہوتا ہے جا بجا تیرا
دل میں ازہر کے آرزو تیری	لب پہ جاری ہے تیرا نام سدا

حسن ظن کے بارے میں پاکانِ امت کی آراء

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا اله غيره لا يحسن عبد الله الظن الا اعطاه ظنه

وذلك بان الخير في يده. (رواه ابن ابي شيبة، والطبراني، وهذا لفظه)

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن ہی (کے مطابق) اسے عطا کر دیتا ہے کیونکہ ہر قسم کی بھلائی اس کے اختیار میں ہے۔“

(أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، ۱/۱۰۸، الرقم: ۳۳۵۶۳، والطبراني في المعجم الكبير، ۹/۱۵۳، الرقم: ۸۷۷۲، والبيهقي في شعب الایمان، ۲/۸، الرقم: ۱۰۱۳)

☆ عن ثابت قال: قال ابو عثمان النهدي اني لاعلم حين يذكرونى ربي . قالوا: وكيف ذاك؟

قال: ان الله يقول: (فاذكروني اذ كركم) (البقرة: ۲: ۱۵۲) فاذا ذكرت ذكروني .

”حضرت ثابت سے روایت ہے کہ ابو عثمان نہدی نے کہا: مجھے معلوم ہے جس وقت میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) پس جب میں (اسے) یاد کرتا ہوں (تو) وہ مجھے یاد کرتا ہے۔“

(أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، ۱/۲۰۶، الرقم: ۳۵۳۶۷، والبيهقي في شعب الایمان، ۲/۵۱، الرقم: ۱۱۳۸، وأبو نعیم في حلیۃ الاولیاء، ۲/۳۲۳، والمزی فی تہذیب الکمال، ۱۷: ۳۲۸)

کرتا ہوں میں عبادت اے مہربان تیری
گوئی ہے دو جہاں میں جس دم اذان تیری
تو خالق جہاں ہے اعلیٰ ہے شان تیری
ہر سُو نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری
کرتے رہے تجسس وہم وگمان تیری
قائم سدا رہے گی یہ آن بان تیری

رہتی ہے حمد پیہم وردِ زبان تیری
جھوٹے خدا تھے جتنے مسمار ہو گئے سب
یہ آگ خاک پانی تو نے ہی تو بنائے
یہ فرش وعرش وکرسی اقصیٰ وطور وکعبہ
نزدیک رہ کے پھر بھی آیا نہیں نظر تو
اے کرد گارِ عالم! اے کار سازِ رہبر

صوفی رہبر چشتی

جو یہ گمان کرے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا

قال عبد الله بن المبارك: جنت الی سفیان عشية عرفة وهو جاث علی رکتیه وعیناه تھملان، فبکیت، فالتفت الی فقال: ما شانک؟ فقلت: من اسوا هذا الجمع حالا؟ قال: الذی یظن ان الله عزوجل لا یغفر لهم. (أخرج ابن ابي الدنيا فی حسن الظن بالله، ۱/۹۲، الرقم: ۷۸)

”حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عرفہ کی رات حضرت سفیان کے پاس آیا، جبکہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پس میں بھی رو پڑا، تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا بات ہے؟ میں نے کہا: لوگوں کے اس مجمع میں سب سے بد حال شخص کون سا ہے؟ آپ نے کہا: جو یہ گمان

کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں۔“

☆ رؤی مالک بن دینار فی المنام، فقیل له: ما فعل الله بك . قال: قدمت علی ربی عزوجل،

بذنوب كثيرة محاسبا عنی عن حسن ظنی به تعالیٰ . (اخرجه القشیری فی الرسالة: ۱۳۳)

”حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے پاس زیادہ گناہ لے کر پہنچا جن کو اللہ تعالیٰ کے متعلق میرے حسن ظن نے بالکل مٹا دیا۔“

☆ سنل الحارث عن الرجاء، فقال: الطمع فی فضل الله تعالیٰ ورحمته، وصدق حسن الظن

عند نزول الموت . (اخرجه السلمي فی طبقات الصوفیة: ۵۹)

”حضرت حارث رحمہ اللہ سے رجاء کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت میں طمع

کرنا اور موت کے وقت (اللہ کے بارے میں) حسن ظن کا پختہ ہونا۔“

☆ قال أبو حفص رحمه الله: من رأى فضل الله عليه، فى كل حال، ارجو الا يهلك . (ابن: ۱۲۱)

”حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا: جو کوئی یہ گمان کرے کہ اس پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، میں امید کرتا

ہوں کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا۔“

☆ سنل ابو عمرو رحمه الله عن التوكل: فقال: ادناه حسن الظن بالله عزوجل . (ابن: ۳۵۳)

”حضرت ابو عمرو رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا: توکل کا ادنیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے

بارے میں حسن ظن رکھنا ہے۔“

☆ كان مطرف بن عبد الله رحمه الله يقول: اللهم ارض عنا، فان لم ترض فاعف فان المولى

قد يعفو عن عبده، وهو غير راض عنه .

”حضرت مطرف بن عبد اللہ رحمہ اللہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ! ہم سے راضی ہو جا اگر تو راضی نہ ہو تو معاف فرما کیونکہ

کبھی مالک راضی نہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کو معاف کر دیتا ہے۔“ (اخرجه اشعرائی فی الطبقات الکبریٰ: ۵۳)

تری ہستی ہے پھر بھی ماورائے فکر انسانی

زمیں سے آسمان تک ہے ترے جلوؤں کی تابانی

جہاں بحر و بر پر ہے مسلم تیری سلطانی

بغیر اذن اک پتہ بھی جنبش کر نہیں سکتا

نہیں تیرا کوئی ہمسر نہیں تیرا کوئی ثانی

تو اپنی ذات میں واحد تو اپنی ذات میں یکتا

تجھے ہی زیب دیتی ہے دو عالم کی جہاں بانی

ترے ہی قبضہ قدرت میں موجودات عالم ہیں

طفیل ہوشیار پو

تکبر صرف خدا ہی کو زیبا ہے

عن ابی سعید الخدری و ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز ازاره والكبرياء

رداؤہ فمن يناز عني عذبتہ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: عزت میرا ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے۔ پس جو (مجھ سے مقابلہ اور جھگڑا کرتا ہے) مجھ سے کھینچتا ہے میں اسے عذاب دیتا ہوں۔

(مسلم، کتاب البر والصلة والآداب: باب تحریم الکبر (۲۶۲۰) لأدب المفرد للبخاری (۵۵۲) تحفة الأشراف (۳۹۶۷)

☆ عن ابی ہریرة قال ہناد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عزوجل الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن ناز عني واحدا منهما قذفته فی النار .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے فرمایا: تکبر میری چادر (اوپر اوڑھنے کی) ہے اور عظمت میرا ازار (تہمند اور نیچے باندھنے کی چادر) ہے۔ پس جو مجھ سے ان میں سے ایک بھی کھینچتا اور چھینتا ہے میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ (ابوداؤد، کتاب اللباس: باب ماجاء فی الکبر: ۳۵۶۷)

☆ عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ سبحانہ الکبریاء ردائی والعظمة ازاری من ناز عینی واحدا منهما القیتہ فی جہنم .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے: تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو مجھ سے ان میں سے ایک بھی کھینچتا اور چھینتا ہے میں اسے جہنم میں پھینک دیتا ہوں۔

(ابن ماجہ، کتاب الزہد: باب البراءة من الکبر والتواضع (۴۱۷۳) ابوداؤد، کتاب اللباس: باب ماجاء فی الکبر (۴۰۹۰)

☆ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ سبحانہ الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن ناز عني واحدا منهما القیتہ فی النار .

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، ”پس جو مجھ سے ان میں سے ایک بھی کھینچتا ہے میں اسے آگ میں پھینک دیتا ہوں۔“

(ابن ماجہ، کتاب الزہد: باب البراءة من الکبر والتواضع (۴۱۷۵) صحیح ابن ماجہ (۳۳۶۵)، (۳۳۶۶) سلسلۃ الأحادیث الصحیحہ (۵۴۱)

یاد رہے! انسانوں میں تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ یہی وہ گناہ ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے ہوا تھا اور جس کی وجہ سے ابلیس لعین و مردود ٹھہرا تھا جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لئے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا (الا ابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین) (البقرہ: ۳۴)“ مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔“ تکبر سے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بھی منع فرمایا ہے کہ (ولا تمش فی الارض مرحاً.....) (بنی اسرائیل: ۳۷) ”اور زمین میں اٹھ کر نہ چل، کیوں کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔“

تکبر کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ (القصص: ۸۱)

ایک حدیث میں ہے کہ (لا یدخل الجنة من كان فی قلبه مثقال ذرة من کبر) ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔“ (مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص دو چادریں لٹکائے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ (مسلم، کتاب اللباس، باب تحریم، التبخر فی الممشی) لہذا تکبر سے بچنا چاہئے اور تواضع اختیار کرنی چاہئے۔

نورِ خدا کو عام کریں	ہم نہ کبھی اظلام کریں
ہم ہر راہ ہدایت کو	سب برطشت ازبام کریں
مرضی خالق پانے کو	خدمت خلق کو عام کریں
یادِ خدا و یادِ نبی	ہم لزام دوام کریں
الحمد کہیں ہر نعمت پر	شکر ترانے عام کریں
اللہ راضی کرنے کو	راتوں میں بھی قیام کریں

میرے افکار میں الفاظ میں اشعار میں تو

سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اہل محبت (یعنی اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) کے لئے عبادت کی دروازہ خاص کر دیا جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جب مخلوق سو جاتی ہے تو وہ ان کو اپنے دروازے کی طرف لے آتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں قیام و سجود میں رات بسر کرتے ہیں۔ وہ رات کے ابتدائی حصے میں کتنے اچھے انداز میں عبادت کرتے ہیں اور آخری حصے میں کتنے پیارے انداز میں نادم ہوتے ہیں۔ اگر تو ان کو دیکھے گا تو اس حال میں پائے گا کہ ان کے لئے دروازے کھول دیئے گئے اور پردے ہٹا دیئے گئے اور انہیں ذاتِ الہی کے مشاہدے کا انعام عطا کیا گیا۔

رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں

پلا جام ایسا پلا یا الہی

(جل جلالک وعم نوالک وعز اسمک واعظم شانک واتم برهانک وجل ذکرک ولا الہ غیرک)

چاند تاروں میں تو پھول میں تو خار میں تو	تو پس ظلمت شب صبح کے انوار میں تو
ازسمک تابہ فلک تیرے ہی جلوے ہر سو	ریگ صحرا میں بھی تو شمس طرحدار میں تو
تو خداوند ہے خالق ہے ہر اک شے کا تو ہی	جلوہ گر آپ ہے خود اپنے ہی شاہکار میں تو
تو دعاؤں میں نغاں میں تو مناجات میں تو	گریہ شب میں ہے آہ دل بیمار میں تو
تو نے مسجد ملائک کیا انسان کو مگر	آج گننام ہے خود کوچہ و بازار میں تو
تو ہے پردے میں تو اصنامِ خدا بن بیٹھے	اور محصور ہوا سب وزنار میں تو

اپنا عابد کیا مجھ پر یہ کرم ہے تیرا میری افکار میں الفاظ میں اشعار میں تو

(پروفیسر سید عابد میر قادری سلطانی برہانپوری)

بشکریہ ماہنامہ آستانہ کراچی ج 19 - شماره 6، ماہ جون 2012ء

فرشتوں پہ جلال باری تعالیٰ کا غلبہ

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفیان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله امرا فى السماء ضربت الملائكة اجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير فسمعها مسترقو السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقونها الى من تحته قربما ادركه الشهاب قبل ان يلقوها الى الذى تحته فيلقونها على لسان الكاهن والساحر فربما لم يدرك حتى يلقوها فكذب معها مائة كذبة فتصدق تلك الكلمة التى سمعت من السماء. (ابن ماجه شريف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ آسمان میں کوئی حکم فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز اس طرح کی ہوتی ہے گویا ایک زنجیر ہے جسے کوئی پتھر پر چلا رہا ہے۔ جب یہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے تو آپس میں سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اس نے سچ فرمایا جو اونچی ذات والا اور بڑائی والا ہے۔ اللہ اور فرشتوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو کچھ شیاطین چوری کر لیتے ہیں اور نیچے والوں کی طرف اسے پہنچاتے ہیں۔ کبھی تو نیچے پہنچنے سے قبل ہی انہیں شعلہ جلا دیتا ہے کبھی شعلہ نہیں لگتا تو وہ جادو کرنے والے شخص کو بتا دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سن نہیں پاتے بلکہ اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر جادوگر کو بتاتے ہیں۔ پس ایک وہی بات سچی ہوتی ہے جو انہوں نے آسمان سے سنی تھی۔

وہی ہے سب سے بالا سب سے عالی
اسی نے چرخ پر تارے سجائے
زمین و آسمان کون و مکاں میں
بہت ہیں اس کے احسانات ہم پر
ہمیشہ اس کے آگے سر جھکاؤ

خدا کی شان ہے سب سے زالی
اسی نے چاند اور سورج بنائے
وہی ہے جلوہ گر دونوں جہاں میں
کرم کرتا ہے وہ دن رات ہم پر
سرور اتنا کہا تم مان جاؤ

سرور بجنوری

ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی (صلی اللہ علیہ وسلم)

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابى ووكيع ح وحدثنا على بن محمد حدثنا خالى يعلى

ووکیع و ابو معاویة قالوا حدثنا اسمعيل بن ابی خالد عن قيس بن ابی حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب .

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تم پر صبح کی نماز یا مغرب کی نماز ادا کرنے میں شیطان غالب نہ آئے (یعنی اسے قضا نہ کرو) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (اپنے رب کی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کر۔) (ق: ۳۹)

☆ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن عيسى الرملى عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم چودھویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے فرمایا اسی طرح قیامت کے دن تم اللہ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہ کرو گے۔

☆ حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن ابی صالح السمان عن ابی سعيد قال قلنا يا رسول الله انرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا قال انكم لا تضارون في رؤيته الا كما تضارون في رؤيتهما .

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ٹھیک دوپہر کے وقت بغیر بادل کے سورج کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم چودھویں رات میں بغیر بادل کے چاند کو دیکھنے میں کوئی آڑ محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! نہیں، آپ نے فرمایا تم جیسے نہیں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے ایسے ہی اللہ کے دیدار میں تمہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔

☆ حدثنا ابو بكر بن ابی شيبة حدثنا يزيد بن هارون انبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حذس عن عمه ابی رزين قال قلت يا رسول الله انرى الله يوم القيامة وما اية ذلك لي

خلقه قال يا ابا رزين اليس كلکم يرى القمر مغليا به قال قلت بلى قال فالله اعظم وذلك اية في

خلقه

حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر سکیں گے اور اس کی کیا نشانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تم چاند کو صاف طرح سے نہیں دیکھتے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا اللہ تو بہت بلند ہے اور یہ چاند اس کی مخلوق میں اس کے دیدار کی نشانی ہے۔

ہم نے کیا کیا عزت پائی	اپنا خدا ہے اپنی خدائی
اشرف انسانوں کو بنایا	تابع حیوانوں کو بنایا
پھولوں میں رس خوشوں میں دانے	سب کچھ بخشا ہم کو خدا نے
دریا، جنگل یا پھلوااری	دنیا کی ہر چیز ہماری
خالق رازق ہے وہ ہمارا	لازم شکر ہے سرور اس کا

سرور بجنوری

حسنى اور زيادہ کیا ہے؟

حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين احسنوا الحسنی وزيادة وقال اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار نادى مناد باهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون وما هو الم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر يعنى اليه ولا اقر لا عنهم

صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: للذين احسنوا الحسنی وزيادة (یونس: ۲۶) ”اور نیکیاں کرنے والوں کے لئے اور بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔“ اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو! اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے جسے اب وہ پورا کرنا چاہتا ہے اہل جنت کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کو بھاری نہیں فرمایا، کیا ہمارے چہرے روشن نہیں فرمائے، کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جہنم سے رہائی نہیں عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں سے پردہ اٹھا دے گا۔ جنت والے اسے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم! اللہ نے نہ تو اس سے زیادہ پیاری چیز ان کو عطا کی ہوگی اور نہ اس سے زیادہ کسی چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس الاشعري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة انتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الي ربهم تبارك وتعالى الا رداء الكبريا على وجهه في جنة عدن .

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو جنتیں ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے چاندی کا ہے اور دو جنتیں ہیں جن کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سونے کا ہے اور اللہ کے دیدار میں لوگوں کے لئے کوئی رکاوٹ نہ بنے گی۔ سوائے اس کے کہ اللہ کے چہرہ اقدس پر کبریائی کی چادر پڑی ہوگی اور یہ دیدار جنت عدن میں ہوگا۔

اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں
دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں
ہٹا جو در سے سکوں پھر اسے ملا ہی نہیں
تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں

تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں
نہ ہو جو جذب کی تاثیر تو ثنا ہی نہیں
جھکا جو در پہ تیرے پا گیا سکون حیا
کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری

اللہ کا سلام کیا ہوگا؟

حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا ابو عاصم العباداني حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رء وسهم فاذا الرب قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنة قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم قال فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنی نعمتوں سے لذت حاصل کرنے میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا وہ اپنے سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا اے جنت والو! تم پر سلامتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سلام قولا من رب رحیم (یسین: ۵۸) اہل جنت اس کی طرف دیکھیں گے اور وہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اس دیدار کے وقت اہل جنت کی کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پردہ میں ہو جائے گا اس کا نور اور برکت باقی رہ جائے گی۔

☆ حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الاعمش عن عيشمة عن عدی ابن حاتم قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه بينه وبينه ترجمان فينظر
عمن ايمن منه فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر من ايسر منه فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر امامه
فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں
جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا۔ آدمی اپنی داہنی طرف
دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا تو بھی یہی کچھ پائے گا جو اس نے آگے
بھیجا۔ پھر اپنے آگے دیکھے گا تو آگ یعنی دوزخ پائے گا تو جو شخص تم میں سے آگ سے بچ سکتا ہو اسے آگ سے بچنا
چاہئے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے کر ہی سہی۔ (ابن ماجہ شریف)

مالك الملك لا شريك له وحده لا اله الا هو
صوفيا گر بهشت می طلبند ذکر شان لا اله الا هو
شمس تبرین گر خدا طلبی خوش بخوان لا اله الا هو

اللہ تعالیٰ ضحک فرماتا ہے

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون انبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن
وكيع بن حدس عن عمه ابي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط
عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب قال نعم قلت لن نعدم من رب
يضحك خيرا

حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ ان بندوں پر ہنستا ہے جو
اس سے ناامید اور غیر اللہ کے قرب کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اللہ بھی
ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے کہا ہم نیکی کو کبھی نہ چھوڑیں گے تاکہ وہ نیکی پر (اپنی شان کے مطابق) ہنسی کرتا
رہے۔

دیدار خدا ملا خدائی پائی جو بات کسی نے بھی نہ پائی ہم نے پائی
پہنچے ہوئے پہنچے نہ جہاں تک مولیٰ تھا کہ وہاں ”ہم“ نے رسائی پائی

(خلیل الدین حسن حافظ پیل بھتی)

اللہ تعالیٰ تین کاموں سے خوش ہوتا ہے

حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن اسمعيل عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي
سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليضحك الي ثلاثة للصف في

الصلوة ويدر رجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل اراه قال خلف الكتيبة (ابن ماجه)
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ (۱) نماز کی صف سے (۲) اس شخص سے جو آدھی رات کو نماز پڑھ رہا ہو، (۳) اس شخص سے جو لشکر کے بھاگ جانے کے باوجود لڑتا ہو۔

☆ حدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یضحک الی رجلین یقتل احدهما الاخر کلاهما
دخل الجنة یقاتل هذا فی سبیل اللہ فیستشهد ثم یتوب اللہ علی قاتله فیسلم فیقاتل فی سبیل اللہ
فیستشهد. (ابن ماجه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے۔ جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہوئے۔ ایک اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کے قتل کرنے والے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔

☆ حدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ و محمد بن الصباح قالا حدثنا یزید بن ہارون انبانا حماد بن
سلمۃ عن یعلی بن عطاء عن وکیع بن حدس عن عمہ ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ! ان کان
ربنا قبل ان یخلق خلقہ قال کان فی عماء ما تحته ہواء وما فوقہ ہواء ثم خلق عرشہ علی
الماء (ابن ماجه)

حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارا رب مخلوق پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ (اپنی شان کے مطابق) ایک بادل میں تھا جس کے نیچے بھی ہوا تھی اور اس کے اوپر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش پیدا فرمایا۔

تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا	تیری شان جل جلالہ
تو ہی ہر بشر کا ہے مدعا	تیری شان جل جلالہ
ہے عیاں بھی تو ہے نہاں بھی تو	ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو
کہ تو ہی تو اپنا ہے خود پتا	تیری شان جل جلالہ
تو ہی رب ہے تو ہی کریم ہے	تو قدر ہے تو رحیم ہے
تو ہی ہے خدا تو ہی کبریا	تیری شان جل جلالہ
تیری حمد ہو سکے کیا بیاں	کہ تو ہی ہے خالق این وآن

تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا
تیری کنہ کوئی نہ پاسکا
تیری شان جل جلالہ
ہوا پست عقل کا حوصلہ
تیری شان جل جلالہ
کہ ہے عقل کی تو بساط کیا

اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ سرگوشی

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمرو وهو يطوف بالبیت اذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول يا رب اعرف حتى اذا بلغ منه ما شاء الله ان يبلغ قال انى سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم قال ثم يعطى صحيفة حسناته او كتابه بيمينه قال واما الكافر والمنافق فينادى على رءوس الاشهاد قال خالد في الاشهاد شىء من انقطاع هولاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين .

حضرت صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے عمر کے بیٹے! آپ نے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنی ہے جو آپ نے سرگوشی کے بارے میں بیان فرمایا: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بولے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے اللہ کے قریب ہوگا۔ یہاں تک اللہ اس سے اپنے حجاب دور فرما دے گا اور وہ پوچھے گا کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یہاں تک کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ اقرار لیتا رہے گا۔ پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تیری ان تمام باتوں کو چھپایا اس لئے میں آج بھی تجھے بخش دیتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے اس کی نیکیوں کا صحیفہ دے گا۔ کافروں اور منافقوں کا تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا اور اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر۔

نہیں خلق ہی میں یہ غلغلہ
سر عرش بھی ہے لکھا ہوا
تیری ذات مالک کن فکاں
تیرے در پہ شاہ بھی ہے گدا
تیری شان جل جلالہ
میرے گڑے کام سنوار دے
تیری شان جل جلالہ
میرے دل کو صبر و قرار دے

مجھے ہے تیرا ہی اک آسرا تیری شانِ جل جلالہ
 ہے امیر اس میں بھی اک مزہ کہ شہود و غائب ہیں ایک جاں
 ہے عجیب جملہ رویف کا تیری شانِ جل جلالہ

ذاتِ مصطفیٰ کے لئے خدا تعالیٰ کی جلوہ گری - بزبانِ مصطفیٰ ﷺ

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانى الليلة ربي تبارك وتعالى في احسن صورة قال احسبه قال في المنام فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملائكة الاعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي او قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الارض قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملائكة الاعلى قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشى على الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته امه وقال يا محمد اذا صليت فقل اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضيني اليك غير مفتون قال والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلة بالليل والناس نيام .

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب حسین ترین صورت میں میرے پاس تشریف لایا۔ (اپنی شان کے مطابق) فرمایا: میرا خیال ہے کہ نیند میں حدیث میں اسی طرح ہے۔
 فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ جانتے ہیں بلاءِ اعلیٰ (بلند مقرب فرشتوں کی جماعت) کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ فرمایا: میں نے کہا، نہیں۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک سینے پر محسوس کی۔ پس میں نے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز معلوم کر لی۔ پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ جانتے ہیں کہ بلاءِ اعلیٰ کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، گناہوں کا کفارہ بننے والے عملوں میں اور کفارات یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجدوں کی طرف چلنا اور نماز کی جماعتوں کی طرف پیدل چل کر جانا اور ناپسندیدگی کے باوجود وضوء مکمل کرنا اور جس نے ایسا کیا خیر کی زندگی گزارتا ہے اور خیر پر مرے گا اور غلطیوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ نماز پڑھ لیں تو یوں کہا کریں اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور اے اللہ! جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر فوت کر دینا اور درجات اور بلند یوں کا سبب بننے والے کاموں کے متعلق فرمایا کہ یہ ہیں: سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو راتوں کو نماز پڑھنا۔ (ترمذی، کتاب تفسیر القرآن: باب من سورۃ ص (۲۲۳۳))

لفظوں میں کیا بیاں ہو وصف و کمال تیرا ہر شے سے ہے نمایاں حسن و جمال تیرا

حکمت کے موتیوں سے بھرپور بات تیری جو ذات سب سے اعلیٰ و ایک ذات تیری
راتوں میں رنگ تیرا دن میں بھی تیرے جلوے شام و سحر بھی دیکھے ان میں بھی تیرے جلوے
حدیثوں سے باہر دنیا کو نعمتیں دیں
جو دے سکے نہ کوئی ہم کو وہ راحتیں دیں

(مسرور کیفی)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو ہر آواز کو سنتا ہے

حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویة حدثنا الاعمش عن تمیم بن سلمة عن عروة بن الزبیر
عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة الى النبي صلى الله
عليه وسلم وانا في ناحية البيت تشكو زوجها وما اسمع ما تقول فانزل الله قد سمع الله قول التي
تجادلك في زوجها. (ابن ماجه)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ہر آواز کو سنتا ہے۔ ایک
عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر کے کونے میں بیٹھی
تھیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی جسے میں سن نہ سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو اللہ نے
یہ آیت نازل کی ”بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں
تکرار کر رہی تھی۔“ (المجادلہ: ۱)

دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے
لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ سو نشانوں میں بے نشان تو ہے
تو ہی خلوت میں تو ہی جلوت میں کہیں نہاں کہیں عیاں تو ہے
نہیں تیرے سوا یہاں کوئی ”تو ہی مالک ہے مہرباں تو ہے“
رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو ”باغبان“ تو ہے
نہ مکاں میں نہ لا مکاں میں کچھ جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے
محرم راز تو بیت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے

حضور علیہ السلام کے دل میں رب کی بات پہچاننے کا جذبہ

حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائیل عن عثمان یعنی المغیرہ الثقفی عن
سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد الله قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه
على الناس في الموسم فيقول الارجل يحملني الى قومه فان قریشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے موسم میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے کوئی ایسا مرد نہیں جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے تاکہ میں اپنے رب کی بات کو پہنچاؤں بے شک قریش مجھے اپنے رب کی بات پہنچانے سے روکتے ہیں۔ (ابن ماجہ شریف)

دین کے واسطے ٹھکرا دیئے زر کے ٹکڑے اور کر ڈالے اشارے سے قمر کے ٹکڑے
کیا کہوں آپ کی اعجاز نمائی کا اثر مشیت بوجھل میں بواٹھے حجر کے ٹکڑے

اللہ تعالیٰ کی پانچ شانیں

حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویة عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابی عبیدة عن ابی موسی قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا ینبغی له ان ینام یخفض القسط ویرفعه یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل حجابه النور لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اللہ تعالیٰ کی شان میں) پانچ باتیں ارشاد فرمائیں۔

(۱) ان اللہ لا ینام ولا ینبغی له ان ینام

بے شک اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی سونا اس کی شان کے لائق ہے۔

(۲) یخفض القسط ویرفعہ۔ میزان کو پست و بلند فرماتا ہے۔

(۳) یرفع الیہ عمل النہار قبل عمل اللیل وعمل اللیل قبل عمل النہار

دن میں ہونے والے اعمال رات سے پہلے اور رات میں ہونے والے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔

(۴) حجابه النور۔ اس کا پردہ نور ہے۔

(۵) لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ۔

اگر وہ اس پردے کو اٹھا دے تو اپنے سامنے کی تمام اشیاء کو جلادے جہاں تک بھی مخلوق پر اس کی نگاہ پہنچے۔

(ابن ماجہ شریف حدیث نمبر ۱۹۵)

إِلٰهِي كَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنَا عَاصٍ وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ

اے اللہ میں تجھ سے کیسے مانگوں کیونکہ میں خطاوار ہوں

اور تجھ سے کیسے نہ مانگوں جب کہ تو کریم ہے

حَبِيبٌ لَيْسَ بَعْدَهُ حَبِيبٌ وَمَا لِي سِوَاهُ فِى قَلْبِي نَصِيبٌ

حَيْبٌ غَائِبٌ عَنْ بَصَرِي وَشَخِصِي
وَلَكِنْ عَنْ فَوَادِي لَا يَغِيبُ

میرا محبوب وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا محبوب نہیں
میرے دل میں کسی دوسرے کے لئے کوئی جگہ نہیں
اگرچہ میرا محبوب میری ظاہر نگاہوں سے غائب ہے
لیکن میرے دل کی آنکھوں سے تو غائب نہیں

مشائخ فرماتے ہیں من غمص عينه عن الله تعالى طرفة عين لم يصل الى مقصوده
جس نے ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے نگاہ ہٹالی وہ اپنے مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔

یک چشم زدن غافل از آن شاه نہ باشی
شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہ باشی

ابن ماجہ کی اگلی روایت میں ہے کہ پھر حضرت ابو عبیدہ (اس حدیث کے ایک راوی) نے یہ آیت تلاوت کی: ان بورك من
فی النار ومن حولها وسبحن الله رب العالمين . برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں
پاک ہے اس کو جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ (القرآن: ۲۷-۸، حدیث نمبر ۱۹۶)

تو ہی رحمن ہے رحیم ہے تو	میرے مولیٰ بڑا کریم ہے تو۔
انجمن انجمن تیرے جلوے	بوئے گل ہے کہیں شمیم ہے تو
ہر کوئی سرنگوں ہے تیرے حضور	ہر شہنشاہ سے عظیم ہے تو
دور ہے آنکھ کی رسائی سے	اور دلوں میں سدا مقیم ہے تو
ہے ترے پاس سب حساب عمل	کاتب و محرم و منیم ہے تو
تری رحمت کا کوئی حد نہ شمار	اور کرم گسترو حلیم ہے تو
تجھ سے پوشیدہ کب عمل ہے کوئی	سب تجھے علم ہے علیم ہے تو
صابری، پرخطا ترا بندہ	طالب فضل ہے، رحیم ہے تو

(محمد علی صابری)

ہر لمحہ اللہ کی نرالی شان

حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوزير بن صبيح حدثنا يونس بن حليس عن ام الدرداء عن ابي
الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شان قال من شان ان يغفر
ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض اخرين . (ابن ماجه)
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا:

کل یوم ہو فی شان (الرحمن: ۲۹) ”ہر لمحہ اس کی شان نرالی ہے۔“ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ کسی کے گناہ بخشا ہے اور سختی کو دور کر دیتا ہے کسی قوم کو اونچا اور دوسری کو نیچا کرتا ہے۔

☆ حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت ابا ادریس الخولانی يقول حدثنی النواس بن سمران الکلابی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ما من قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء ازاغه وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک قال والمیزان بید الرحمن یرفع اقواما ویخفض اخرین الی یوم القیامة . (ابن ماجہ)

حضرت نواس بن سمران حلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں نہ ہو چاہے تو اسے سیدھا رکھے چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ”اے دلوں کے مثبت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔“ اور فرمایا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کئی قوموں کو اونچا کرتا ہے اور کئی قوموں کو قیامت تک نیچا کرتا رہے گا۔

أَنْتَ أَنْسَى وَهَمَّتِي وَسُرُورِي
يَا عَزِيزِي وَهَمَّتِي وَمُرَادِي
لَيْسَ سُؤَالِي مِنَ الْجَنَانِ نَعِيمٌ
قَدْ أَبَى الْقَلْبُ أَنْ يُحِبَّ سِوَاكَ
طَالَ شَوْقِي مَتَى يَكُونُ لِقَاكَ
غَيْرَ أَنِّي أُرِيدُ لِقَاكَ

تو ہی میرا پیارا، میرا محبوب اور میری خوشی ہے۔ اے پیارے میرے مقصود و مراد میرا شوق لمبا ہو گیا، میری ملاقات تجھ سے کب ہوگی، میرا سوال تجھ سے جنت کی نعمتوں کا نہیں ہے بلکہ میں تو تیری ملاقات چاہتا ہوں۔

اے در دل من اصل تمنا ہمہ توئی
ہر چند بہ روز گار درمی نگریم
اے در سر من مایہ سودا ہمہ توئی
امروز ہمہ توئی کہ فردا ہمہ توئی

حضرت جابر کے باپ کے ساتھ رب کا معاملہ

حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم احد لقنى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا جابر لا اخبرك ما قال الله لا بیک وقال یحیی فی حدیثه فقال یا جابر ما لی اراک منكسرا قلت یا رسول الله استشهد ابی وترک عیالا وديننا قال افلا ابشرك بما لقی الله به اباک قال بلی یا رسول الله قال ما کلم الله احدا قط الا من وراء حجاب و کلم اباک کفاحا فقال یا عبدی تمن علی اعطک قال یا

رب تحیننی فاقتل فیک ثانیة فقال الرب سبحانہ انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون قال یا رب
فابلغ من ورائی قال فانزل اللہ تعالیٰ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند
ربہم یرزقون۔ (ابن ماجہ)

حضرت جابر عبد اللہ بن رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن شہید ہوئے تو میرے پاس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے جابر رضی اللہ عنہ کیا میں تمہیں اس بات کے بارے
میں نہ بتاؤں جو اللہ نے تیرے باپ سے کہا۔ یحییٰ نے اپنی روایت میں کہا کہ اے جابر رضی اللہ عنہ میں تجھے غم زدہ
حالت میں دیکھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے باپ شہید ہو گئے اور
انہوں نے بہت بچے اور قرض چھوڑا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اس بات کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ نے
تمہارے باپ سے ملاقات کے وقت کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیوں نہیں،
آپ نے فرمایا اللہ نے پردے کے بغیر کسی سے کلام نہیں کیا، لیکن تمہارے والد سے بغیر پردے کے گفتگو کی اور فرمایا:
اے میرے بندے تجھے کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے پھر زندہ کر دے اور میں دوبارہ تیرے
راستے میں شہید ہو جاؤں تو اللہ نے فرمایا یہ بات پہلے ہماری طرف سے لکھی جا چکی ہے کہ لوگوں کو دنیا کی طرف دوبارہ
واپس نہ بھیجا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ! تو پھر جو میرے بعد میں آئیں گے انہیں میری طرف سے یہ پیغام
پہنچا دے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی ”اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو ہرگز مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ
ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق دیئے جاتے ہیں۔“ (آل عمران: ۱۶۹)

قریب رہتے ہیں میرے لیکن حسن رخ پر نقاب لے کر
کبھی فی انفسکم ہیں کہتے ہیں جان سے بھی قریب رہتے
کہا جو میں نے دکھاؤ صورت تو بولے یس کملہ پڑھ
جہاں ہوں میں اور تو کی باتیں جنوں ہے ان کو وہاں جو ڈھونڈیں
خود اپنی ہستی کو جو مٹائے مٹا کر ہستی اسی کو پائے
کہا جو میں نے کہ پیش ہوں تو بولے رہنے کے ہے وہ قابل؟
جو پوچھا تیرا نظارا کب ہو کہا کہ تم باکمال جب ہو
کہا جو میں نے کہ جان دوں گا وہ بولے ہے جان مال کس کا؟
یہ نار ہجراں بجھے گی کیسے کہا کہ بس تیرے آنسوؤں سے
یہ نیز آخر ہے تیرا بندہ ہے تو ہی ملجاؤ و ماوے اس کا

وہ لاکھ پردوں میں بھی ہیں ظاہر حجاب بھی بے حساب لے کر
کلیم ایمن سے لوٹ آئے ہیں لن ترانی جواب لے کر
مگر دکھائیں گے تم کو جلوہ بہشت میں پر حساب لے کر
تم آؤ اپنی خودی مٹا کر اور اپنی حالت خراب لے کر
بقا کا شربت اسے ملے جو فنا کی آئے شراب لے کر
جلاؤ تم آگ الاہو کی اور آؤ دل کے کباب لے کر
تم آؤ قلب صفا کا تحفہ یقین کی راہ صواب لے کر
میں بحر وحدت میں آ گیا ہوں یہ جان مثل حباب لے کر
عطا ہو پھر چشم تر بھی مجھ کو بجھاؤں اشکوں کا آب لے کر
وہ سن کے لا تقنطوا کا مرثدہ تو آیا بار عذاب لے کر
(مولانا اللہ بخش نیز)

پھر اس کے اوپر بڑی برکت و شان والا اللہ ہے

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن ابى ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبدالمطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر اليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قال ابوبكر قالوا والعنان قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا لاندرى قال فان بينكم وبينها اما واحدا او اثنين او ثلثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحرا بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء ثم فوق ذلك ثمانية اوعال بين اظلافهن وركبهن كما بين سماء الى سماء ثم على ظهورهن العرش بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى . (ابن ماجه)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گروہ کے ساتھ بطحاء (مکہ مکرمہ) میں تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے تھے کہ ایک بادل گزرا آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اسے کس نام سے پکارتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ”سحاب“ یعنی بادل، آپ نے فرمایا: اسے ”مزن“ بھی کہتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں! مزن بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ”عنان“ بھی کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا عنان بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اور اس کے درمیان اکہتر یا بہتر یا تہتر سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سات آسمان گنے اور فرمایا کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک دریا ہے اس کا اوپر والا کنارہ نیچے سے اتنا ہی دور ہے جتنا ایک آسمان دوسرے آسمان سے دور ہے۔ پھر اس کے اوپر آٹھ فرشتے ہیں جن کے پاؤں اور گھٹنوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ جتنا دو آسمانوں کے درمیان پھر ان کی پیٹھوں پر عرش ہے جس کے اوپر والے کنارے کا نیچے والے کنارے سے اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے اوپر بڑی برکت والا اور اونچی شان والا ہے۔

(ابن ماجہ شریف کی یہ تمام احادیث باب فیما انکرت الجہمیۃ سے لی گئی ہیں)

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

مخلصین یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات۔ بزبانِ مصطفیٰ ﷺ

عن سهل بن حنيف رضى الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سال الله الشهادة

بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وان مات على فراشه .

”حضرت سهل بن حنيف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ سے

صدقِ دل کے ساتھ شہادت (کی موت) طلب کی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا فرمائے گا خواہ اسے بستر پر ہی موت (کیوں نہ) آئی ہو۔“

(أخرج مسلم في الصحيح، كتاب: الامارة، باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، ۳/۱۵۱۷، الرقم: ۱۹۰۸-۱۹۰۹، وأبو داود في السنن، كتاب: الوتر، باب: في الاستغفار، ۲/۸۵، الرقم: ۲، والنسائي في السنن، كتاب: الجهاد، باب: مسألة الشهادة، ۶/۳۶، الرقم: ۳۱۶۲، وابن ماجه في السنن، كتاب: الجهاد، باب: القتال في سبيل الله، ۲/۹۳۵، الرقم: ۲۷۹۷)

☆ عن أبي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريك، الي ما لا يريك، فان الصدق طمانينة، وان الكذب ريبة. (رواه الترمذي والنسائي، وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد)

”حضرت ابو محمد حسن بن علي رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد (آج بھی) یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شک و شبہ والی چیز چھوڑ کر شک سے پاک چیز کو اختیار کر، بیشک سچ سکون اور جھوٹ شک و شبہ ہے۔“

(أخرج الترمذي في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ۲۰، الرقم: ۲۶۸، والنسائي في السنن، كتاب: لأثرية، باب: الحنف على ترك المشبهات، ۸/۳۲۷، الرقم: ۵۷۱۱، والدارمي في السنن، ۲/۳۱۹، الرقم: ۲۵۳۲، وابن حبان في الصحيح، ۲/۳۹۸، الرقم: ۷۲۲، والحاكم في المستدرک، ۲/۱۵، الرقم: ۲۱۶۹)

☆ عن انس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده، وعبادته لا شريك له، واقام الصلاة، وابتاء الزكاة، مات. والله عنه راض (رواه ابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد)

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ و وحدہ لا شریک کے لئے کامل اخلاص پر اور بلا شریک اس کی عبادت پر، نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر ہمیشہ عمل پیرا رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا اس کی موت اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔“

(أخرج ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في الايمان، ۱/۲۷، الرقم: ۷۰، والحاكم في المستدرک، ۲/۳۶۲، الرقم: ۳۲۷۷، والبيهقي في شعب الايمان، ۵/۳۳۱، الرقم: ۶۸۵۶، والمقدسي في لأ حاديث البخارة، ۶/۱۲۶، الرقم: ۲۱۲۲، وروية الله الكلائی في اعتقاد أهل السنة، ۳/۸۳، الرقم: ۱۵۳۹)

مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں ہو کے مست تمہارے جمال میں
تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں
خدارا سوئے مشتاقاں نگاہے پیانے گر نہ باشد گاہے گاہے
نگاہے کن کہ امید از کہ دارم کہ دارم از تو امید نگاہے

جس کام سے اللہ کی رضا مندی مقصود ہو

☆ عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له فاعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له ثم قال: ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه.

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ اگر کوئی شخص لالچ اور طمع کی خاطر یا نام آوری کے لئے جہاد کرے تو اسے کیا ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا بعد ازاں اس شخص نے یہی سوال تین دفعہ کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب عنایت فرمایا! اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا، بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لئے ہو اور اسے کرنے سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو۔“

(أخرج النسائي في السنن، كتاب: الجهاد، باب: من غزا يلتمس لأجر والذكر، ۲/۲۵، الرقم: ۳۱۳۰، وفي السنن الكبرى، ۳/۱۸، الرقم: ۴۳۳۸، والطبرانی في المعجم الكبير، ۸/۱۳۰، الرقم: ۷۶۲۸، وابن رجب الحنبلي في المسند، ۱/۱۶)

☆ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حين بعته الى اليمن: يا رسول الله، اوصني، قال: اخلص دينك، يكفك العمل القليل. (رواه الحاكم واللفظ له والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الاسناد)

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین میں اخلاص پیدا کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔“

(أخرج الحاكم في المستدرک، ۴/۳۳۱، الرقم: ۷۸۳۳، والبيهقي في شعب الایمان، ۵/۳۳۲، الرقم: ۶۸۵۹، والمنذري في الترغيب والترهيب، ۱/۲۲، والديلمی في مسند الفردوس، ۱/۳۳۵، الرقم: ۱۷۷۲)

☆ عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين اولئك مصابيح الهدى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. رواه ابن ابى شيبه والبيهقي واللفظ له.

”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اخلاص سے کام کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے۔ یہ لوگ چراغِ ہدایت ہیں، ان کے ذریعے ہر سیاہ فتنہ چھٹ جاتا ہے۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے مذکورہ الفاظ بیہقی کے ہیں۔

(أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، ۱۰۰/۷، الرقم: ۳۳۹۷، والبيهقي في شعب الایمان، ۳۳۳/۵، الرقم: ۶۸۶۱، وأبو نعیم في حلیة لأولیاء، ۱۶/۱، والمنذری في الترغیب والترہیب، ۲۳/۱)

☆ عن منصور بن المعتمر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تحروا الصدق وان رايتم فيه الهلكة فان فيه النجاة .

”حضرت منصور بن معتمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سچ بولو اگرچہ اس میں تمہیں ہلاکت نظر آئے (کیونکہ) نجات اسی میں ہے۔“

(أخرج ابن أبي الدنيا في الصمت، ۲۲۷/۱، الرقم: ۳۳۶، والمنذری في الترغیب والترہیب، ۳۶۵/۳، الرقم: ۳۳۳۲، وأبو بكر القرشي في مكارم الأخلاق، ۵۱/۱، الرقم: ۱۳۷، والنادی في فیض القدر، ۲۳۲/۳)

بجز از وصل ہر چیزے فضول است	ز صد دنیا مرا وصلے قبول است
زمن پرسی دخول جنتے چست	وصال دوست در جنت دخول است
خود تو پردے میں ہیں اور ذوق نظر دیتے ہیں	اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں
پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں	پھر بجھانے کے لئے دیدہ تر دیتے ہیں
لطف سخن دم بدم قہر سخن واہ واہ	ایں بھی سخن واہ واہ اوں بھی سخن واہ واہ

حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخشی اللہ کانی اراہ فان لم اکن اراہ فانه یرانی۔“
مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوف الہی میں ایسا ہو جاؤں کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہو پس اگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو یقیناً مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔

(أخرج أبو نعیم في کتاب الاربعین: ۳۹، الرقم: ۱۴، وابن رجب في جامع العلوم والحکم، ۱۲۶/۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔

الاحسان ان تعمل لله کانتک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک .

احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے لئے اس طرح عمل کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے پھر اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً وہ تجھے دیکھ

رہا ہے۔ (أخرج ابن الربیع في المسند، ۳۲/۱، الرقم: ۵۶، ابن رجب في جامع العلوم والحکم)

☆ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

کن کانتک تری اللہ فان لم تکن تراہ فانه یراک .

اس طرح ہو جا کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔

(اُخرجہ ابو نعیم فی کتاب الاربعین، ۳۰، الرقم، ۱۳- وفی حلیۃ الاولیاء، ۲۰۲/۸، والدیمی فی الفردوس بما ثور الخطاب، ۲۷۳/۳، الرقم، ۲۸۳۳، وابن رجب فی جامع العلوم والحکم، ۱/۳۶)

حسینے کرد سوئے من نگاہے
گناہم چیت قلب من لحم است
دل مادبرا دیوانہ تست
تواز شہد و شکر مار الذیزی

نہی دارم دگر کارے جز آ ہے
نگاہ او کند در سنگ را ہے
بیابے فکر خانہ خانہ تست
دل اندر ہجر دانہ دانہ تست

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی
وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے

بہ شوق ماہ رویاں دل کبابم
بہ خواب اندر نجاست جاہ و مال است
مرا طعنہ دہد واعظ بعشقت
ورا مانند ماد یوانہ گرداں
رود عمرے دریں کار شو اہم
نہ عاشق بر نجاست چوں ذبابم
تو یک بارے بسوئے او نظر کن
تکبر از دماغ او بدر کن
میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

مخلصین کے اقوال و آثار

قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ: ترک العمل لأجل الناس ریاء، والعمل لأجل الناس شرك،

والاخلاص أن يعافيك الله منهما۔ (الاذکار من کلام سیدالابرار ۱۳)

”حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: لوگوں کی خاطر عمل ترک کر دینا ریاء ہے، اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھے۔“

☆ قال ذوالنون المصري رحمه الله: ثلاث من علامات الاخلاص: استواء المدح والذم من

العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة۔ (ايضاً)

”حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا: تین چیزیں اخلاص کی علامات میں سے ہیں: مدح و ذم (تعریف

و مذمت) کا برابر ہو جانا (یعنی بندہ تعریف سے نہ پھولے اور نہ مذمت سے پریشان ہو) اور اپنے اعمال میں

(کثرت) اعمال کی طرف دھیان نہ کرے (ورنہ نفس میں رعونت کا خطرہ ہے) اور اپنے اعمال کے اجر و ثواب کو (دنیا

کی بجائے) آخرت میں چاہے۔“

☆ قال ذوالنون المصري: الاخلاص: ما حفظ من العدو أن يفسده۔ (اخرجہ التعمیر فی الرسل: ۲۰۹)

”حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا: اخلاص وہ عمل ہے جو انسان کو دشمن (یعنی نفس یا شیطان) سے بچائے، کہ

وہ اسے خراب نہ کر دے۔“

☆ قال الجنيد البغدادي رحمه الله: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة، والمراني يثبت على حالة واحدة أربعين سنة. (ايضاً: ۲۱۱)

”حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا: صادق ایک دن میں لا تعداد حالتیں بدلتا ہے۔ (اور افضل سے افضل تر حالت کو جاتا ہے) اور ریاکار ایک ہی حالت پر چالیس سال تک قائم رہتا ہے۔“

☆ قال السري السقطي رحمه الله: من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى.

(ايضاً: ۲۰۹)

”حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کر کے دکھائے جو درحقیقت اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ شخص اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔“

☆ قال سفيان بن عيينة رحمه الله: خصلتان يعسر علاجهما ترك الطمع فيما بأيدي الناس، واخلاص العمل لله. (اخرجه الشعراني في الطبقات الكبرى: ۸۶)

”حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا: دو خصلتوں کا علاج مشکل ہے: لوگوں کے پاس دولت کی طمع ترک کرنا، اللہ تعالیٰ کے لئے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔“

☆ قال الحارث المجاسبي رحمه الله: من صحح باطنه بالمراقبة والاخلاص زين الله تعالى ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. (ايضاً: ۱۱۳)

”حضرت حارث مجاسبی رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے اپنے باطن کو خوفِ خدا اور اخلاص کے ساتھ درست کیا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو مجاہدہ اور سنت کی پیروی کے ساتھ زینت بخشا ہے۔“

سوچتا ہوں کہ تیرے حسن کی توہین نہ ہو	کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈھلے گا یہ جمال
اوست سید حملہ موجودات را	ہر کہ عاشق شد جمال ذات را
اک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی	میں بھی اس پر مرثانا صحیح تو کیا بے جا کیا
آتا نہیں ہے چینِ محبت کئے بغیر	پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو
لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا	دل بحرِ محبت ہے محبت ہی کرے گا
آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے	جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے

صادق کون ہے؟

قال الحارث المجاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الدر من حسن عمله، ولا يكره

ان يطلع الناس على السوء من عمله . (اخرجه النووي في الاذكار من كلام سيد الابرار: ۱۳)

”حضرت حارث مجاہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صادق وہ ہے جو اپنے دل کی صلاح کے لئے اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مخلوق کے دلوں سے اس کی تمام قدر نکل جائے، اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ذرا برابر اچھے عمل پر مطلع ہوں، اور نہ ہی یہ مکروہ جانتا ہے کہ لوگ اس کے برے عمل پر مطلع ہوں۔“

☆ قال سهل التستري: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره . (ايضاً)

”حضرت سہل تستری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بھی صدق کی خوشبو نہیں سونگھے گا جس نے اپنی یا دوسروں کی خوشامد کی۔“

☆ قيل لسهل التستري رحمه الله: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الاخلاص . لأنه ليس لها فيه نصيب . (مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، ۲/۶۹)

”حضرت سہل تستری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کون سی چیز نفس پر گراں ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اخلاص، کیونکہ نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“

☆ قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله: أقل الصدق استواء السر والعلانية .

(الاذكار من كلام سيد الابرار للنووي: ۱۳)

”امام قشیری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ صدق کا ادنیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائے۔“

لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا الجھے سلجھے اسی کا کل کے گرفتار رہو
گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا
نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے ترے ذکر سے ترے شکر سے تری یاد سے ترے نام سے
کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ

☆ قال الامام القشيري رحمه الله: يصح أن يقال: الاخلاص: تصفية الفعل عن ملاحظة

المخلوقين . (اخرجه القشيري في الرسالة، ۲۰۷)

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یوں کہنا بھی درست ہے کہ مخلوق کی نگاہوں سے اپنے فعل کو پاک رکھنے کا نام اخلاص ہے۔“

☆ قال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله: الاخلاص: التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق: التنقي عن مطاوعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا اعجاب له .

(الاذكار من كلام سيد الابرار للنووي: ۱۳)

”استاد ابو علی الدقاق رحمہ اللہ نے فرمایا: اخلاص سے مراد مخلوق کے دکھاوے سے بچنا اور صدق سے مراد نفس کی پیروی

سے پاک ہونا ہے، پس مخلص وہ شخص ہے جس کے ہاں ریا کاری نہ ہو اور صادق وہ شخص ہے جس کے ہاں خود پسندی نہ ہو۔“

☆ قال سهل بن عبد الله: أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. (أخرج القشيري في الرسالة: ۲۱۳)
”حضرت سهل بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا: صدیقوں کی خیانت کی ابتداء اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے نفس سے باتیں کرنے لگتے ہیں (اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں)۔“

☆ قال يوسف بن أسباط رحمه الله: لأن ابنت ليلة اعامل الله تعالى بالصدق احب الي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله تعالى - (ايضاً)

”حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر میں ایک رات بھی صدق کے ساتھ اللہ سے معاملہ کر لوں تو یہ مجھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔“

أَمُوتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيَا
فَأَحْيَا بَاطِنِي وَأَمُوتُ شَوْقًا
وَلَوْلَا مَاءٌ وَضَلِكُ مَا حَيَّيْتُ
فَكَمْ أَحْيَا عَلَيْكَ وَكَمْ أَمُوتُ
شَرِبْتُ الْحَبَّ كَأَسَا بَعْدَ كَاسٍ
فَمَا نَفِدَ الشَّرَابُ وَلَا رَوَيْتُ

جب میں تجھے یاد کرتا ہوں مرجاتا ہوں پھر زندہ ہوتا ہوں۔ اگر تیرے وصل کا آب حیات نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، میں روحانی طور پر زندہ ہوتا ہوں اور شوق میں مرجاتا ہوں۔ کتنی ہی مرتبہ زندہ ہوتا ہوں اور کتنی بار مرتا ہوں۔ میں نے شراب محبت کا پیالہ پے در پے پیا ہے مگر نہ شراب سے افاقہ ہوا نہ دید سے۔

بزم انجم میں تبا خاک کی پہنی ہم نے بس مری ساری فضیلت اسی پوشاک میں ہے
خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روارکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے
ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے آنسو نہ ہوں تو عشق میں کچھ آبرو نہیں

مخلص اور مخلص میں فرق

قال أبو بكر الدقاق رحمه الله: نقصان كل مخلص في اخلاصه رؤية اخلاصه، فاذا اراد الله تعالى ان يخلص اخلاصه اسقط عن اخلاصه رؤية لا اخلاصه، فيكون مخلصا لا مخلصا. (ايضاً: ۲۰۸)
”حضرت ابو بکر دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا: اپنے اخلاص پر نظر رکھنا، مخلص کے لئے نقصان وہ ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اخلاص کو خالص بنانا چاہتا ہے تو اس کے اخلاص سے اپنے اخلاص کے دیکھنے کو نکال دیتا ہے۔ لہذا وہ مخلص (بفتح اللام) ہوتا ہے، نہ کہ مخلص (بکسر اللام)۔“

☆ قال أبو عثمان رحمه الله: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر الى الخالق. (ايضاً: ۲۰۹)
”حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا: خالق کی طرف ہمیشہ نگاہ رکھنے کی وجہ سے مخلوق کی رویت کو بھلانے کا نام اخلاص

”ہے۔“

☆ قال حذيفة المرعشي رحمه الله: الاخلاص ان تستوي افعال العبد في الظاهر والباطن (ايضا)
”حضرت حذيفہ المرعشی رحمہ اللہ نے فرمایا: اخلاص یہ ہے کہ بندے کے ظاہری و باطنی اعمال میں یکسانیت ہو جائے۔“

☆ قال الجنيد البغدادي رحمه الله: الاخلاص سر بين الله تعالى والعبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله . (ايضاً)

”حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا: اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے اور نہ شیطان کہ اسے خراب کر سکے اور نہ خواہش نفس کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔“

☆ قال رويم رحمه الله: الاخلاص من العمل: هو الذي لا يريد صاحبه عليه عوضا من الدارين، ولا حظا من الملكين . (ايضاً)

”حضرت رویم رحمہ اللہ نے فرمایا: اعمال میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل کے عوض دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہ چاہے اور نہ ہی دونوں فرشتوں (دائیں اور بائیں والے فرشتے) سے کوئی حصہ مانگے۔“

☆ قال مكحول رحمه الله: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً الا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه . (اخرجا بن قيم الجوزية في مدارج السالكين، ۲/۲۹)

”حضرت مکحول رحمہ اللہ نے فرمایا: جب کوئی شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔“

☆ قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: ليس الفوز هناك بكثرة الاعمال، انما الفوز هناك باخلاص الأعمال وتحسينها . (اخرجا السلسلي في طبقات الصوفية: ۲۱۸)

”محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا: آخرت میں کامیابی کثرت اعمال سے نہیں ہوگی بلکہ اعمال کے اخلاص اور ان کے حسن کی وجہ سے ہوگی۔“

☆ قال محمد بن علي الكتاني رحمه الله اذا سألته بعض المريدين، فقال له: اوصني، فقال: كن كما ترى الناس، والافار الناس ما تكون . (ايضاً: ۳۷۴)

”محمد بن علی کتانی رحمہ اللہ سے جب کسی مرید نے عرض کیا کہ: مجھے نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا: تو اس طرح ہو جا جس طرح لوگوں کو دکھاتا ہے یا پھر لوگوں کو وہ دکھا جو کچھ تو ہے۔“

لائق حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو	لائق سجدہ تیری ذات کہ سجدہ ہے تو
انکساری مرا مقسوم کہ بندہ ہوں میں	خودنمائی ترا دستور کہ موجود ہے تو
میری کیا بود کہ معدوم تھا معدوم ہوں میں	تیری کیا شان کہ موجود تھا موجود ہے تو

بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ میری ذات میں موجود ہے تو
ایک اعظم ہی نہیں ”طالب“ نا چیز تیرا
سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو

متوکلین پہ خدا کی شان بندہ نوازی کا بیان، بزبانِ مصطفیٰ ﷺ

تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے جس نے اپنے بندوں میں سے ان کو چنا جو عبادت کے قابل تھے اور ان کو خدمت گار بنایا، ان کے کئی گروہ بنائے، انہیں اپنی خاص نظر عنایت سے نوازا، ان سے پختہ عہد لیا، ان کو صاف کیا اور انہیں چن لیا، ان کو بلا کر قریب کیا اور ان کو وصل اور لقاء کے ساتھ زندگی بخشی، ان کو نفس کی پستی سے بارگاہِ انیسیت میں بلند کیا، تسبیح و تقدیس کے جام میں شرابِ طہور (یعنی پاکیزہ شراب) سے انہیں سیراب کیا تو ان میں سے ہر ایک اس شراب کے سرور میں خوش اور اس کا خطاب سننے میں مدہوش ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے حلقہ احباب میں بلند رتبہ ہوا اور اس نے اپنے پیاروں کے لئے سحری کے وقت تجلی فرمائی پس محبت نے زندگی کا مزا اٹھایا اور دیدار کرنے میں کامیاب ہو گیا جبکہ ان میں سے وجد کا زخمی کیا ہوا کانپ کر زمین پر تشریف لے آیا، اللہ عزوجل نے ان کے ظاہری وجود کو فنا کیا اور ہمیشہ کی بقا سے نوازا اور انہوں نے آخری سانس بھی اس کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ عزوجل نے ان کو اپنی محبت کے راز عطا کئے تو انہوں نے اس کی غیرت سے خوف کھاتے ہوئے اپنے اوپر غیر کے دروازے بند کر دیئے۔ پس اس کی مشک دلوں کے مشام کی طرف سے مہکی تو دلوں نے اپنے محبوب کی طرف سے اس مشک کو سونگھ لیا، اور ایک خفی راز اور اس کی پاکیزہ مہک حضرت سیدنا سری سقطی علیہ الرحمۃ کے راز کی طرف سے گزر گئی تو وہ اس کے آثار پر سیدھے چلتے گئے اور حضرت سیدنا شبلی علیہ الرحمۃ کی طرف سے گزری تو وہ محبت کی دہنوں کی طرح آراستہ ہو کر رات گزارنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو یزید علیہ الرحمۃ کی طرف سے گزری تو انہوں نے مزید کی صدا لگائی اور ان کی حرارت بڑھ گئی اور حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کی طرف سے گزری تو وہ محبت الہی کی قید میں مزید پختہ ہو گئے اور حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے گزری تو پوری رات ڈاکہ زنی کے بعد توفیق کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور انہوں نے اپنی تمام تر کوشش عبادت الہی میں لگا دی اور حضرت سیدنا خواص علیہ الرحمۃ کی طرف سے گزری تو وہ اخلاص کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر خالص جواہر چننے لگے۔ حضرت سیدنا سمون علیہ الرحمۃ کی طرف سے گزری تو ان پر محبت اور وجد کے طریقے ظاہر ہو گئے اور وہ پہاڑ میں دیوانوں کی طرح پھرنے لگے اور محبت الہی عزوجل میں آوازیں لگانے اور سسکیاں لے کر مسلسل آنسو بہانے لگے۔ (شاعر اللہ عزوجل کے سچے محبین کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔)

أَطَعْتُمُونِي فِي الْوِصَالِ وَفِي اللَّقَا
يَا مَالِكِي رِقِي وَغَايَةَ مَطْلَبِي
وَهَجَرْتُمُونِي فَالْتَهَبْتُ تَحْرُقًا
رِفْقًا فَقَدْ ذَابَ الْفُؤَادُ تَشْوُقًا
وَ بِحُبِّكُمْ قَلْبِي عَدَا مُتَعَلِقًا
حَاشَا كُمْ وَأَنْ تَطْرُدُونِي سَادَتِي

يَا سَادَتِي لَمْ يَهِنْ لِي مِنْ بَعْدِكُمْ
 اِنْ مِتُّ مِنْ وَجْدِي وَفَرِطِ صَبَائِي
 يَا نَفْسُ قَدْ زَالَ الْعَنَا فْتَمْتَعِي
 وَجَلَّ الْحَبِيبُ جَمَالَهُ فَلِاجْلِ ذَا
 هَاكُمْ فُؤَادِي فَتَشْوُهُ فَإِنْ تَرَوْا
 فَتَحَكُّمُوا فِيهِ بِمَا يَرْضِيكُمْ
 وَإِذَا فَنَيْتُ بِحُبِّكُمْ فَيَحِقُّ لِي
 يَا مَنِّي إِنْ خَانَ يَوْمًا مُؤْتَقًا
 اِنْ الْفَنَاءَ بِحُبِّكُمْ عَيْنَ الْبَقَا
 عَيْشٌ وَلَا عَايِنْتُ شَيْئًا مُؤْتَقًا
 شَوْقًا إِلَى رُؤْيَاكُمْ لَكُمْ الْبَقَا
 بِوِصَالٍ مَنْ تَهْوَى فَقَدْ زَالَ الشَّقَا
 أَصْبَحْتُ مِنْ وَجْدِي بِهِ مُتَمَزِّقًا
 فِيهِ لِغَيْرِ كُمُوهْوَى وَتَشَوْقًا
 يَا مَنِّي إِنْ خَانَ يَوْمًا مُؤْتَقًا
 اِنْ الْفَنَاءَ بِحُبِّكُمْ عَيْنَ الْبَقَا

ترجمہ: (۱)..... تم نے مجھے وصال اور ملاقات کا شرف بخشا پھر مجھے چھوڑ دیا تو میں محبت کی آگ میں جلنے لگا۔

(۲)..... اے میرے مالک اور میرے مقصد کی انتہا! مہربانی فرماؤ کیونکہ میرا دل شوق دیدار سے پکھل رہا ہے۔

(۳)..... اے میرے سردارو! میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم مجھے دھتکار دو کیونکہ میرے دل کو تم سے محبت ہو چکی ہے۔

(۴)..... اے میرے سردارو! تمہارے بعد میرے لئے کوئی مزا نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی چیز دلکش لگی۔

(۵)..... اگر میں تیرے دیدار کی شدید محبت اور اپنے وجد سے مر جاؤں تو یہ تیرے لئے بقا ہے۔

(۶)..... اے نفس! اب مشقت اور شقاوت زائل ہو چکی ہے اس لئے تو اپنے محبوب کے وصال سے لطف اٹھالے۔

(۷)..... حبیب نے اپنا جمال ظاہر کیا تو اس جمال کو دیکھ کر میں اس کی محبت کی وجہ سے تارتا رہ گیا۔

(۸)..... (اے محبوب!) یہ میرا دل حاضر ہے، اگر اس میں اپنے غیر کی محبت پاؤ تو جلاؤ الو۔

(۹)..... اور اگر اس میں کسی اور کی محبت پاؤ تو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو سزا دو۔ ہائے کاش! میں مر جاؤں اگر میرا دل کسی دن

(محبت کے) پختہ وعدے میں خیانت کرے۔

(۱۰)..... اگر میں تمہاری محبت میں فنا ہو جاؤں تو میں اس کا سزاوار ہوں کیونکہ تمہاری محبت میں فنا ہونا حقیقت میں بقا ہے۔

(الروض الفائق فی المواعظ والرقائق للشیخ شعیب حنیفیش التونی ۱۰۸۱ھ)

ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من امتي سبعون الفا بغیر

حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون .

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار

افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے

ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔“

(أخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب: الرقائق، باب: من يتوكل على الله فهو حسبه، ۵/۲۳۷۵، الرقم: ۶۱۰۷، و مسلم فی الصحیح، کتاب: الايمان، ۱/۱۱۹۸، الرقم:

۲۱۸، وابن حبان فی الصحیح، ۱۳/۳۳۷، الرقم: ۶۰۸۳، والطبرانی فی المعجم لأوسط، ۱/۲۹۳، الرقم: ۹۶۷، و فی المعجم الکبیر، ۱۸/۱۸۳، الرقم: ۳۲۷، والحاکم فی المستدرک، ۴/۶۲۱، الرقم: ۸۷۲۱)

☆ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما ادركته القائلة، وهو في واد كثير العضاة، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في المشجر يستظلون وبيننا نحن كذلك اذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فاذا اعرابي قاعد بين يديه فقال: ان هذا اتاني وانا نائم، فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على راسي، مخترط صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فشامه ثم قعد، فهو هذا، قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ نجد میں شریک ہوئے۔ جب قیلولہ کا وقت ہو گیا تو اس وادی میں کانٹے دار درخت بہت تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم حاضر خدمت ہو گئے۔ دیکھا تو ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں سویا ہوا تھا تو یہ میرے نزدیک آیا۔ اس نے میری تلوار اتار لی۔ جب میں بیدار ہوا تو یہ میرے سر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے تلوار سونت کر کہا: بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ۔ پھر تلوار کو نیام میں کر کے بیٹھ گیا، جو یہ سامنے موجود ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔“

(أخرج البخاري في الصحیح، کتاب: المغازی، باب: غزوات ذات الرقاع، ۳/۱۵۱۶، الرقم: ۳۹۰۸، ومسلم في الصحیح، کتاب: الفصائل، باب: توکل علی اللہ وعصمت اللہ من الناس، ۳/۱۷۸۶، الرقم: ۸۳۳، وأبو يعلى في المسند، ۳/۳۱۳، الرقم: ۱۷۷۸، وابن حبان في الصحیح، ۷/۱۳۸، الرقم: ۲۸۸۳، والطبرانی في المعجم لأوسط، ۹/۵۳، الرقم: ۹۱۱۳، والحاکم في المستدرک، ۳/۳۱، الرقم: ۳۲۲۲)

یا الہی خواجہ بطحا کے در کی خیر ہو
پوچھتا جن کو نہیں اپنا، پرایا کوئی بھی
آپ کے ٹکڑوں پہ ہے اپنا گزارہ رات دن
جس کا سینہ الفت احمد سے روشن زیر خاک
ہو گئے سیراب سب، ساقی جہاں محبوب رب
امت سرکار کی خاطر کھڑے روح الامین
حشر میں شاہِ اُمم نے فکر امت کے سبب
بے حجاب ان کی نظر میں ہے مکان و لامکان
ہم فقیروں بے کسوں کے چارہ گر کی خیر ہو
پوچھنے والے مرے اس تاجور کی خیر ہو
دینے والے قائم قدرت کے گھر کی خیر ہو
گوشہ رضوان ہو یا رب اس قبر کی خیر ہو
صاحب عالم تیرے دست نظر کی خیر ہو
پر بچھائے راستے پر رہگزر کی خیر ہو
رکھ دیا جو خاک پر اس پاک سر کی خیر ہو
اے میرے داور، تیرے علم و ہنر کی خیر ہو

بے زور و بے گھر نہیں کوئی تیرے ہوتے ہوئے
دیکھتی ہے میم کے پردہ میں جو حسن قدیم
بہر صدیق و علی، فاروق و عثمان و علی
کل سلاسل اولیاء کے جس قدر مشہور ہیں
عالم اسلام کی اور ارضِ پاکستان کی
حضرت سلماں، بلال و ابو ذر کی خیر ہو
اس نگاہِ مست کی اس چشمِ تر کی خیر ہو
میرے مولا سنیوں کے ہر بشر کی خیر ہو
متصل ہر ایک راہی، راہِ بر کی خیر ہو
قص کر طاہر تیرے روزِ حشر کی خیر ہو

(ابوالحسن محمد طاہر حسین قادری)

توکل کے ذریعے شرک کا خاتمہ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك وما منّا، ولكن الله يذهب بالتوكل. (رواه الترمذی، واحمد، وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدقالی شرک ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔“

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب: السیر، باب: ما جاء فی الطيرة، ۱۶۰/۳، الرقم: ۱۶۱۳، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۳۳۸، الرقم: ۳۱۷۱، والبخاری فی المسند، ۵/۲۳۰، الرقم: ۱۸۴۰، والحاکم فی المستدرک، ۱/۶۵، الرقم: ۳۳، والشاشی فی المسند، ۲/۱۳۰، الرقم: ۶۵۱، وابن جعد فی المسند، ۱/۸۶، الرقم: ۲۸۸)

☆ عن ابی سعید قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكان ذلك ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.

”حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے کیسے خوشی ہو حالانکہ صور والے فرشتے نے صور لیا اور وہ کان لگائے اس انتظار میں ہے کہ کب اسے پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ تاکہ وہ پھونکے۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر گراں گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کہو اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور بہتر کارساز ہے اور ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔“

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء فی شان الصور، ۶۲۰/۳، الرقم: ۲۳۳۱، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۳۲۶، الرقم: ۳۰۱۰، وابن حبان فی الصحیح، ۳/۱۰۵، الرقم: ۸۲۳، والطبرانی فی المعجم لأوسط، ۲/۲۸۶، الرقم: ۲۰۰۰، وفي المعجم الكبير، ۱۲/۱۲۸، الرقم: ۱۲۶۷۱، والحاکم فی المستدرک، ۳/۶۰۳، الرقم: ۸۶۷۸)

☆ عن انس بن مالك رضى الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، اعقلها واتوكل، او اطلقها واتوكل؟ قال: اعقلها واتوكل.

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں یا کھول کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باندھ کر توکل کرو۔“
(أخرجہ الترمذی فی السنن، کتاب صفة القيامة، باب: ۶۰، ۶۶۸، الرقم: ۲۵۱۷، وابن حبان فی الصحیح، ۲/۵۱۰، الرقم: ۷۳۱، والبیہقی فی موارد الطمان، ۱/۶۳۳، الرقم: ۲۵۳۹، والشیبانی فی الآحاد والثنائی، ۲/۲۱۵، الرقم: ۹۷۰)

یہ زمیں یہ فلک ان کے آگے تلک جتنی دنیا میں ہیں سب میں تیری جھلک

سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا

ہر سحر پھوٹی ہے نئے رنگ سے سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے

گو بختا ہے جہاں تیرے آہنگ سے جس نے کی جستجو مل گیا اس کو

سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا

ہر ستارے میں آباد ہے اک جہاں چاند سورج تری روشنی کے نشاں

پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی

تیری حمد و ثناء اے خدا اے خدا

نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں

تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں لاکھ ہوں صورتیں ایک ہی رنگ میں

تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا

سو نپ کر منصب آدمیت مجھے تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے

شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر

ہے یہی التجا اے خدا اے خدا

قلم اٹھادیئے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال: يا غلام، اني اعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسأل الله . واذا استعنت فاستعن بالله . واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف . (رواه الترمذی وقال ابو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں (سواری پر) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے

بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے! میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ وہ تجھے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ اسے اپنے سامنے پائے گا جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لئے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دیا اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیئے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔“

(أخرج الترمذی فی السنن کتاب: صفة القيامة، باب: ۵۹، ۶۶۷/۲، الرقم: ۲۵۱۶، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۲۹۳، الرقم: ۶۲۲۹، وأبو یعلیٰ فی المسند، ۲/۳۳۰، الرقم: ۲۵۵۶، والطبرانی فی المعجم لأوسط، ۵/۳۱۶، الرقم: ۵۳۱۷، والمقدسی فی الأحادیث المختارة، ۱۰/۲۳، الرقم: ۱۳)

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، لرزقتم کما ترزق الطیر، تغدو خماصا، وتروح بطانا. (رواه الترمذی، وقال: هذا حدیث حسن صحیح، وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الاسناد)

”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔“

(أخرج الترمذی فی السنن، کتاب: الزہد، باب: فی التوکل علی اللہ، ۲/۵۷۳، الرقم: ۲۳۳۳، وابن ماجہ فی السنن، کتاب: الزہد، باب: التوکل والیقین، ۲/۱۳۹۳، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱/۳۰۵، الرقم: ۳۰۵، والہزار فی المسند، ۱/۳۷۶، الرقم: ۳۳۰، وأبو یعلیٰ فی المسند، ۱/۲۱۲، الرقم: ۲۲۷، والحاکم فی المسند، ۳/۳۵۳، الرقم: ۷۸۹۳)

تو عطا کرے جسے بے طلب وہ کسے خیال میں لائے گا
تیری جس سے دید شنید ہو وہ کسے خیال میں لائے گا
تیری ذات عین یقین ہے یہ یقین جبل متین ہے
تیری راہ سے جو بھٹک گیا وہ ہزار ٹھوکریں کھائے گا
جسے تو نے بخش دی سروری اسے زیب دیتی ہے برتری
جو تیری نگاہ سے گر گیا وہ نظر میں کس کی سمائے گا

متوکلین کا اپنا بیان

قال ابن عباس رضی اللہ عنہما: من سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ عزوجل، ومن سرہ ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ ومن سرہ ان یکون اغنی الناس فلیکتف برزق اللہ.

”حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے چاہئے

کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر کفایت کرے۔“

(أخرج الامام أحمد بن حنبل في الزهد: ۳۱۵)

☆ قال عبد الله بن المبارك: من أخذ فلسا من حرام فليس بمتوكل .

”حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا: جس شخص نے ایک پیسہ حرام کالے لیا، وہ متوکل نہیں ہے۔“

(أخرج القشيري في الرسالة: ۱۷۱)

☆ قال بشر الحافي رحمه الله: يقول أحدهم: توكلت على الله: يكذب على الله، لو توكل على الله، رضى بما يفعل الله .

”حضرت بشر حافی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا: لوگوں میں سے کوئی (اگر رسمی طور پر یہ) کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی ہوتا۔“ (أخرج ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين، ۸۶/۲)

لِي حَيْبٌ خِيَالُهُ نَصْبٌ عَيْنِي وَأَسْمُهُ فِي ضَمَائِرِي مَكُونٌ
إِنْ تَذَكَّرْتَهُ فَكُلِّي قُلُوبٌ وَإِنْ تَسَأَلْتَهُ فَكُلِّي عُيُونٌ

میرا ایک محبوب ہے جس کا خیال ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ اگر میں اسے یاد کرتا ہوں تو میرا سارا جسم دل بن جاتا ہے اور اگر میں اسے دیکھوں تو سارا جسم آنکھ بن جاتا ہے۔

لوں لوں دے وچ لکھ لکھ چشماں اک کھولاں اک کجاں ہو

خیالت فی عینی و ذکرک فی فمی ومشواک فی قلبی فاین انت

تیرا تصور میری آنکھوں میں اور تیرا ذکر میرے لبوں پر اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں ہے پر تو کہاں ہے؟

ہم ثواب و عذاب کیا جانیں

بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے

عشق والے حساب کیا جانیں

کس میں کتنا ثواب ملتا ہے

یہ زمانہ جنہیں نظروں سے گرا دیتا ہے

قال سعيد بن المسيب: أن سلمان وعبد الله بن سلام التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: ان لقيت ربك قبل فالقنى وأعلمنى ما لقيت، وان لقيته قبلك لقيتك فأخبرتك، فتوفى أحدهما، ولقى صاحبه في المنام، فقال له: توكل وأبشر، فاني لم أرمثل التوكل، قال ذلك ثلاث مرار .

(رواه ابن أبي شيبة وابن المبارك واللفظ له)

”حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور عبد اللہ بن سلام آپس میں ملے، تو ان میں سے ایک

نے دوسرے کو کہا کہ اگر تو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ملا تو مجھ سے ملنا اور جو کچھ تو اللہ تعالیٰ سے انعام و اکرام پائے اس کے بارے میں مجھے بھی بتانا، اور اگر میں تم سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ملا تو میں تم سے مل کر تمہیں بتاؤں گا، پس ان میں سے ایک فوت ہو گیا، اور اپنے دوست سے خواب میں ملا اور اسے کہا کہ تو کل اختیار کرو اور خوش خبری ہو تمہیں، پس میں نے تو کل جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، ایسا تین مرتبہ کہا۔“

(اخرج ابن ابی شیبہ فی المصنف، ۷/۱۲۰، الرقم: ۳۳۶۵۷، وابن المبارک فی کتاب الزہد: ۱۵۱، والبیہقی فی شعب الایمان، ۲/۱۲۱، الرقم: ۱۳۵۵، والذہبی فی سیر اعلام النبلاء، ۱/۵۵۶)

جب بھی لوں نام تیرا کیف نیا دیتا ہے
تو ہی حالات کے جلتے ہوئے انگاروں میں
تیری دہلیز سے مایوس نہ لوٹا کوئی
ہر طرف پھیلے ہوئے رات کے سناٹے میں
میکدے ان کی نگاہوں سے جنم لیتے ہیں
ان کو سینے سے لگاتی ہے تیری رحمت

وہ تو انوار عنایت کے بہانے ڈھونڈے

جو تڑپ دے کے تڑپنے کا صلہ دیتا ہے

(انوار المصطفیٰ، ہمدی)

توکل کے تین درجے

قال ابراہیم بن أحمد الخواص رحمہ اللہ: التوکل علی ثلاث درجات: علی الصبر والرضی والمحبۃ، لانه اذا توکل وجب علیہ ان یصبر علی توکلہ بتوکلہ لمن توکل علیہ، واذا صبر وجب علیہ ان یرضی بجمیع ما حکم علیہ، واذا رضی وجب علیہ ان یکون محبا لكل ما فعل بہ موافقة له۔

”حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ کا قول ہے: توکل کے تین درجے ہیں (۱) صبر (۲) رضا (۳) محبت۔ کیونکہ توکل کے بعد لازم ہے کہ بندہ اپنے توکل کے ذریعے جس پر توکل کیا ہے صبر کرے اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ پر رضا لازمی ہے اور رضا کے بعد موافقت الہی میں اس کے ہر فعل سے محبت لازمی ہے۔“

(اخرج ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۳۲۹)

☆ جاء رجل الى الشبلي يشكو اليه كثرة العيال، فقال: ارجع الي بيتك، فمن ليس رزقه على الله تعالى، فاطرده عنك۔

”ایک شخص ابو بکر شبلی رحمہ اللہ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا: گھر جا کر ان تمام لوگوں

کو گھر سے نکال دو، جن کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں۔“ (اخرجہ القشیری فی الرسلۃ: ۱۶۶)

☆ قال أبو تراب رحمہ اللہ: التوکل، طمانینۃ القلب الی اللہ عزوجل .
”حضرت ابو تراب فرماتے ہیں: دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہو جانا توکل کہلاتا ہے۔“

(اخرجہ السلسلی فی طبقات الصوفیہ: ۱۳۹)

☆ قال رجل لابی تراب: الک حاجة؟ فقال له: یوم یكون لی الیک والی امثالک حاجة لا یكون لی الی اللہ حاجة .

”ایک آدمی نے حضرت ابو تراب سے کہا کہ تجھے کوئی (مجھ سے) حاجت ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ جس دن مجھے تم سے اور تمہارے جیسے دوسروں لوگوں سے حاجت ہوگی اس دن مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ (مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے)۔“ (ایضاً: ۱۵۰)

☆ قال أبو تراب رحمہ اللہ: سبب الوصول الی اللہ، سبع عشرة درجة، أدناها الاجابة، وأعلها التوکل علی اللہ بحقیقته

”حضرت ابو تراب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچانے والے سترہ درجات ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا درجہ اجابت (مان لینے کا) ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرنا ہے۔“ (ایضاً: ص: ۱۳۹)

☆ سنل یحیی بن معاذ رحمہ اللہ: متی یكون الرجل متوکلًا؟ فقال: اذا رضی باللہ تعالیٰ وکیلا .

”حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آدمی متوکل کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: (انسان اس وقت متوکل ہوتا ہے) جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنانے پر راضی ہو جاتا ہے۔“ (اخرجہ القشیری فی الرسلۃ: ۱۶۳)

☆ قال یحیی بن معاذ رحمہ اللہ: طلبوا الزهد فی بطن الکتب وانما هو فی بطن التوکل، لو كانوا یعلمون .

”یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کا قول ہے: لوگوں نے زہد کو کتابوں میں تلاش کیا حالانکہ زہد کی حقیقت تو توکل میں پوشیدہ ہے، کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ (اخرجہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۵۲/۱۰، وابن جوزی فی صفۃ الصوفیۃ، ۹۳/۴)

☆ قال أبو علی الدقاق رحمہ اللہ: التوکل صفة المومنین، والتسلیم: صفة الاولیاء، والتفویض: صفة الموحدين، فالتوکل: صفة العوام، والتسلیم: صفة الخواص، والتفویض: صفة خواص الخواص .

”ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا: توکل مومنین کا خاصہ ہے اور تسلیم اولیاء کا تفویض، موحدین کا، لہذا توکل عوام کی صفت ٹھہری، تسلیم خواص کی اور تفویض خواص الخواص کی۔“ (اخرجہ القشیری فی الرسلۃ: ۱۶۷)

وَاللّٰهُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ
وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا طَرِبًا
وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ
فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ رُزْتُكَ
إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي
إِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونٌ بِأَنْفَاسِي
إِلَّا رَأَيْتُ خِيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ
سَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ أَوْ مَشِيًّا عَلَى الرَّأْسِ

قسم ہے خدا کی سورج نکلنا نہ غروب ہوا مگر تو میرے دل اور میرے خیالوں میں تھا۔ میں کسی قوم میں گفتگو کے لئے نہ بیٹھا مگر میری مجلس والوں میں تو ہی میری گفتگو میں تھا۔ میں نے تجھے خوشی یا غمی میں یاد نہ کیا مگر تیری محبت میری سانسوں میں ملی ہوئی تھی۔ میں نے پیاس کی وجہ سے پانی نہ پیا مگر تیرا خیال پیالے میں دیکھا۔ اگر میں آنے کی طاقت رکھتا تو چہرے یا سر کے بل گھسٹ کر آتا اور تیرے ساتھ ملاقات کرتا۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
کہ وہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے

توکل حضور علیہ السلام کا حال ہے

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن بقى على حاله، فلا يتركن سنته.

”حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا: توکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اور کسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔“ (ایضاً: ۱۶۶)

☆ قال أبو السفر رحمه الله: مرض أبو بكر رحمه الله فعادوه فقالوا: الا ندعو لك الطيب؟ فقال: قد رانى الطيب، قالوا: فأى شيء قال لك؟ قال: قال: انى فعال لما أريد.

”حضرت ابو سفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے تو لوگوں نے آپ کی عیادت کی اور کہا کہ ہم آپ کے لئے حکیم کونہ بلائیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے حکیم نے دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا: حکیم نے آپ کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا: وہ کہتا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔“ (اخرجہ الامام احمد بن حنبل فی کتاب الزہد: ۱۶۸)

☆ قال سهل بن عبد الله رحمه الله: اول مقام فى التوكل: أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف شاء، لا يكون له حركة ولا تدبير.

”حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا: توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسے ہو، جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے کہ جس طرح چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے نہ کوئی تدبیر۔“

(اخرجہ العشر کی نبی الرسالہ: ۱۶۳)

☆ قال سهل بن عبد الله رحمه الله: علامة المتوكل ثلاث: لا يسأل، ولا يرد، ولا يحبس .
 ”سهل بن عبد الله رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متوکل کی تین علامتیں ہیں: وہ نہ تو کسی سے مانگتا ہے، نہ کسی چیز کو رد کرتا ہے اور نہ اپنے پاس کچھ روکے رکھتا ہے۔“ (ایضاً)

☆ عن الامام القشيري رحمه الله قال: قيل: التوكل، الثقة بما في يد الله تعالى، والياس عما في ايدي الناس .

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: مروی ہے کہ توکل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، تو اس پر بھروسہ کرے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے ناامید ہو جائے۔“ (ایضاً: ۱۶۹)

☆ قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ثلاث خصال من صفة الاولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع اليه في كل شيء .

”حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: تین خوبیاں اولیاء کی صفات میں شامل ہیں: ہر کام میں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اس کے لئے باقی ہر چیز سے بے نیازی اور ہر کام کرنے سے پہلے اس کی طرف رجوع کرنا۔“

(اخرجا لسلیمی فی طبقات الصوفیہ: ۱۱۰)

تو ہی حال بھی تو ہی قال بھی
 تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی
 کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے
 تجھے کیسے کوئی دیکھا سکے
 ترے جلوے دہر میں جا بجا
 تو ہی عرش و فرش کا ہے خدا
 نہ شجر میں ہے نہ حجر میں ہے
 یہ سوال قلب بشر میں ہے
 وہ جہاں کے راہنما ہوئے
 وہ حدیثِ درسِ وفا ہوئے

تو جلال بھی تو جمال بھی
 تری شان کی کروں بات کیا
 جسے جستجو بھی نہ پا سکے
 تو وجودِ بغیر وجود ہے
 تیری ابتداء ہے نہ انتہا
 تری ذات ربِ قدیر ہے
 تو شعورِ فکر و نظر میں ہے
 تری ذات کیا ہے کیا ہے تو
 ترے رمز جن پہ بھی وا ہوئے
 تری چاہ جن کو بھی لگ گئی

بدر فاروقی

سلام ہو تم پر اے گروہ اولیاء اللہ و فقراء الی اللہ تعالیٰ

پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں خوشی و مسرت اور کمال عطا فرمایا! تم سے محبت کی اور تمہیں فقر اختیار کرنے کی ترغیب دی اور نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ عالی شان کے ساتھ تمہیں اس کے

مانگنے کا حکم فرمایا کہ ”میری امت کے فقراء، امیروں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ (نصف دن) پانچ سو سال کا ہوگا، وہ کھائیں گے، پیئیں گے، نعمتیں لوٹیں گے اور لوگ حساب کے غم میں ہوں گے۔“

(المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث، ۱۰۷۳۵، ج ۳، ص ۶۰۵)

(جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ماجاء ان فقراء..... الخ، الحدیث: ۲۳۵۳، ص ۱۸۸۸)

پاک ہے وہ ذات جس نے فقراء کے مقام کو بلند کیا! ان کے ذکر کو عام کیا، صبر عطا کیا، ان کے لئے اجر و ثواب دگنا کر دیا اور کیا ہی اچھا کلام ہے جو ان کے غلام حریش (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے ان کی شان میں کہا ہے:

ہُمُ الْفُقَرَاءُ أَهْلُ اللَّهِ حَقًّا	وَقَدْ حَازُوا بِضِيقِ الْفَقْرِ فَخْرًا
ہُمُ الْفُقَرَاءُ قَدْ صَبَرُوا وَأَوْذُوا	فَعَوَّضَهُمْ بِذَلِكَ الصَّبْرِ أَجْرًا
ہُمُ الْفُقَرَاءُ وَالسَّادَاتِ حَقًّا	وَمِنْهُمْ تَكْتَسِي الْأَكْوَانُ عَطْرًا
ہُمُ الْفُقَرَاءُ عَنْهُمْ فَاوْذِكْرًا	وَحَدَّثَ عَنْهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا
فَكَمْ صَبَرُوا عَلَى ضَيْمِ اللَّيَالِي	فَعَوَّضَهُمْ بِذَلِكَ الْكُسْرِ جَبْرًا
وَقَدْ زَارُوا الْحَبِيبَ وَشَاهَدُوهُ	وَقَدْ سَجَدُوا لَهُ حَمْدًا وَشُكْرًا

ترجمہ: (۱)..... یقیناً فقراء ہی اللہ والے ہیں، تحقیق فقر کی تنگی کے بدلے انہوں نے فخر (یعنی بلند مقام) کو پایا۔

(۲)..... انہوں نے صبر کیا اور اذیتیں جھیلیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صبر پر اجر عطا فرمایا۔

(۳)..... یہی لوگ حقیقی فقراء اور سردار ہیں اور انہی کی بدولت کائنات خوشبو میں لپیٹی ہوئی ہے۔

(۴)..... یہی فقراء ہیں کہ جن سے خوشبو پھیلی اور یہ لوگ سراو جہرا (یعنی آہستہ اور بلند آواز سے) ذکر الہی عزوجل میں مشغول رہتے

ہیں۔

(۵)..... کتنی ہی بار انہوں نے زمانے کی سختیوں پر صبر کیا لہذا اللہ عزوجل نے اس صبر کے عوض ان کو درستی عطا فرمادی۔

(۶)..... انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور دیدار کیا اور اس کی حمد اور شکر بجالاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔

جو ازل سے ہے ابد تک وہی ذات ہے اسی کی	جو ہے دو جہاں کا مالک یہاں بات ہے اسی کی
ہوئیں جس کی کن سے پیدا یہ زمیں فلک فضا میں	یہاں دن بھی ہے اسی کا یہاں رات ہے اسی کی
وہی رازق حقیقی ہے دلوں کی دھڑکنوں میں	کہ ہر ایک شے کے لب پر مناجات ہے اسی کی
نہ جنا کسی کو اس نے نہ جنا گیا کسی سے	جو ہے لا شریک ویکتا وہی ذات ہے اسی کی
وہ محیط ہر دو عالم وہ دلوں کے راز جانے	کہیں ذکر ہے اسی کا مدارات ہے اسی کی
وہ ہر ایک شے پہ قادر وہی سب کا رب ہے طاہر	سدا ہے جو رہنے والی بڑی ذات ہے اسی کی

طاہر سلطان

تم میں محمدی کون ہے؟

حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی سفر میں اپنی خلوت و راحت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ غور و فکر اور یادِ الہی میں مصروف تھا کہ میرے دل میں ندا دی گئی اے بایزید! سمعان کے گرجا گھر میں جاؤ اور راہبوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں شرکت کر لو۔ اس میں ہمارے لئے ایک خبر اور اہم معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے اس خیال سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کی اور کہا، ”میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔“ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتھ غیبی کی آواز آئی۔ اس نے وہی بات دہرائی۔ میں ہانپتے کانپتے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا اور ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ دل میں پھر ندا آئی ”تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ولی و نیک بندے ہو، تمہارا نام فرمانبرداروں کے رجسٹر میں درج ہے لیکن ہماری خاطر راہبوں کا سالباس اور زنا رہن لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔“ آپ فرماتے ہیں: ”میں صبح سویرے اٹھا اور حکم کی بجا آوری میں جلدی کی۔ راہبوں کا سالباس پہنا اور سمعان کے گرجا گھر پہنچ گیا۔ جب ان کا بڑا پادری آیا تو تمام راہب اکٹھے ہو گئے اور اس کو سننے کے لئے سب نے کان لگا دیئے لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ کوئی بات نہ کر سکا گویا اس کے منہ میں لگام دے دی گئی ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر پادریوں اور راہبوں نے اس سے پوچھا: ”اے سردار! کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانع ہے؟ ہم تو آپ کی باتوں سے ہدایت پاتے اور آپ کے علم کی پیروی کرتے ہیں۔“ اس نے جواب دیا: ”مجھے یہ چیز گفتگو سے مانع ہے کہ آج تمہارے درمیان کوئی محمدی بیٹھا ہے اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے اور تم پر حملہ کرنے آیا ہے۔“ انہوں نے کہا: ”ہمیں دکھا دیں، ہم اسے ابھی قتل کر دیتے ہیں۔“ اس نے کہا: ”اسے دلیل و برہان کے ساتھ قتل کرو، میں اس سے امتحان لینا چاہتا ہوں، اس سے علم الادیان (یعنی دینوں کے علم) کے متعلق سوالات کروں گا، اگر اس نے صاف صاف جوابات دے دیئے تو ہم اسے کچھ نہ کہیں گے اور اگر وضاحت نہ کر سکا تو اسے قتل کر دیں گے۔ امتحان کے وقت ہی آدمی عزت پاتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے۔“

سب راہب بولے: ”آپ جو چاہتے ہیں کریں، ہم یہاں مفید باتیں سیکھنے کے لئے ہی حاضر ہوئے ہیں۔“ اب ان کا بڑا سردار اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور زور سے آواز دی: ”اے محمدی! تجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا واسطہ! جہاں بھی ہے کھڑا ہو جاتا کہ سب تجھے دیکھ لیں۔“ حضرت سیدنا ابویزید علیہ الرحمہ اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر حمد و ثناء اور ذکر الہی عزوجل جاری تھا۔ ”پادریوں کے سردار نے کہا: ”اے محمدی! میں تجھ سے کچھ سوالات کروں گا اور سن! اگر تو نے ان کے جوابات وضاحت کے ساتھ دے دیئے تو ہم تیری پیروی کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔“

حضرت بایزید سے باسٹھ (۶۲) سوالات

حضرت سیدنا ابویزید علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا: ”نقلی و عقلی علوم میں سے جو چاہو پوچھو، اللہ عزوجل ہماری گفتگو کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔“ بڑے پادری نے پوچھا: (1) مجھے اس کے متعلق بتاؤ جس کا دوسرا نہیں (2) ان دو کے متعلق بتاؤ جن کا تیسرا نہیں (3) ان تین کے متعلق بتاؤ جن کا چوتھا نہیں (4) ان چار کے متعلق بتاؤ جن کا پانچواں نہیں (5) ان پانچ کے متعلق بتاؤ جن کا چھٹا نہیں (6) ان چھ کے متعلق بتاؤ جن کا ساتواں نہیں (7) ان سات کے متعلق بتاؤ جن کا آٹھواں نہیں (8) ان

- آٹھ کے متعلق بتاؤ جن کا نواں نہیں (9)..... ان نو کے متعلق بتاؤ جن کا دسواں نہیں (10)..... عشرۃ کاملۃ (یعنی مکمل دس دن) سے مراد کون سے دن ہیں؟ (11)..... ان گیارہ کے متعلق بتاؤ جن کا بارہواں نہیں (12)..... ان بارہ کے متعلق بتاؤ جن کا تیرہواں نہیں (13)..... ان تیرہ کے متعلق بتاؤ جن کا چودہواں نہیں (14)..... ایسی قوم کے متعلق بتاؤ جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیئے گئے (15)..... اس قوم کے متعلق جنہوں نے سچ بولا مگر آگ میں داخل کر دیئے گئے (16)..... تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ (17)..... الذریت ذروا (18)..... الحملت وقرا (19)..... الجریت یسرا اور (20)..... فالقسمت امرا سے کیا مراد ہے؟ (پ ۲۶، الذاریات: اتا ۲۱) (21)..... کون سی شے بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ (22)..... ان چودہ کے متعلق بتاؤ جنہوں نے رب العالمین جل جلالہ سے کلام کیا؟ (23)..... کون سی قبر صاحب قبر کو لے کر چلی؟ (24)..... وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے اترانہ زمین سے نکلا؟ (25)..... ان چار کے نام بتاؤ جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے، نہ ماں کے بطن سے؟ (26)..... زمین پر سب سے پہلا خون کس کا بہایا گیا؟ (27)..... اس شے کے متعلق بتاؤ جسے اللہ عزوجل نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا؟ (28)..... ایسی شے کے متعلق بتاؤ جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا اور خود ہی ناپسند فرمایا؟ (29)..... اس چیز کے متعلق بتاؤ جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا اور عظمت بھی بخشی؟ (30)..... اس چیز کے متعلق بتاؤ جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا اور پھر خود ہی اس کے متعلق سوال کیا؟ (31)..... سب سے افضل عورتیں کون ہیں؟ (32)..... سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ (33)..... افضل ترین پہاڑ کون سا ہے؟ (34)..... سب سے افضل چوپایہ کون سا ہے؟ (35)..... افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ (36)..... سب سے افضل رات کون سی ہے؟ (37)..... ”الطامة“ سے کیا مراد ہے؟ (38)..... وہ کون سا درخت ہے جس کی بارہ شاخیں ہیں، ہر شاخ پر تیس (30) پتے ہیں اور ہر پتے میں پانچ رنگ ہیں، دوسورج کی روشنی میں اور تین سائے میں؟ (39)..... وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت الحرام کاج کیا اور طواف کیا حالانکہ اس میں روح نہیں اور نہ ہی اس پر حج فرض تھا؟ (40)..... اللہ عزوجل نے کتنے نبی پیدا فرمائے؟ (41)..... ان میں سے کتنے مرسل اور کتنے غیر مرسل ہیں؟ (42)..... وہ کون سی چار چیزیں ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے؟ (43)..... نقیر کیا ہے؟ (44)..... قطیر کیا ہے؟ (45)..... قتل کیا ہے؟ (46)..... السب کیا ہے؟ (47)..... اللب کیا ہے؟ (48)..... الطم کیا ہے؟ (49)..... الزم کیا ہے؟ (50)..... کتا بھونکنے میں کیا کہتا ہے؟ (51)..... گدھا ریگنے میں کیا کہتا ہے؟ (52)..... بیل ذکرانے میں کیا کہتا ہے؟ (53)..... گھوڑا ہنہانے میں کیا کہتا ہے؟ (54)..... اونٹ بلبلانے میں کیا کہتا ہے؟ (55)..... مور اپنی چیخ و پکار میں کیا کہتا ہے؟ (56)..... تیر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے؟ (57)..... بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ (58)..... مینڈک اپنی تسیج میں کیا کہتا ہے؟ (59)..... ناقوس (نصاری) کا گھنڈہ جسے وہ اپنی عبادت کے وقت بجاتے ہیں) اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ (60)..... ایسی قوم کے متعلق بتاؤ جن کو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے اور نہ ہی فرشتوں میں سے؟ (61)..... جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور (62)..... جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟“

ہر شے پر قادر ذات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
تخلیق ہے کائنات تری سبحان اللہ سبحان اللہ

دیکھی ہے اٹل ہر بات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
مقصودِ دو عالم ذات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
ہے قادر مطلق ذات تری سبحان اللہ سبحان اللہ
ہے یوں بھی مقدس ذات تیری سبحان اللہ سبحان اللہ

انور فیروز پوری

جو حکم دیا وہ ٹل نہ سکا جو فرمایا وہ ہو کے رہا
ہر عالم کا معبود ہے تو ساجد ہیں سب مسجود ہے تو
تو چاہے جسے عزت بخشے تو چاہے جسے ذلت بخشے
ہر غیب سے مطلق پاک ہے تو اور خالق ہفت افلاک ہے تو

۶۲ سوالات کے جوابات

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ النورانی نے پوچھا: ”کیا ان کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟“ تو سب پادریوں نے کہا: ”نہیں۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”اگر میں نے ان کے جوابات صحیح طور پر دے دیئے تو کیا تم اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟“ سب نے کہا: ”جی ہاں۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہِ الہی عزوجل میں عرض کی: ”یا اللہ عزوجل! تو ان کی باتوں پر گواہ ہے۔“ پھر فرمایا: ”اب اپنے سوالات کے جوابات سنتے جاؤ: (1)..... وہ ایک جس کا دوسرا نہیں تو وہ اللہ واحد قہار ہے (2)..... وہ دو جن کا تیسرا نہیں تو وہ دن اور رات ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالی شان ہے: ”وجعلنا الليل والنهار ایتین (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲) اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔“ (3)..... وہ تین جن کا چوتھا نہیں تو وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں (4)..... وہ چار جن کا پانچواں نہیں تو وہ آسمانی کتابیں ”تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک“ ہیں (5)..... وہ پانچ جن کا چھٹا نہیں تو وہ پانچ نمازیں ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں (6)..... وہ چھ جن کا ساتواں نہیں تو وہ چھ دن ہیں۔ اللہ عزوجل ان کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے: ”ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فی ستة ايام (پ ۲۶، ق: ۳۸) بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنایا۔“ (7)..... وہ سات جن کا آٹھواں نہیں تو وہ سات آسمان ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالی شان ہے: ”سبع سموات طباقا (پ ۲۹، الملک: ۳) سات آسمان ایک کے اوپر دوسرا۔“ (8)..... وہ آٹھ جن کا نواں نہیں تو وہ عرش اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: ”ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية O (پ ۲۹، الحاقہ: ۱۷) اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔“ (صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل چار ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لئے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا آٹھ ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی آٹھ صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے۔“ (9)..... وہ نو جن کا دسواں نہیں تو وہ نو افراد کی جماعت تھی جو فساد برپا کرنے والے تھے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ”وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون O (پ ۱۹، النمل: ۲۸) اور شہر میں نو شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے۔“ (10)..... عشرة كاملة (یعنی مکمل دس دن) سے مراد وہ دس دن ہیں جن میں حج تمتع کرنے والا ہدی کا جانور نہ پانے کی صورت میں روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة

اذا رجعت ط تلك عشرة كاملة ط (پ ۲، البقرة: ۱۹۶) تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ یہ پورے دس ہوئے۔ (11)..... وہ گیارہ جن کا بارہواں نہیں تو وہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ”انسی رأیت احد عشر کوکبا (پ ۱۲، یوسف: ۴) میں نے گیارہ تارے دیکھے۔“

ایک تفسیری وضاحت

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے گیارہ ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ خواب شب جمعہ کو دیکھا، یہ رات شب قدر تھی۔ ستاروں کی تعبیر آپ کے گیارہ بھائی ہیں اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ یا خالہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے۔ سدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لئے حجر سے آپ کی خالہ مراد ہیں اور سجدہ کرنے سے تو واضح کرنا اور مطیع ہونا مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے کیونکہ اس زمانہ میں سلام کی طرح سجدہ تھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت بارہ سال کی تھی اور سات اور سترہ کے قول بھی آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس لئے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر مطلع تھے۔ اس لئے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: اے میرے بچے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا۔“

(12)..... وہ بارہ جن کا تیرہواں نہیں تو وہ مہینوں کی تعداد ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”ان عدة الشهور عند اللہ اثنا عشر شهرا فی کتب اللہ (پ ۱۰، التوبہ: ۳۶) بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہے اللہ کی کتاب میں۔“

(13)..... وہ تیرہ جن کا چودہواں نہیں تو وہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا خواب ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”انسی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی سجدین O (پ ۱۲، یوسف: ۴) میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے دیکھا۔ (14)..... وہ قوم جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیئے گئے تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”قالوا یا بانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب (پ ۱۲، یوسف: ۱۷) بولے اے ہمارے باپ! ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔“ انہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیئے گئے۔

(15)..... وہ قوم جنہوں نے سچ بولا لیکن جہنم میں داخل کر دیئے گئے تو وہ یہود و نصاریٰ ہیں اور وہ ان کا یہ قول ہے: ”وقالت الیہود لیست النصری علی شیء وقالت النصری لیست الیہود علی شیء (پ ۱۱، البقرة: ۱۱۳) اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں۔“ (۱) انہوں نے سچ کہا لیکن جہنم میں داخل کر دیئے گئے۔

دو تفسیری وضاحتیں

حضرت، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزان العرفان میں اس آئیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:

”نجران کے نصاریٰ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علمائے یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ آوازیں بلند ہوئیں، شور مچا۔ یہود نے کہا کہ نصاریٰ کا دین کچھ نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کیا۔ اسی طرح نصاریٰ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں اور توریت شریف و حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔“

(16)..... تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کان ہیں۔ (یعنی جب کوئی نام بولا جاتا ہے تو کان ہی سنتے ہیں)

(17)..... الذریت ذروا (یعنی بکھیر کر اڑانے والیاں) سے مراد چار ہوائیں ہیں۔

ان چار ہواؤں کے نام یہ ہیں: (1)..... پروا یعنی مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا (2)..... پچھوا یعنی مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہوا (3)..... جنوبی یعنی جنوب سے شمال کی طرف چلنے والی ہوا اور (4)..... شمالی یعنی شمال سے جنوب کی طرف چلنے والی ہوا۔ نیز حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ”ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں۔ ان میں چار باعث رحمت ہیں: (1)..... الناشرات: بادلوں کو اٹھانے اور اڑانے والی ہوائیں (2)..... المبشرات: بارش کی خبر دینے والی ہوائیں (3)..... الذریات: خاک وغیرہ اڑانے والی ہوائیں اور (4)..... المرسلات: مسلسل چلنے والی ہوائیں اور چار باعث رحمت ہیں: (1)..... العاصفات: تیز ہوائیں آندھیاں (2)..... القاصب: زوردار گرج والی ہوائیں، یہ دونوں تری میں چلتی ہیں (3)..... الصرصر: انتہائی سرد بریلی ہوائیں یا شدید آواز والی ہوائیں اور (4)..... لعقیم: بے بارش ہوا۔ آخری دونوں ہوائیں خشکی میں چلتی ہیں۔“ (الموسوۃ لابن ابی الدنیا، کتاب المطر والرعد والبرق والريح، باب فی الریح، الحدیث: ۱۷۴، ج ۸، ص: ۴۵۱)

(18)..... ”الجملت وقرا“ سے مراد بادل ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”والسحاب المسخر بین السماء والارض (پ ۲، البقرہ: ۱۶۴) اور وہ بادل کہ آسمان وزمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے۔“ (19)..... الجریۃ یسرا (یعنی نرم چلنے والیاں) سے مراد دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں (20)..... ”فالمقسمت امرا“ سے مراد ملائکہ ہیں جو لوگوں کا رزق پندرہ شعبان سے دوسرے سال پندرہ شعبان تک تقسیم کرتے ہیں (21)..... جن چودہ نے رب العلمین عزوجل سے کلام کیا تو وہ سات آسمان اور سات زمینیں ہیں۔ چنانچہ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”فقال لها وللارض انتیا طوعا او کرہا“ قالتا اتینا طانعین ۵ (پ ۲۴، حم السجدہ: ۱۱) ”تو اس (آسمان) سے اور زمین سے فرمایا دونوں حاضر ہوں خوشی سے چاہے ناخوشی سے، دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔“ (22)..... وہ قبر جو صاحب قبر کو ساتھ لے کر چلی تو وہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مچھلی ہے (23)..... جو چیز بلا روح ہے مگر سانس لیتی ہے تو وہ صبح ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”والصبح اذا تنفس ۵ (پ ۳۰، التکویر: ۱۸) اور صبح کی (قسم) جب دم لے۔“ (24)..... وہ پانی جو آسمان سے اترتا، نہ زمین سے نکلا تو وہ گھوڑوں کا پسینہ ہے جس کو شیشے کی بوتل میں بھر کر ملکہ بلقیس نے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہما الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا تھا

(25)..... وہ چار نفوس جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے، نہ ماں کے بطن سے تو وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدتنا حواری رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہیں (26)..... زمین پر سب سے پہلا خون ہائیل کا بہایا گیا جب قاتیل نے اسے قتل کیا (27)..... ایسی چیز جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا پھر خرید لیا تو وہ مومن کی جان ہے۔ جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے: ”ان الله اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة (پ ۱۱، التوبہ: ۱۱۱) بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں۔ اس بدلے پر کہ ان کے لئے جنت ہے۔“

شانِ نزول

حضرت، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزان العرفان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”راہِ خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمان داروں کی ایک تمثیل ہے جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرماتا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے کس چیز کو جو نہ ہماری بنائی ہوئی نہ ہماری پیدا کی ہوئی۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ شانِ نزول: جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! اپنے رب کے لئے اور اپنے لئے کچھ شرط فرمائیجئے جو آپ چاہیں۔ فرمایا: میں اپنے رب کے لئے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے لئے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لئے بھی گوارا نہ کرو۔“ انہوں نے عرض کیا کہ ”ہم ایسا کریں تو ہمیں یا ملے گا؟“ فرمایا: ”جنت“

(28)..... ایسی شے جسے اللہ عزوجل نے پیدا کیا اور ناپسند کیا تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے: ”ان انکر الاصوات لصوت الحمير (پ ۲۱، لقمان: ۱۹) بے شک سب آوازوں میں بری آواز، آواز گدھے کی۔“ تفسیر خزان العرفان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت ہے: ”مدعا یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے۔“

(29)..... ایسی چیز جسے اللہ عزوجل نے پیدا کیا اور اسے بڑا کہا تو وہ عورتوں کا مکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”ان کید کن عظیم (پ ۱۲، یوسف: ۲۸) بے شک تمہارا چرتہ (فریب) بڑا ہے۔“ (30)..... وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کے متعلق سوال کیا تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے: ”وما تلتک بيمينک يموسىٰ قال ہى عصای اتوکوا علیہا واہش بها علی غنمی (پ ۱۶، طہ: ۱۷-۱۸) اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ! عرض کی یہ میرا عصا ہے، اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔“

عصائے کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

”اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ

عصا ہے تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مانوس کیا جائے تاکہ ہیبت مکالمت کا اثر کم ہو۔“ (مدارک وغیرہ) اس عصا میں اوپر کی جانب دو شاخیں تھیں اور اس کا نام ”نبعہ“ تھا۔“ (تفسیر خزائن العرفان)

- (31)..... سب سے افضل عورتیں ام البشر حضرت سیدتنا حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدتنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں (32)..... سب سے افضل دریا سیحون جیحون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہیں (33)..... سب سے افضل پہاڑ طور ہے (34)..... سب سے افضل چوپایہ گھوڑا ہے (35)..... سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن (پ ۲، البقرہ: ۱۸۵) رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔“ (36)..... سب سے افضل رات شب قدر ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”ليلة القدر خير من الف شهر O (پ ۳۰، القدر: ۲) شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر۔“ (37)..... ”الطامة“ سے مراد قیامت ہے (38)..... وہ درخت جس کی بارہ (12) شاخیں ہیں، ہر شاخ میں تیس (30) پتے، ہر پتے میں پانچ رنگ دوسورج کی روشنی میں اور تین سائے میں تو وہ درخت سال ہے، بارہ مہینے اس کی بارہ شاخیں ہیں، تیس پتے تیس دن ہیں اور پانچ رنگ پانچ نمازیں ہیں، تین سائے میں یعنی مغرب، عشاء اور فجر، دو روشنی میں یعنی ظہر اور عصر (39)..... وہ ایسی چیز جس میں روح نہیں اور نہ ہی اس پر حج واجب تھا پھر بھی اس نے کعبہ مبارکہ کا طواف کیا تو وہ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کشتی ہے (40)..... اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پیدا فرمائے۔ (41)..... ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں (42)..... چار اشیاء جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے تو وہ آنکھ، ناک، منہ اور کان ہیں۔ آنکھ کا پانی نمکین، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی ترش اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ (43)..... نقیر ایک جھلی ہے جو گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے (44)..... قطمیر انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں (45)..... قنیل سے مراد گٹھلی کے اندر کا گودا ہے (46)..... السبد اور (47)..... اللبد بھیڑ اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ (48)..... الطم اور (49)..... الرم ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے کی جنات تو ہیں (50)..... گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے: ”اللہ عزوجل (نا جائز) ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔“ (51)..... کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے، ”ویل لاهل النار من غضب الجبار یعنی دوزخیوں کے لئے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہیں۔“ (52)..... بیل اپنے ڈکرانے میں کہتا ہے، ”سبحن اللہ وبحمدہ“ (53)..... گھوڑا اپنے ہنہانے میں کہتا ہے: ”پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجوڑتے ہیں اور مردان کارڈائی میں مصروف ہوتے ہیں۔“ (54)..... اونٹ اپنے بلبلانے میں کہتا ہے: ”حسبی اللہ وکفی بہ وکیلا یعنی میرے لئے اللہ عزوجل ہی کافی اور وہی میرا کارساز ہے۔“ (55)..... مور اپنی چیخ وپکار میں کہتا ہے: ”الرحمن علی العرش استوی O (پ ۱۶، ط: ۵) وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔“ (56)..... تیترا اپنی سیٹی میں کہتا ہے، ”بالشکر تدوم النعم یعنی اللہ عزوجل کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔“ (57)..... بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا

ہوتا ہے: ”سبحن اللہ حین تمسون حین تصبحون“ (پ ۲۱، الروم: ۱۷) تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔“

قرآن پاک میں پانچ نمازوں کا ذکر

تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں: ”پاکی بولنے سے یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثنا مراد ہے اور اس کی احادیث میں بہت فضیلتیں وارد ہیں یا اس سے نماز مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ کیا بخگانہ نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟“ فرمایا: ”ہاں۔“ اور یہ آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ ان میں پانچوں نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں۔“

(58)..... مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے: ”سبحان المعبود فی البراری والقفار سبحان الملك الجبار یعنی پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار۔“ (59)..... ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے، ”اللہ عزوجل پاک ہے، وہ حق ہے، اے ابن آدم! اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ! کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔“ (6)..... ایسی قوم جس کو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی، وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے اور نہ ہی ملائکہ میں سے تو وہ شہد کی مکھی ہے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”و اوحی ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون“ (پ ۱۳، النحل: ۶۸) اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں۔“ (61)..... جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اور (62)..... جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ تو اللہ عزوجل کے پوشیدہ علم میں ہے، کسی نبی یا مقرب فرشتے پر بھی ظاہر نہیں۔

جنت کی چابی

مذکورہ تمام جوابات دینے کے بعد حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ النورانی نے پوچھا: ”کیا تمہارا کوئی سوال باقی ہے۔“ انہوں نے کہا: ”نہیں۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پادری سے فرمایا: ”بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟“ بڑا پادری خاموش رہا تو سب نے اسے کہا: ”آپ نے اتنے سوال پوچھے اور انہوں نے سب کے جواب دیئے، اب انہوں نے ایک ہی سوال کیا اور آپ جواب دینے سے عاجز آ گئے۔“ پادری نے کہا: ”میں عاجز نہیں آیا لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں جواب دوں تو تم تسلیم نہیں کرو گے۔“ انہوں نے کہا: ”کیوں نہیں، ہم مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ جو بھی فرمائیں ہم سر تسلیم خم کریں گے۔“ تو بڑے پادری نے کہا: ”آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے۔ جب دیگر پادریوں اور راہبوں نے سنا تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے گر جا گھر توڑ کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور اپنے اپنے زنا رہی توڑ دیئے۔ حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ النورانی کو غیب سے آواز آئی: ”اے ابو یزید! تو نے ہمارے لئے ایک زنا رہا تو ہمارے تیری خاطر پانچ سوزنا توڑ دیئے۔“ (الروض الفائق)

تو نے بخشا ہے سکوں کی ہے عطا آسودگی
کیف دیتی ہے فضا دل کی ہوا آسودگی

اور کیا مانگے بشر تجھ سے بھلا آسودگی
اللہ اللہ میرے اللہ تیرا انداز کرم

مجھ کو دیتا ہے مرا حرفِ دعا آسودگی
جس طرح دیتی ہے پھولوں کو صبا آسودگی
ہے زمانے میں سبھی کا مدعا آسودگی
اس مرض کی تو نے ٹھہرائی دوا آسودگی

سجاد حسن

تو تو بن مانگے ہی دیتا ہے خداوندِ کریم
دھیان تیرا تازگی دیتا ہے قلب و روح کو
نام لیں کوئی بھی لیکن مانگتے تجھ سے ہی ہیں
چاٹ جاتی فکر کی دیمک بشر کے جسم کو

حمد خدا جل و علا بحوالہ وصالِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے حقیقی عقلمندوں کو چین لیا کہ قربت سے غفلت کو چھوڑ کر اس کی معرفت کے چھپے ہوئے مطالب کو تلاش کریں اور اس نے پختہ سمجھ کی کشتیوں کو، اپنی ہمیشہ رہنے والی صفت کے متعلق سوال کے دریاؤں کی تیز لہروں میں غرق کر دیا اور غور و فکر کے پرندوں کے پروں کو کٹوئیں سے آزاد کر کے اپنی شانِ بے نیازی کے میدانوں میں پہنچا دیا اور حواس و شعور کے پیمانوں کی بنیادنا امیدی کے کدال سے گرا دی، لہذا اس کی صفات و قدرت کا اندازہ لگانے کا کوئی پیمانہ نہیں اور عقل و دانش کے پرندوں کو اپنی ذات کی معرفت کے جاں میں داخل کیا تو افلاک و املاک سبھی اس کی شانِ احدیت کے ادراک سے عاجز آ گئے اور عقلیں اس کے رازِ یکتائی کے حصول کے قریب پہنچنے سے عاجز آ گئیں۔ پس وہ اول ہے جس کی اولیت پر سبقت لے جانے والا کوئی نہیں۔ وہ آخر ہے جس کے آخری ہونے پر کوئی آخر نہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ اپنے اہل محبت پر دلیل کے ساتھ عیاں ہے۔ وہ باطن ہے کہ غور و فکر کے باوجود دل اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا سمیع (یعنی سننے والا) ہے کہ رحمِ مادر کے پردوں کی تاریکی میں بچہ کے سانس کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ وہ ایسا بصیر (یعنی دیکھنے والا) ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی سیاہ چٹان پر چیونٹی کے ریختے کا نشان بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہ علیم ہے کہ ہر وہ بات جانتا ہے جسے بندہ اپنے دل میں چھپاتا ہے۔ وہ جبار ہے کہ ہر جبار اس کی بلند ہیبت کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ وہ قہار ہے کہ ہر متکبر پر اپنی شانِ اقتدار سے غالب ہے۔ ساری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور تمام مخلوق اس کی بزرگی کی معترف ہے اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے (یعنی اس کی ہیبت و جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں)۔

اے اعلیٰ مقصد کے طلب گار! راستے میں بہت زیادہ ہلاکتیں اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ اگر تم نے یہاں توفیقِ الہی عزوجل کو پالیا تو اپنی ملاقات میں کامیاب ہو جائے گا، اپنی اُمید کی انتہاء کو پالے گا پھر تو ایسے جمال کو دیکھے گا جو کبھی تیرے خیال میں نہ آیا تھا اور ایسے جواب سنے گا جو کبھی تیرے دل میں نہ کھٹکے ہوں گے، اور تو ایسا جامِ پنے گا جو تجھے سیراب کر دے گا اور اہل و مال سے بے پرواہ کر دے گا۔ اگر تو اپنی عقل و رائے اور مثال سے اس کی بارگاہ میں رسائی چاہے گا تو ملاقات تو کجا اپنی دیگر نعمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور خسارہ و عذابِ مول لے گا۔ اپنے تجسس اور سوال میں کمی کر اور چھان بین اور جھگڑے سے رک جا اور جان لے کہ (جس طرح تو مقصود چاہتا ہے) اللہ عزوجل کی مشیت اس کے برعکس ہے۔

ذاتِ الہی عزوجل کی معرفت کے میدانوں کی طرف کتنے ہی عقلمندوں کے قافلے چلے اور بھٹکتے رہے، لیکن منزل پر نہ پہنچ سکے۔

بہت سی عقلوں نے اس دروازے میں داخل ہونا چاہا مگر وہ ہمیشہ بند رہا۔ عقل نے کتنے ہی پیغام بھیجے مگر وہ حیرانی کے عالم میں واپس لوٹ آئے۔ عقل بغیر بدلے اس در پر کھڑی ہے، فکر اس بارگاہ میں ہمیشہ سے حاضر ہے، پختہ سمجھ اس کی شان بے نیازی کے ادراک میں حیران و ششدر ہے کہ جو اس باختہ ہو چکی ہے۔ عقلیں دنگ ہیں کہ معقول کے ذریعے اس کی پہچان نہیں ہوتی اور اذہان ہکا بکا ہیں کہ منقول کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔

پاک ہے جو معبود ہے، کیسا؟ کیسے ہو کہ وہ کیفیت سے پاک ہے۔ کہاں؟ کہاں ہو کہ وہ کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے۔ وہ ہر شے سے اول ہے اور اس کے لئے ابتداء نہیں، وہ ہر شے کا آخر ہے اور اس کے لئے انتہاء نہیں۔ اس کو کسی مثل پر قیاس کیا جاسکتا ہے نہ کسی مادی شے کے ساتھ اسے متصف کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی جسم کے ساتھ اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس نے شر کو پیدا کیا اور اسے لکھ دیا، اس نے خیر کو پیدا کیا اور اسے پسند فرمایا جس نے اس کی اطاعت کی اس پر رحم فرماتا ہے اور جس نے نافرمانی کی اسے عذاب دیتا ہے، کسی فیصلے کے بارے میں پوچھنے کا محتاج نہیں۔ اپنے اولیاء سے چھپتا نہیں اور نہ ہی انہیں حجاب میں رکھتا ہے۔ اس کا یہ ازلی وعدہ ہے کہ ”یا یتھا النفس المطمئنة ۵ ارجعی الی ربک راضیة مرضیة ۵ (پ ۳۰، الفجر: ۲۷-۲۸) اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔“

پاک ہے ملک و ملکوت والا، عزت و عظمت والا وہ زندہ ہے جسے موت نہیں۔ وہ پوشیدہ رازوں، دلوں کی دھڑکنوں اور چھپے ہوئے خیالوں کی آہٹوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی معرفت کے ٹھانٹھیں مارتے ہوئے اس سمندر میں غرق کر دیا جس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء۔ وہ سوچوں کو پیغام دینے والا ہے، اس کی معرفت کی راہ میں سوچ رک گئی اور حیران ہے مگر وہ ہمیشہ سے باقی ہے۔ احساس کا جاسوس آیا تاکہ اس کی بعض صفات کو جان لے تو تقدیر نے اسے آواز دی کہ اے حیرت زدہ! تو کہاں چل دیا، دروازے اور راستہ تو بند ہیں۔ اس کے ادراک کی طرف کوئی راہ نہیں۔ نہ ہی اس کی کوئی شبیہ و مثل ہے۔ ایسا سمندر ہے کہ وہاں سے ”جوہر“ نکالنا کسی ”غوطہ خور“ کے لئے ممکن نہیں۔ ایسی رات ہے کہ بہت چمکنے والا ستارہ بھی اس میں آنکھ کے لئے روشنی نہیں کر سکتا۔

سوجتی دھرتی بولتا پانی	کر رہے ہیں تری ثناء خوانی
اور میں ہوں ابد کی حیرانی	تو ہے آئینہ ازل یا رب
تیرے سورج کی سب درخشانی	تیرے جلووں کے دم سے لیل و نہار
گنبد جاں ہے میرا نورانی	گو بختا ہے ثناء کے نغموں سے
درد کی سرحدیں ہیں طولانی	پار ہوتی نہیں مرے مولا
تیرا بندہ صبحِ رحمانی	تجھ سے بخشش کا ہے تمنائی

صبحِ رحمانی

تو جو چاہے تو ہوتی ہے پوری غرض و مراد

پاک ہے وہ ذات جس نے تمام موجودات کو بنایا، زمانے کی تدبیر فرمائی، انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنا سکھایا، قرآن کریم

اتارا، ایمان و کفر اور اطاعت و نافرمانی کو مقدر کیا، وہ بھول سے پاک ہے، اسے ایک کام دوسرے سے غافل نہیں کرتا، زمانے اسے نہیں بدل سکتے، امور کا بدلنا اس پر مختلف نہیں ہوتا۔ اختیار کو مقرر فرمانے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کی شان سب سے بلند ہے، اور اسی کے لئے ہیں سب اچھے نام اور بلند صفات اور وہ فرماتا ہے: ”خلق السموت والارض وما بینہما (پ ۱۹، الفرقان: ۵۹) آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بنائے۔“ اور ”الرحمن علی العرش استوی O (پ ۱۶، ط: ۵) وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔“ زمانے اسے پرانا نہیں کر سکتے، مقدار اسے روک نہیں سکتی، اطراف عالم اسے گھیر نہیں سکتے اور نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور اس کا فرمان ذیشان ہے: ”یکور الیل علی النهار (پ ۲۳، الزمر: ۵) رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔“ اور ”وکل شیء عندہ بمقدار O (پ ۱۳، الرعد: ۸) ترجمہ: اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔“ اس کی ذات دیگر ذوات کی طرح نہیں اور اس کی صفات دیگر صفات کی مثل نہیں۔ وہ درجات بلند کرنے والا، زندوں کو مارنے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بولیاں اس پر مشتبہ نہیں ہوتیں اور نہ ہی آوازیں اس پر مختلف ہوتی ہیں۔ حواس کے ترازو سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اسے نیند آئے نہ اونگھ۔ اولیاء اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ ملائکہ اس کے خوف سے اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ جن وانس اس کے قبضہ و اقتدار میں ہیں۔ جنت و جہنم اس کے ”امرو نہی“ کے تحت ہیں۔ بیان کرنے والے (جیسا اس کا حق ہے) اس کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتے۔ گمان اسے قید نہیں کر سکتے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں۔ آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھ سکتیں۔ وہ جب کسی شے کو چاہے تو اس سے فرمائے: ”ہو جا۔“ تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ مخلوق اس کے غالب ارادہ میں مقید ہے۔ اسی نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا فرمایا اور وہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتا ہے: ”لا یسئل عما یفعل وہم یسئلون O (پ ۱۷، الانبیاء: ۲۳) اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔“

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت تک جانے والی حقائق کی راہوں کو کٹھن و دشوار بنا دیا پس اس پر چلنے والے چنیل میدان میں آگئے۔ اس نے مخلوق کے ادراک کو حیران کر دیا تو اب وہ حیرت زدہ ہیں۔ انہوں نے عقلوں کے تیل سے معرفت کے چراغ جلائے اور ایمان کی بجلی کے نور سے رہنمائی حاصل کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ”کلما اضاء لہم مشوا فیہ (پ ۱، البقرہ: ۲۰) جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔“

پھر انہوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا تو دل کہنے لگے: ”ہم پاکیزگی کے گھر ہیں اور گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔“ پھر انہوں نے صفات کا دامن تھاما تو وہ بولیں: ”ہمیں اس کے اظہار کی طاقت نہیں۔“ اس کے بعد انہوں نے عقل کی طرف اشارہ کیا تو عقل نے مدہوشی و حیرت کے عالم میں ان سے کہا: ”میں بھی اس معاملہ میں تمہاری طرح حیران ہوں، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اسے بیان کروں۔ میں اس کی صفات بیان نہیں کر سکتی کہ اس کی تعریف و توصیف کروں اور میں نہیں جانتی کہ کس طرف سے اس تک رسائی حاصل کروں تم نے اس امر کے متعلق پوچھا ہے جسے میں نہیں جانتی اور تم اس راز کا اظہار چاہتے ہو جسے حاصل کرنے میں میں خود ہمیشہ عاجز رہی۔ مجھے تو یہاں سے صرف حیرت و تعجب ہی حاصل ہوا ہے۔ لیکن اے معرفت الہی عزوجل کے بارے میں حیرت زدہ! اے اس کے معانی کے حسن میں عقل کو لٹا دینے والے! اگر تو اس کی معرفت چاہتا ہے تو توفیق الہی

عزوجل کی راہ پر چل کیونکہ وہ ایسا قریب ہے کہ توجہ چاہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور وہ بعید ہے مگر فاصلے کے ساتھ نہیں کہ تو اسے طے کر لے۔ اگر تو اس سے خالص دوستی اور تعلق رکھے گا تو وہ تجھے پاکیزگی و پسندیدگی کے جام سے سیراب فرمائے گا اور اگر تو نے اس کی محبت کا جام پی لیا تو یہی جام تجھے سیراب کر دے گا اور اگر تو اس کے ذکر اور حمد و ثنا کے نغمے سننا چاہتا ہے تو اسے کسی بھی چیز سے تشبیہ دینے سے بچتے ہوئے توحید و پاکی کی بیان کرنے والی زبان سے کہہ:

تَبَارَكَ اللهُ فِيْ عُلْيَاءِ عِزَّتِهِ وَجَلَّ مَعْنَى فَلَيْسَ الْوَهُمُ يَحْوِيهِ
وَجُودُهُ سَابِقٌ لِأَشْيَاءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَكَّ لِي فِيهِ
لَا كَوْنٌ يَحْضُرُهُ لَا عَوْنٌ يَنْصُرُهُ لَا كَشْفٌ يُظْهِرُهُ لَا جَهْرٌ يُبْدِيهِ
لَا دَهْرٌ يَخْلُقُهُ لَا نَقْصٌ يُلْحِقُهُ لَا نَقْلٌ يَسْبِقُهُ لَا عَقْلٌ يَدْرِيهِ
حَارَتْ جَمِيعُ الْوَرَى فِي كُنْهِ قُدْرَتِهِ وَلَيْسَ تُدْرِكُ مَعْنَى مِنْ مَعَانِيهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جَلَالَتِهِ وَجَلَّ لُطْفًا وَعِزًّا فِي تَعَالِيهِ

ترجمہ: (۱)..... اللہ عزوجل اپنی علو عزت کے اعتبار سے بلند و برتر ہے اور وہ بڑا ہے کہ وہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔
(۲)..... اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، کوئی شے اس کے مشابہ نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔
(۳)..... کوئی جگہ نہیں جو اسے گھیر لے، کوئی مددگار نہیں جو اس کی مدد کرے، کوئی کشف نہیں جو اسے ظاہر کرے اور کوئی اعلان نہیں جو اسے بیان کرے۔
(۴)..... کوئی زمانہ نہیں جس نے اسے پیدا کیا، کوئی عیب نہیں جو اس سے مل جائے، کوئی ایسی ذات نہیں جو اس سے بڑھ جائے اور کوئی عقل نہیں جو اس کا ادراک کرے۔
(۵)..... ساری مخلوق اس کی قدرت کی حقیقت میں حیران و سرگرداں ہے مگر اس کے معانی میں سے ایک معنی کا بھی ادراک نہیں کر سکی۔
(۶)..... وہ پاک ہے اور اس کی شانیں بلند و بالا ہیں اور وہ بڑا ہی مہربان اور طاقتور و برتر ہے۔

کرتا ہے اہل درد کی دلہنگی وہی دیتا ہے ظلمتوں میں ہمیں روشنی وہی
اک صادق و امین نے ہمیں جس کی دی خبر ہاں ہاں وہی خدائے احد ہے وہی وہی
وہ بے نیاز یاد کسی کو ہو یا نہ ہو اس بے نیاز کی ہے جہان پروری
وہ راہِ مستقیم دکھاتا ہے خود ہمیں کرتا ہے دور دیدہ۔ و دل کی کجی وہی

مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ

پاک ہے وہ جو معبود ہے، اس نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، تمام فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، ان کو اپنی وسیع جنت میں ٹھہرایا۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی تمام اولاد کے بارے میں موت کا فیصلہ فرمایا۔ اس نے اپنے پیارے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلہ کی خبر دیتے ہوئے

ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقة الموت ط (پ ۱۷، الانبیاء: ۳۵) ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔“

اس نے حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو طوفان سے نجات عطا فرمائی اور اہل ایمان کو بچا کر مخالفین کو غرق کر دیا اور حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی اس موت کا فیصلہ فرمایا جو جن وانس کے لئے لکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ، اس نے اپنے حبیب، حبیب لیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: ”کل من علیہا فان“ (پ ۲۷، الرحمن: ۲۶) زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔“

اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، انہیں مراد تک پہنچایا، صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھا، ان کو آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی دکھائی اور مشاہدہ کروایا اور پھر آپ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی موت کا وعدہ پورا فرمایا اور حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کا حال اور اس کی طاقت کو یوں بیان فرمایا: ”ایسن ما تکونوا یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة“ (پ ۵، النساء: ۷۸) تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔“

اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہم کلامی کے لئے منتخب فرمایا، ان کو اپنا کلام سنایا اور اپنے لذت والے خطاب سے انہیں ان کے مقصود مطلوب تک پہنچا دیا اور پھر ان کی طرف بھی موت کو بھیج دیا اور حضور نبی مکرم نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: ”کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجور کم یوم القیمة“ (پ ۳، آل عمران: ۱۸۵) ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔“

اسی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ اس کے اختیار میں ہے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ عزوجل کے حکم سے مادر زاد اندھوں اور سفید داغ (یعنی برص) والوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اللہ عزوجل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ”انی متوفیک ورافعک الی“ (پ ۳، آل عمران: ۵۵) میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔“

اور وہی ذات ہے جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی عربی، امین و مامون، صاحب عزت و مرتبہ اور محافظ عزت ہونے کی حیثیت سے منتخب فرمایا اور چن لیا۔ باوجودیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قرب و مرتبہ عطا فرمایا جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کریمہ کو بھی وصال ظاہری کی خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوادثِ زمانہ سے آگاہ فرمایا اور ماقبل وصال فرمانے والے حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی ظاہری وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان بخشا۔ انک میت وانہم میتون (الزمر: ۳۰)

ورنہ سب بے سود وسیلے، حیلے نامنظور

تو جو چاہے تو ہوتی ہے پوری غرض، مراد

وحدانیتِ خدا بزرگانِ مصطفیٰ علیہم السلام و الثناء

حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انا عصمة اللہ - انا حجة اللہ (مسند الفردوس للذہبی)

میں اللہ کی پناہ اور دلیل ہوں۔ (کنوز الحقائق ص ۲۲۹، امام عبدالرؤف مناوی)

قل۔ کہہ دو! محبوب! یعنی دعویٰ کرو! اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفو احد

”اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا اور اس کا کوئی ہم سر نہیں۔“

اللہ ایک ہے۔ یہ دعویٰ ہے، دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے اور جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اب اللہ پوری کائنات کا رب ہے تو دلیل بھی پوری کائنات کی رحمت ہونی چاہئے۔ اگر دلیل کم زور ہو تو دعویٰ ناقص ہوتا ہے، اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ بھی ختم۔

اب اللہ ایک ہے۔ یہ دعویٰ ہے دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء کیوں نہیں! آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ انہیں دلیل نہیں بنایا کیوں کہ ان تمام نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کی ذات بھی دیکھی اور ساتھ یہ بھی دیکھا کہ عیسائی اللہ کے بیٹے اور بیوی ہونے کا (معاذ اللہ) دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہیں۔ نیچے آ کر اللہ کے بارے میں بتایا نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ، وہ تو واحد ہے۔

اب یہ دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، دلیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ کر آئے ہیں اس لئے بتا رہے ہیں۔ یہ تو مکہ کے کافر بھی تسلیم کرتے تھے۔ کہ حضور جھوٹ نہیں بولتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اسی لئے صادق اور امین کے القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ اب جو امانت اور صداقت لائے کہ اللہ ایک ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کر کے جھوٹ نہیں بول سکتے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اب دلیل کی مضبوطی کا بھی پتہ چلا کہ دلیل کتنی مضبوط ہے کہ غیر بھی اس کی صداقت اور امانت کا اقرار کرتا ہے کیوں کہ دعویٰ بہت مضبوط تھا تو دلیل بھی اتنی ہی مضبوط ہونی چاہئے تھی۔

اب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن سکتے ہیں؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں! یہ اسم مبارک چار حروف کا مجموعہ ہے یعنی م، ح، ہ، د۔ ان چار حروف کو ملائیں تو اسم مبارک ”محمد“ بنتا ہے۔ اب میم پر غور کریں تو اس سے مراد ماضی (گزرہوا زمانہ) بنتا ہے۔ ح پر غور کریں تو حال (موجودہ زمانہ) بنتا ہے۔ میم پر غور کریں تو مستقبل (آنے والا زمانہ) بنتا ہے۔ دال سے مراد دلیل بنتی ہے۔

ایک پر لطف بات یہ ہے کہ زمانہ کی ترتیب بھی یہی بنتی ہے کہ پہلے ماضی ہے، پھر حال، پھر مستقبل۔ ترتیب کے لحاظ سے بھی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دلیل ماضی میں بھی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دلیل حال میں بھی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دلیل مستقبل میں بھی رہیں گے۔

تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی وحدانیت کی اصل دلیل ہیں۔ م سے مراد ماضی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ماضی میں اسم اول کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی دلیل تھا۔ ح سے مراد حال اور م سے مراد مستقبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم باطن اور ظاہر کے ساتھ آج بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں اور اسم آخر کے ساتھ قیامت تک رہیں گے۔

یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ثابت کرنا۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کل بھی ایک تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل تھے۔ اللہ آج بھی ایک ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل ہیں۔ اللہ کل بھی ایک رہے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل ہوں گے۔ اب سن! اے مردہ دل انسان! میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنے والے! دعویٰ کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آج بھی اللہ ایک ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننا پڑے گا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل ہیں اگر دلیل ختم تو دعویٰ بھی ختم۔ اب تیری مرضی ہے دلیل کو مردہ مان کر اللہ کی وحدانیت کو ختم کر کے ہندوؤں کی طرح ۳۵ کروڑ خداؤں کو پوج یا دلیل کو زندہ مان کر ایک ہی رب مان! (ماخوذ از کتاب ہمارے تو محمد ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم)

سکون دیتا ہے ذکرِ خدا دلفگاروں کو
اگر چاہے گدا کر دے جہاں کے تاجداروں کو
اس نے نور بخشا ہے درخشندہ ستاروں کو
وہی ہے بھیجتا بعد از خزاں رنگیں بہاروں کو
گلوں سے بخش دی زینت ہے اس نے لالہ زاروں کو
ملے انوار اس کے نور سے سب نور پاروں کو
مگر اس سے سمجھتا ہوں محمد کے نظاروں کو

قرار آتا خدا کی یاد سے ہے بے قراروں کو
اگر مرضی خدا کی ہو تو شاہ کر دے فقیروں کو
بنایا ہے اسی نے آسمان و چاند سورج کو
اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کونین کی ہر شے
اسی کی حمد میں ہر چیز ہے مصروف عالم کی
اسی کے در کے ہیں محتاج سارے انبیاء مرسل
اگرچہ ہے خدا سب صورتوں سے پاک اے یوسف

زاہدوں پہ انعامات الہیہ کا بیان: بزبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

جس شئی کو دیکھ لیجئے وہی فیض یاب ہے
اس کی عطا سے روئے زمین پر شباب ہے
شاداب اس کے شکر سے دل کا گلاب ہے
مینائے جاں میں اس کی ولا کی شراب ہے
مجھ کو تو فکر حمد بھی کارِ ثواب ہے
ہر سانس اس کو بھول کے یکسر عذاب ہے

کس درجہ فیض یاب خدا کی جناب ہے
اس کے کرم سے نکھرا ہوا ہے رُخِ فلک
کھلتی ہے اس کے ذکر سے انفاس کی کلی
گردش میں جامِ چشم میں اس کے جمال سے
تحسین اور دادِ میرا مسئلہ نہیں
ہر آن اس کی یاد میں سیر بہشت ہے

فیضان جو بھی اس کی عبادت میں ہے مگن

اس عالم زیاں میں وہی کامیاب ہے

حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخيره

من ای حلل الايمان شاء يلبسها

جس نے اللہ کی خاطر تواضع کے پیش نظر (عمدہ اور زرق برق) لباس ترک کیا حالانکہ وہ اس (لباس کے پہننے) پر قدرت رکھتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ ایمان (والوں)

کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ (ترمذی: باب: ۶۵/۳، ۳۹: ۲۳۸۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا

کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یؤنبہ لہ لو اقسام علی اللہ لابرہ

کتنے ہی بکھرے بالوں والے، غبار آلودہ، پھٹے پرانے کپڑوں والے جن کو لوگ بنظر حقارت دیکھتے ہیں (لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ) اگر اللہ کے نام پہ (کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی) قسم اٹھالیں تو اللہ (ان کی قسم کو پورا فرما کر) انہیں سچا

ثابت کر دیتا ہے۔ (ایضاً: ۶۹۲/۵، رقم: ۳۸۵۳، ابن ماجہ: ۱۳۷۸، رقم: ۳۱۱۵)

☆ ایک حدیث پاک جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے

ارشاد فرمایا:

ومن كانت الاخرة جمع الله له امره وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمة .

(ابن ماجہ: ۳۷۵/۲، رقم: ۳۱۰۵)

جس شخص کی نیت آخرت کی جانب ہو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لئے اس کے تمام کام درست فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس خود بخود آتی ہے۔ (اس حدیث کے پہلے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی کہ اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہے۔

حمد تری لکھوں بھی کیا یا رب	میں تو بندہ ہوں تو خدا یا رب
کیسے سورج کے سامنے چمکے	ایک ذرہ حقیر سا یا رب
سب مظاہر ہیں تیری قدرت کے	آگ پانی زمیں ہوا یا رب
تو کہ صورت گر ازل ٹھہرا	کیا ہے تجھ سے چھپا ہوا یا رب
لذت درد کیف مہجوری	تو نے کیا کچھ عطا کیا یا رب
اپنا محبوب دے کے دنیا کو	تو نے طرفہ گرم کیا یا رب
تیرا انعام ہم پہ لا محدود	تیرا اکرام بے بہا یا رب
ٹوٹ سکتا نہیں زمانوں سے	تیری رحمت کا سلسلہ یا رب

خدا بھی محبت کرے گا اور خدائی بھی

حضرت اہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ

مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی فرمایا۔

ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبوك

دنیا میں رغبت نہ رکھو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جا پھر

لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ (ابن ماجہ: ۱۳۷۳/۲، الرقم: ۳۱۰۲)

☆ حضرت ابو خازن رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

اذا رايتم الرجل قد اعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتر بوامنه فانه يلقي الحكمة

(ایضاً: ۱۳۷۳/۲، الرقم: ۳۱۰۱)

جب تم ایسے شخص کو دیکھو کہ اس کو دنیا میں زہد اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اسے حکمت عطا فرمائی گئی ہے۔

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”معمولی دکھاوا بھی شرک ہے جس نے

اولیاء اللہ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، اگر

وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا اور اگر وہ موجود ہوں تو انہیں (کسی بھی مجلس یا کام کے لئے) بلایا نہیں جاتا اور نہ ہی

انہیں پہچانا جاتا ہے۔ قلوبہم مصابیح الہدیٰ یخرجون من کل غبراء مظلمة

ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائش اور تاریک فتنے سے (بخیر و عافیت) نکل جاتے ہیں۔

(ایضاً: ۱۳۷۳/۲، الرقم: ۳۹۸۹)

یا خدا عشق محمد کی فراوانی دے	کر عطا ذوق عمل جذبہ ایمانی دے
صدق دے صدقہ بوبکر صدیق	بادۂ حب نبی ساغر عرفانی دے
عدل فاروق معظم کا وسیلہ یا رب	عدل وانصاف کی دولت کی نگہبانی دے
خوئے بدر حص و ہوس بخل سے دے ہم کو پناہ	صفت بزل و سخا سیرت عثمانی دے
مشکلیں حل ہوں علی شیر خدا کا صدقہ	یا الہی ہمیں ہر کام میں آسانی دے
تیرے احکام کی تعمیل کے دل خوگر ہوں	یا الہی ہمیں اطوار مسلمانی دے
رہے ہر کام میں ملحوظ ہمیں امر و نہی	زندگی گامزن جاہ قرآنی دے

(مولانا یونس مالک)

یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

یدخل فقراء المومنین الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم وهو خمس مائة عام

غریب مسلمان دولت مندوں سے (اللہ کے فضل کے ساتھ) آدھادن پہلے جنت میں جائیں گے اور یہ (آدھادن دنیا کے اعتبار سے) پانچ سو سال کا ہوگا۔ (ترمذی: ۵۷۸/۳، رقم: ۲۳۵۳، ابن ماجہ: ۱۳۸۰/۲، رقم: ۴۱۲۲)

☆ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی امامت کرواتے تو (دیکھتے کہ) کچھ صحابہ بھوک کی وجہ سے نماز میں گر پڑتے اور وہ اصحاب صفہ تھے یہاں تک کہ بدو لوگ کہتے یہ دیوانے ہیں پھر جب حضور علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوتے تو فرماتے۔

لو تعلمون مالکم عند الله لا حبتکم لو انکم تزادون حاجة وفاقه

اگر تم جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے تو یقیناً تم پسند کرتے کہ تمہاری حاجت اور فاقہ مزید بڑھ جائے۔ (ترمذی: ۵۸۳/۳، رقم: ۲۳۶۸، مسند احمد بن حنبل: ۶۳)

☆ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص (دنیا سے) کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا اور جو شخص (اللہ سے) کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی (دنیا) کے سپرد کر دیتا ہے۔

(اخرج الطبرانی فی المعجم الاوسط، ۳/۳۳۶، رقم: ۴۹۴۱)

☆ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔

ما تزين الا برار بمثل الزهد في الدنيا

نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ خوبصورت نہیں لگتے۔ (اخرج ابو یعلیٰ فی المسند، ۳/۱۹۱، رقم: ۱۶۱۷)

اے خدائے دو جہاں اے قادرِ مطلق قدیر
ہو نہیں سکتا جہاں میں تیرا کوئی بھی شریک
ہم ترے بندے ہیں عاجز اور تو معبود ہے
ہو نہیں سکتا کوئی تیرے سوا حاجت روا
جب کہوں گا ان سے میں میرا خدا ہے لا شریک
وقت مشکل کون ہے تجھ بن جو ہو مشکل کشا
بے گماں ہے تو جہاں میں ہم سمجھوں کا دستگیر
ذات ہے بے مثل تیری بے مثال و بے نظیر
سر جھکاتے ہیں ترے در پر سبھی میرے فقیر
یا سبح یا بصیر یا علیم یا خبیر
قبر میں مجھ کو ستائیں گے نہ پھر منکر نکیر
المدد اے کبریا انور کا تو ہے دستگیر

(حافظ نور محمد انور)

کس چیز کا حساب؟

حضرت سعید بن عابد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرما رہے تھے غریب مسلمان تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کبوتروں کی طرح، انہیں کہا جائے گا حساب کے لئے رکو تو وہ کہیں گے:

والله ما تركنا شيئا لحاسب به فيقول الله عز وجل صدق عبادي فيدخلون الجنة قبل الناس

بسبعین عامہ (اخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر، ۵۸/۲، الرقم: ۵۵۰۸)

ہم نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی ہی نہ تھی جس کا ہمیں حساب دینا ہو۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میرے بندوں نے سچ کہا۔ وہ باقی لوگوں سے ستر سال پہلے جنت میں جائیں گے۔

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یا دنیا مری علی اولیاء ی ولا تحلولی فیفتیہم ۔

اے دنیا! میرے اولیاء کے لئے کڑوی ہو جا اور ان کے لئے میٹھی نہ بن کہ تو انہیں آزمائش میں ڈال دے۔

(رواہ الدیلمی فی مسند الفردوس، ۲۳۹، ۵، الرقم: ۸۰۶۵)

☆ حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے۔ اے لوگو! تمہیں (معیشت کی) تنگی ناجائز طریقے سے رزق حاصل کرنے پہ نہ اکسائے کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام کو (یہ دعا کرتے ہوئے) سنا۔

☆ اللّٰهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيْرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا وَاَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

اے اللہ مجھے غریبی کی حالت میں موت دے اور مجھے (قیامت کے دن) غریبوں کے حلقے میں اٹھانا۔ دولت مندی کی حالت میں موت نہ دینا اور مجھے (پھر فرمایا)

فان اشقى الاشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الاخرة

بدبخت ترین ہے وہ شخص جس کے لئے دنیا کی غریبی اور آخرت کا عذاب دونوں جمع ہو گئے۔

(اخرج البیہقی فی شعب الایمان، ۳۸۹/۳، الرقم: ۵۳۹۹)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازہ پہ تشریف لائے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کافی دیر تک روتے رہے پھر ان کو چارپائی پہ رکھ کر اٹھایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها ۔ اے عثمان! تجھے مبارک ہونہ دینا تمہیں استعمال کر سکی اور نہ تو نے (دنیا میں رہ کر) دنیا کو استعمال کیا۔

(الوقایا حوالہ المصطفیٰ لابن الجوزی ۵۵۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور اہل اللہ کے سامنے تھے۔ اس لئے انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو کس طرح اپنایا اس کی چند جھلکیاں بھی پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں سے بھی دنیا و مال کی رغبت نکلے اور دین و آخرت کی رغبت پیدا ہو۔

تاہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے چند اشعار پڑھ لیں کیونکہ اللہ الامر من قبل ومن بعد ۔ الحمد لله قبل کل

شیء والحمد لله بعد کل شیء ۔ (الحمد لله رب العالمین)

اے ہمارے پالنے والے خدا تو ہے رحمن و رحیم و کبریا
 مالک روزِ قیامت ہے تو ہی اور سزاوار عبادت ہے تو ہی
 پوجتے ہیں ہم تجھی کو اے خدا ہے تو ہی معبود برحق خلق کا۔
 اور تجھی سے استعانت مستقل چاہتے ہیں الہی ہم بہ دل
 دے ہدایت ہم کو سیدھی راہ کی انبیاء اور اولیاء اللہ کی
 راہ ان لوگوں کی جن پر ہے ترا فضل و احسان اور انعام و عطا
 راہ سے ان کی بچانا ہم کو رب جن پہ ہوتا ہے ترا قہر و غضب
 ہیں جو گمراہ و ضلالت آشنا ان کے رستے سے بچانا ربنا
 ہو دعا مقبول رب العالمین کہتے ہیں آمین ہم سب حاضرین

زہد فی الدنیا کے بارے میں زاہدوں کے بیانات

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا

”میں نے اس حقیقت کو دیکھ لیا اور جانچ لیا کہ جب بھی دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے اور جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے۔ فاذا كان الامر هكذا فاضر وا بالفانية توجب معاملہ یوں الجھ جائے تو فانی (دنیا) کا نقصان برداشت کر لو۔ (اخرج ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء: ۱/۵۰)

☆ عن الحسن رحمه الله قال: خطب الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وهو خلیفہ وعلیہ

ازار فیہ ثنتا عشرة رقعة

”حضرت حسن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں سے مخاطب ہوئے جبکہ آپ خلیفہ تھے اور آپ نے ایسا تہ بند زیب تن کیا ہوا تھا جس میں بارہ پیوند لگے ہوئے تھے۔“

(اخرج احمد بن حنبل فی کتاب الزہد: ۱۸۳، و ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء: ۱/۵۳، و ابن عساکر فی تاریخ مدینہ دمشق، ۳۰۴/۳۳، و ابن الجوزی فی صفۃ الصلوۃ، ۱/۲۸۴)

☆ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: وددت ان اخرج من الدنيا، كما دخلت لا اجر لی،

ولا وذر علی۔

”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ایسے چلا جاؤں جیسے آیا تھا مجھے کوئی اجر ملے نہ مجھ

پر کوئی بوجھ ہو۔“ (اخرج الشعرائی فی الطبقات الکبریٰ: ۳۱)

☆ قال عمر رضی اللہ عنہ: لا ینخل لی دقیق رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کل غیر

منخول

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے لئے آٹا نہ چھانا جائے کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر

چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔“ (اخرج الامام احمد بن حنبل فی الزهد: ۱۸۱)

☆ قال الحسن رحمه الله: مر عمر رضی الله عنه علی منزلة فاحتبس عندها فكأنه شق علی أصحابه وتأذوا بها فقال لهم: هذه دنیا کم التي تحرصون علیها .

”حضرت حسن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو تھوڑی دیر کے لئے وہاں رک گئے گویا یہ چیز آپ کے اصحاب پر بڑی گراں گزری تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا: یہ تمہاری دنیا ہے جس کے لئے تم حریص ہوتے ہو۔“ (ایضاً: ۱۷۳)

☆ قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه: الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر علی مخالطة الكلاب .

”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دنیا مردار ہے (جس پر فقط کتے جھپٹتے ہیں لہذا) جو اس میں سے کچھ چاہے اسے کتوں میں مل جانا برداشت کرنا چاہئے۔“ (اخرج الشترانی فی اطلبات الکبریٰ: ۳۲)

☆ كان علی بن ابی طالب رضی الله عنه يخاطب الدنيا ويقول: يا دنیا، غری غیرى وقد طلقتك ثلاثا، عمرک قصیر، ومجلسک حقیر، وخطرک کبیر آه آه من قلة الزاد، وبعد السفر ووحشة الطريق .

”حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے: اے دنیا! میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دے۔ میں نے تجھے تین طلاقیں دے رکھی ہیں۔ تیری عمر تھوڑی، تیری ہم نشینی حقیر اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے۔ افسوس زادِ راہِ قلیل اور سفر زیادہ اور راستہ پر خطر ہے۔“ (ایضاً: ۳۳)

سارے سلطان تیرے سوا
تیری خوشبو ڈالی ڈالی
تو نے اے دنیا کے والی
تیرے کرم سے کب ہے خالی
سب کی کرتا ہے رکھوالی
حاصل ہوتی ہے خوشحالی
اس نے بھی ہر نعمت پالی

یا رب تری شان نرالی
تیرے جلوے گلشن گلشن
حکمت سے ہر چیز بنائی
ادنیٰ ہو یا کوئی اعلیٰ
سب کو روزی پہنچاتا ہے
ترے حکموں پر چلنے سے
تو نے سرور کو خوب نوازا

سرور بجنوری

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حال

عن عائشة قالت: مات أبو بكر فما ترك ديناراً ولا درهما وكان قد اخذ قبل ذلك ماله فآلقاه في

بیت المال ۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو کوئی درہم اور دینار وراثت میں نہ چھوڑا، آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنا مال لیا اور اسے بیت المال میں جمع کرا دیا۔“

(اخرجا احمد بن حنبل فی الزہد: ۱۶۶)

☆ قال أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله غدا اهل الورع والزهد

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کل قیامت کے روز اہل ورع و زہد اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔“

(اخرجا ابن قیم الجوزیہ فی مدارج السالکین، ۲/۱۷۷)

☆ عن أنس رضي الله عنه قال: تفرق بطن عمر قال: وكان يأكل الزيت عام الرمادة وكان قد

حرم عليه السمن قال: فنقر بطنه يا صبعه وقال: تفرق أنه ليس لك عندنا غيره حتى يحي

الناس ۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹ گڑگڑانے لگا۔ آپ

فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قحط والے سال آپ تیل کھاتے تھے اور اپنے اوپر گھی حرام کر رکھا تھا، آپ بیان کرتے

ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگشت سے اپنے پیٹ کو بجایا اور فرمایا: گڑگڑا، بے شک تمہارے لئے ہمارے

پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں یہاں تک لوگ پھر سے جی اٹھیں۔ (یعنی قحط دور ہو جائے)۔“

(اخرجا احمد بن حنبل فی الزہد: ۱۷۳)

☆ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا ابن آدم، صاحب الدنيا بيدك وفارقها بقلبك

وهمتک

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے ابن آدم! اپنے جسم کے ساتھ دنیا میں رہ اور اسے اپنے دل اور فکر

سے جدا کر دے۔“ (اخرجا اشعرائی فی الطبقات الکبریٰ: ۳۹)

☆ قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا اله غيره، ما يضر عبدًا يصبغ على

الاسلام، ويمسى عليه، ما أصابه من الدنيا ۔

”حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس ذات الہی کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شخص جو اپنی صبح

وشام اسلام پر کرتا ہے اسے یہ چیز نقصان نہیں دیتی کہ اسے دنیا سے کیا ملا؟“

(اخرجا احمد بن حنبل فی الزہد: ۱۵۹، وابن المبارک فی کتاب الزہد: ۱۸۹، والبوہیم فی حلیۃ الاولیاء، ۱/۱۳۲، والہیثمی فی شعب الایمان، ۲/۹۳، الرقم: ۱۲۵۷)

روشن کتاب میں ہے جو ہو گا وہی وہی

ہونا تھا جو بھی جس طرح لکھا وہی وہی

کوش کرو دعا کرو دے گا وہی وہی

تقدیر کے نصیب میں اذن قدر ہے

پیغامِ کبریا جو تھا پہنچا وہی وہی

صدق و صفا کا پیکر خاکی تھے انبیاء

کیا خوب ہیں صحابہ سرکارِ دو جہاں
تاریخ کا بھی درس کر تھی یہی تو ہے

سمجھایا جو رسول نے سمجھا وہی وہی
جس جس نے جو بھی بویا تھا کاٹا وہی وہی

آفتابِ کریمی

قریب ہے کہ چہرے کا گوشت گر جائے

قال سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ: لو أن عبدا عبد الله تعالى بجميع المأمورات الا انه يحب الدنيا الا نودی عليه يوم القيامة على رؤوس أهل الجمع ألا ان هذا فلان بن فلان قد أحب ما أبغض الله تعالى، فيكاد لحم وجهه يسقط من الخجل .

”حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر کوئی شخص تمام احکام کی تعمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے مگر دنیا سے محبت کرے تو قیامت کے دن عرصہ محشر میں موجود تمام کائنات کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں نے اس چیز سے محبت کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو قریب ہوگا کہ ندامت کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے۔“ (اخرجہ اشعرائی فی الطبقات الکبریٰ: ۷۳)

☆ قال سفیان الثوری رحمہ اللہ: الزهد فی الدنيا هو قصر الأمل لیس بأکل الخشن ولا بلبس الغلیظ والعباء .

”حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: زہد (دنیا میں بے رغبتی سے مراد) آرزوؤں کو کم کرنا ہے نہ کہ سادہ غذا کھانا اور موٹا لباس پہننا۔“ (ایضاً: ۷۵)

☆ قال السری رحمہ اللہ: ان الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه وحمائها عن أصفیائه، وأخرجها من قلوب وداده، لأنه لم يرضها لهم .

”حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے دنیا کو سلب کر رکھا ہے اور اصفیاء سے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور اپنے دوستوں کے دلوں سے دنیا کو نکال دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دینے میں راضی نہیں۔“ (اخرجہ القشیری فی الرسالة: ۱۱۵)

☆ قال السری السقطی رحمہ اللہ: لا تركز الى الدنيا فينقطع من الله حبلک، ولا تمش فی الارض مرحا فانها عن قليل قبرک .

”حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا: اے انسان دنیا کی طرف توجہ سے تیرا اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے گا اور زمین پر اکڑ کر مت چل کیونکہ آخر یہی تیری کل آرام گاہ بننے والی ہے۔“ (اخرجہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۱۲۱)

☆ سئل الشبلی عن الزهد، فقال: أن تزهد فیما سوی الله تعالى .

”حضرت شبلی رحمہ اللہ سے زہد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے اعراض کرنے کا نام زہد

ہے۔“ (اخرجہ القشیری فی الرسلۃ: ۱۱۷)

☆ قال الجنید رحمہ اللہ: الزهد خلو القلب عما خلت منه الید۔

”حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا: جن چیزوں سے تمہارا ہاتھ خالی ہے ان سے دل کے خالی ہونے کا نام زہد

ہے۔“ (ایضاً: ۱۱۶)

☆ قال ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ: ان الحر الکرم یمخرج من الدنیا قبل ان یمخرج منها۔

”حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا: آزاد شریف انسان، دنیا سے نکلنے سے پہلے دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے۔“

(ایضاً: ۳۳۰)

☆ قال الامام الشافعی رحمہ اللہ: الاکثار فی الدنیا اعسار والاعسار فیہا ایسار۔

”امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: دنیا کی کثرت حاصل کرنا تنگی میں پڑنا ہے اور اس میں تنگ رہنا آسانی حاصل کرنا ہے۔“

(اخرجہ الشیرانی فی الطبقات الکبریٰ: ۷۹)

☆ قال سفیان بن عینیۃ رحمہ اللہ: الزهد فی الدنیا هو الصبر وارتقاب الموت۔

”حضرت سفیان بن عینیۃ رحمہ اللہ نے فرمایا: دنیا میں زہد صبر کرنا اور موت کا انتظار کرنا ہے۔“ (ایضاً: ۸۶)

بادل اُس کا بارش اُس کی

لالہ و سنبل، نازش اُس کی

شاخ، ثمر، افزائش اُس کی

آہن اُس کا آتش اُس کی

میری روح ستائش اُس کی

لغزش میری بخشش اُس کی

کس سے پوچھوں اذرش اس کی

میری ساری خواہشیں اس کی

سبزہ شبنم اُس کی نزہت

مٹی اس کی سونا اُس کا

اس سے تپش اندوز دو عالم

میرے ہونٹ وظیفہ اُس کا

آنسو میرے دامن اُس کا

اُس کے آگے سب بے قیمت

نصائب فیضی

قرآن والوں کے لئے

قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ: لا ینبغی لحامل القرآن ان یکون له حاجۃ عند احد من الامراء

الاعنیاء، انما ینبغی ان یکون حوائج الخلق الیہ ہو۔

”حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: حامل قرآن کو نہیں چاہئے کہ حاکموں اور امیروں میں سے کسی کے پاس

اس کی حاجت ہو بلکہ یہ چاہئے کہ مخلوق کی حاجتیں اس کے پاس ہوں۔“ (ایضاً: ۱۰۳)

عیاض اللہ ہی اللہ ہے، نہاں اللہ ہی اللہ ہے یہاں اللہ ہی اللہ ہے وہاں اللہ ہی اللہ ہے

وہ شیریں نام ہے اللہ کا جب اس کو لیتے ہیں
گزرتی ہے شہادت، ہنجانہ اس کی مسجد سے
ہیں آٹھ، اللہ دست و پائے انگشت میانہ سے
الف جز، لام شاخیں، ہ ثمر، تشدید گل مدرس
چیک جاتی ہے تا لو سے زباں اللہ ہی اللہ ہے
نہ آئے گر یقین سن لو ازاں اللہ ہی اللہ ہے
دو طرفہ پڑھ کے دیکھو انگلیاں، اللہ ہی اللہ ہے
یہ سارا گلستاں کا گلستاں اللہ ہی اللہ ہے
جو گوش ہوش ہوں اکبر چمن میں سرو پر سن لو
کہ کہتی ہیں سحر کو قمریاں اللہ ہی اللہ ہے

(اکبر وارثی)

ہاتھ کو جب غور سے دیکھو گے تو لفظ اللہ نظر آئے گا۔ اسی طرح جب ہاتھ کو الٹا کر دو تب بھی، اسی طرح پیروں کو نیچے اوپر سے پڑھ کر دیکھو۔ کسی درخت کے تنے کو دیکھو الف اور اس سے اوپر کو نکلی ہوئی شاخوں کو لام پھل کو ہ کی طرح اسی طرح پھول تشدید کی طرح پائیں گے۔ اسی طرح انگوٹھے سے بیچ کی انگلی تک اور چھنگلیاں سے بیچ کی انگلی تک۔

زہد کا مدعی کون ہو سکتا ہے؟

قال شقيق البلخي رحمه الله: الزاهد هو الذي يقيم زهده بفعله، والمتزهده هو الذي يقيم زهده بلسانه .

”حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا: زاہد وہ ہے جو کہ اپنے فعل سے اپنا زہد قائم رکھتا ہے جبکہ متزہد (یعنی زہد کا مدعی) وہ ہے جو اپنی زبان سے زہد قائم رکھتا ہے۔“ (ایضاً: ۱۱۵)

☆ سنل شقیق البلخی رحمہ اللہ ما علامۃ صدق الزاهد؟ فقال: أن يصير يفرح بكل شيء فاته من الدنيا، ويفتم لكل شيء حصل له منها .

”حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ زاہد کے سچے ہونے کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی ہر اس چیز سے خوش ہونے لگے جو اسے نہیں ملی اور ہر اس چیز سے غمگین ہو جو اسے میسر آئی۔“ (ایضاً)

☆ قال محمد بن عليان النسوي رحمه الله: الزهد في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة .

”حضرت محمد بن علیان نسوی رحمہ اللہ نے فرمایا: دنیا سے بے رغبتی آخرت کی طرف رغبت کی کنجی ہے۔“ (ایضاً: ۱۷۳)

قال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله: إذا صلح القلب صار مهبط الوحي والاسرار، والانوار، والملائكة، وإذا فسد صار مهبط الظلم، والشياطين، وإذا صلح القلب أخبرك بما وراءك، وأمامك، ونبهك على أمور لم تكن تعلمها بشيء دونه، وإذا فسد حدثك بباطلات يغيب معها الرشد، وينتفي معها السعد .

”شیخ احمد الرفاعی رحمہ اللہ نے فرمایا: جب دل صحیح ہو جائے تو وحی، اسرار، انوار اور ملائکہ کے نزول کا مقام بن جاتا ہے

اور جب خراب ہو جائے ظلم اور شیطین کی آماجگاہ ہوتا ہے اور جب دل اصلاح پائے تو تجھے تیرے پچھلے اور اگلے امور کی خبر دیتا ہے اور تجھے ایسے امور پر متنبہ کرتا ہے جنہیں تو اس کے علاوہ کسی شے سے معلوم نہیں کر سکتا اور جب فساد میں گرفتار ہو تو تجھے ایسی باطل چیزوں میں ڈالتا ہے جس کے ہوتے ہوئے ہدایت غائب ہو جاتی ہے اور سعادت ختم ہو جاتی ہے۔“ (ایضاً: ۲۰۸)

نہیں خواہش ہمیں یا رب تو ہم کو دولت و زر دے
عطا کر مجھ کو وہ دل جس میں تیری محبت ہو!
صداقت جب بھی آئے سامنے سر میرا جھک جائے
مسلمانوں میں پیدا پھر کوئی شیر خدا کر دے
بہت باطل نے یا رب اس جہاں میں سر اٹھایا ہے
سکونِ قلب کی دولت ملے ہر اک مسلمان کو!
کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر!
ضرورت پھر ہمیں خالد و سلمان کی یا رب!
فقط اب رب کعبہ تیری رحمت کا سہارا ہے
تیرے مجبور بندے آج تیرے در پہ آئے ہیں!

مگر کچھ آرزوئیں ہیں انہیں تکمیل تو کر دے
جو جھک جائے تیری مرضی کے آگے مجھ کو وہ سر دے
خدایا مجھ کو ذوقِ حضرت صدیق اکبر دے!!!
میرے معبود پھر ہم میں کوئی خولہ سی دختر دے
اسے ایک مرتبہ پھر حق کے آگے سرنگوں کر دے!
رہے انسانیت کا پاس بھی ہر اک انسان کو
الہی پھر صلاح الدین سا انسان پیدا کر!
عطا کر ہم کو الفت سنت و قرآن کی یا رب!
ہے مجھ کو ناز تیرا گھر ابھی قبلہ ہمارا ہے
کرم فرما میرے مولیٰ! تو ان کی جھولیاں بھر دے

(آفتابِ ظفر)

ولایت کی بک کون پاسکتا ہے؟

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلی رحمه الله: لا تشتم رائحة الولاية، وأنت غير زاهد في الدنيا
واهلها .

”شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا: تو ولایت کی مہک نہیں پائے گا جبکہ تو دنیا اور اہل دنیا سے بے رغبت نہیں ہو جاتا۔“

(ایضاً: ۳۰۲)

☆ قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: اهل المعرفة وحش الله في الارض، لا يانسون الى
احد، والزاهدون غرباء في الدنيا، والعارفون غرباء في الآخرة .

”حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: اہل معرفت دنیا میں اللہ کا خوف ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ مانوس نہیں

ہوتے اور زاہد دنیا میں پردیسی ہوتے ہیں اور عارف آخرت میں پردیسی ہوتے ہیں۔“ (اخراج السلسلی فی طبقات الصوفیہ: ۱۱۴)

☆ قال محمد بن عمر الوراق رحمه الله: طوبى للفقير في الدنيا والآخرة . فسألوه عنه، فقال:

لا يطلب السلطان منه في الدنيا الخراج، ولا الجبار في الآخرة الحساب .

”حضرت محمد بن عمرو راق رحمہ اللہ نے فرمایا: دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فقیر کے لئے خوشخبری ہے۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: اس لئے کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں مانگے گا۔“ (اخرجہ القشیری فی الرسالة: ۲۷۹)

☆ قال ابو عمر بن نجيد رحمه الله: من قدر على اسقاط جاهه عند الخلق سهل عليه الاعراض عن الدنيا واهليها

”حضرت ابو عمرو بن نجيد رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص مخلوق کے ہاں اپنے جاہ و منصب کو ختم کرنے پر قادر ہوتا ہے اس پر دنیا اور دنیا والوں سے دور رہنا آسان ہو جاتا ہے۔“ (اخرجہ السلمي في الطبقات الصوفية: ۲۵۶)

☆ قال ابن الجلاء رحمه الله: الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك، فيسهل عليك الاعراض عنها .

”حضرت ابن جلاء رحمہ اللہ نے فرمایا: زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ یہ ایک زوال پذیر چیز ہے تاکہ دنیا تمہاری نگاہ میں حقیر معلوم ہو اور تمہارے لئے اس سے اعراض کرنا آسان ہو جائے۔“

(اخرجہ القشيري في الرسالة: ۱۱۶)

پایہ ہے تیرا اونچا رتبہ ہے تیرا عالی
تیرا شریک کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا
دکھلا رہے ہیں ہم کو تیرے عجب نظارے
ساری خدائی ہر دم دم تیرا بھر رہی ہے
حالات کو دلوں کے تو خوب جانتا ہے
رحمت کا یونہی بر سے ہر سمت نور یا رب!

سرور بجنوری

ہر ایک شے کے مالک ہر ایک شے کے والی
دونوں جہاں میں کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا
شمس و قمر ستارے دریا پہاڑ سارے
کل کائنات تیری تعریف کر رہی ہے
بے آسروں کا جگ میں بس تو ہی آسرا ہے
بخشا ہے زندگی کو تو نے سرور یا رب!

زاہد، دین دار اور قناعت کرنے والا

قال ابو عثمان رحمه الله: ان الله تعالى يعطى الزاهد فوق ما يريد، ويعطى الراغب دون ما يريد، ويعطى المستقيم موافقة ما يريد .

”حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ زاہد کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا کرتا ہے اور دنیا میں رغبت رکھنے والے کو اس کی خواہش سے کم دیتا ہے اور قانع شخص کو اسی قدر عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔“ (ایضاً: ۱۱۷)

☆ عن الامام القشيري رحمه الله قال: قيل: ان رجلا اتى ابراهيم بن ادھم بعشرة الاف درهم فابى أن يقبلها وقال له: تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء بعشرة الاف درهم، لا افعل

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس دس ہزار درہم لایا مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا: تو دس ہزار درہم دے کر میرا نام فقراء کی فہرست سے مٹانا چاہتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔“ (ایضاً: ۲۷۲)

☆ قال الامام القشیری رحمہ اللہ: الزاهد لا یفرح بموجود فی الدنیا، ولا یتأسف علی مفقود منها۔

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زاہد شخص دنیا کی کسی چیز کے پانے پر خوش نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے کھو جانے پر افسوس کرتا ہے۔“ (ایضاً: ۱۱۶)

☆ عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال: قيل: اذا زهد العبد فی الدنیا وکل اللہ تعالیٰ بہ ملکا یغرس الحکمة فی قلبہ۔

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کسی کا قول ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے دل میں حکمت کا پودا لگاتا ہے۔“ (ایضاً: ۱۱۸)

عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال: قيل: من اراد الفقر لشرفه مات فقیراً، ومن اراد الفقر لئلا یشتغل عن اللہ تعالیٰ مات غنیاً۔

”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: مروی ہے کہ جس نے فقر کا ارادہ فقر کے شرف کی وجہ سے کیا وہ فقیر مرا (اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ وہ لوگوں میں فقیر مشہور ہونا چاہتا تھا) اور جس نے فقر کو اس لئے اختیار کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو تو وہ حالت غنا میں فوت ہوا۔“ (ایضاً: ۲۷۶)

چھوڑ سایہ خور کی جانب ہو رواں تاکہ ہو سرّ یقین تجھ پر عیاں
 کر نظر دریا میں موجوں کو گزار تاکہ ہو معلوم تجھ کو سریار
 جب تلک رکھے نہ دریا میں قدم مار اس مسئلہ میں ہرگز نہ دم
 یعنی مت بے حال اس میں قال کر حال ہو کر تو کشادہ بال کر
 رکھ تو فرق مراتب پر نظر تاکہ ہو ایمان میں تیرے نظر

بس نہ کر امداد تو زیادہ کلام

تا خرابی میں نہ پڑ جا فہم عام

(حاجی امداد اللہ مہاجرگی)

ایک سخی کا حال

قال ابو عبد اللہ بن خفیف رحمہ اللہ: ما وجبت علی زکاة الفطر اربعین سنة ولی قبول عظیم بین الخاص والعام۔

”حضرت ابو عبد اللہ بن خنیف رحمہ اللہ نے فرمایا: چالیس سال تک مجھ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوا حالانکہ خاص و عام میں میری (جو دو سخا کی) بہت مقبولیت ہے۔“ (ایضاً: ۲۷۹)

☆ قال أبو عثمان رحمہ اللہ: أخبرنی من رأى عمر رضی اللہ عنہ یرمی الجمرة وعلیہ ازار مرقوع برقعة من اديم۔

”حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رمی جمرات (شیطان کو کنکریاں مارنے) کے وقت دیکھا کہ آپ نے ایک ایسا تہبند زیب تن کیا ہوا تھا جس پر چمڑے کے پیوند تھے۔“ (اخرجہ احمد بن حنبل فی الزہد: ۱۷۸)

☆ قال أبو واقد الليثی رحمہ اللہ تابعنا الأعمال فلم نجد شيئاً أبلغ في طلب الآخرة من زهادة في الدنيا۔

”ابو واقد لیثی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلسل اعمال کی بجائے آوزی کی لیکن ہم نے طلب آخرت میں دنیا میں بے رغبتی سے بڑھ کر کسی چیز کو نہ پایا۔“ (ایضاً: ۲۹۳)

☆ قال محمد بن كعب القرظی رحمہ اللہ: اذا اراد الله بعبده خيراً جعل فيه ثلاث خصال، فقها في الدين وزهادة في الدنيا وتبصرة بعيوبه۔

”حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے تین خصلتوں کے ساتھ نوازتا ہے: (۱) دین کی سمجھ (۲) دنیا میں بے رغبتی اور (۳) اپنے عیبوں کی پہچان۔“

(اخرجہ اشعرائی فی اطلبات الکبریٰ: ۵۹)

☆ قال حمدون القصار: التواضع أن لا تری لأحدالی نفسك حاجة، لا فی الدین ولا فی الدنيا۔

”حضرت حمدون قصار رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا: تواضع یہ ہے کہ تو کسی کے لئے اپنے ہاں دین و دنیا میں سے کسی ایک کی بھی حاجت نہ پائے۔“ (اخرجہ ابن قیم الجوزیہ فی مدارج السالکین ۲/۲۲۲)

دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ مختلف صفات رکھنے والے لوگوں مثلاً نمازیوں، روزے داروں، حاجیوں، خیوں، علماء، فقہاء، اولیاء وغیرہ پر انعامات الہیہ کا ذکر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والے الفاظ سے کیا جائے یہ میری اس کتاب کے موضوع کے عین مطابق بھی ہے لیکن طوالت کے اندیشے سے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے اور میدان کو دوسروں کے لئے کئی جہتوں سے خالی رکھا گیا ہے۔

اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی

ہم نے تو دل جلا کے ہر بام رکھ دیا

اللہ کو ایک ماننے والے سب آخر کار جنت میں جائیں گے

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعضهم فياتون آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لذريتك فيقول: لست لها ولكن عليكم بابراهيم فانه خليل الله تعالى فياتون ابراهيم عليه السلام فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كلیم الله تعالى، فيوتى موسى عليه السلام فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته، فيوتى عيسى عليه السلام فيقول: لست لها لكن عليكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فإوتى فاقول: انا لها، انطلق فاستاذن على ربي فيودن لى، فاقوم بين يديه فاحمده بمحامد لا اقدر عليه الا ان يلهمنيه الله تعالى، ثم اخر له ساجدا، فيقال لى: يا محمد! ارفع راسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه واشفع تشفع فاقول: يا رب امتى امتى فيقال: انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برة او شعيرة من ايمان فاخرجه منها، فانطلق فافعل ثم ارجع الى ربي تعالى فاحمده بتلك المحامد، ثم اخر له ساجدا فيقال لى: يا محمد! ارفع راسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فاقول: يا رب امتى امتى، فيقال لى: انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فاخرجه منها، فانطلق فافعل، ثم اعود الى ربي فاحمده بتلك المحامد، ثم اخر له ساجدا فيقال لى: يا محمد! ارفع راسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه واشفع تشفع، فاقول: يا رب! ائذن لى فيمن قال: لا اله الا الله، قال: ليس ذاك لك او قال: ليس ذاك اليك، ولكن وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائى! لاخر جن من قال: لا اله الا الله -

حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ عرض کریں گے: آپ اپنی اولاد کی بارگاہ خداوند قدوس میں شفاعت کیجئے۔ آپ جواب میں ارشاد فرمائیں گے: میں اس کام کے لئے متعین نہیں۔ تم سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس کے لئے نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہوگی۔ وہ بھی فرمائیں گے میں اس کام کے لئے نہیں۔ تم سب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جا کر دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ تمام لوگ ان کی خدمت میں حاضری دیں گے لیکن یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس کام کے لئے نہیں۔ ہاں تم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ اقدس میں حاضری دو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ پھر وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا کہ ہاں میں اس کام کے لئے چنا گیا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دوں گا اور خداوند قدوس سے اجازت چاہوں گا تو مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی اجازت ملے گی۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و ثناء بیان کروں گا کہ جس پر میں اس وقت قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت خصوصی الہام ہوگا جو میں بیان کروں گا، پھر میں خداوند قدوس کے حضور سجدہ کروں گا۔ پھر مجھے حکم ہوگا۔ اے محمد! سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو، ہم قبول کریں گے۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت بخش دے، بخش دے، رب عزوجل کی طرف سے حکم ہوگا۔ جاؤ جس کے دل میں دانہ گندم یا جو کے مانند ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ اس طرح کے تمام لوگوں کو میں نکال لوں گا۔ اس کے بعد پھر میں اپنے رب کے حضور حاضری دوں گا اور اسی طرح خداوند قدوس کی حمد و ثناء بیان کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا، حکم ہوگا۔ اے محمد! سر اٹھاؤ، اور جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، حکم ہوگا۔ جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لو۔ میں ایسا ہی کروں گا اور پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت کی حمد و ثناء بیان کروں گا۔ پھر سجدہ میں گر جاؤں گا، مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو دیا جائے گا اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں پھر عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، مجھے حکم ہوگا۔ جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم بہت کم نہایت کم ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ میں دوزخ سے اس طرح کے لوگوں کو نکال کر چوتھی مرتبہ اپنے رب کے حضور حاضری دوں گا اور حسب سابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کروں گا پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اس وقت میں عرض کروں گا: اے پروردگار! مجھے اس بات کی اجازت عطا فرما کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لوں جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اس کام کے لئے آپ متعین نہیں یا آپ کے سپرد نہیں۔ بلکہ مجھے اپنی عزت و جلال اور عظمت و بڑائی کی قسم! کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہر شخص کو دوزخ سے نکال لوں گا۔

(اصح لمسلم، کتاب الایمان، ۱/۱۱۰، المسند لابن عوانہ، ۱/۱۸۳، الجامع اصح للبخاری، صلیۃ الجوز، ۲/۹۷۱، التفسیر للبغوی، ۳/۱۷۷)

اپنے محبوب کے رتبے کو بڑھایا تو نے
میرے اللہ تری شانِ کرم کے صدقے
تری صناعتی قدرت کی درخشاں ہے دلیل
بھیج کر اپنا نبی اور اپنا کلام برحق
اپنے دیدار کے پیاسوں کو اسی دنیا میں
خود ہی بے مثل ہے بے مثل ہے محبوب تیرا
نادِ نمرود کو گلزار بنانے والے
کہہ کے لا تقنطوا قرآن مبارک میں کریم
ہم کو اچھے برے کاموں کی بتا کر تفریق
کس طرح ہو ترا شکر سکندر سے ادا
تاج لولاک لما سر پہ سجایا تو نے
فخر کونین محمد ﷺ کو بنایا تو نے
جسم محبوب کو بے سایہ بنایا تو نے
راستہ رشد و ہدایت کا دکھایا تو نے
اپنا جلوہ رخ احمد میں دکھایا تو نے
ان کی امت کو بھی بے مثل بنایا تو نے
جنت ارض مدینے کو بنایا تو نے
حوصلہ غاصی و خاطر کا بڑھایا تو نے
راستہ جنت و دوزخ کا دکھایا تو نے
اپنے محبوب کا دربار دکھایا تو نے

حقیقی بادشاہ و مولیٰ اللہ تعالیٰ ہی ہے

یہ ایک طویل موضوع ہے کہ اشتراک لفظی کے طور پر وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے لئے بولے جاتے ہیں وہ بندوں پہ بولے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلاً سمیع، بصیر، حی، قیوم وغیرہ اس پہ مکمل بحث ہماری کتاب مسئلہ توحید و شرک ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی، مستقل، قدیم وغیرہ حادث ہیں اور مخلوق کی تمام صفات عطائی غیر مستقل، حادث و فانی ہیں۔ اسی طرح حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے اور مجازی طور پر اگر مخلوق کے لئے یہ لفظ بولا جائے تو حرج نہیں۔ یہی حال باقی تمام صفات کا ہے مثلاً فیصلہ فرمانے والا، ملک المملوک، شہنشاہ وغیرہ لہذا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ ہی نے اپنی مخلوق کو یہ رتبے عطا فرمائے ہیں تو جب دنیا داروں پر یہ الفاظ مجازاً بولے جا سکتے ہیں تو اللہ کے پیاروں پہ کیوں نہیں بولے جا سکتے حالانکہ ہر مسلمان اس عقیدے کا حامل ہے کہ اپنے پیاروں کو جو کچھ عطا فرماتا ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے۔

چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا ملک الا اللہ، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (اصح المسلم، کتاب الادب، ۲/۲۰۸، الادب المفرد للبخاری، ۲۱۱)

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا يقول العبد لسيدہ مولانی فان مولا کم اللہ (مسلم شریف باب الالفاظ، ۲/۲۲۸)

غلام اپنے آقا کو میرا مولیٰ نہ کہے کیونکہ تمہارا مولا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

قرآن مجید میں ہے۔ انت مولانا۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔

حالانکہ قرآن ہی میں فرمایا گیا فان اللہ هو مولاہ وجبریل و صالح المؤمنین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور ایمان دار جو نیک ہیں (التحریم) حدیث شریف میں ہے من كنت مولاہ فهذا علی مولاہ۔ ہر مسک

والا اپنے مسلک کے عالم کو نہ صرف مولا بلکہ مولا نا کہتا ہے تو مطلب یہی ہوا کہ حقیقی مولا تو اللہ ہی ہے اور مجازاً یہ لفظ مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے تو پھر غوثِ اعظم، غریب نواز، گنج بخش مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ کے الفاظ مخلوق پہ بولنا کس طرح شرک ہو گیا جبکہ یہ الفاظ تو حدیث میں ہیں ہی نہیں۔ قرآن میں جو اللہ کے اسماء ہیں رؤف، رحیم، سمیع، بصیر وغیرہ جب یہ اللہ نے خود مخلوق پہ بولے ہیں:

وبالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا . تو جو اللہ نے اپنے لئے بولے ہی نہیں وہ مخلوق پہ بولے جائیں اور وہ بھی مجازاً تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا۔

راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا	مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا
زینتِ نطق تیرا اسمِ عظیم	وجہِ تحریک لب ہے ذکر تیرا
وقت کے ہاتھ میں تری تسبیح	گردشِ روز و شب ہے ذکر تیرا
بے بسی کی سیاہ راتوں میں	روشنی کا سبب ہے ذکر تیرا
جس کا احصاء کرے زبانِ بشر	اتنا محدود کب ہے ذکر تیرا
تیرے ارشاد سے ہوا معلوم	ذکرِ شاہِ عرب ہے ذکر تیرا
جس کو نسبت ہے تیرے پیاروں سے	اس زمیں کا ادب ہے ذکر تیرا
فکرِ شہزاد کے لئے لا ریب	
باعثِ تاب و تب ہے ذکر تیرا	

حقیقی سید اللہ تعالیٰ ہی ہے

حضرت عبداللہ بن شخیر العامری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وفدِ بنی عاصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کی: انت سیدنا آپ ہمارے سردار ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا: السید اللہ سید تو خدا تعالیٰ ہی ہے۔ (اسنن لابی داؤد باب فی کرہیۃ المحتاج ۶۶۲/۲، المسند لاجد بن حنبل ۲۵، ۲۴/۲، دلائل النبوة للبیہقی ۳۱۸/۵)

مطلب یہ کہ حقیقی سید اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام سید ولد آدم ہیں اور آپ کے نواسے سیدنا شبابِ اہل الجنة ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سید کہول اہل الجنة ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر سیدنا بلال کہا کرتے دیکھو: الحمد للہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں لیکن ہزاروں چیزوں کی تعریف ہم کرتے ہیں تو جس طرح یہاں بالواسطہ اور بلاواسطہ کی تقسیم ضروری ہے۔ اسی طرح ان احادیث میں بھی ذاتی عطائی اور حقیقی مجازی کی تقسیم بھی ضروری ہے ورنہ بڑی مشکل پڑ جائے گی۔

معین بے کساں تو ہے خداوند جہاں تو ہے ہے پنہاں لاکھوں پردوں میں مگر پھر بھی عیاں تو ہے
میرے الفاظ نے تاثیر تیرے ذکر سے پائی مرے افکار میں ہے تو مرا حسن بیاں تو ہے
تو ہی ستار ہے غفار ہے خلاق عالم تو ہر اک مجبور کی ڈھارس خدایا بے گماں تو ہے

تسلی دل کو ملتی ہے ترا ہی نام لینے سے وقار زندگی تو ہے قرار جسم و جاں تو ہے
 ترے ہی نور سے معمور ہے معمورۂ عالم عطا وجود کا موج بحر بے کراں تو ہے
 مجھے اوروں سے کیا لینا مرا اوروں پر کیا تکیہ مرا حامی مرا ناصر ہے تو ہے رازداں تو ہے
 رضا جیسے خطا کاروں کو دامن میں اماں دے کر بتا دیتا ہے بزم دہر کو کہ مہرباں تو ہے
 (محمد اکرم رضا)

احادیث مبارکہ بلفظ اللہ در شان باری تعالیٰ عز اسمہ

(۱) اللہ يحب الاخرة ويبغض الدنيا (الدیلمی، ۱: ۱۸۳ - طبرانی)

اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند اور دنیا کو ناپسند کرتا ہے۔

(۲) اللہ يعطى بالحسنة الف الفى حسنة . (مسند الفردوس للدیلمی، ۱: ۱۸۳)

اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے عوض بیس لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔

(۳) اللہ مع الدائن حتى يقضى دينه . (ترمذی شریف، الدیلمی، ۱: ۱۸۳)

اللہ تعالیٰ کی امداد مقروض کے ساتھ ہے یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے۔

(۴) اللہ ارحم بعباده من هذا العصفور بفرخه . (سنن نسائی، الاتحاف، ۱۰/ ۵۷۱ و بنحوہ الطبرانی فی الصغیر، ۹۸)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنی کہ یہ چڑیا اپنے بچے پر۔

(۵) اللہ ورسوله وجبریل عنك راضوان یعنی علیا . (طبرانی، ۱: ۲۹۸، جمع الجوامع، ۹۶۶۸، کنز، ۱۹/ ۳۳۰)

اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور جبریل امین اے علی تجھ پہ راضی ہیں۔

اللہ المزوج، وجبریل الشاهد، یعنی: لزینب . (طبرانی)

(حضرت زینب کا میرے ساتھ) اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے اور جبریل گواہ بنے ہیں۔

اللہ اللہ فی اخوانکم من اهل القبور . (متدرک للحاکم)

اللہ سے ڈرو اپنے اہل قبور بھائیوں کو برا کہنے میں۔

اللہ اللہ فی النساء، فانهن عوان عندکم . (سنن نسائی)

اللہ سے ڈرو عورتوں کے حق میں کیونکہ وہ تمہاری معاون ہیں۔

اللہ اعلم بما کنتم عاملین، اذا خلقکم . (مسند احمد)

جو تم کرنے والے تھے اللہ خوب جانتا تھا جب تمہیں پیدا کیا تھا۔

اللہ اعلم ان قلبی يحبکن، قاله لجواری الانصار . (ابن ماجہ)

اللہ جانتا ہے کہ میرا دل تم سے (اے بنات انصار) محبت کرتا ہے۔

اللہ مع القاضی ما لم يحدث . (مسند الفردوس)

اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہے جب تک وہ اپنی خواہش پر فیصلہ نہ کرے۔

اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون أخیه المسلم . (سراج)

اللہ اپنے بندے کی امداد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی امداد میں رہے۔

دل تیرہ کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا
مری سانسیں ترے اسم گرامی سے معطر ہوں
فساد و شر سے میں فرشِ زمیں کو صاف کر ڈالوں
ہرے قول و عمل سے کوئی دل زخمی نہ ہو یا رب
سلیقہ دے مرے مالک مجھے حسن تکلم کا
کہوں حق بات میں دربار میں سلطان جابر کے
مرا دشمن بھی میری راہ میں کانٹے بچھائے تو
تعلق مستقل ہو جائے یوں ارضِ مدینہ سے
تری تائید کا ہر وقت ہو سر پر مرے سایہ
یہاں بھی لوگ پہچانیں مجھے تیرے حوالے سے
تری حمد و ثناء شہزاد کے قلب و زباں پر ہو

تجھے میں یاد کر پاؤں مجھے توفیق دے مولا
مشامِ جاں کو مہکاؤں مجھے توفیق دے مولا
ہمیشہ امن پھیلاؤں مجھے توفیق دے مولا
سراپا خیر بن جاؤں مجھے توفیق دے مولا
زباں سے پھول برسائوں مجھے توفیق دے مولا
میں ہر باطل سے ٹکراؤں مجھے توفیق دے مولا
میں اس پر پھول برسائوں مجھے توفیق دے مولا
ترے گھر بار بار آؤں مجھے توفیق دے مولا
میں مشکل میں نہ گھبراؤں مجھے توفیق دے مولا
وہاں بھی تیرا کہلاؤں مجھے توفیق دے مولا
میں تیرے آیت بس گاؤں مجھے توفیق دے مولا

حقیقی فیصلہ فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله هو الحكم فلم تكنی بابی الحكم

بے شک اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے (اور حکم کا اسی کو اختیار ہے) تو پھر تیری کنیت ابو الحکم کیوں ہے۔

(اسنن لابی داؤد، ۲/۶۷۷، السنن للنسائی، المستدرک للحاکم، کنز العمال للمصنوع)

قرآن مجید میں فرمایا گیا: ان الحكم الا لله . حکم صرف اللہ کا ہے۔

اس آیت کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے لغت خوارج وجود میں آیا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو مصالحت کے لئے حکم مقرر کیا تو کچھ لوگوں (خوارج) نے حضرت علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہما پر فتویٰ بفرگادیا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے: ان الحكم الا لله اور تم نے بندوں کو حکم بنا لیا ہے۔ یہ دس ہزار افراد تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بھی تو قرآن ہے: فابعثوا حکمًا من اہلہ و حکمًا من اہلہا (النساء) میاں بیوی میں ناچاتی ہو جائے تو ایک حکم میاں کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف

سے مقرر کر لو اگر تمہارا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ صلح کی گنجائش پیدا فرما دے گا۔ یہ بھی تو قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك (النساء) اے پیارے، تیرے رب کی قسم ہے کوئی ایمان دار ہو ہی نہیں سکتا جب تک تجھے حاکم تسلیم نہ کرے۔ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ دس ہزار میں سے پانچ ہزار کو مسئلہ سمجھ آ گیا اور انہوں نے توبہ کر لی۔ باقی پانچ ہزار آج کل کے نام نہاد علمبرداران توحید کی طرح ڈٹے رہے جن کا فیصلہ مولیٰ کائنات کی تلوار نے کیا۔ آپ نے فرمایا: كلمة الحق اريد بها الباطل بات تو ٹھیک (قرآن کی) ہے مگر ارادہ ان کا اس سے باطل کا ہے۔ لہذا حقیقی فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ شان اپنے بندوں کو بھی مجازی اور عطائی طور پر دے رکھی ہے۔

صد شکر کہ یوں وردِ زباں حمدِ خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا ہے
 کافر ہو کہ مسلم، کوئی مشرک ہو کہ مومن وہ سب کا خدا سب کا خدا ہے
 وہ خالق کونین وہ رزاق جہاں بھی وہ ربّ علی ربّ علی ہے
 یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب اس کی عطا اس کی عطا ہے
 معراج عبادت بھی، معراج سخن بھی صرف اس کی ثنا اس کی ثنا ہے
 اقبال لیے جاؤ، سدا نامِ خدا ہے جو دل کی جلا، دکھ کی دوا، روح کی شفا ہے

(پروفیسر اقبال عظیم سید)

احادیث قدسیہ عن تنزیہہ باری تعالیٰ عم نوالہ

عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: بے شک آپ کی امت کہتی رہے گی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ کہیں گے یہ اللہ ہے جس نے پوری مخلوق پیدا کی پس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟

(مسلم، کتاب الایمان: باب بیان الوسوسة فی الایمان (۱۳۶) أبو یوسف (۸۲/۱) تحفہ لأشرف (۱۵۸۰)

☆ عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان اسحق لم يذكر قال قال الله ان امتك

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی معنی میں ایک اور روایت بھی مروی ہے لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہیں ”بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔“ (مسلم، کتاب الایمان: باب بیان الوسوسة فی الایمان (۱۳۶)

☆ عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنة بالله .

اللہ تعالیٰ حکیم و علیم بھی ہے اور مالک الملک بھی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

لا تسموا ابناءکم حکیم ولا ابا الحکم فان اللہ هو الحکیم العظیم

اپنے بیٹوں کا نام حکیم یا ابوالحکم نہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حکیم و علیم ہے۔ (مجمع الزوائد للبیہقی ۱۰۵/۸، عمدۃ القاری للعینی)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا ہے شاہان

شاہ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ ملک الملوک۔ شاہان شاہ (شہنشاہ) تو اللہ ہی ہے۔ (کنز العمال علی التتبی ۵۹۶/۱۶)

ذات تری ہے برتر وبالا ہر طرح تو ہے ارفع و اعلیٰ
 رزق دیتا ہے کل جہانوں کو کون ہے ایسا پالنے والا
 سبھی محتاج ہیں تیرے در کے ان میں ادنیٰ ہو یا کوئی اعلیٰ
 سارے عالم پہ یوں محیط ہے تو چاند کے گرد جس طرح ہالا
 بڑی قدرت کے شاہکار ہیں خار و خس ہوں کہ ہو گل و لالہ
 کس کے دل میں نہیں تیری چاہت کون تیرا نہیں ہے متوالا
 رنگ بخشا چمن چمن تو نے چاند تاروں میں نور بھر ڈالا
 لفظ کن کہہ کر اس نے اے نیر کار خانہ عجب بنا ڈالا

(سید شریف الدین نیر)

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو موحد پیدا فرمایا

عن عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ذات یوم فی خطبته الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی هذا کل مال نحلته عبدا حلال وانی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتہم الشیاطین فاجتالہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا وان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہم عربہم و عجمہم الا بقایا من اہل الکتاب وقال انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک وانزلت علیک کتابا لا یفسلہ الماء تقر وہ نائما ویقظان وان اللہ امرنی ان احرق قریشا فقلت رب اذا یشلفوا راسی فیدعوه خبزة قال استخرجہم کما استخرج جوک و اغزہم تغزک و انفق فسنفق علیک و ابعث جیشا نبعت خمسة مثله وقاتل بمن اطاعک من عصاک قال و اہل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قرہی و مسلم و عقیف متعفف

ذو عیال قال واهل النار خمسة الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبعاً لا یتغون اهلاً ولا مالاً والنخائن الذی لا یخفی له طمع وان دق الا خانہ ورجل لا یصبح ولا یمسی الا وهو یخادعک عن اهلك ومالك و ذکر البخل او الکذب والشنظیر الفاحش . ولم یذکر ابو غسان فی حدیثه: وانفق فسنفق علیک

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ سکھاؤں جس سے تم ناواقف ہو جو اللہ نے آج تعلیم دی ہے: تمام مال جو میں نے بندے کو عطا کیا ہے حلال ہے اور بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو (دین ابراہیمی پر موحد) پیدا کیا ہے اور بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور انہیں ان کے دین سے کلی طور پر دور کر دیا اور جو ان کے لئے حلال تھا وہ ان پر حرام کر دیا اور انہیں حکم کیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا اور ان پر غضب ناک ہوا عرب و عجم سب پر ماسوائے اہل کتاب کے بقیہ السلف لوگوں کے اور فرمایا: یقیناً میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے تاکہ تیرا امتحان لوں اور تیرے ذریعے آزمائش کروں اور تیرے اوپر ایسی کتاب نازل کی جس کو پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ اسے سوتے اور جاگتے پڑھیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو غضب ناک کر دوں اور انہیں جلا دوں۔ میں نے کہا میرے رب تب وہ میرا سر کوٹ دیں گے اور پھوڑ دیں گے اور اسے روٹی کی طرح بنا کر چھوڑیں گے۔ فرمایا: انہیں نکال دو جیسے انہوں نے آپ کو نکال دیا اور ان سے جنگ کرو ہم آپ کو غزوے کا سامان مہیا کریں گے (مدد کریں گے) اور آپ خرچ کریں ہم آپ پر خرچ کریں گے اور آپ لشکر بھیجیں ہم اس کے پانچ گنا زاد لشکر بھیجیں گے اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ اپنے نافرمانوں سے لڑائی کریں۔ فرمایا: جنت والے تین قسم کے لوگ ہیں:

(۱) حکمران عدل و انصاف کرنے والا، خرچ کرنے والا تو فیق دیا گیا (یعنی جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو)۔

(۲) مہربان اور شفیق ہر رشتہ دار اور مسلمان کے لئے نرم دل انسان۔

(۳) پاک دامن دست سوال نہ پھیلانے والا، اہل و عیال والا۔

اور فرمایا۔ آگ والے پانچ قسم کے لوگ ہیں:

(۱) کمزور اور ضعیف جس کے پاس عقل نہیں (جو اسے برائی سے روکے) جو تمہارے اندر دوسروں کی پیروی کرتے اور ان

کے دست نگر رہتے ہیں اور اہل و مال کے متلاشی نہیں۔

(۲) خیانت کرنے والا ایسا کہ جب کوئی بھی اس کے لئے طمع اور لالچ ظاہر ہوتی ہے خواہ کتنی ہی دقیق ہو اس میں خیانت کرتا

ہے۔

(۳) وہ آدمی جو صبح و شام تیرے اہل و مال کے متعلق تجھ سے دھوکا کرتا ہے۔

(۵،۳) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل یا جھوٹ اور برے اخلاق والے کا ذکر کیا۔

اور حضرت ابو غسان رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں یہ لفظ ذکر نہیں کئے (اور تو خرچ کر پس تجھ پر خرچ کیا جائے گا)۔

(مسلم، کتاب الحجہ وصفۃ نعیمہا و اہلبہا: باب الصفات التي تعرف بہانی، الحدیث ۲۸۶۵) احمد (۱۷۳۹۱) ابن حبان (۷۳۵۳) عبدالرزاق

(۲۰۰۸۸) طبرانی کبیر (۹۸۷) حاکم (۷۰۰۵/۳)

معلوم ہوا کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر شیطان اسے گمراہ کرتا ہے، اسے خواہشات دلاتا ہے اور اسے راہ راست سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہر قسم کا گناہ شیطان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور اگر انسان شیطان سے بچ جائے تو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان سے بچاؤ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کام سکھائے ہیں مثلاً اذان، صبح و شام کے اذکار، بیت الخلاء میں داخلے کے وقت دعا، قرآن کی آخری دو سورتیں، آیۃ الکرسی، باجماعت نماز کی ادائیگی، صفوں کی درستگی، گھر سے نکلنے وقت دعا، گھر میں داخلے کے وقت اور کھانے سے پہلے دعا، سوتے وقت وضو کرنا، گھر میں سورۃ بقرہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت گھر کو گھنٹی وغیرہ سے پاک رکھنا اور کثرت سے ذکر الہی کرنا وغیرہ۔

خلقت کو اک شان عطا کی
تو نے ہم کو عظمت بخشی
چین دیا۔ سہاحت دی ہے
تو ہی خیر خبر لیتا ہے
تیرے انعامات بہت ہیں
دل خوشیوں سے بھرتا ہے تو
دل کو سرور عطا ہوتا ہے

یا رب تو نے جان عطا کی
تو نے ہم کو عزت بخشی
تو نے ہم کو صحت دی ہے
تو ہی کھانے کو دیتا ہے
تیرے احسانات بہت ہیں
دور مصیبت کرتا ہے تو
جب بھی ذکر ترا ہوتا ہے

سرور بخوری

ایک علمی بحث

آدم برسر مطلب: اس حدیث (اللہ ملک الملوك) کے تحت امام اہل سنت نے بڑی علمی بحث فرمائی ہے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج مسئلہ توحید و شرک کی نزاکتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بات بات پر سادہ لوح مسلمانوں پر بات بات پہ شرک شرک کے فتوے لگانے والے۔

اگر صرف اس ایک بحث کو سمجھ کر پڑھ لیں تو انہیں اپنی اصلاح کا موقع مل سکتا ہے اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچ سکتے ہیں اور نتیجتاً اہل سنت کے ساری زندگی ممنون احسان اور شکر گزار رہیں گے کیونکہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔

دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا

کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا

اگر کلام الامام کو سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ضرور پڑھیں اور کروڑوں مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کی روش سے باز آئیں چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں۔

”ظاہر ہے کہ اصل منشا منع اس لفظ (شاہان شاہ، ملک الملوک) کا استغراق حقیقی پر حمل ہے یعنی موصوف کا استثناء تو عقلی ہے کہ خود اپنے نفس پہ بادشاہ ہونا معقول نہیں۔ اس کے سوا جمیع ملوک پر سلطنت اور ہر معنی قطعاً مختص بحضرت عزت جل جلا ہیں اور اس معنی کے ارادے سے اگر غیر پر اطلاق ہو تو صراحۃً کفر ہے کہ استغراق حقیقی میں رب عزوجل بھی داخل ہوگا یعنی معاذ اللہ موصوف کو اس پر بھی سلطنت ہے۔ یہ ہر کفر سے بدتر کفر ہے۔ مگر حاشانہ ہرگز کوئی مسلمان اس کا ارادہ کر سکتا ہے نہ زہار کلام مسلم میں یہ لفظ سن کر کسی کا اس طرف ذہن جا سکتا ہے۔ بلکہ قطعاً قطعاً عہد یا استغراق عرفی ہی مراد اور وہی مفہوم و مستفاد ہوتا ہے کہ قائل کا اسلام ہی اس ارادہ پر قرینہ قاطعہ ہے۔ جیسا کہ علماء نے موحد کے۔ اُبت الربیع البقل۔ موسم ربیع نے سبزہ اگایا۔ کہنے میں تصریح فرمائی۔

اب رہا یہ کہ استغراق حقیقی اگرچہ نہ مراد نہ مفہوم۔ مگر مجرد احتمال ہی موجب منع ہے۔ یہ قطعاً باطل ہے۔ یوں تو ہزاروں الفاظ کہ تمام عالم میں دائر و سائر ہیں منع ہو جائیں گے۔ پہلے خود اسی لفظ شہنشاہ کی وضع و ترکیب لیجئے۔ مثلاً قاضی القضاة، امام الائمہ، شیخ الشیوخ، عالم العلماء، صدر الصدور، امیر الامراء خان خاناں، بگاز بگ وغیرہا کہ علماء و مشائخ و عامہ سب میں رائج ہیں۔ آخری تین لفظ عربی فارسی ترکی تین مختلف زبانوں کے لفظ ہیں اور معنی ایک یعنی سرور سرداراں، سردار سرداراں، سید الایاد اور اگر امیر امراء بمعنی حکم سے لیجئے تو امیر الامراء بمعنی حاکم الحاکمین، شک نہیں کہ ان الفاظ کو عموم و استغراق حقیقی پر رکھیں تو قاضی القضاة، حاکم الحاکمین، عالم العلماء اور سید الایاد قطعاً حضرت رب العزت عزوجل ہی کے لئے خاص ہیں اور دوسرے پر ان کا اطلاق صریح کفر بلکہ بنظر حقیقت اصلہ صرف قاضی و حاکم و سید و عالم بھی اسی کے ساتھ خاص۔

اسی طرح امام الائمہ، شیخ الشیوخ اور شیخ المشائخ اپنے استغراق حقیقی پر یقیناً حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور دوسرے پر اطلاق یقیناً کفر ہے کہ اس کے عموم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہوں گے اور معنی یہ ٹھہریں گے کہ فلاں شخص معاذ اللہ حضور سید عالم امام العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیخ و امام ہے اور یہ صراحۃً کفر ہے۔ مگر حاشانہ تمام الفاظ میں ہرگز یہ معنی قائلین کی مراد نہ ان کے اطلاق سے مفہوم و مفاد اور اس پر دلیل ظاہر و باہر یہ ہے کہ متکبر مغرور جبار سلاطین کہ اپنے آپ کو مابدولت و اقبال اور اپنے بڑے عہدہ داروں و امراء و وزراء کو بندہ حضور و فدوی خاص لکھتے ہیں جن کے تکبر کی یہ حالت کہ اللہ و رسول کی توہین پر شاید چشم پوشی بھی کر جائیں۔ مگر ہرگز اپنی ادنیٰ سی توہین پر درگزر نہ کریں۔ یہ ہی جبار انہیں امراء کو قاضی القضاة امیر الامراء خان خاناں اور بگاز بگ خطاب دیتے ہیں اور خود لکھتے اور اوروں سے لکھواتے، اور لوگوں کو کہتے لکھتے دیکھتے سنتے اور پسند و مقرر رکھتے ہیں، بلکہ جوان کے اس خطاب پر اعتراض کرے عتاب پائے۔ اگر ان میں استغراق حقیقی کا ادنیٰ ابہام بھی ہوتا جس سے متوہم ہوتا کہ یہ امراء خود سلاطین پر بھی حاکم و افسر بالا و برتر اور سردار و افسر ہیں تو کیا امکان تھا اسے ایک آن کے لئے بھی روا رکھتے۔

تو ثابت ہوا کہ عرف عام میں امثال الفاظ میں استغراق حقیقی ارادۃً وافادۃً ہر طرح قطعاً یقیناً متروک و مجبور ہے جس کی طرف اصلاً خیال بھی نہیں جاتا۔ بعینہ بداہتہ یہی حال شہنشاہ کا ہے۔ کیا بچے مجنون کے سوا کوئی گمان کر سکتا ہے کہ امام اجل ابو العلاء علاء الدین ناصحی، امام اجل ابو بکر رکن الدین کرمانی، علامہ اجل خیر المملت والدین رملی، عارف باللہ شیخ مصلح الدین، عارف باللہ حضرت امیر، عارف باللہ حضرت حافظ، عارف باللہ حضرت مولوی معنوی، عارف باللہ حضرت مولانا نظامی، عارف باللہ حضرت مولانا جامی، فاضل جلیل مخدوم شہاب الدین وغیرہم قدست اسرارہم کے کلام میں یہ ناپاک معنی مراد ہونا درکنار اسے سن کر کسی مسلمان کا وہم بھی اس طرف جاسکتا ہے؟ تو بے ارادہ و بے افادہ اگر مجرد احتمال منع کے لئے کافی ہوتا وہ الفاظ بھی حرام ہوتے، حالانکہ خواص و عوام سب میں شائع و ذائع ہیں خصوصاً قاضی القضاة، کہ فقہائے کرام کا لفظ اور قدیم حدیث ان کے عامہ کتب میں موجود ہے۔ اس میں اور شہنشاہ میں کیا فرق ہے۔

امام اجل علامہ بدر المملت والدین محمود یعنی حنفی عمدہ القاری شرح صحیح بخاری شریف میں فرماتے ہیں۔

سب سے پہلے جس کا لقب قاضی القضاة ہوا، امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس جناب نے یہ لقب قبول فرمایا اور ان کے زمانہ میں فقہاء و علماء و محدثین کے اکابر و عمائد تھے ان میں کسی سے بھی اس کا انکار منقول نہ ہوا۔

اب ثابت ہوا کہ وہ (حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہنے پر) طعن نہ فقط انہیں ائمہ و فقہاء و اولیاء پر ہوگا جن سے لفظ شہنشاہ کی سندیں بے شمار کتب میں مذکور، بلکہ ائمہ تبع تابعین اوزان کے اتباع اور امام مذہب حنفی ابو یوسف اور اس وقت سے آج تک کے تمام علمائے حنفیہ اور بکثرت علمائے بقیہ مذاہب سب پر طعن لازم آئے گا اور اس پر جرأت ظلم شدید اور جہل مدید ہوگی۔

لا جرم بات وہی ہے کہ لفظ جب ارادۃً وافادۃً ہر طرح شاعت سے پاک ہے تو صرف احتمال باطل اسے ممنوع نہ کر دے گا ورنہ سب سے بڑھ کر نماز میں ”تعالیٰ جدک“ حرام ہو کہ دوسرے معنی کس قدر شنیع و فظیح رکھتا ہے۔

ہاں صدر اسلام میں کہ شرک کی گھٹائیں عالمگیر چھائی ہوئی تھیں، تقیر و قطمیر کے ساتھ نہایت مدققت فرمائی جاتی کہ توحید بروجہ اتم اذہان میں متمم ہو و لہذا نہ فقط شہنشاہ بلکہ انت سیدنا کے جواب میں ارشاد فرمایا: السید اللہ، سید اللہ ہی ہے۔ ابو الحکم کنیت رکھنے کو منع فرمایا۔ حالانکہ یہ الفاظ و اوصاف غیر خدا کے لئے خود قرآن عظیم و احادیث و اقوال علماء میں بکثرت وارد۔ وہابیہ و خوارج اسی نکتہ جلیلہ سے غافل ہو کر شرک و کفر میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ تو ”ان الحکمہ اللہ“ حکم اللہ ہی کا ہے۔ فرماتا ہے۔ مولیٰ علی نے کیسے ابو موسیٰ کو حکم فرمایا۔ (یہ مقولہ خوارج ہے)

اللہ تعالیٰ تو ”ایاک نستعین“ فرماتا ہے۔ مسلمانوں نے انبیاء اولیاء سے کیسے استعانت کی۔ اللہ تعالیٰ تو ”قل لا یعلم الایۃ“ فرماتا ہے اہل سنت نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اطلاع غیوب مان لی۔ (یہ وہابیہ کے اقوال ہیں)

ان اندھوں نے نہ جانا کہ وہی خدائے تعالیٰ ”فابعثوا حکماً“ ایک بیچ بھیجو، فرماتا ہے اور ”تعاونو علی البر والتقویٰ“ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور ”استعینوا بالصبر والصلوۃ“ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور ”الامن ارتصی من رسول“ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے اور ”یجتبی من رسلہ من یشاء“ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے

جسے چاہے اور ”تلك من انباء الغيب نوحيها اليك“ یہ غیب کی خبریں ہم تمہارا طرف وحی کرتے ہیں اور ”يومنون بالغيب“ بے دیکھے ایمان لائے۔ وغیرہا فرما رہا ہے۔ ”افتومنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض“ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔

خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اس مقصد کی شرع میں نظیر واقعہ تحریم خمر ہے کہ ابتداء میں نقیر، مزفت، جرہ اور حلتتم یعنی مضبوط برتنوں میں بیڈ ڈالنے سے منع فرمایا کہ تساہل واقع نہ ہو۔ جب اس کی حرمت اور اس سے نفرت مسلمانوں کے دلوں میں جم گئی اور اس سے کامل تحفظ و احتیاط نے قلوب میں جگہ پائی تو فرمایا: ان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه. برتن کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتا۔ (فقہ شہنشاہ ص ۲۳۱ ملخصاً)

اس تحقیق کو پڑھ کر اب آپ خود ہی یہ بتائیں اور اپنے دل سے فتویٰ طلب فرمائیں کہ اس میں کیا مضائقہ ہے اگر اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے

انا اعطيتك الكوثر	ساری کثرت پاتے یہ ہیں
قصر دنی تک کس کی رسائی	جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں
فیض جلیل خلیل سے پوچھو	آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں
نافع شافع رافع دافع	کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں
شافع امت نافع خلقت	رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں
لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن	کون بچائے بچاتے یہ ہیں
دافع یعنی حافظ وحامی	دفع بلا فرماتے یہ ہیں
اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں	کون بنائے بناتے یہ ہیں
رب ہے معطی یہ ہیں قاسم	رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں
اس کی بخشش ان کا صدقہ	دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں
ان کا حکم جہاں میں نافذ	قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے	مالک کل کہلاتے یہ ہیں
سچی بات سکھاتے یہ ہیں	سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں
قادر کل کے نائب اکبر	کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں
یہ تو بات تھی دنیا کی اب اعلیٰ حضرت ہی کی زبان سے آخرت کی بات بھی سن لیں۔	
نزع روح میں آسانی دیں	کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں
ماں جب اکلوتے کو چھوڑے	آ آ کہہ کے جلاتے یہ ہیں

باپ جہاں بیٹے سے بھاگے
خود سجدے میں گر کر اپنی
ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھا بیٹھا
سلم سلم کی ڈھارس سے
جن کے چھیر تک نہیں ان کے
ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو
کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ

لطف وہاں فرماتے یہ ہیں
گرتی اُمت اٹھاتے یہ ہیں
پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں
پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں
موتی محل جواتے یہ ہیں
تاج و براق دلاتے یہ ہیں
مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں

اللہ تعالیٰ وسیلہ بننے سے پاک ہے

عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله! جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحك، أتدري ما تقول: وسبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شان الله اعظم منه

(السنن لابن داود، كنز العمال للمصنف، ۱۱۳۲/۱، ۲۲۳/۱، دلائل النبوة للبيهقي، ۶/۱۳۳، التمهيد لابن عبد البر، ۷/۱۳۱)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک اعرابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، اہل و عیال ضائع ہو گئے، اموال میں کمی آگئی اور جانور ہلاک ہو گئے، ہم حضور کو اللہ کی طرف شفیع بناتے ہیں، اور اللہ عز و جل کو حضور کے سامنے شفیع لاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس چہروں سے بھی اس اعرابی کے قول کی ناپسندیدگی کا اظہار ہونے لگا۔ پھر فرمایا: ارے ناداں! اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سفارشی نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بڑی ہے۔

ہر طرف پھیلی ہے آفاق میں رحمت اس کی
ہر بڑائی ہے اسی ذات احد کو زیبا
اس کے ہی نور سے روشن ہیں یہ ماہ و انجم
اس کی قدرت پہ ہے انگشت بدنداں دنیا
ایک انسان کو کیا فخر دو عالم اس نے
رفعت عرش پہ اڑتا ہے پھر یا اس کا

ذرے ذرے میں نظر آتی ہے قدرت اس کی
عزت اس کی ہے، شکوہ اس کا ہے، عظمت اس کی
لالہ و گل میں ہے نکبت و رنگت اس کی
دوڑتی ہے رگ گل میں بھی حرارت اس کی
نسل آدم پہ ہے کس درجہ عنایت اس کی
وسعت ارض پہ قائم ہے حکومت اس کی

اس کی رحمت سے عطا ہو مجھے ایسی توفیق دلکش انداز میں لکھتا رہوں مدحت اس کی
اس کے محبوب مکرم کا ہے صدقہ عابد ہم کو حاصل ہے بلاؤں میں حفاظت اس کی
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق

مندرجہ بالا حدیث کے تحت امام اہل سنت فتاویٰ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں۔

استعانت و فریادری کی حقیقت خاص بخدا اور وسیلہ و توسل و توسط غیر کے لئے ثابت اور قطعاً روا بلکہ یہ معنی تو غیر خدا کے لئے
ہی خاص ہیں۔ اللہ عزوجل وسیلہ و توسط بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سوا حقیقی
حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ ہوگا۔ اہل اسلام انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے یہ ہی استعانت کرتے ہیں جو اللہ
عزوجل سے کیجئے تو اللہ اور اس کا رسول غضب فرمائیں اور اسے اللہ جل و علا کی شان میں بے ادبی ٹھہرائیں اور حق تو یہ ہے کہ اس
معنی کا اعتقاد کر کے جناب الہی جل و علا سے کرے تو کافر ہو جائے۔ مگر وہابیہ کی بد عقلی کو کیا کہئے نہ اللہ کا ادب، نہ رسول سے خوف،
نہ ایمان کا پاس۔ خواہی نخوہی اس استعانت کو ”ایاک نستعین“ میں داخل کر کے جو اللہ عزوجل کے حق میں محال قطعاً ہے اسے اللہ
تعالیٰ سے خاص کئے دیتے ہیں۔ ایک بے وقوف وہابی نے کہا تھا:

وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے
جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے کہا:

توسل کر نہیں سکتے خدا سے
اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ بنائے اسی وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ
بارگاہ الہی میں ہمارا وسیلہ و ذریعہ و واسطہ قضائے حاجات ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کا جواب اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں
دیا۔

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما
اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے
لئے رسول تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

کیا اللہ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں فرمایا کہ اے نبی! تیرے پاس حاضر ہوں، اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ
دولت و نعمت پائیں گے۔ یہ ہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے مگر وہابیہ تو عقل نہیں رکھتے۔

خدا را انصاف! اگر آیت کریمہ ”ایاک نستعین“ میں مطلق استعانت کا ذات الہی جل و علا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف
انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی۔ کیا یہ ہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا

ہیں، یا آیت میں خاص انہیں کا نام لے دیا گیا ہے کہ ان سے شرک، اوروں سے روا ہے۔ نہیں نہیں۔ جب مطلقاً ذاتِ احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے، ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی کہ انسان ہوں یا جمادات، احياء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔

(برکات الامداد ص ۵۲۳)

کیا شکر ہو ادا تیری رحمت کا اے خدا
تو کارساز خلق ہے تو بے نیاز ہے
نغمہ سرا ہوں میں تیری مدحت کا اے خدا
ہے معترف جہاں تری قدرت کا اے خدا
مبعوث انبیاء و رسل دہر میں کیے
رستہ دکھایا رشد و ہدایت کا اے خدا
رکھ محو ہم کو اپنی محبت میں اے رحیم
دے عشق تاجدار رسالت کا اے خدا
سرشار رکھ مجھے مئے حب رسول سے
دے جام مجھ کو بادۂ وحدت کا اے خدا
پہنچا دے تابہ روضتہ سلطان کائنات
سائل ہوں آستانہ حضرت کا اے خدا
مستحسن و ضیاء کی مناجات سن کریم
صدقہ تیرے جیب کا ہر بات سن کریم

(ضیاء القادری)

اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشورہ سے بے نیاز ہیں

عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: لما نزلت هذه الآية وشاورهم في الامر الآية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ان الله ورسوله غيان عنهما ولكن جعلها الله رحمة لامتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشداً، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم عناء .
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ ”شاورهم في الامر“ نازل ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خبردار! بے شک اللہ ورسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) مشورہ سے بے نیاز ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت پر غایت مہربانی فرماتے ہوئے حکم فرمایا: تو جس نے مشورہ کیا ہدایت پر رہا اور جس نے مشورہ نہیں کیا دشواری میں مبتلا ہوا۔

(شعب الایمان للمصنفی، ۶/۶۶۔ الدر المنثور للسيوطی، ۲/۹۰)

تو ہی بس خدا ہے ہمارا الہی
ہمیں ہے ترا ہی سہارا الہی
نمایاں ہر اک ذرے میں ذات تیری
تیرا ہر طرف ہے نظارا الہی
مدد کے لئے تیری مخلوق کل نے
تجھے مشکلوں میں پکارا الہی
تیری شانِ قدرت کا ہر ذرہ مظہر
زمیں آسماں ہر ستارا الہی

ابھی تک ترے بحرِ لطف و کرم کا کسی نے نہ پایا کنارہ الہی
 پہنچ جاؤں طیبہ کی گلیوں میں میں بھی مرے واسطے ہو اشارہ الہی
 جو دولت سخن کی جلی یوسفی کو یہ فضل و کرم ہے تمہارا الہی

(پیر محمد اللہ دہ یوسفی زم زم)

دل کا حال خدا ہی جانتا ہے

عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنته فوق في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اقال لا اله الا الله وقتلته قال: قلت يا رسول الله! انما قالها خوفا من السلاح قال: افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، فما زال يكررها على حتى تمنيت انى اسلمت يومئذ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ میں روانہ فرمایا۔ ہمارا قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ حرقات سے مقابلہ ہوا، میں نے ایک شخص پر حملہ کیا اس نے بیساختہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر ہلاک کر دیا پھر میرے دل میں یہ بات کھٹکی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور تم نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس نے ہتھیار کے خوف سے پڑھا۔ حضور نے فرمایا تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ کہ تم جان لیتے کہ صدق دل سے پڑھایا یونہی محض خوف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہی جملہ بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ اس تشدید حکم سے متاثر ہو کر میں تمنا کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔

(اصح لمسلم، کتاب الایمان ۶۷ باب تحریم قتل الکافر بعد قوله لا اله الا الله، السنن لابی داؤد، کتاب الجہاد، ۲۵۵/۱، السنن لابن ماجہ، کتاب الفتن،

۲/۲۹۰، المسند لاجم بن حنبل، ۳/۴۳۹، ۵/۲۰۷)

صبر، انکسار، شکر، صداقت، کرم، سخا
 کرتا ہے رزق مسلم و منکر کو وہ عطا
 رہتے ہیں ذالجلال کے جلوؤں میں گم سدا
 سیراب ہیں لطائفِ خمہ کی کھیتیاں
 دربارِ ذالجلال میں ہوتی ہے باریاب
 کرتا ہے وہ قدیر ہی ذرے کو آفتاب
 مداح اس کے سرو و من شاخ و برگ و بار
 کرتی ہیں یہ صفات ہی بندے کو حق نما
 کس درجہ ساری خلق پہ ہے مہرباں خدا
 آئینہ صفات الہی ہیں اولیاء
 ہے نور بار عالم لا ہوت کی کھٹا
 مظلوم کے لبوں سے نکلتی ہے جو دعا
 صرصر کو لمحہ بھر میں بناتا ہے جو صبا
 تسبیح گو ہیں اس کے سبھی ارض تا سما

مولا کی بارگاہ سے ہوتی نہیں ہے رُو بندہ کرے حضورِی دل سے جو التجا
شہزاد اس کی حمد کا یارا بھلا کے ”لا اھسی“ جس کی حمد میں کہتے ہیں مصطفیٰ

(محمد شہزاد احمد بھردی)

کھول بخشش کا باب یا تو اب

عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من عبد
قال: لا اله الا الله، ثم مات على ذلك الا دخل الجنة، قلت: وان زني وان سرق، قال: وان زني
وان سرق، قلت: وان زني وسرق، قال: وان زني وان سرق، قلت: وان زني وان سرق، قال: وان
زني وان سرق، ثم قال في الرابعة على رغم انف ابي ذر

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ ”لا الہ الا
اللہ، صدق دل سے کہے پھر اسی پر اس کا انتقال ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں: میں نے عرض
کیا: خواہ وہ زنا کرے خواہ وہ چوری کرے، فرمایا: اگر چہ وہ زنا کرے اگر چہ وہ چوری کرے۔ میں نے کہا: خواہ وہ
چوری کرے خواہ وہ زنا کرے، فرمایا: اگر چہ وہ چوری کرے اگر چہ وہ زنا کرے۔ تین مرتبہ یہ ہی فرما کر ارشاد فرمایا:
اے ابو ذر! اگر چہ تمہیں ناپسند ہو لیکن حکم یہ ہی ہے۔

(المسند للاحمد بن حنبل، ۱۶۶/۵، المسند لابن عوانہ، ۱۹/۱، التفسیر للبخاری، ۵۳۳/۱، فتح الباری للعسقلانی، ۲۸۳/۱۰، السنۃ لابن عاصم، ۴۶۳/۲، الدر
المسکون للسیوطی، ۱۷۰/۲، تلخیص الحیثم لابن حجر، ۱۰۳/۲، التہذیب لابن عبدالبر، ۲۳۱/۹، التفسیر لابن کثیر، ۲۸۷/۲)

کھول بخشش کا باب یا تو اب	جرم ہیں بے حساب یا تو اب
بھیج ایسا سحاب یا تو اب	پیاں بچھ جائے کشت باطن کی
دور ہو اضطراب یا تو اب	بخش تسکین قلب کو میرے
بخش بے احتساب یا تو اب	سن صدا ربنا ظلمنا کی
قلب ہے آب آب یا تو اب	آنکھ نم ہے جبیں عرق آلود
میں رہوں فیض یاب یا تو اب	تیرے لطف و کرم کے دریا سے
نال سارے عذاب یا تو اب	میرے عیبوں پہ ڈال دے پردہ
معصیت کو صواب یا تو اب	تیری رحمت بنا بھی دیتی ہے
وہ ہو کیسے خراب یا تو اب	جس کو تو خود سنوارنا چاہے
بخش علم الکتاب یا تو اب	مجھ کو خوگر بنا اطاعت کا
اب اٹھا دے حجاب یا تو اب	قرب شہزاد کو تواز اپنا

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

اس (مندرجہ بالا) حدیث کے تحت امام اہل سنت لکھتے ہیں:

حضرت ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال عہد اسلام سے پہلے تھا تو اس وقت وہ صرف اہل توحید و اہل لا الہ الا اللہ تھے۔ تو نبی از قبیل، لیس لک، ہے۔ بعدہ رب العزۃ عز جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پر اتمام نعمت کے لئے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح انہیں زندہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر شرف صحابیت پا کر آرام فرمایا۔

ولہذا حکمت الہیہ کہ یہ زندہ کرنا حجتہ الوداع میں واقع ہوا جبکہ قرآن عظیم پورا اتر لیا اور ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی“ نے نزول فرما کر دین الہی کو تام و کامل کر دیا تاکہ ان کا ایمان پورے دین کامل شرائع پر واقع ہو۔ حدیث احیاء کی غایت ضعیف ہے۔ کما حقہ خاتم الحفاظ الجلال السیوطی ولا عطر بعد عروس اور حدیث ضعیف دربارہ فضائل مقبول۔ کما حقہناہ بمالامزید علیہ فی رسالتنا ”الہاداکاف فی حکم الضعاف“ بلکہ امام ابن حجر مکی نے فرمایا۔ متعدد حفاظ نے اس کی تصحیح کی۔ افضل القری لقراء ام القری میں فرماتے ہیں۔

ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر الأنبیاء وامہاتہ الی آدم وحواء لیس فیہم کافر۔ لأن الکافر لا یقال فی حقہ انه مختار ولا کریم ولا ظاہر بل نجس۔ وقد صرحت الأحادیث بأنہم مختارون وأن الأباء کرام والامہات طاہرات وأیضا قال تعالیٰ وتقلبک فی الساجدین۔ علی أحد التفاسیر فیہ أن المراد تنقل نورہ من ساجد الی ساجد وحينئذ فہذا صریح فی أن أبوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنة وهذا هو الحق بل فی حدیث صحیحہ غیر واحد من الحفاظ ولم یلتفتوا لمن طعن فیہ أن اللہ تعالیٰ احیاهما فامنا بہ الخ۔ مختصرا وفيہ طول۔

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کریم میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں وہ تو انبیاء ہی ہیں۔ ان کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر آباء کرام وامہات طاہرات آدم وحواء علیہما الصلوٰۃ والسلام تک بھی ان میں کوئی کافر نہ تھا کہ کافر کو پسندیدہ یا کریم یا پاک نہیں کہا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء وامہات کی نسبت حدیثوں میں تصریح فرمائی کہ وہ سب پسندیدہ الہی ہیں۔ آباء سب کرام ہیں، مائیں سب پاکیزہ ہیں اور آیت کریمہ ”وتقلبک فی الساجدین“ کی بھی ایک تفسیر یہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا۔ تو اب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت آمنہ و حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت ہیں کہ وہ تو ان بندوں میں جنہیں اللہ عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چنا تھا سب سے قریب تر ہیں۔ یہ ہی قول حق ہے بلکہ ایک حدیث میں جسے متعدد حفاظان حدیث نے صحیح کہا ہے اور اس میں طعن کرنے والے کی بات کو قابل التفات نہ جانا تصریح ہے کہ اللہ عزوجل نے والدین کریمین رضی اللہ

تعالیٰ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زندہ فرمایا یہاں تک وہ ایمان لائے۔

مسلك محبت اہل سنت اہل جنت

مزید فرمایا: اپنا مسلك اس باب میں یہ ہے

ومن مذہبی حب الدیار لأهلها وللناس فیما یعشقون مذاہب

جسے یہ پسند ہو ”فہما ونمت“ ورنہ آخر اس سے تو کم نہ ہو کہ زبان رو کے دل صاف رکھے۔ ان ذلکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے۔ امام ابن حجر کی شرح میں فرماتے ہیں:

ما أحسن قول المتوقفين في هذه المسئلة الحذر الحذر من ذكرهما بنقص فان ذلك قد یؤذیه

صلی اللہ علیہ وسلم لخبر الطبرانی لا توذوا الأحياء بسبب الأموات .

یعنی کیا خوب فرمایا ان بعض علمائے جنہیں اس مسئلہ میں توقف تھا کہ دیکھ بیچ! والدین کریمین کو کسی نقص کے ساتھ ذکر کرنے سے کہ اس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہونے کا اندیشہ ہے کہ طبرانی کی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا۔ مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ دو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ابدی ہیں۔ ہمارے تمام افعال و اقوال پر ^{مطل} اور اللہ عزوجل فرماتا ہے: والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم . جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے

دردناک عذاب ہے۔ عاقل کو چاہئے ایسی جگہ سخت احتیاط سے کام لے۔ (رسالہ شمول الاسلام مشمولہ فتاویٰ رضویہ ۱۱/۱۳۳)

میری ہر سانس ترے تابع فرماں ہو جائے

روشنی دے مجھے اتنی کہ چراغاں ہو جائے

زندگی آئینہ سنت و قرآن ہو جائے

روح میری بھی ترے قرب کے شایاں ہو جائے

ہر گھڑی ذکر ترا وردِ دل و جاں ہو جائے

سایہ رحمت سلطانِ رسولاں ہو جائے

فضل تیرا مرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے

آخری راہ بھی اس کے لئے آساں ہو جائے

اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے

چند شمعیں تو فروزاں ہیں مرے سینے میں

صرف دو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں

اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں

خرچ ہوں تیری اطاعت میں شب و روز مرے

میرے آغاز سے تا حشر کے ہر لمحے پر

مرے ماں باپ کی قبریں رہیں روشن روشن

تو نے ہر راہ مظفر پہ کشادہ رکھی

غیر خدا کی عبادت حرام و کفر ہے

عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: اجتمعت نصاریٰ نجران و احبار یہود عند

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنازعوا عنده فقالت الاحبار: ما کان ابراهیم الا یہودیا، وقالت

النصاری ما کان ابراهیم الا نصرانیا فانزل اللہ فیہم ”یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما

انزلت التورۃ والانجیل الامن بعده الی قوله: واللہ ولی المؤمنین فقال أبو رافع القرظی حین اجتمع عنده النصارى والاحبار فدعاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام..... اترید منا یا محمدا ان نعبدک كما تعبد النصارى عیسی بن مریم فقال رجل من اهل نجران نصرانی، یقال له الرئیس وذلك ترید والیہ تدعو، او كما قال، فقال رسول اللہ: معاذ اللہ ان أعبد غیر اللہ او امر بعبادہ غیر ما بذلک بعثی ولا أمرنی. فانزل اللہ عزوجل فی ذلك من قولہما. ما كان لبشر ان یوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا یا امرکم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نجران کے نصاریٰ اور یہودی عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہودی عالم بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہی تھے۔ نصاریٰ نے کہا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کو دفع کرنے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اے کتاب والو! ابراہیم (علیہ السلام) کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تو رات وانجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ بیشک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۳۸۳/۵ الدر المنثور للسیوطی ۳۰/۲ التفسیر لابن کثیر ۵۳/۲ التفسیر الطبرانی ۳۰۵/۲)

جب یہودی اور نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو رافع قرظی نے کہا: کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جس طرح نصاریٰ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں؟ اور ایک نجرانی عیسائی نے جس کا نام رئیس مشہور تھا اس نے کہا۔ کیا آپ یہ ہی چاہتے ہیں اور اسی کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معاذ اللہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں یا اس کے غیر کی عبادت کا حکم دوں۔ نہ مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا ہے اور نہ مجھے اس کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دونوں کے قول کی تردید اس طرح نازل فرمائی۔

کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ سے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہراؤ۔ کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہوئے۔ (فتاویٰ رضویہ حصہ دوم ۱۸۳/۹)

میں اپنے دل میں تیرے ذکر کی محفل سجاتا ہوں
مراقب ہو کے تیرے قرب کی لذت اٹھاتا ہوں
کبھی میں نفس و آفاق میں چکر لگاتا ہوں
حواسِ خمسہ باطن میں تیرا شوق بڑھتا ہے
تخیل رابطہ کرتا ہے جب اصل لطائف سے
ترے فیضان سے ہیں قلب روح و سر، خفی روشن
بہ فیض اسم احمد کوئی دم ایسا بھی ہوتا ہے
درود پاک جب پڑھتا ہوں میں کامل حضوری سے
خیال آتا ہے اے شہزاد جب اعمال نامے کا

مرے مالک میں تیری یاد میں تسکین پاتا ہوں
میں رنگ و نور کے چشموں میں اس صورت نہاتا ہوں
کبھی عرش معلیٰ سے بھی آگے گھوم آتا ہوں
تری تسبیح کے نعمات جب میں گنگناتا ہوں
بڑی مشکل سے اپنے آپ میں اس دم سماتا ہوں
ترے لطف و کرم کی روشنی سے جگمگاتا ہوں
میں اپنی روح کو سرکار کے روضے پہ پاتا ہوں
کبھی بطحا میں ہوتا ہوں کبھی طیبہ کو جاتا ہوں
ندامت سے خدا کے سامنے سر کو جھکاتا ہوں

تمہارا رب (پروردگار) بھی ایک تمہارا اب (باپ) بھی ایک

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حجۃ الوداع کے موقع پر) ارشاد فرمایا

یا ایہا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد

اے لوگو! تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا رب (باپ) بھی ایک ہے۔

(الترغیب والترہیب للمذری، ۶۱۳/۳، مجمع الزوائد للبیہقی، ۲۶۶/۳، کنز العمال للمصنف، ۵۶۵۲/۳، ۹۳)

☆ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

ان الله وتروى حب الوتر (المعجم للحاکم، العلم، ۴۹۲/۱) بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو دوست رکھتا ہے۔

☆ عن امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم قال: قال رسول الله صلی الله علیه

وسلم: لا طاعة لاحد فی معصية الله تعالیٰ، انما الطاعة فی المعروف .

امیر المؤمنین مولیٰ المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت تو اچھے کاموں ہی میں ہوتی ہے۔

(الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الاحکام، ۱۰۵۸/۲، ایضاً کتاب اخبار الاحاد، ۱۰۷۸/۲، ایضاً کتاب المغازی، ۶۲۲/۲، السنن للنسائی، کتاب الوصیۃ،

۱۱۶۶/۲، الصحیح لمسلم، کتاب الامارۃ، ۱۲۵/۲، السنن لابن داؤد، کتاب الجہاد، ۳۸۳/۱، المسند لاحمد بن حنبل، ۱۰۲/۱، ۸۰۲/۱، ۱۲۳، ۹۳، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ایضاً،

۳۲۶/۳، ۳۲۷، ۳۲۸، الجامع الصغیر، ۵۸۵/۲، صحیح، المسند رک للحاکم، ۱۲۳/۳، المعجم الکبیر للطبرانی، ۲۳۳/۳، ۱۸۵/۱۸، مجمع الزوائد، للبیہقی،

۲۲۶/۵، الدر المنثور للسیوطی، ۱۱۸/۱، ۱۷۷/۲، المصنف لعبد الرزاق، ۳۳۵/۱۱، کنز العمال لعلی المصنف، ۶۷۷/۶، ۶۷۸/۶، ایضاً، ۱۳۹۱۱، ۷۷۷/۶، علی

الحدیث لابن ابی حاتم الرازی، ۱۳۹۲، ۱۳۰۰، کشف الخفاء للمجدونی، ۵۱۰/۲، السلسلۃ الصحیحۃ لالہانی، ۱۷۹)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

ہجرت: مهاجرا الى الله ورسوله
 عطا: ما اتاهم الله ورسوله
 فضل: سيؤتينا الله من فضله ورسوله
 رضا: والله ورسوله احق ان يرضوه
 غنا: اغناهم الله ورسوله من فضله
 دیکھنا: سيرى الله عملكم ورسوله
 عزت: والله العزة ولرسوله
 دوستی: انما وليكم الله ورسوله
 وعدہ: وعدنا الله ورسوله
 سچ: صدق الله ورسوله
 فرماں برداری: استجبوا لله وللرسول
 حکم: قضى الله ورسوله
 تقدیم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
 مدد: ينصرون الله ورسوله
 بلا یا جانا: الذين استجابوا لله والرسول
 براءت (بیزاری): براءة من الله ورسوله
 عہد: عهد عند الله وعند رسوله
 خیر خواہی: نصحو الله ورسوله
 ڈرنا: ان يحيف الله عليهم ورسوله
 رجوع: فردوه الى الله والرسول
 نزول: انزل الله والى الرسول
 بعثت: بعث الله رسولا

تیرے تو وصف عیب تاہی سے ہیں بری
 حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی مشترک صفات

اللہ تعالیٰ معلم ہے: الرحمن علم القرآن .

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم ہیں: يعلمہم الكتاب والحکمة
اللہ بھی تزکیہ کرتا ہے: ولكن الله يزكى من يشاء .
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزکی ہیں: ويزكيهم
اللہ تعالیٰ نور ہے: الله نور السماوات والارض
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں: قد جاءكم من الله نور
رسول اللہ کی رضا ہی اللہ کی رضا: والله ورسوله احق ان يرضوه
اللہ بھی کریم: ما غرك بربك الكريم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم: انه لقول رسول كريم
اللہ بھی رؤف: ان الله بالناس لرؤف رحيم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤف: بالمومنين رؤف رحيم
اللہ بھی رحيم: ان الله بالناس لرؤف رحيم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحيم: بالمومنين رؤف رحيم
اللہ بھی ہادی: يهدى من يشاء الى صراط مستقيم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی: انك لتهدى الى صراط مستقيم
اللہ بھی ولی: الله ولي الذين امنوا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی: انما وليكم الله ورسوله
عزت اللہ کے لئے: ان العزة لله جميعا
عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی: والله العزة ورسوله .
اللہ بھی اندھیروں سے نکالتا ہے: ليخرجهم من الظلمات الى النور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندھیروں سے نکالتے یں: لتخرج الناس من الظلمات الى النور .
اللہ بھی انعام کرتا ہے: انعم الله
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انعام فرماتے ہیں: انعمت عليه
اللہ رسول دونوں کی اطاعت فرض: اطيعوا الله والرسول
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت: من يطع الرسول فقد اطاع الله
اللہ حلال ٹھہراتا ہے: لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم .
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال فرماتے ہیں: يحل لهم الطيبات .

اللہ حرام کرتا ہے: ما حرم الله ورسوله
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محترم: ويحرم عليهم الخبائث
 اللہ بھی اچھائی کا حکم دیتا ہے: ان الله يامر بالعدل
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی: يامرهم بالمعروف
 اللہ بھی برائی سے منع کرتا ہے: وينهى عن الفحشاء والمنكر
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی: وينهاهم عن المنكر
 اللہ بھی واعظ: يعظكم لعلكم تذكرون
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی: قل انما اعظكم بواحدة .
 اللہ غنی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی: وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله .
 اللہ رسول کا فضل: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سويتنا الله من فضله ورسوله .
 اللہ بھی حکیم: ان الله عزيز حكيم .
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی: يعلمهم الكتاب والحكمة
 اللہ بھی الحق المبين (النور: ۲۵)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحق المبين (آئل: ۷۹)
 اللہ تعالیٰ بھی شہید (البقرة: ۱۲۳)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید (النساء: ۷۹)
 اللہ تعالیٰ بھی شکور (التغابن: ۱۷)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکور (بنی اسرائیل: ۳)
 اللہ تعالیٰ بھی عظیم (البقرة: ۲۵۵)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بھی عظیم (القلم: ۴)
 اللہ تعالیٰ بھی خبیر (الانعام: ۱۸)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبیر (الفرقان: ۵۹)
 اللہ تعالیٰ بھی علیم (الانفال: ۷۵)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیم (یوسف: ۷۶)

ان میں اکثر نام اسما الحسنی سے ہیں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس بحث کے لئے (کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نام اپنے محبوب پاک کو عطا فرمائے ہیں) دیکھئے ہماری کتاب ”نام محمد کے میں قرباں“

ہے وہی روح تمنا اور جان آرزو ہے فروع اسم احمد سے بہر سو روشنی آپ کی نسبت سے ہی قائم ہے ہستی کا بھرم رچ گئی ہے دل میں میرے الفت خیر البشر آپ کے فیضان سے حاصل آدمیت کو شرف

فرش سے تا عرش ہے سب کو انہی کی جستجو صوفشاں اس سے ہوئے دونوں جہاں کے کاخ و کو ذکر محبوب خدا سے ہے ہماری آبرو ہر رگ و پے میں سرایت کر گئی وہ مو بہو محترم کعبے سے ٹھہرا ہے مسلمان کا لہو

حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اپنے تیس ناموں سے مخصوص فرمایا ہے۔ وہ اسما حسب ذیل ہیں: الاکرام، الامین، الآخر، البشیر، الجبار، الحق، الخبیر، ذو القوۃ، الرءوف، الرحیم، الشہید، الشکور، الصادق، العظیم، العفو، العالم، العزیز، الفاتح، الکریم، المبین، المہیمن، المقدس، المولیٰ، الولی، النور، الہادی، طہ اور یسین۔“

جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”ہمیں ان تیس ناموں کے سوا اور بھی کثیر اسما قرآن پاک میں ملتے ہیں جو یہ ہیں:

الاحد، الاصدق، الاحسن، الاجود، الاعلیٰ، الامر، الناہی، الباطن، البر، البرہان، الحاشر، الحافظ، الحفیظ، الحسیب، الحکیم، الحلیم، الحی، الخلیفہ، الداعی، الرفیع، الواضع، رفیع الدرجات، السلام، السید، الشاکر، الصابر، الصاحب، الطیب الطاہر، العدل، العلیٰ، الغالب، الغفور، الغنی، القائم، القریب، الماجد، المعطی، الناسخ، الناصر، الوفی، حم اور نون صلی اللہ علیہ وسلم۔“ (الخصائص الکبریٰ جلد ۱ ص: ۱۶۰، امام جلال الدین سیوطی)

الفت خیر الوریٰ سے آبیاری کے بغیر نخل ایماں پا نہیں سکتا کسی صورت نمو ہے چھلک اٹھا حجازی مئے سے پیانہ میرا ہو گیا اس سے لبالب میرے اس دل کا سہو

تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ مثلاً

اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم یاد فرماتا ہے: لعمرک انہم لفی سکر تہم یعمہون

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

ما خلق اللہ نفسا ہی اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما اقسام بحیوۃ احد خیرہ۔
”اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی شخص پیدا نہیں فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز تر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی قسم

نہیں یاد فرمائی سوائے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم یاد فرمائی۔
(لعبرك)۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم یاد فرمائی۔ یس والقران الحکیم انک لمن المرسلین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ وارضی اور زلف دوتا کی قسم یاد فرمائی۔ والضحی واللیل اذا سجدی سے وما قلی تک۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کی قسم یاد فرمائی۔ ن والقلم اور انک لعلی خلق عظیم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی قسم یاد فرمائی۔ فلا اقسم بما تبصرون۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی قسم یاد فرمائی۔ قلیلا ما تذکرون۔ پھر طہ کہہ کر قسم یاد فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرئیل علیہ السلام کو اُفق مبین پر دیکھنے کی قسم یاد فرمائی۔ فلا اقسم بالخنس۔ ولقد راه بالافق
المبین۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفا کرنے والوں کے خلاف قسم یاد فرمائی۔ کلا لئن لم ینتہ لفسعا بالناصیة۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ لا اقسم بهذا البلد۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی قسم وقیلہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی قسم یس والقران الحکیم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم والنجم؛ فلا وربک لایؤمنون؛ فوربک لنحشرنہم والشیاطین فوربک
لنستلنہم اجمعین۔

داور محشر سے میری التجا ہے روزِ حشر
رکھے پیش شافع محشر وہ میری آبرو
ہیں شرط لولاک نیر باعث تخلیق کل
اور صدقہ آپ ہی کا ہے جہان رنگ و بو
چاک دامانی کا میرا، چارہ کچھ فرمائیے
سوزن رحمت سے اس کو آپ کر دیجئے رفو
روز محشر گونجے گی جب نفسی نفسی کی پکار
آئیں گے بہر شفاعت سب انہی کے روبرو

اعضائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں تذکرہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدن کا تذکرہ فرمایا ہے:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر فرمایا۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تذکرہ فرمایا۔ ما زاغ البصر وما طغی۔
پھر آنکھوں کا ذکر فرمایا۔ لا تمدن عینیک

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا ذکر فرمایا۔ یقولون هو اذن۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ذکر فرمایا۔ ما کذب الفؤاد۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا ذکر فرمایا۔ فلا یکن فی صدرك حرج اور الم نشرح لك صدرك۔
 مزید فرمایا: لقد نعلم انک یضیق صدرك۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا ذکر فرمایا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ذکر فرمایا۔ وما ینطق عن الهوی۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کا ذکر فرمایا۔ انقض ظهرک۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا ذکر فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر فرمایا۔ ولا تجعل یدک۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا ذکر فرمایا۔ وانک لعلی خلق عظیم۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا تذکرہ فرمایا۔ لعمرک۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر فرمایا۔ لا تحرك به لسانک۔

(شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۱۸: امام ابو سعید عبدالملک بن عثمان نیشاپوری، الخصال الکبریٰ، جلد ۲، ص ۳۱۴، امام جلال الدین سیوطی)

ہست قرآن حالہائے مصطفیٰ ﷺ

حضور علیہ السلام کے سفر و حضر، چہرہ و زلف، لباس و طعام، حسن و جمال وغیرہ کا ذکر بھی بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں اصل تو اطاعت ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مقدسہ کا ذکر فرمایا اب ایک اور جہت سے دیکھئے: اللہ تعالیٰ نے آپ کے سفر معراج کا ذکر فرمایا:

سبحان الذی اسرى بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔

آپ کی نماز تہجد کا ذکر فرمایا۔ ومن الیل فتہجد به نافلۃ لک۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا ذکر فرمایا۔ محمد رسول اللہ۔

آپ کی ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا۔ وازواجہ امہاتہم۔

آپ کے اسوۂ حسنہ کا ذکر فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر فرمایا۔ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کا ذکر فرمایا۔ یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ذکر فرمایا۔ الرحمن علم القرآن۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مبارک کا ذکر فرمایا۔ یا ایہا المزمّل۔ قم الیل الاقلیلا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مارک کا ذکر فرمایا۔ وثبابک فطہر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کا ذکر فرمایا۔ لا اقسّم بهذا البلد۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک کا ذکر فرمایا۔ وللآخرة خیر لک من الاولی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک کی بلندی کا ذکر فرمایا۔ ورفعالک ذکرک۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کا ذکر فرمایا۔ والعصر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کثیر کا ذکر، انا اعطیناک الکوثر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مبارک کا ذکر فرمایا۔ یتلوا علیہم آیاتک۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا ذکر فرمایا۔ ویعلّمہم الکتاب والحکمة ویزکیہم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کا ذکر فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا ذکر فرمایا: یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ اطہر کی برکت کا ذکر فرمایا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر فرمایا۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا ذکر: یا ایہا المزمّل۔

کوئی سہارا اپنا بجز مصطفیٰ نہیں

غیر از حضور اور کوئی آسرا نہیں

بعد از خدا عظیم تر مخلوق میں وہی

معلوم ان کے مرتبے کی انتہا نہیں

نسبت نہیں ہے جس کو در آنحضور سے

زہار اس سے اپنا کوئی واسطہ نہیں

حق دار ہیں ثناء کے خدا اور مصطفیٰ

شایاں کسی بھی اور کو حرف ثناء نہیں

عمر مبارک کا تذکرہ

امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قرآن سے ہر چیز کی دلیل حاصل کرنا ممکن ہے حتیٰ کہ بعض علمائے کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سال عمر کا

استنباط بھی قرآن سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ہے: ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها.. (النافتون: ۱۱)

اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آجائے۔

یہ قرآن کی تریسٹھویں سورہ کی اختتامی آیت ہے اور اس کے فوراً بعد سورہ تغابن کا معنی ہے چھپنا یا چھپانا جو اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور ہم انہیں چھپا دیں گے۔ ۶۳ ویں سورہ کے اختتام پر اجل کے ذکر کے بعد تغابن کے ذکر میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ سال ہوگی۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ
 ”حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقت آدم کے ساتھ سیدنا شیت علیہ السلام کی معرفت، سیدنا نوح علیہ السلام کی شجاعت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی رضا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی قوت، سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شدت، سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر، سیدنا یونس علیہ السلام کی اطاعت، سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز، سیدنا صالح علیہ السلام کی فصاحت، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا زہد، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت، سیدنا الیاس علیہ السلام کا وقار، سیدنا دانیال علیہ السلام کی محبت، سیدنا یوشع علیہ السلام کا جہاد عطا فرمایا۔“ (شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۲۹، امام ابو سعید عبدالملک بن عثمان نیشاپوری)

جب تک نہ پڑھ لیں ذات پیمبر پہ ہم درود
 مقبول کوئی بھی تو ہماری دعا نہیں
 محبوب ذات حق کے سوا کائنات میں
 کوئی ہمارا مرکز مہر و وفا نہیں
 جو ہے گداز اسوۂ خیر الانام سے
 کہتا ہے کون قلب وہ درد آشنا نہیں
 دیدہ نگار جاں کے سوا اس جہان میں
 بیمار عشق کے لئے کوئی دعا نہیں
 نیر چلو حضور کے در پر پڑے رہیں
 جس در سے خالی لوٹا کوئی گدا نہیں
 اس کے لئے ہیں ہر جگہ تیرہ نصیبیاں
 جس دل میں نور حب رسول خدا نہیں

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہاداری

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کو ان تمام صفات عالیہ سے نوازا جو انبیائے کرام میں پائی جاتی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور سیدنا نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحا۔
 سیدنا ادریس علیہ السلام کو رفعت شان دی۔ ورفعناہ مکانا علیا۔
 سیدنا نوح علیہ السلام کو اجابت دی۔ ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون۔
 سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فدائیت دی۔ و فدیناہ بذبح عظیم۔
 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلقت دی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً۔
 سیدنا اسحاق علیہ السلام کو حلم دیا۔ بشرناہ بغلام حلیم۔
 سیدنا لوط علیہ السلام کو حکمت دی۔ ولو طأ تیناہ حکماً وعلماً۔
 سیدنا یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا دیا۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قربت دی۔ قربناہ نجیا۔

سیدنا داؤد علیہ السلام کو خلافت دی۔ انا جعلناک خلیفۃ۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا دی۔ هذا عطاؤنا۔

سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو حکمت دی۔ اتیناہ الحکمہ صبیا۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رفعت دی۔ ورافعک الی۔

مگر ان حضرات انبیاء کے یہ سارے کمالات و فضائل عطا فرما کر ہمارے آقا علیہ السلام کو ایسی بے شمار خصوصیات سے نوازا جو کسی اور نبی علیہ السلام کے حصے میں نہ آئیں۔ مثلاً:

۱۔ اعلیٰ اخلاق: وانک لعلی خلق عظیم۔

۲۔ عصمت: واللہ یعصک من الناس۔

۳۔ نصرت ایزدی: وینصرک اللہ نصراً عزیزاً۔

۴۔ فضل و علم: وکان فضل اللہ علیک عظیماً۔

۵۔ محبت الہی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔

۶۔ قربت و وصلت: ثم دنا فتدلی۔

نیز صحیح بخاری میں ساری زمین کا مسجد و طہور بنایا جانا۔ رعب سے مدد تمام انسانوں کی طرف بعثت مال غنیمت حلال ہونا، تیمم وغیرہ۔ الغرض! کوئی ایسا شرف اور رتبہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو دیا ہو تو اس سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف نہ فرمایا ہو۔ البتہ ہزاروں مختصات ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے ممتاز فرمایا۔ (شرف الہی

صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۳۰ تا ۱۳۱: امام ابو سعید عبد الملک بن عثمان نیشاپوری)

اک مجسم نور گویا خاکداں میں آ گیا

رنگ مدحت کا عجب نطق و بیاں میں آ گیا

گویا احساس مسرت قلب و جاں میں چھا گیا

عرضہ محشر کے جب میں امتحاں میں آ گیا

رحمتوں والا نبی جب اس جہاں میں آ گیا

ہر ورق قرطاس پر بھی اسم احمد کی مہک

غمکدے پر ایک موج شادمانی چھا گئی

شافع محشر شفاعت کا وسیلہ بن گئے

قرآن پاک میں کمالاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا:

وعصی ادم ربہ فغوی۔

قرآن پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی لغزش کا تذکرہ فرمایا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا:

فلا تسلثن ما ليس لك به علم .

سیدنا یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه .

سیدنا داؤد علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے فرمایا:

لقد ظلمك بسؤال نعجتك

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو کہا:

فوكزه موسى فقضى عليه .

یہ تمام آیات ان جلیل القدر پیغمبروں کی لغزشوں کا ذکر کرتی ہیں، مگر ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو

کہا: لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر .

”ہم نے آپ کے طفیل سابقہ اور آئندہ امتیوں کے گناہ معاف کر دیئے۔“

مفسرین نے یہاں وضاحت فرمائی کہ ”ما تقدم“ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی

لغزشیں ہیں اور ”وما تاخر“ سے مراد اپنی امت کے گناہ ہیں۔

محمد نے انساں کا چہرہ نکھارا محمد نے دونوں جہاں کو سنوارا

محمد کا دربار سب سے نرالا دو عالم کو جیتا جو اس در پہ ہارا

وہ دریائے رحمت کہ ہے بیکرانہ وہ بحر سخاوت کہ ہے بے کنارہ

اسی نور سے ہیں مہ و مہر روشن جو ان کی جبیں سے ہوا آشکارا

حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

الذین يتبعون الرسول النبي الامي . اللہ تعالیٰ نے اپنے لاریب کلام پاک میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی کے

لقب سے پکارا۔

پھر منزل کہا: یا ایہا الزمیل:

پھر مدثر کہا: یا ایہا المدثر

عبد کہا: ایس اللہ بکاف عبده . تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده . سبحان الذی اسرى بعبده .

نذیر و مبین کہا: قل انی انا النذیر المبین۔

احمد کہا: من بعدی اسمہ احمد

محمد کہا: محمد رسول اللہ

رحمت کہا: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔

مصطفیٰ کہا: اللہ یصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس

رؤف کہا، رحیم کہا: بالمومنین رؤف رحیم۔

صدق کہا: والذي جاء بالصدق. وكذب بالصدق اذ جاءه۔

نبی کہا: يا ايها النبي۔

رسول کہا: يا ايها الرسول۔

کریم کہا: انه لقول رسول كريم

نور کہا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔

نعمت کہا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها۔

عبداللہ کہا: وانه لما قام عبداللہ۔

شاہد، مبشر اور نذیر کہا۔ داعی، سراج منیر کہا۔ طہ اور یسین کہا۔ مذکر کہا۔ فذکر انما انت مذکر۔

علامہ ابن تیمیہ نے آیت ”لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا“ (رسول کے پکارنے کو آپس میں

ایسا نہ ٹھہرا جو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ النور: ۶۳) کے تحت لکھا ہے:

”اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یا محمد، یا احمد، یا ابا القاسم پکارنے سے منع فرمایا اور خطاب میں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ

کہنے کی تلقین کی اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے القابات سے یاد فرمایا جن سے

کسی اور پیغمبر کو خطاب نہیں کیا۔ قرآن حکیم میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ یا ایہا النبی،

یا ایہا الرسول یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمحل کہہ کر خطاب کیا۔“

(الصارم السلول علی شاتم الرسول ص ۳۸۸، علامہ ابن تیمیہ)

حالانکہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کو اس کے ذاتی نام سے یاد کیا۔ فرمایا:

یا ادم، یا نوح، یا ابراہیم، یا لوط، یا شعیب، یا ہود، یا صالح، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا

یحییٰ۔

غرضیکہ ہر نبی کا نام لیا مگر جب اپنے حبیب مکرم کو خطاب فرمایا تو صفاتی ناموں سے یاد فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عالم ارواح میں انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا۔

واذاخذ الله ميثاق النبيين الخ

”اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ میں کتاب اور حکمت سے دوں..... (ال عمران)

لحمہ لحمہ گونج اٹھی اس سے فضائے چار سو اسم احمد مجتبیٰ جب ہر ازاں میں آ گیا

وہ رسول آخر واعظم ہے نبیوں کا امام چھوڑ کر جو لامکاں اس خاکداں میں آ گیا

اس پہ ہو گا رحمت عالم کا بھی لطف و کرم جو خدائے پاک کے حفظ و اماں میں آ گیا

اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے

اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا صحابہ رضی اللہ عنہم کا پسندیدہ عمل تھا۔ وہ جب بھی بولتے تو واللہ اعلم ورسولہ (یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں) کہتے لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی منع نہ فرمایا کہ جو لفظ اللہ کے لئے بولتے ہو وہ میرے لئے نہ بولا کرو جب یہ کہہ دیا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ اس کا رسول بھی زیادہ جانتا ہے؟ جس طرح آج کل کہا جاتا ہے جب اللہ مدد کرتا ہے تو رسول سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہر حال یہودیوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا پسند نہیں آیا اور جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ شرک تصور کیا وہ بد بخت یہودی ہی تھے۔ ان یہودیوں کے اعتراض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا اظہار فرماتے ہوئے تھوڑی سی الفاظ میں تبدیلی فرمائی حالاں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم پر کوئی اعتراض نہ تھا لیکن بد بخت یہودیوں کو شرک محسوس ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ پوری کائنات کے لئے رحمت ہیں اس لئے ان بد بختوں کے اعتراض کو مان لیا۔ چنانچہ امام ابن سعد نے حضرت قتیلہ بنت صفی سے نقل کیا ہے کہ

”ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی: اے محمد! تم بہت اچھی قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟“

اس یہودی نے کہا:

”تم میں سے کوئی کہتا ہے:

لاوالکعبۃ (یعنی کعبہ کی قسم!)“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو قسم اٹھائے تو رب الکعبہ کی قسم اٹھائے۔“

پھر یہودی نے کہا:

”اے محمد! تم بہت اچھی قوم ہوتے اگر تم اللہ کے شریک نہ بناتے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وہ کیسے؟“

اس یہودی نے کہا:

”تم میں سے کوئی کہتا ہے:

ماشاء اللہ و شہمت۔ (یعنی جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں)“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جو تم میں سے ایسا کہے تو یوں کہے:

ما شاء اللہ ثم شئت۔ (یعنی جو اللہ چاہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں)۔“

جو کہ صدیوں سے خزاں کی یورشوں کا تھا شکار بن کے وہ جان بہاراں گلستاں میں آ گیا
آپ آئے تو گئی ویرانوں کی قسمت سنور ایک ریلیدی بہاروں کا خزاں میں آ گیا

تیرے تو وصف عیب تنہا ہی سے ہیں بری

قرآنی سورتوں کے ناموں حوالے سے عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں۔

”وجود کی ”فاتحہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور ذریعہ سے ہوئی۔ ”آل عمران“ کی ”بقرة“ نے آپ کے گھاٹ سے پانی پیا اور ان کی عورتوں ”النساء“ نے اپنے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے شہود کا ”مائدہ“ (دستر خوان) بچھایا اور ”انفال“ والوں نے ”اعراف“ کے ”انعام“ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کیا اور ”توبہ“ سے ”یونس“، ”ہود“ اور ”یوسف“ نے اپنے اوپر پڑھنے والے بوجھل شدائد کے ”رعد“ سے نجات پائی اور ”ابراہیم“ نے ”حجر“ کی تعمیر میں آپ سے سعادت پائی۔ ”نحل“ کو آپ کے وسیلہ سے وحی حاصل ہوئی اور آپ کی عزت کے ”کہف“ میں رات کے وقت کمال نے ”حجر“ کے بغیر ”اسرا“ کیا۔ ”مریم“ کے حمل کی مشقتوں سے آسانی کے لئے آپ ہی جلوہ فرماتے اس لئے کہ ”انبیاء“ کا ”طہ“ اور ”مومنین“ کا ”حج“ آپ ہی ہیں۔ ”شعرا“ کا ملین کا ”نور“ اور ”عنکبوت“ نے آپ ہی کی غار پر جالاتا اور ”روم“ نے آپ کے بارے میں یقین کر لیا کہ آپ ہی حکمت کے ”لقمان“ اور ”احزاب“ کا ”سجدہ“ ہیں۔ دلوں نے آپ کی محبت کا ”سبا“ پیا۔ پس آپ دلوں کے ”فاطر“ ہو گئے۔ ملائکہ کی ”صافات“ کے آپ، ”یسین“ ہیں اور مبارک گروہ کی جماعت کے ”صاد“ ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور کی صفت ”غافر“ الذنب کے راز ہیں۔ جس سے امور کی ”تفصیل“ (فضیلت) ہوئی۔ اشراف کے درمیان ”شوری“ وہ نفس جو آپ سے ”عاشیہ“ ہے اس کے ”دخان“ کے ”زخرف“ میں ”احقاف“ ہیں۔ آپ ”محمد“ ہیں تجلیات عرفانیہ کے صاحب ”فتح“ اور ”حجرات“ ہیں۔ نفوسِ انسانیہ کے ”طور“ سے ”ذاریات“ کا ”قاف“ ہیں۔ افلاک کے ”نجم“ املاک کے ”قمر“ ہیں۔ اس ”رحمن“ کے نور سے مستمد ہیں جن کے واسطے سے ”مجادلہ“ میں ”حدید“ کا ”واقعہ“ ہے۔ ”جمعة“ میں ”منافقین“ کے ساتھ ”صف“ میں ”ممتحنہ“ کا ”حشر“ اور مقاتلہ کے ”تغابن“ میں ہیں اور آپ سے ہی ”ملک“ میں ”تحریم“ کی ”طلاق“ اور احسان کے ”الحاقہ“ کا ”نون“ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ”نوح“ اور ساکین ”جن“ کے مقامات ایمانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ”معارض“ ہیں۔ ”مزل“ ہیں۔ ”مدثر“ ہیں اور ”قیامہ“ کی زینت اور فخر ”انسان“ ہیں۔ اہل ”نبا“ اور عرفان کے اخلاق ”مرسلات“ کے مالک ہیں۔ بڑے بڑے اوصاف کے اس لئے ”نازعات“ ہیں جس نے ”تکویر“ اور ”انفطار“ سے ”عبس“ کیا۔ ”بروج“ کے ”انشقاق“ سے ”مطففین“ کے قاطع ہیں۔ داخل شدہ شہر میں ”فجر“ کے ”عاشیہ“ سے حضرت ”اعلیٰ“ کے ”طارق“ ہیں۔ ”شمس“ کی ضیا ”لیل و نھی“ کا نور ہیں۔ ”الم نشرح“ ان پر نازل کی گئی جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک رسالت کے لئے خوب کھول دیا۔ ”الین و علق“ بلکہ ہر مخلوق

کے لئے اپنی ”قدر“ سے افتخار ہیں۔ سرکش نفس کے ”ہمزہ“ کے ”عصر“ میں ”تکاثر“ کے ”قارعہ“ سے ”عادیات“ نے ”زلزلہ“ کیا۔ عام ”انفیل“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ”کوثر“ و ”سبیل“ کے ”ماعون“ سے ”قریش“ خوش ہوئے۔ ”ابولہب“ کے خلاف ”نصر“ کے ساتھ ”کافرین“ پر غالب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ”اخلاص“ کامل ہوا اور ”فلق“ واضح ہوا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الناس“ کو ہدایت دی حتیٰ کہ ہر شخص اپنے رب کے قریب ہو گیا۔“

(جوہر البخاری فضائل النبی المختار جلد سوم ص ۵۶۶، علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی)

وہ خیر البشر جس نے لاکھوں سروں سے ہزاروں خداؤں کا جادو اتارا
در مصطفیٰ پر ہو جس کی رسائی کہیں اور وہ کیوں پھرے مارا مارا
وہ ”مولائے کل جس کو اپنا بنا لیں نہ کیونکر درخشاں ہو اس کا ستارا
جسے الفت مصطفیٰ ہو میسر اسے جوہر اغیار بھی ہے گوارا
ادھر جان و دل اس شرف پر تصدق ادھر ایک چشم کرم کا اشارا

میں تو محمد ہوں: صلی اللہ علیہ وسلم

جب کافروں نے حضور علیہ السلام کو محمد کی بجائے مذمم کہہ کر توہین کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ”کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی بدزبانی اور لعن طعن کو مجھ سے کیسے پھیرا ہے وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور مذمم پہ لعن طعن کرتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

(اللمع فی اسباب الحدیث ص ۲۲۱، امام جلال الدین سیوطی، کنز العمال ص ۲۲۲، ج ۱۱، علامہ علاؤ الدین علی متقی، صحیح بخاری کتاب المناقب ص ۳۸۲)

امام محمد بن اسماعیل بخاری، مشکوٰۃ کتاب الفتن ص ۱۲۹ ج ۱۳ امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب)

☆ حضرت حسان نے کیا خوب فرمایا:

واحسن منك لم ترقط عینی واجمل منك لم تلدا النساء

خلقت مبرا من كل غیب كانك قد خلقت كما تشاء

☆ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں۔

لم ارقبله ولا بعده مثل .

(مسند زید ص ۲۳۹ حدیث ۸۲۵، امام زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین (الانوار فی شمائل النبی المختار ص ۱۳۶، امام حسین بن مسعود

(بغوی)

☆ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا

بیان کیا تو اس کے بعد میں نے حضور علیہ السلام کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے (تعجب سے) اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا تو آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبد اللہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور! آپ نے اس طرح بیان کیا تھا۔ فرمایا: مسئلہ یہی ہے لیکن

میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ (ابوداؤد شریف، امام سلیمان بن احمد، جستانی ص ۳۶۸ ج ۱)

☆ یہی ارشادِ صوم وصال کے موقع پر تھا۔ (ایضاً ص ۲۳۰ ج ۲)

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ”آپ کے نور سے سارا جہاں روشن ہو

گیا۔“ (البدایہ والنہایہ ص ۵۶ ج ۵، ابن کثیر)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں نے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی خوبصورت کو نہیں دیکھا یوں تھا جیسے

سورج چہرہ انور میں پھرتا ہو۔ (مشکوٰۃ کتاب الفتن)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے حسن کے جلوؤں کو دیکھ کر ابو کثیر البہذی کا یہ شعر پڑھنے لگیں۔

فاذا نظرت الی اسرۃ وجہہ برقت کبرق العارض المتہلل

جب میں نے اس رخ تاباں پہ نگاہ ڈالی تو یوں لگا کہ بادل کے ٹکڑے میں بجلی چمک رہی ہے۔

(حلیہ محمد عربی ص ۱۰۶، خطیب عمریات)

☆ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کی۔

ما ان رایت ولا سمعت بما اری فی الناس کلہم بمثل محمد

اوفی واعطی بحزبیل اذا جتدی ومتی تشاء یخبرک عما فی غد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل انسانوں میں نہ میں نے دیکھا اور نہ میں نے آج تک سنا۔ آپ بڑے با وفا ہیں بخشش پہ آئیں تو بہت کریم اگر تو چاہے تو آنے والے حالات کی تجھے خبر دیں۔

(اسد الغابہ ص ۱۰۰ ج ۳ حصہ ۸، عزالدین بن الاثیرابی الحسن علی بن محمد الجزری)

محمد کا ثانی جہاں میں نہیں زمیں میں نہیں آسماں میں نہیں

جہاں والوں کے بھی گماں میں نہیں محمد کا ثانی جہاں میں نہیں

عباراتنا شتی وحسنک واحد وکل الی ذلک الجمال یشیر

ہماری عبارتیں مختلف ہیں اور تیرا حسن ایک ہے۔ سب کا اشارہ اس جمال کی طرف ہے۔

حضرت کعب بن مالک نے عرض کی۔

وردناہ بنور اللہ یجلو دجی الظلماء عنا والغطاء

ہم اپنے ساتھ اللہ کا نور لے کر اس مقام پہ پہنچ گئے جو اندھیری رات کی تاریکی اور پردے کو ہم سے دور کرتا ہے۔

(سیرت النبی لابن ہشام ج ۱ ص ۹۱۰)

ہمارے آقا علیہ السلام کا دل ساری کائنات سے افضل (منہج سلف الصالحین ص ۵۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب

زمانوں سے افضل آپ ﷺ کی زندگی سب سے اعلیٰ، آپ ﷺ کی امت، ازواج، صحابہ، آل کی جب مثال نہیں تو کوئی آپ کی

مثال کہاں سے لائے۔

لو لم یکن فیہ ایات مبینة کانت بدیہتہ عن الخبر
اگر آپ کی صداقت پہ نشانیاں نہ بھی ہوتیں تو آپ کی شخصیت آپ کی صداقت کے لئے کافی تھی۔

(عہد نبوی میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۱)

ذات احمد ہے وہ بحر بے کراں جس کا ایک قطرہ ہے یہ کون و مکان

(کلیات امدادیہ، رسالہ غذائے روح ص ۱۵۷، حاجی امداد اللہ مہاجر کی علیہ الرحمۃ)

محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے

من نور رب العرش کون نورہ والناس فی خلق التراب سواء

”رب عرش کے نور سے بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا اور تمام لوگ مٹی کی پیدائش میں برابر ہیں۔“

خرث لہ شرفات کسری ہیة و لیوم مولدہ اضمحل بناء

”شاہ ایران کے محل کے کنگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے گر گئے اور آپ کی ولادت باسعادت کے دن عمارت کم زور ہو گئی۔“

وبہ توسل ادم فی ذنبہ وتشفعت بمقامہ حواء

”آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے سلسلے میں آپ ﷺ کا وسیلہ پیش کیا اور حضرت حوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سفارشی بنایا۔“

وبہ توسل نوح فی طوفانہ فاجیب حین طفی علیہ الماء

”سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے دور کے طوفان میں آپ کا وسیلہ پکڑا اور جب پانی نے سرکشی دکھائی تو توسل قبول کیا گیا۔“

وبہ دعا ادريس فارتفعت له عند الاجابة رتبة علياء

”اور سیدنا ادريس علیہ السلام نے آپ کے وسیلہ سے دعا مانگی، وہ مقبول ہوئی تو آپ کا بلند مرتبہ مزید بلند ہو گیا۔“

وبہ استجیب دعاء ایوب وقد اودی بہ عند المصاب بلاء

”اور آپ ہی کے وسیلے سے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی جب کہ آزمائش نے مصیبت کے وقت انہیں موت کے کنارے پہنچا دیا تھا۔“

وبہ نجا من بطن حوت یونس لما دعا وتجلت الظلماء

”اور آپ ہی کے وسیلے سے سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی جب انہوں نے دعا کی اور اندھیرا چھٹ گیا۔“

و ارتد یعقوب بصیر اذدعا بالمصطفیٰ فعلیہ عاد ضیاء

جب حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔

(مصباح النظار فی المستقیمین بخیر الامام ص ۶۳، ۶۵، امام محمد بن موسیٰ مراکشی۔ قصیدہ ابوالحسن علی بن ہارون بن علی)

محمد ہمارے بڑی شان والے

علامہ کمال الدین دمیری شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

لم یخلق الرحمن مثل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ابدا و علمی انہ لا یخلق

”نہیں پیدا کیا اللہ نے مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ پیدا کرے گا۔“

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی کہ کبھی لفظ نہ نہیں کہا۔ (مشکوٰۃ ص ۱۳۶ جلد ۳ کتاب القنن: امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اپنا خیال نہیں کرتے۔

(مشکوٰۃ ص ۱۳۷ جلد ۳ کتاب القنن: امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی بارگاہ میں ہر خاص و عام کی سنی جاتی ہے۔

(مشکوٰۃ ص ۱۳۷ جلد ۳ کتاب القنن: امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب)

ارے! محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا تحفہ اور رحمت ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۱۳۵ جلد ۳ کتاب القنن: امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب)

سرخرو ہو گا سر میدان وہ دنیا میں جو بارگاہِ سرور کون و مکاں میں آ گیا

ہے وہی حلقہِ بگوشِ مصطفیٰ صل علی چھوڑ کر سب کو جو ان کے آستاں میں آ گیا

اذن طیبہ میں سکونت کا جسے نیر ملا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دارالاماں میں آ گیا

الفضل ما شہدت بہ الاعداء

خوبی وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں ”جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے؟“ سکھوں

کے پیشوا بابا گرو نائک نے کئی مقامات پر حضور علیہ السلام کی تعریف کی ہے ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔

میم محمد من تون من کتاباں چار

من خدائے رسول نون سچا ای دربار

”میم محمد اور چاروں کتابوں کو حق مان! مان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچے ہیں۔“

(مذہب عالم کا تقابلی مطالعہ ص ۲۲۰، پروفیسر چودھری غلام رسول چیرہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق لکھتے ہیں:

عملاں والے ت دن ہو سن بے پروا

سٹی چھٹے نائکا حضرت جناں پنا

یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جن کے اعمال اچھے اور نیک ہوں گے بے فکر ہوں گے۔ ناکم کہتا ہے: وہی لوگ نجات پائیں گے جن کی پشت پناہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔“

(مذہب عالم کا تقابلی مطالعہ ص ۲۲۱، پروفیسر چودھری غلام رسول چیمہ)

اسی طرح ہندو کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف القاب مذکور ہیں جن میں سے چند ذیل میں بیان کئے گئے ہیں:

۱۔ سروا: جس کی کثرت سے تعریف و ثناء کی جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ اگنے ویشوانر: اس کا مطلب ہے اہل دنیا کے لئے رحمت یعنی رحمۃ للعالمین

۳۔ اتم اوتار: ”اتم“ کے معنی آخری اور اوتار کے معنی نبی و رسول کے ہیں یعنی آخری نبی و رسول خاتم النبیین۔

۴۔ جگت پتی: جگت کے معنی دنیا اور پتی مطلب سردار اور سربراہ یعنی سید عالم اور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔

۵۔ ورت دھاری: ورت کا معنی ہے دنیا اور دھاری کا مطلب رکھوالا یعنی دنیا کار کھوالا سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔

(محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں ص ۱۳۲ تا ۱۳۳: ابن اکبر الاعمش)

ممكن نہیں کہ اس پہ گمان زندگی کا ہو وہ دل کہ جس میں حب حبیب خدا نہیں

نیر دوام زندگی ہے قریب آنحضور جو آپ کا ہے اس کا مقدر فنا نہیں

عیسائیوں کو دعوتِ انصاف

آج عیسائی بڑھ چڑھ کر ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ذرا انجیل پر نظر کریں تو انہیں معلوم ہو کہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ

”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ (یعنی خدا) سے درخواست کروں گا تو وہ

تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یعنی روحِ حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیوں کہ نہ اسے

دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔“ (یوحنا کی انجیل: باب ۱۴، آیت ۱۷ تا ۱۷)

”میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ کر تم سے کہیں۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ (یعنی خدا) میرے نام

سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔“

(یوحنا کی انجیل: باب ۱۴، آیت ۲۵ تا ۲۶)

عیسائی کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیات میں روح القدس اور مددگار سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اگر روح القدس سے

مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو میں کی ضمیر استعمال فرماتے اس کی بجائے ”وہ“ فرمایا اپنے معافی کے اعتبار سے کمالات

نبوت پر دلیل ہے اور مدلول ہے۔“ (رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوم ص ۱۵۳ تا ۱۵۴، قاضی سلیمان منصور پوری)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اس لئے کہتے ہیں کیوں کہ ان کی تعریف ممکن نہیں کیوں کہ اسم محمد حمد سے بنا اور حمد کہتے ہیں: اللہ کی

تعریف کو۔ اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی اور حمد سے ہی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے تو جب حمد بیان نہیں ہو سکتی تو محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کیسے بیان ہوں۔ نہیں سمجھ آئی! ارے اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلے حمد کا سمندر تو پار کر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا یعنی ناممکن ہے کیوں کہ یہ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کا ذکر کائنات کے احاطہ سے باہر ہے، پوری کائنات بھی مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتی کیوں کہ یہ محمد ہیں وہ اللہ۔ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات بیان والفاظ سے بالاتر ذات ہے۔ اسی لئے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا سکھادی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا: اگر تم میرے لاثانی شہکار بے مثل و مثال محبوب کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو بس صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی تعریف بتادی کہ ہر لمحہ الحمد لله رب العالمین کہو!

بن ذات مصطفیٰ ہمیں ملتا نہیں خدا	بے واسطہ قبول ہماری دعا نہیں
گور غریباں کی طرح ویران ہے وہ دل	جس میں فروزاں حب نبی کا دیا نہیں
مل جائے کاش ذرہ عشق نبی مجھے	اس کے سوا تو اور کوئی مدعا نہیں
پڑھنا جناب مصطفیٰ پر روز و شب درود	کوئی وظیفہ دوسرا اس سے بڑا نہیں



نبی کریم ﷺ غیر مسلم مفکرین کی نظر میں

الفضل ما شهدت به الاعداء (بے شک بزرگی اور فضیلت وہی ہے جس پر دشمن بھی گواہی دیں) مشرق و مغرب کے بڑے بڑے محقق، اصحاب فراست و لیاقت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں میں سب سے اونچا اور بلند ہے اور غیر مسلم محققین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، دیانت، امانت داری، غریبوں پر رحم و کرم، مساوات بین الاقوام اور انسانی صفات کا مکمل نمونہ آپ کو مان لیا ہے۔ لہذا مفکرین نے اپنی تحریروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اعتراف حقیقت کیا ہے انہی کے الفاظ میں پیش خدمت ہے، البتہ عطر بیز الفاظ سے جو خوشبو پیدا ہوتی ہے ان کے مطابق عنوانات قائم کئے ہیں۔

1- سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر (ﷺ):

تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ (مقالہ نگار انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا)

2- شعاع نور، مظہر اتم، مینار ہدایت (ﷺ):

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمال کبریائی کی وہ شعاع رنگ و نور ہیں جو ایک پیکر انسانی میں جلوہ گر ہو کر ظلمت کدہ جہاں کو رشکِ صد جہاں بنانے آئی تھی..... اور بنا گئی۔

انسانیت کا وہ مظہر اتم جس کی انسانیت کے سامنے فرشتوں کی گردنیں جھک گئیں وہ نادر روزگار ہستی جس کے مافوق الفطرت کمالات کو سمجھنے سے عقل انسانی باوجود اپنی بلند پروازیوں کے یکسر قاصر رہے گی۔

وہ جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اسوۂ حسنہ کائنات کے لئے ہر شعبہ عمل میں تقلید کا ایک بہترین اور افضل ترین نمونہ بن گیا۔ وہ مینار رشد و ہدایت، وہ سراج صداقت و حقانیت جس کی ضیا باریاں ہر زمانہ میں گم گشتگانِ بادیہ ضلالت کے لئے صراطِ مستقیم کا پیام ثابت ہوئیں..... اور ہوتی رہیں گی، (حکیم پنڈت کرشن کنورت شرما)

3- پیکر شرافت (ﷺ):

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو ایک شریف عرب کا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر و غریب کی یکساں عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرد و پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ (مغربی فاضل مارکس ڈاڈ)

4- مصلحِ اعظم (ﷺ):

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے ہر وقت ملنے کے لئے تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی و سیرِ چشمی غیر محدود تھی، اصلاحِ قوم کی فکر میں ہمہ وقت مصروف و منہمک رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے لئے بہترین مثال پیش کی، مزاج میں تمکنت و نخوت نام کو بھی نہ تھی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعظیم و تکریم کے رسمی آداب سے بھی منع فرمادیتے تھے۔“ (ڈاکٹر گلویو ڈیا)

5- دنیا کے بہترین استاد (ﷺ):

”پیشوائے دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کو بے شمار قیمتی سبق پڑھاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حیثیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو دنیا کے لئے ایک بہترین سبق ہے بشرطیکہ کوئی دیکھنے والی آنکھ سوچنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل رکھتا ہو۔“ (از بحر نبوت: مصنفہ مہاتما ستیہ دہاری)

6- قابلِ عزت ہستی:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک ایسا طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے۔ لیکن اس میں جگہ پانا قابلِ عزت ہے۔“ (از محمد صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱ مصنفہ پروفیسر مارگیولیس)

7- سب سے سچی زندگی:

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام مصنفوں اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس کی سوانح حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے زیادہ مفصل اور سچی ہو۔ (از اپالوجی فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی قرآن مصنفہ جان ڈیون پورٹ)

8- حضرت عیسیٰ سے افضل (ﷺ):

”باوجودیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں کچھ مشابہت پائی جاتی ہے لیکن بہت سے امور بالکل مختلف ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بارہ حواری ناخواندہ بے سمجھ اور کم حیثیت لوگ تھے۔ برعکس اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سوائے غلام زید رضی اللہ عنہ اور حبشی بلال رضی اللہ عنہ کے سب کے سب معزز طبقہ کے لوگ تھے اور بعض ان کے خاندان کے بزرگ بھی تھے جنہوں نے بحیثیت خلیفہ اور سپہ سالار اسلام کی وسیع سلطنت کا نظم و نسق بہترین طریقہ سے انجام دیا۔“ (سنزکا ذفری ہیکنس)

9- معلمِ خلقِ خدا (ﷺ):

میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بغور پڑھا ہے جو انہوں نے خلقِ خدا کی خدمت اور اصلاح کے لئے دی۔ میری رائے ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام کی ہدایتوں پر عمل کرے تو وہ بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں موجودہ زمانہ میں

سوسائٹی کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیم کو رائج کیا جائے۔ (جرمنی کا مشہور پروفیسر ہوگ)
عظیم الشان مصلح (ﷺ):

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عظیم الشان مصلحین میں سے ہیں جنہوں نے اتحادِ امم کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ ان کے فخر کے لئے یہ بالکل کافی ہے کہ انہوں نے وحشی انسانوں کو نورِ حق کی جانب ہدایت کی اور ان کو ایک اتحادی و صلح پسندی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا بنا دیا۔ اور ان کے لئے ترقی و تہذیب کے راستے کھول دیئے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کام صرف ایک فردِ واحد کی ذات سے ظہور پذیر ہوا“۔ (روسی فلاسفر کاؤنٹ ٹالسٹائی)

11- اعلیٰ اخلاق کے پاکیزہ معلم (ﷺ):

میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کا عادی ہوں میں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی ہے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ سب کے لئے مفید باتیں اور ہدایتیں ہیں۔ (مہاتما گاندھی)

12- جلیل القدر پیشوا (ﷺ):

اسلام دیگر مذاہب میں اس لئے ممتاز ہے کہ اسلام کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیشوا کے حالات زندگی میں ابہام یا اسرار کا کوئی ایسا عنصر ملا ہوا نہیں پایا جاتا جو دوسرے کے بڑے بڑے ہادیان مذہب کے گرد حلقہ زن نظر آتا ہے۔ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سادگی، شجاعت اور طاقت کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے ان بڑے انسانوں کی زندگیوں کی یاد دلاتے ہیں جو اپنے نام تاریخ کے اوراق چھوڑ گئے ہیں۔ (ہوم رول لیگ کی بانی سزائی بیسنٹ)

13- عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام کے بانی (ﷺ):

جب ہم اس زمانہ پر غور کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا علم بلند کیا اور جس میں ایک ایسا کامل مجموعہ قوانین تیار کیا گیا ہے جو دنیا کی ملکی مذہبی اور تمدنی ہدایتوں کے لئے کافی ہے تو وہ نہایت حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام جس کی بنیاد کامل اور سچی آزادی پر ہے کس طرح قائم کیا گیا ہے؟ پس ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مجموعہ قوانین ہے جو ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ (موسیو او جیل کلوفل)

14- تاجدارِ شرف و فضیلت (ﷺ):

اصول شرع اسلام سے ہر ایک اصل کو دیکھتے تو فی نفسہ ایسی عمدہ اور موثر ہے کہ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضیلت کے لئے قیامت تک کافی ہے۔ اسلام نے اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا نظام سیاست قائم کر دیا ہے جس کی قوت اور متانت کے سامنے تمام سیاسی نظام ہیچ ہیں۔ (مشہور مؤرخ ارکھاٹ)

15- انسانی معیارِ اخلاق کو بلند کرنے والے (ﷺ):

ایک معمولی عقل و سمجھ کا مسلمان بھی جہاں جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ ہوتی ہے جو دوسروں پر ضرور اثر کرتی ہے۔ صبح، دوپہر اور شام کو اسلام کے حکم کا نعرہ (اذان) بلند ہوتا ہے اور سر جو پہلے پتھروں اور حیوانوں کے آگے جھکا کرتے تھے اب خدائے واحد کے آگے جھکتے ہیں وہ ہونٹ جو پہلے خوشی کے ساتھ اپنے ہم جنس بھائی کے گوشت پر ہلتے تھے اب اس قادر مطلق کی عبادت پر ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام نے بنی نوع انسان کے معیارِ اخلاق کو بے حد بلند کر دیا ہے۔

(ازدین اسلام مصنفہ جوزف طاسن)

16- موجودہ مصائب کے نجات دہندہ (ﷺ):

موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کی واحد صورت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے ڈکٹیٹر (رہنما) بنیں۔

(جارج برنارڈشا)

17- خدا کے سچے نبی (ﷺ):

اگر سچے رسول میں ان علامتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ ایثار نفس اور اخلاص نیت کی جیتی جاگتی تصویر ہو اور اپنے نصب العین میں یہاں تک محو ہو کر طرح طرح کی سختیاں جھیلے، انواع و اقسام کی صعوبتیں برداشت کرے۔ لیکن اپنے مقصد کی تکمیل سے باز نہ آئے۔ ابنائے جنس کی غلطیوں کو فوراً معلوم کر لے اور ان کی اصلاح کے لئے اعلیٰ درجہ کی دانشمند تدابیر سوچے اور ان تدابیر کو قوت سے فعل میں لائے تو میں نہایت عاجزی سے اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔ (ڈاکٹر جے ڈبلیو لیٹر)

18- پیکرِ استقلال (ﷺ):

حقیقی اور سچے ارداوں کے بغیر یقیناً کوئی اور چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گاتا تا استقلال کے ساتھ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور ہوا آگے نہیں بڑھا سکتی ایسا استقلال جس میں پہلی وحی کے نزول کے وقت سے لے کر آخر تک نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متذبذب ہوئے اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سچائی کے اظہار سے ڈگمگائے۔ (پروفیسر فری مین)

19- روشن چراغ اور صاحبِ خلقِ عظیم (ﷺ):

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ تھے۔ رحمۃ للعالمین اور صاحبِ خلقِ عظیم تھے کہ ان کے اوصاف سے آخر ان کی کوشش بار آور اور سعی مشکور ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ و فضائل حسنہ، خلقِ عظیم، شرافت و نجابت بلکہ منصب رسالت کا انکار بھی محال ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ وہ ایک عظیم الشان ذی قدر اور بلند مرتبہ انسان تھے، مرسل تھے، مامور من اللہ تھے اور ان میں وہ الہی روشنی اور حقیقی نور پر تو قفلن تھا جو دنیا میں آ کر ہر شخص کو منور کرتا ہے اور کچھ ہمیں پر موقوف نہیں بلکہ بیشتر غیر مسلم مصنفین باوجود مخالفت و دشمنی کے آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعضوں نے صاف الفاظ میں ان کا مومن اللہ اور رسول اللہ ہونا تسلیم کیا۔ (از قرآن السعیدین ص 58 و ص 84 مصنفہ سخی عالم بحوالہ حقانیت اسلام)

20- معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی (ﷺ):

نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں۔ جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے تمام کرہ ارض پر پھیلنا تھا اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے اور کسی قانون کو رائج نہیں ہونا تھا۔ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔ (ریمنڈ لیروگ)

21- تعلیماتِ جمہوریت کا سرچشمہ (ﷺ):

عرب۔ جہاں ایک خدا نے اونٹ والے صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا جس نے وہ تعلیمات دیں جو جمہوریت کا سرچشمہ کہی جا سکتی ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ صحیح طور پر کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صحیح مساوات اور اخوت کے ایک رشتہ میں جکڑ دیا اور وہ واقعی طور پر بہترین تعلیمات تھی۔ (بلبل ہندسروجنی نائینڈو سابق صدر کانگریس)

22- جلال اور بزرگی کے مستحکم ستون (ﷺ):

جس طرح دنیا میں اور بزرگ اپنے جلال اور بزرگی کا ایک مستحکم ستون قائم کر گئے ہیں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فضیلت کا ایسا جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لئے ان کی یادگار رہے گا۔ یعنی یہی اسلام کا جھنڈا جس کے نیچے اس وقت پچاس کروڑ کے قریب دنیا کے آدمی پناہ گزیں ہیں اور ان کے نام پر جان دینے کے لئے مستعد کھڑے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت کا بڑا عالی شان نشان ہے۔ (برہم سراج کے لیڈر شرح شردھے پرکاش دیوجی)

23- رحمت عالم من الرحمن (ﷺ):

اے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عرب دیش کے برگزیدہ یوگی صلی اللہ علیہ وسلم (عابد) قربان جاؤں میں تیرے قدموں پر اگر نہ ہوتا تیرا وجود تو کس طرح سے رحمت کا نزول ہوتا قبائل عرب پر حقیقت میں تو تھا ایک رحمت من الرحمن سارے جہاں کے واسطے اے امی نادار و امین شاندار صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے صدقے ہو جاؤں تیرے پیٹھے اور پیارے نام پر آتا ہے جب تیرا نام میری زبان پر تو شہد کی مٹھاس سے بڑھ کر حلاوت پیدا ہوتی ہے میرے انگ انگ پر۔

دے درشن تو کم از کم ایک دفعہ اس ہند کے دیش میں تاکہ مٹ جاویں غلطیاں ساری کہ جن پر پڑی ہے امت تیری۔

(پروفیسر جیتن دت۔ بی۔ اے)

24- ہادیانِ مذاہب کے سر تاج (ﷺ):

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے جیسے ناچیز اور بچہ دانا کا گزارش کرنا یا عرض کرنا سراسر گستاخی بے ادبی چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں کے ولی پیروں کے پیر آسمان نبوت کے سورج ہادیانِ مذاہب کے سر تاج اور

رہنمایانِ دین کے رہبر تھے۔ جس طرح آفتاب عالم تاب کو کسی چراغ یا لیمب کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کسی خاکِ انسان کی مدح سرائی ان کی عظمت کو بڑھا نہیں سکتی۔ دینی بزرگی اور دنیاوی عظمت ان کے حضور میں ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طاقت والے غیر معمولی انسان تھے اور نوعِ انسان کی اصلاح کے لئے خدا کے فرستادہ تھے۔ (لالہ بشن داس)

25- بہترین اوصاف کے حامل (ﷺ):

رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانحِ عمری بہترین اوصاف اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل عجز و انکسارِ نرمی اور رحم دلی، محبت و الفت سے لبریز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شانِ انسان کی شان سے زیادہ نہیں مجھے اللہ کا نوکر کہہ کر پکارو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جواب میں فرماتے ہیں مجھے لعنت بھیجنے کے لئے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (مثنیٰ آشرم راجپور سندھ کے پروفیسر ایل دسوانی)

26- خاکِ عرب کے ذرہ ذرہ کو ڈائنامیٹ بنانے والے (ﷺ):

کارلائل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکِ عرب کے ذرے ذرے کو ڈائنامیٹ بنا دیا، بلاشبہ اس سے دنیا بھر کی سلطنتوں، بادشاہتوں اور حکومتوں کی بنیادیں ہل گئیں اور تمدن و تہذیب اور اخلاق کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا سے پس افتادہ عربوں میں کیا روح پھونکی جس سے وہ اس قدر طاقت ور بن گئے۔ یہ روح ”وا بگر واکال پرکھ سب شکتی مان“ کی ہستی توحید میں ایمان اعتقاد تھا۔ (سردار امرنگھ مالک اخبار شمیر)

27- محسنِ انسانیت (ﷺ):

اسلام کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے صفحات پر نہایت صاف روشنی میں کھڑے ہیں حالانکہ ان کے مقابلہ میں مسیح علیہ السلام کی تاریخ دھندلی ہے اور بدھ کی ان سے زیادہ دھندلی ہے۔ انہوں نے بت پرستی اور دوسرے مکروہ مروجات کو باطل قرار دے کر خالص سامی وجدان کے ساتھ وحدانیت کا اعلان کیا۔ وہ اللہ کے سچے بندے اور اس کے فرمانبردار پیغام رساں تھے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے کہ کسی دوسرے انسان نے نہیں کیا۔ (مدراس کے ہندو فاضل مسٹر ونگلار تام)

28- وحدت کی لڑی میں پرونے والے مہاپرش (ﷺ):

”وحشی جنگجو عربوں کو وحدت کی لڑی میں پرونے اور ایک زبردست قوم کی صورت میں کھڑا کرنے کے لئے ایک مہاپرش (عظیم انسان) کا ظہور ہوا۔ اندھی تقلید کے کالے پردے پھاڑ کر اس نے تمام قوموں کے دلوں پر واحد خدا کی حکومت قائم کی۔ و انسانی لعل کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ (پنڈت شیو رائے)

29- پاکیزہ خاطر برہمچاری (ﷺ):

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں ہوا۔ یہاں تو آریہ سماجیوں کو ماننا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شائستہ

کے مطابق زندگی کا پہلا حصہ مجردہ کر گزارا۔ وہ برہمچاری تھے اور ان کا حق تھا کہ شادی کریں۔ معیارِ خانہ داری کے پچیس برس وہ ایک ہی بیوی (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا) پر قانع رہے اور وہ بھی دو خاوندوں کی بیوہ جو نکاح کے وقت چالیس برس کی اور انتقال کے وقت پچیسٹھ برس کی تھی۔ اس بڑھیا سے اس جوان کی نبھ گئی۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خاطر پر دلالت کرتی ہے۔
(رسوائے عالمِ راجپال)

30- رہبرانِ بنی نوع انسان میں ممتاز (ﷺ):

مجھے یہ کہنے میں ذرا تامل نہیں کہ میرے دل میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہایت عزت ہے میری رائے میں ہادیانِ دین و رہبرانِ بنی نوع انسان میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ (مشہور مؤرخ لالہ لاجپت رائے)

31- عظیم شخصیت اور جسمہ استقلال (ﷺ):

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ بڑی شخصیت ہیں کہ جس پر دنیا کی طاقت رعب اور ہمت جس قدر فخر کرے تھوڑا ہے۔ وہ ایسے انسان تھے جن کو استقلال کا پتلا کہا جائے تو مناسب ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعویٰ نبوت تو کئی آدمیوں نے کیا مگر اس میں کامیابی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حاصل ہوئی۔ آج ان کے ہم عصر دعویٰ دارانِ رسالت کا کوئی نام لیوا بھی نہیں مگر ان کے نام پر کٹ مرنے والے لوگوں کی تعداد کروڑ ہا اور جب تک دنیا قائم ہے ان کا نام بھی قائم رہے گا۔

(متعصب اخبار گرو گھنٹال کے ایڈیٹر لالہ شام لال کپور)

32- یتیموں کے مربی (ﷺ):

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتامی کی بد حالت کو درست کرنے کی طرف جو توجہ کی اور ان کی بہتری کا جو فکر رکھا وہ قابل تعریف ہے۔ یتیموں کو ستانے والوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ملامت سے کام لینا ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برائی کی اصلاح کی سخت تڑپ رکھتے تھے۔ (مشہور مسیحی فاضل ویری)

33- عورتوں کے محسن (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی ایسی حفاظت کی کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کی تھی اس کی قانونی ہستی قائم ہوئی جس کی بدولت وہ مال و وراثت میں حصہ کی حقدار ہوئی۔ وہ خود اقرار نامے کرنے کے قابل ہے اور برقعہ پوش مسلمان خاتون کو ہر ایک شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہوئے جو آج بیسویں صدی میں اعلیٰ تعلیم آزاد عیسائی عورت کو حاصل نہیں ہیں۔ (مسٹر پینر کرہٹس)

34- خداداد عطیہ اور اس کا نور (ﷺ):

کیا کبھی آپ نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا؟ ہم اندھے ہیں اور ہمارا یہ تصور سراسر غلط ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جو صرف جہادِ کافر، انتقام اور موت کے موضوع پر تقریریں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایک بچے کی طرح نازک اور کھلنڈر اور ایک ماں کی طرح خطا معاف کر دینے والا تھا۔ فی الحقیقت یہ

ایک خداداد عطیہ تھے۔

ذرا خیال کیجئے کہ قرآن شریف کی 114 سورتوں میں سے 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیثیتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور تھے اللہ کے رسول تھے اور خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت شکنی کا پیغام دیکر بھیجا تھا۔ ایک لمحہ کے لئے قطع نظر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر نظر ڈالئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ احباب کے ساتھ گفتگو کرتے یا کسی خطر کار یا شکستہ دل کو تسلی دیتے ہوئے دکھائی ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک اہل دل لوگوں کے دلوں کا مالک ہے۔ (مسرے۔ کے کور)

35- خوش شکل، فہیم اور غرباء پرور (ﷺ):

”میں نیک اور فاضل، سپین ہمیس“ کی جرأت کی تحسین کے لئے بغیر نہیں رہ سکتا جس نے تسلیم کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر فطری قابلیتوں سے آراستہ تھے۔ شکل میں نہایت خوب صورت، فہیم اور دور رس عقل والے، پسندیدہ خوش اطوار، غرباء پرور، ہر ایک سے متواضع، دشمنوں کے مقابلہ میں صاحب استقلال و شجاعت، سب سے بڑھ کر یہ کہ خدائے تعالیٰ کے نام کا نہایت ادب و احترام کرنے والے تھے، جھوٹی قسم کھانے والوں، زانیوں، سفاکوں (خونیوں) جھوٹی تہمت لگانے والوں، فضول خرچی کرنے والوں، لالچیوں اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف نہایت سخت تھے۔

بردباری، صدقہ و خیرات، رحم و کرم، شکرگزاری، والدین اور بزرگوں کی تعظیم کی نہایت تاکید کرنے والے اور خدا کی حمد و تعریف میں نہایت کثرت سے مشغول رہنے والے تھے۔ (انگریزی ترجمہ قرآن، بعنوان ٹودی ریڈرس 7 مصنفہ جارج میل)

36- داغ دھبوں سے پاک نورانی چہرہ والے (ﷺ):

حقیقت بہر حال ہے اگر بغض و عناء کی پٹی آنکھوں پر سے اتار دی جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ تمام داغ دھبوں سے پاک و صاف نظر آئے گا جو بتلائے جاتے ہیں۔

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لئے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کائنات میں عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات اور عالم جمادات سب شامل ہیں۔ (سوامی برج نارائن جی سنیا سی بی۔ اے)

37- دنیائے ارضی کے لئے ابر رحمت والے (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم اور ذات کے لئے ہی نہیں بلکہ دنیائے ارضی کے لئے ابر رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدتوں مساعدت کا سلسلہ جاری رکھا اور سر توڑ کوششیں کیں کہ ذات پات کا تفرقہ مٹ جائے اور یہی سبب ہے کہ آج اسلام کے اندر ذات، نسل اور قوم کے امتیاز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، دشمنان احمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تعصب میں اندھے ہونے کے اس کے اقرار پر پابہ زنجیر ہیں کہ انہوں نے اپنے مشن کو پانیہ تکیل تک پہنچایا۔

تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں ہے کہ جس نے احکامِ خداوندی کو اس مستحسن طریقہ سے انجام دیا ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض کو بوجہِ احسن پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ (انگلستان کا مشہور نامہ نگار جس نے دلی سے لے کر غرناطہ تک کے آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہتا ہے)۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت میں نام و نمود اور ریا کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہم ان سب صفات کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہِ اخلاص پیش کرتے ہیں۔ (از ہیر و اینڈ ہیر و زشب ایز اے پرائٹ 'مصنفہ طاس کار لائل)

38- پیغمبر مساوات و اخوت (ﷺ):

دنیا میں پیغمبر مساوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تم پوچھتے ہو کیا ان کا مذہب اچھا ہے؟ اگر ان کا مذہب اچھا نہ ہوتا تو وہ پھر زندہ کیسے رہتا؟ صرف اچھے اور نیک انسان ہی کو حیاتِ دوام ملتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مساوات اور انسانی اخوت کے علمبردار تھے۔ (دی گریٹ نیچرز آف دی ورلڈ 'مصنفہ سوامی دی ویکانند)

39- روئے زمین کے عظیم انسان (ﷺ):

میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مشاہیر کے سوانحِ حیات کے پڑھنے میں صرف کیا ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے عظیم انسان ہیں کہ ان کے مقابلہ کا انسان روئے زمین کی تاریخ پر نظر نہیں آتا۔ مجھے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے دکھ محسوس ہوتا ہے کہ جب اور جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے احسانات اور اخلاقِ عظیمہ کا ذکر ہوتا ہے اور جب ہم دنیا کے ایک عظیم الشان رہبر کے حالات سنتے ہیں تو بعض ہندو بھائی کسی قدر تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ (از محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چتر 'مصنفہ مسٹر شانارام ایم اے پروفیسر اندرا کالج بمبئی)

40- بلند مرتبہ سیاسی مدبر (ﷺ):

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح دماغ رکھنے والے انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ نہایت شاندار تھا۔ (از میثاق ملی 'مصنفہ روسوبانی انقلاب فرانس)

41- اعلیٰ صفات کے مالک (ﷺ):

ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کسی رذیل حرکت کے مرتکب ہوئے ہوں البتہ نہایت اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ (مسٹر جان آرکس)

42- جمیعہ الاقوام کے بانی (ﷺ):

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جمیعہ الاقوام کی بنیاد ڈالی اس نے قوموں کے اتحاد اور انسانوں کی اخوت کو ایسی وسیع بنیادوں پر قائم کر دیا جس سے دوسری اقوام کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمیعہ الاقوام کے تخیل کی طرف جس طریق سے مسلمان اقوام نے پیش قدمی کی ہے اس سے بہتر مثال دوسری اقوام پیش نہیں کر سکتیں۔ (از دی مسلم ورلڈ آف نوڈے 'مصنفہ پروفیسر ہرگوئے)

43- صادق عظیم (ﷺ):

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہی بڑا ثبوت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹے مدعی نہ تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام میں بڑی خوبیاں اور با عظمت صفات موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس میں ظلم اور سفاکی کا خاتمہ کیا گیا۔ (از آؤٹ لائن آف ہسٹری، مصنفہ پروفیسر ایچ جی ویلز)

44- پاکیزہ فاتح (ﷺ):

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے اور اہل مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن اور خون کے پیاسے تھے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی فتح تھی اور پاکیزہ فاتحانہ داخلہ تھا جس کی مثال ساری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ (از مقدمہ پیغمبر اسلام پر تقریریں، مصنفہ شیٹلے لین پول)

45- محبوب ترین شخصیت (ﷺ):

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی دلاویز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم میں ایک ایسی حلاوت اور ایسی لطافت تھی جو دل کو موہ لیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عربوں سے زیادہ خوش شکل اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں ہمیشہ سچے اور انصاف پسند تھے۔ (از محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشین، مصنفہ واشنگٹن ارونگ)

46- بہت ہی بڑے کریکٹر کے مالک (ﷺ):

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرۃ اُمی اور سچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے علاوہ کچھ پسند نہ تھا، وہ نہ تو حریص تھے نہ منکر نہ متعصب اور نہ ہوائے نفس کے پیرو بلکہ نہایت بردبار، نرم دل اور بہت بڑے کریکٹر کے مالک تھے۔ عرب جو بد نظمی اور پراگندگی کے عادی تھے ان سب کو ایک دائرہ میں لا کر ایک سلسلہ میں منضبط کر دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ تھا۔

(از لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصنفہ مشہور فاضل مشرہذہ در محکم)

47- شیرین گفتار، محسن انسانیت (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی کریمانہ اور شریفانہ تھے، معاشرت بہت ہی اچھی تھی، گفتگو شیریں اور انتہائی نرم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الرائے اور بہت ہی سچے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی فطرت و جبلت ہر محقق اور پاکیزہ مقاصد والے کے لئے جاذب توجہ ہے اس لئے کہ اس کے اندر خلوص و سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے محسنین میں شمار کیا جائے۔ (ماہر السنہ، مشرقیہ پروفیسر ماؤنٹ)

48- فخر عالم (ﷺ):

اے شہر مکہ کے رہنے والے اور بزرگوں کی نسل سے (پیدا ہونے والے) اے آباؤ اجداد کے مجد و شرف کو زندہ کرنے والے!

اے سارے جہاں کو غلامی کی ذلت سے نجات دلانے والے! دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کر رہی ہے۔ اور خدا کی اس نعمت پر شکر کر رہی ہے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے اے وہ کہ جس نے عالم کے لئے اسلام کی نعمت بخشی! تمام لوگوں کے قلوب کو متحد کر دیا اور خلوص کو اپنا شعار بنایا۔ اے وہ کہ جس نے اپنے دین میں (انما الاعمال بالنیات) اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے کی تعلیم دی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی شکر یہ ادا کرتے ہیں اور بہت ہی مرہون منت ہیں۔“

(از لائف آف دی ہولی پرافٹ، مصنفہ ڈاکٹر ایسن سنرڈی رائیٹ)

49- پکے راست باز اور سچے ریفارمز (ﷺ):

اس میں شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پکے راست باز اور سچے ریفارمز تھے، اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو ہرگز اپنے مشن میں آخر تک مستقل اور ثابت قدم نہ رہ سکتے تھے۔ وہ ڈگمگا جاتے اور ان کو لغزش ہو جاتی۔ (سنن ابی یوسف)

50- جانوروں کے لئے بھی باعثِ رحمت:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درمندی کا دائرہ انسان ہی تک محدود نہ تھا بلکہ جانوروں پر بھی ظلم و ستم توڑنے کو سخت برا کہا ہے۔ (مشہور انگریز مصنف ڈی ایس ار گولیوٹھ)

51- اولوالعزم، خلیق اور معاملہ فہم (ﷺ):

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر ڈنظر ڈالنے کے بعد کوئی انصاف پسند شخص ان کی اولوالعزمی، اخلاقی جرأت، نہایت خلوص، نیت سادگی اور رحم و کرم کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر انہی صفات کے ساتھ استقلال عزم اور حق پسندی و معاملہ فہمی کی قابلیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سادگی، لطف و کرم اور اخلاق کو بلا خیال مرتبہ قائم رکھا۔ اس کے علاوہ شروع سے آخر تک وہ اپنے آپ کو ایک معمولی پیغمبر بتلاتے رہے حالانکہ وہ اس سے زیادہ کا دعویٰ کر کے اس میں بھی کامیاب ہو سکتے تھے۔ (لیفٹیننٹ کرنل سائیکس)

52- مقدس ذات اور سچے رسول (ﷺ):

میں نے اپنے تحقیقات میں کوئی ثبوت ایسا نہیں پایا جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت میں شبہ ہو سکے یا ان کی مقدس ذات پر مکروہ فریب کا الزام لگایا جاسکے۔ (سنرڈیل)

53- پر نور و حدانیت کی بشارت (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے جو دنیا کے جہاں کو دعوت حق دینے کے لئے مبعوث ہوئے اور نبی بھی ایسے کہ ہستی باری تعالیٰ کی پر نور و حدانیت کی ایک بشارت تھے۔ (اتھارٹی ان ریلیجز ص 17 مصنفہ جے ایچ لگی)

54- اوصافِ حسنہ کے مجسم (ﷺ):

پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصافِ حسنہ کے مجسم تھے، مسلمان فطرتاً روحانیت پسند واقع ہوئے ہیں انہیں تہذیب و

اخلاق سے خاص لگاؤ ہے۔ بخلاف ازیں ہندو مادی ترقی کو اپنا نصب العین سمجھتے تھے۔ ان کی تمام خصلتیں نمائش ہیں اور میری یہ پیش گوئی ہے کہ اگر ہندو سوسائٹی کا یہی طرز عمل رہا تو ہندو قوم دو صدیوں کے اندر صفحہ ہستی سے محو ہو جائے گی اور بنی نوع انسان کا بیشتر حصہ دین فطرت اسلام کا پیرو ہو جائے گا۔ میری دلی خواہش ہے کہ خداوند کریم میری پیش گوئی کو پورا کرے اور دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لاکر بنی نوع انسان کی تمام تکالیف دور کرے۔ (شری راج ویڈی پنڈت گراہر شرما رئیس اعظم الہ آباد)

55- گمراہوں کے بہترین ہادی (ﷺ):

پیشک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہوں کے لئے ایک بہترین راہ ہدایت قائم کی اور یقیناً آپ کی زندگی نہایت پاک صاف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بہت سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بالکل تمکنت نہ تھی۔ یہاں کہ وہ اپنے متبعین کو تعظیم و تکریم کے رسمی آداب سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کبھی وہ خدمت نہ لی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا کر خود ضرورت کی چیزیں خریدتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، خود بکریوں کا دودھ دوہتے اور ہر وقت ہر شخص سے ملنے کو تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور ہر شخص سے مہربانی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی، فیاضی اور رحم دلی محدود نہ تھی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی اصلاح کی فکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار تحائف آتے تھے لیکن بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند معمولی چیزیں چھوڑیں اور ان کو بھی مسلمانوں کا حق سمجھتے تھے۔ (ڈاکٹر جی ویل)

56- فصاحت و بلاغت میں یکتائے روزگار (ﷺ):

عالم الہیات، فصاحت و بلاغت میں یکتائے روزگار بانی مذہب، آئین ساز سپہ سالار فاتح اصول عبادت الہی میں لائٹانی دینی حکومت کے بانی۔ یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے پوری انسانیت ہیج ہے۔ (از ہسٹری لائٹکی 'معنفہ الفرید ڈی المرٹائن فرانسیسی ادیب)

57- سردار اعظم اور حیرت انگیز معلم (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل سردار اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا، ان کے آپس کے تنازعات و مناقشات ختم کئے۔ تھوڑی ہی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے نصف دنیا کو فتح کر لیا۔ 15 سال کے قلیل عرصہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش سے توبہ کر لی۔ مٹی کی بنی ہوئی دیویاں مٹی میں ملا دی گئیں۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ (فرانس کا عظیم ترین جرنیل۔ نیولین بونا پارٹ)

58- قوم، حکومت اور مذہب کے بانی (ﷺ):

دنیا کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک قوم، ایک حکومت اور ایک مذہب کے بانی ہوئے۔

(از محمد ابن محمد ن ازم۔ معنفہ ہا سورتھ سمعہ مشہور عیسائی راہب)

59- ایک عظیم شعلہ نور (ﷺ):

بس ایک شعلہ گرا، محض ایک شعلہ نور اور وہ بھی ایک ایسی سر زمین پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر انسانی آزادی پنپ نہیں سکتی لیکن اس زمین کی ریت بارود ثابت ہوئی۔ (نامعلوم)

60- مشیتِ الہی کے مبلغ (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد عبادت اور تہذیبِ نفس پر رکھی کل تعلیمات کا قدر مشترک یہی ہے کہ نفس کو مغلوب اور مہذب بنایا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے کل ارادوں کو خدائے قدوس کی مشیت پر چھوڑ دیں۔ (فرانس کا مشہور فلسفی فالیسٹر)

61- پامال ذروں کو درخشاں ستارے بنانے والے:

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و جہاد کی صدا بلند کی۔ عرب کے پامال ذروں کو ایک قلیل عرصہ میں درخشاں ستارے بنا کر تمدن و تہذیب اور سیاست کے فلک پر چمکادیا۔ اس حیرت انگیز انقلاب و ترقی کی شان کسی لیڈر، مصلح یا نبی کی زندگی میں تلاش کرنا بیکار اور بے سود ہے۔ (عبدالحسین)

62- سچے امین اور پاکباز (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امین تھے پاکباز اور غمگسار تھے۔ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں اور دشمنوں کے ہر اتہام سے بری اور کوسوں دور ہیں۔ رعوت اور تکبر کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نام تک نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود برگزیدہ نبی ہونے کے ہر وقت مغفرت کی دعا مانگتے اور اللہ سے ڈرتے اور ڈراتے رہتے۔ (کاؤنٹ ہنری)

63- عالم انسانیت کے استاذ (ﷺ):

عرب بت پرست تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا پرست بنا دیا۔ وہ لڑتے اور جھگڑتے اور جنگ و جدال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اعلیٰ سیاسی نظام کے ماتحت متفق کر دیا۔ وحشت و بربریت کا یہ عالم تھا کہ انسانیت شرماتی تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخلاقِ حسنہ اور بہترین تہذیب و تمدن کے وہ درس دیئے جس سے نہ صرف ان کو بلکہ تمام عالم کو انسان بنا دیا۔ (مسٹر گارس)

64- مردہ عربوں کو اشرف ترین بنانے والے (ﷺ):

عرب جو بالکل مردہ ہو چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نئے سرے سے تازہ روح پھونک کر ان کو اشرف ترین قوم بنا دیا جس کے ذریعے وہ بلند سے بلند مراتب پر جاگزیں ہو گئے۔ ایسے بلند کارنامے ان کے ہاتھوں ظاہر ہوئے جن کا دنیا کو اعتراف کرنا پڑا۔ ان تمام ترقیوں اور کامیابیوں کا سہرا تمام تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی کے سر ہے۔ (فرنیسکو ریزولڈ)

65- بہترین سیاسی قانون دان (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بہترین اور سیاسی قانون دنیا کے سامنے پیش کیا جو صدیوں سے مختلف قوموں اور اقطار عالم کے بسنے والوں کے قلوب پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزانہ کرشمہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے فاتحین اور معزز مذہبی پیشواؤں کو نیچا کر دکھایا۔ (ازلائف آف مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنف انگریز مورخ فینل)

66- بہت بڑے حکیم و موحد (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے حکیم تھے انہوں نے وحدانیت پر زور دیتے ہوئے انسانوں کو بت پرستی اور انسان پرستی سے اس علمی و عقلی قاعدہ کے ذریعہ سے نجات دلائی کہ دنیا اور دنیا کا ذرہ ذرہ ہلاک ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ (مشر صبیان)

67- ضعیف و محتاج کے لئے رحمت (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی زندگی کی تعریف ان معجزانہ الفاظ سے بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضعیف اور ہر محتاج کے لئے سب سے بڑی رحمت تھے۔ یتیموں، مسافروں، ضعیفوں، فقیروں، بے کسوں اور مہجوروں کے لئے واقعی اور حقیقی رحمت اور نعمت تھے عورت جو تمام عالم کے نزدیک ذلیل تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہین منت ہے۔ (پروفیسر لیک)

68- صراطِ مستقیم پر ڈالنے والے (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہم کو زائل اور تمام اصنام کی عبادتوں کو باطل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے اور بے مثال امین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر صراطِ مستقیم پر لا کر ڈال دیا۔ (مشر ہرٹ وائل)

69- صائب الرائے اور بے مثال مفکر (ﷺ):

نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے حامل، فکر بے مثال اور بہت ہی صائب الرائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو معجزانہ ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بزرگ اور مقدس ترین نبی تھے۔

(ازلائف آف مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنف مورخ آرویگ)

70- عقل میں یگانہ روزگار (ﷺ):

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو محض امی تھے مگر عقل و رائے میں یگانہ روزگار تھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے۔ لغویات کبھی زبان سے نہ نکالتے، مساکین کو دوست رکھتے، کبھی فقیر کو فقر کے سبب سے حقیر نہ جانتے۔ نہ کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہی کے سبب سے خوف کرتے تھے۔ (مشہور فرانسیسی مورخ، موسیو سیدو)

71- نہایت خوش طینت اور فیاض (ﷺ):

ہم جانتے ہیں کہ ابام باطلہ کی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پھیلانی۔ تعدد ازواج اور طلاق کو محدود

کردیا۔ غلاموں کے آزاد کئے جانے پر زور دیا اور خود اس کی مثال قائم کی اور مسلمانوں کی مساوات کو اصولِ اولین قرار دیا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش طینت، عادل فیاض اور بردبار تھے۔ (مسز گورہم)

72- بہادر، غیور اور حق پرست (ﷺ):

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی جنگیں لڑنا پڑیں، وہ سب دفاعی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین چیزیں تھیں۔ دین سے دست برداری، موت اور حق پرستی (نامعلوم)۔

73- ایشیا کے لئے قابلِ فخر (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ محسن تھے۔ ایشیا جبکہ اولاد پر فخر کرتا ہے تو اس وحید الدہرو اکبر الرجال شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر فخر کرنا واجب اور ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں شک کرنا گویا اس قدرت الہی میں شک کرنا ہے جو کہ تمام کائنات عالم پر مشتمل ہے۔ (از پرافٹ نمبر، مضمون نگار مسز جان)

74- تاریخ عالم کے انقلابی (ﷺ):

کولمبس نے جب نئی زمین دریافت کی اس سے ایک ہزار سال قبل مکہ میں ایک بچہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ عالم میں انقلاب برپا کرنے کے لئے چن لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول شخص ہیں جنہوں نے جزیرہ عرب کے تمام قبائل کو ایک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مناسب وقت میں تشریف لائے جب کہ عرب کو اجنبیوں کے ہاتھوں سے خلاصی کی سخت ضرورت تھی۔ آپ اپنی محنتوں و کوششوں میں بشارتوں و خوشخبریوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ (مسز ایل ٹامس امریکی)

75- قدر و منزلت کے لائق (ﷺ):

انسان جس قدر زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے مطلع ہوگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزشتہ اور موجودہ انسانوں کی عقیدت مندی کے اسباب کو بھی پورے طور پر محسوس کرے گا۔ لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وجہ الفت و محبت جان جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت سے بھی واقف ہو جائے گا۔ (مینوجان)

76- عظیم مذہبی قائد اور غیور جنرل (ﷺ):

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی لوگوں کے سب سے بڑے قائد تھے اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ مصلح تھے۔ فصیح اور بلیغ تھے اور بہت ہی غیور جنرل تھے۔ (ڈاکٹر سوسل روٹمر)

77- عظیم ترین عاقل و عادل (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ان عظیم ترین عقلوں سے تھی جن کا وجود دنیا میں عنقا کا حکم رکھتا ہے وہ معاملہ کی تہہ تک پہنچی ہی نظر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اپنے خاص معاملات میں نہایت ہی ایثار اور انصاف سے کام لیتے۔ دوست و دشمن، امیر و غریب، ضعیف ہر

ایک کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرتے۔“ (سرفلیڈ)

78- بت شکن نبی (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ بت پرستی کو بالکل غلط اور لغو جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو وحشیانہ مذہب اور پست اخلاق سے نجات دلائی۔ ممکن نہیں کہ ہم ان کے قلبی اخلاص اور دینی حمیت کا انکار کریں۔ (پریسل ایڈورڈ ساؤتھ)

79- سب سے اکمل اور افضل (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اور موجودہ لوگوں میں سب سے اکمل اور افضل تھے۔ اور آئندہ ان کا مثال پیدا ہونا محال اور قطعاً غیر ممکن ہے۔ (ڈاکٹر شیخ)

80- منتشر کو متحد کرنے والے (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منتشر و پراگندہ قبائل کو اتحاد و اتفاق کے رشتہ میں منسلک کر دیا ان کا اصول دین اور مقصد ایک تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت اور سلطنت کے بازو تمام اقطار عالم میں پھیلا دیئے اور اپنی تہذیب و تمدن کے جھنڈے کو اس وقت بلند کیا جبکہ یورپ جہالت کے عمیق غاروں میں غلطاں و پیچاں تھا۔ (سٹریڈ پول)

81- نور ہدایت (ﷺ):

جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کا انکار کیا۔ حقیقتاً وہ جاہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرمی اور سیرت پاک سے نا آشنا ہے جبکہ لوگ ضلالت کی تنگ و تاریک گھاٹیوں سے گزر رہے تھے۔ خالق و مخلوق کے تعلقات کو بالکل بھلا بیٹھے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ فطری و طبعی اصول و قوانین بنائے اور بجائے تثلیث کے لغو عقیدہ کے وحدانیت کے پاک عقیدہ کا اعلان فرمایا۔ یہی چیز اسلام کی اصل اصول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی کنجی۔“ (سٹریڈ پول)

82- طبیب حاذق اور اعلیٰ مقنن (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیب حاذق اعلیٰ مقنن اور عظیم جنرل تھے اور ان دعویٰ کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احادیث کی چھان بین کرنے والے پر مخفی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربع صدی سے بھی قلیل عرصہ میں دنیا کی تاریخ کو الٹ دیا۔ وحشی اور بالکل غیر مہذب قوم کو تہذیب و تمدن کے اوج فلک پر آفتاب بنا کر چمکا دیا۔ کیا اب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ خداوند کریم کے عطا کردہ نہیں تھے۔“ (مشہور مغربی مورخ مسٹریڈیلز)

83- جلیل القدر اور عظیم الشان رسول (ﷺ):

بلا کسی شک و شبہ کے کہا جاسکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور اللہ قادر مطلق کے رسول تھے اور نہ صرف رسول بلکہ جلیل القدر

اور عظیم الشان رسول تھے جنہوں نے ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ (مسٹر سلوزان)

84- ذلت و ہلاکت کے گڑھے سے نکالنے والے (ﷺ):

بعض لوگ عربیت کی ناواقفیت اور جہالت کی بناء پر قرآن کو پڑھ کر ہنتے ہیں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فصیح و بلیغ اور دل ہلا دینے والی زبان و عبارت سے لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کے درس دیتے ہوئے سنتے تو ان کی طرح یہ بھی سر بسجود ہو کر بے اختیار چیخ اٹھتے کہ اے اسلام کے سچے نبی ہم کو ذلت و ہلاکت کے گڑھے سے نکال کر عزت و نجات کی بلندیوں پر پہنچا دے۔ (جان-جیک روپو)

85- قبیلے اور وطنیت کے بت شکن (ﷺ):

اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو میرے خیالات ہیں ان خیالات کا حامل اگر مسلمان کہلا سکتا ہے تو میں بلاشبہ مسلمان ہوں اور مجھ کو اس پر فخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت شکنی پر زور دیا وہ بہت ضروری تھا کیونکہ بت پرستی ترقی کی راہ میں ایک سخت رکاوٹ تھی۔ لیکن ان کا مقصد پتھر اور لکڑی کے بتوں کو توڑنے سے زیادہ معنوی بت پرستی کا خاتمہ کرنا تھا جو انسان کو معطل بنا دیتی ہے۔ بت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں مثلاً قبیلہ کا بت، لیڈری کا بت، وطنیت کا بت وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بتوں کو توڑ دیا۔ (بی-این کالج پنڈہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر: از پروفیسر گیان چند)

86- پوپ اور قیصر سے طاقت ور (ﷺ):

مذہب اور حکومت کے رہنما اور گورنر کی حیثیت سے پوپ اور قیصر کی دو شخصیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وجود میں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوپ تھے۔ مگر پوپ کی ظاہر داریوں سے پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر تھے مگر قیصر کے جاہ و حشم سے بے نیاز۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس نے باقاعدہ فوج کے بغیر محل شاہی کے بغیر اور لگان کی وصولی کے بغیر صرف خدا کے نام پر دنیا میں امن و انتظام قائم رکھا تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو اس ساز و سامان کے بغیر ہی سب کی سب طاقتیں حاصل تھیں۔ (مشہور عیسائی مورخ رپورٹڈ باسور تھ سمٹھ)

87- انسانی ترقی کے رہنما (ﷺ):

میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام میں نہایت ہی مسرت سے اپنے مسلمان احباب کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ترقی کے لئے جس قدر کوششیں فرمائیں وہ بالکل غیر فانی ہیں۔ ان کوششوں کے باعث دنیا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندر ہے گی۔ (پروفیسر راجی رام مہر پنجاب کونسل)

88- متحدہ اقوام کے سردار (ﷺ):

پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے رائج کرنے میں جو کامیابی ہوئی وہ سچ مچ حیرت انگیز ہے۔ ناشائستہ خوانخواز، کینہ و زہ، جنگجو عربوں کے قبیلوں کو جو بت پرستی اور توہم پرستی میں غرقاب تھے۔ آپس کے جھگڑوں اور جو بازی میں محو تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پاک اثر نے انہیں آنا فانا خدا پرست بنا دیا۔ تمام قبیلے ایک سردار کے جھنڈے کے نیچے آ گئے

اور ایک متحدہ قوم بن گئے۔ (لالہ رام چندر ایڈووکیٹ لاہور)

89- مہاسندر من موہن (ﷺ):

اے عرب کے مہاپرش (عظیم انسان) آپ مہاسندر من موہن (بے انتہا خوبصورت میرے دل کے محبوب) ہیں جن کی سکشا (ہدایت) سے مورتی پوجا (بت پرستی) مٹ گئی۔ اور ایشور بھگتی (خدا پرستی) کا دھیان پیدا ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرپا (مہربانی) تھی کہ عرب دیش کے ظالم اور ڈاکو اعلیٰ درجہ کے مہنت اور سادھو (عابد و زاہد) بن گئے۔ اے مہاسندر شی بہت ہی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس لئے آپ کے نام کی مالا چپتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مٹی ہوئی عزت کو بچالیا اور اس کے حقوق تسلیم کئے۔ بولو شری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جے۔ (شریستی کملادیوی بمبئی)

90- دنیا کے بہت بڑے محسن (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات سب کے لئے نمونہ ہے اور ان کی تعلیمات سے ہر دھرم اور قوم کے لوگ خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اخوت اور مساوات کی بے بہا تعلیم دے کر دنیا پر ایک بہت زبردست احسان کیا ہے۔ انہوں نے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ رواداری برتنے کی تعلیم بھی دی ہے اور اسلام کی اشاعت کا اصلی سبب اس کی یہی پر اوصاف تعلیم اور اس کے بانی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صاف اور قابل تقلید زندگی ہے۔ (سوامی بھوانی دیال منیاسی)

91- امن عالم کے ستون (ﷺ):

ہم کو موجودہ زمانہ میں چند ایسے خطرات نظر آتے ہیں جن کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مٹانا چاہیں تو فوراً نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو اس وقت امن و امان کی جس قدر ضرورت ہے گزشتہ زمانہ میں نہ تھی۔ اگر کسی مذہب نے امن و امان کو اپنا فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام میں اپنی پوری قوت صرف کی ہے تو وہ مذہب صرف اسلام ہے۔ (مسٹر بلڈ یوسہائے۔ بی اے)

92- سچی زبان کی تاثیر والے (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک زبانی حکم سے عرب میں شراب خوری تو کیا اور کتنے ہی افعال بد ایک قلیل مدت میں بالکل ہی نیست و نابود ہو گئے۔ مجھے یہ کہنے میں کچھ باک نہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے پیغمبر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس سے پہلے میرے دل میں جس قدر بدگمانیاں تھیں میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی معافی چاہتا ہوں اور بلا مبالغہ اور علی الاعلان کہتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک شخص کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر ایک سیاہ دھبہ بھی لگا سکے۔ (ڈپٹی انسپکٹر مدراس ضلع گورک مسٹر بی ایس کشپہ بی اے ڈی۔ ای لندن)

93- پیکر شرم و حیاء اور محمودہ محامد و محاسن (ﷺ):

ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل استقامت اور راستی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم

بھی اخلاقِ حسنہ کے جادہ مستقیم سے منحرف نہیں تھا۔ ہادی برحق اور پیکرِ شرم و حیاء کے جس واقعہ اور جس بات پر بھی نظر ڈالیے وہ حکمتوں کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق و مروت، تہذیب و شائستگی، متانت و سنجیدگی، شرم و حیاء، تحمل و برداشت، صبر و شکیبائی، ایفائے وعدہ پابندی، عہد، ہمدردی و موانست کا ایسا زبردست اور موثر ثبوت بہم نہیں پہنچایا۔ مذہبی تاثرات سے قطع نظر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ہستی محامد و محاسن کا مجموعہ نظر آتی۔

(راجا راجدھار شاد ڈبلیو اے ایل ایل بی آف تیلو تھوٹسٹ)

94- زندہ جاوید تعلیمات کے معلم (ﷺ):

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرح ان کے اخلاق بھی بہت بلند پایہ تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ آپ کون کر تعجب ہو گا کہ میرا بھی یہی خیال تھا۔ لیکن یہ کون سی تلوار تھی؟ کیا وہ آہنی تلوار تھی؟ نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی گراں بہا اخلاق و عفو کی تلوار تھی اور ان کی بے بہا اوصاف اور ان کی قیامت تک نہ مٹنے والی اور سبق آموز تعلیمات کی چمکتی دکتی تلوار تھی۔ جس نے گردنیں کاٹنے کی جگہ دلوں کو ایک رشتہ میں جوڑ دیا۔ (بابوکت و ہاری پر شاد ڈبلیو اے ایل ایل بی)

95- غیر فانی فلسفی:

محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ خدا کے ہاں سے غیر معمولی دل و دماغ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے رزم تجارت، صنعت معاشرت، تمدن غرضیکہ بنی نوع انسان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی سب ہی کچھ سکھا دیا ہے۔ انہوں نے جو غیر فانی فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس سے اس وقت ساری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ یورپ میں ان کا فلسفہ مسلمان فاتحین کے ساتھ آیا اور اس فلسفہ نے اس یورپ کی کایا پلٹ دی جو بے شرمی، بے حیائی اور گناہ کی زندگی گزار رہا تھا۔

(انگلستان کا مشہور مصنف رابرٹ سائمر، بشکر یہ نقوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ظفر نظامی)

ایک بیدم ہی نہیں تیار مرنے کے لیے جو تیرے کوچے میں ہے وہی کفن بدوش ہے

اب سمجھ آئی کہ آج کا مغرب کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ کمر بستہ ہے؟

ہے سوچنے کی بات اسے بار بار سوچ

ذکر اونچا ہے ترا بول ہے بالاتیرا

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا پہ کسی نہ کسی جگہ ضرور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے اس بارے میں ایک حیرت انگیز تحقیق ملاحظہ ہو۔

اگر آپ دنیا کے نقشے پر اک نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈونیشیا زمین کے مشرق کی سمت میں واقع ہے۔ انڈونیشیا کے بڑے شہر جاوا، ساٹرا، بورنیو سائیل ہیں۔ جوں ہی سائیل کی مشرقی سمت سورج طلوع ہوتا ہے تو نماز فجر کا وقت بہ مطابق مقامی وقت تقریباً ۵:۳۰ شروع ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے ہزاروں مؤذن اذان دینے لگتے ہیں اور یہ سلسلہ مغربی انڈونیشیا کی طرف بہ تدریج

بڑھتا جاتا ہے۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک یہ سلسلہ سائبل میں تکمیل پاتا ہے۔ پھر اذان جکارتہ میں گونجے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد ساٹرا میں اذان شروع ہو جاتی ہے اور پیش تر اس کے کہ اذان کی گونج انڈونیشیا میں اختتام پذیر ہو ملائیشیا میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس پٹی میں اس کے بعد برما آتا ہے اور جکارتہ میں اذان شروع ہونے کے ایک گھنٹہ کے اندر اندر یہ ڈھاکہ میں سنائی دینے لگتی ہے اور بنگلہ دیش میں ابھی اس کی آواز جو کہ بنگلہ دیش کا صدر مقام ہے گونج نہیں پڑتی کہ مغربی ہندوستان کلکتہ سے سری نگر تک اذان فضا میں رس گھولنے لگتی ہے۔ پھر اذان کے دل نشین الفاظ ممبئی کا رخ کرتے ہیں اور اس طرح پورا ہندوستان اذانوں سے گونجے لگتا ہے۔ سری نگر اور سیال کوٹ کا شمالی علاقہ جو پاکستان میں ہے اذان بہ یک وقت شروع ہوتی ہے۔ سیال، کوٹ، کوئٹہ اور کراچی میں وقت کا فرق ۴۰ منٹ کا ہے اور اس اثنا میں اذان فجر کے سحر آگے الفاظ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے کانوں میں امرت گھولتے ہیں اور پیش تر اس کے کہ پاکستان میں اس کی سحر کاری اختتام کو پہنچے، افغانستان اور مسقط میں اذانیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ مسقط اور بغداد میں وقت کا فرق ایک گھنٹہ ہے۔ اس کے ایک گھنٹے بعد حجاز مقدس، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق کی فضاؤں میں اذان کا سفر جاری رہتا ہے۔ بغداد اور مصر کے شہر اسکندریہ میں پھر وقت کا فرق ایک گھنٹہ ہے۔ اس کے ایک گھنٹہ میں اذان فجر شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان کی طرف سفر جاری رکھتی ہے۔ مشرقی اور مغربی ترکی میں وقت کا فرق ڈیڑھ گھنٹہ ہے، اذان کی گونج مسلسل اس فضا میں محو سفر رہتی ہے۔ اسکندریہ اور ٹریپولی جو لیبیا کا دار الحکومت ہے، میں وقت کا فرق ایک گھنٹہ ہے۔ اس طرح مسلسل ایک گھنٹے تک تمام افریقہ میں اذان کے الفاظ فضاؤں میں اپنی مہک بکھیرتے رہتے ہیں۔ اس طرح توحید و رسالت کی گواہی کا سفر انڈونیشیا سے شروع ہوا تھا اب (بحرالکابل) کے مشرقی ساحل تک ساڑھے نو گھنٹے بعد آن پہنچا۔ پیش تر اس کے کہ اذان کی گونج (اٹلانٹک) کے ساحل پر سنائی دے مشرقی انڈونیشیا میں اذان ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پیش تر اس کے کہ یہ ڈھاکہ میں پہنچے اذان عصر کا وقت ہو جاتا ہے اور ابھی یہ اذان بہ مشکل جکارتہ تک سفر کر پاتی ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے بعد اذان مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور ابھی اذان مغرب کا سفر ساٹرا تک ہی پہنچ پاتا ہے کہ سائبل میں اذان عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب انڈونیشیا کے موڈن اذان فجر دے رہے ہوتے ہیں تو افریقی موڈن عشا کی اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذرا اس بات پر غور کریں تو حیرت انگیز انکشاف ہمارے سامنے آئے گا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ روئے زمین پہ ہزاروں موڈن اذان میں اشہدان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدان محمد رسول اللہ نہ کہہ رہے ہوں اور یہ سن کر عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر رہے ہوں اور یہ تو صرف زمین کی بات ہے اگر خدا نے تیرے دل کے کان بند نہیں کئے تو ان کا رُخ آسمانوں کی طرف کر اور امام احمد رضا کی زبان میں کہہ

عُشْ پَہ تازہ چھیئر چھاڑ فرش پَہ طرفہ دھوم دھام

کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے

جہاں میں کوئی اور ان سانہیں ہے وہ دنیا میں ہیں بے کس کا سہارا

وہ دنیا جو قعر مذلت میں گم تھی اسے آ کے پستی سے کس نے ابھارا

جو راحت مدینے میں حاصل ہے دل کو ہیں محروم اس سے بلخ اور بخارا
گدائے درپاک کی ہے وہ عظمت جسے پا سکا ہے سکندر نہ دارا
اگر ہم محمد کے ہو جائیں بزمی عرب بھی ہمارا عجم بھی ہمارا

(خالد بزمی)

تم یہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

اس موضوع کو عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ قاضی یوسف اسماعیل، نخبہانی علیہ الرحمۃ کی مقبول دربار رسالت مآب علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کتاب افضل الصلوٰت علی سید السادات کے آخری حصہ سے چند درود پاک پہ مکمل کر رہا ہوں جس کا اس سے قبل تحریری وعدہ بھی کر چکا ہوں یعنی آداب دعائیں سے درود پاک کی بحث کے آخر میں

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَصَلَّىٰ اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً هُوَ اٰهْلُهَا ۝

اللّٰهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاجْزِ مُحَمَّدًا مَا هُوَ اٰهْلُهُ ۝
اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْزِلِ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفِرْقَانِ الْعَظِيْمِ ۝

اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ فَلَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۝
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ صَلَوةً مَبَارَكَةً طَيِّبَةً كَمَا اَمَرْتَ اِنْ بَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنْ صَلٰتِكَ شَيْءٌ وَاَرْحَمِ مُحَمَّدًا حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَاَفْلَحْ وَاَنْجِحْ وَاْتِمِّمْ وَاَصْلِحْ وَزَكِّمْ وَاَرْبِحْ وَاَوْفِمْ وَاَرْجِحْ اَفْضَلَ الصَّلٰوةِ وَاَجْزِلِ الْمَعْنِ وَالتَّحِيَّاتِ عَلٰى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ فَلَاقُ صَبْحِ اَنْوَارِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَطَلْعَةُ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَبَهْجَةُ قَمَرِ الْحَقَائِقِ الصَّمْدَانِيَّةِ وَحَضْرَةُ عَرْشِ الْحَضْرَاتِ الرَّحْمٰنِيَّةِ نُوْرِ كُلِّ رَسُوْلٍ وَسَنَاهِيسِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمَنْ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ سِرِّ كُلِّ نَبِيٍّ وَهَدَاهُ ذَلِكَ تَقْدِيْرَ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَجَوْهَرَ كُلِّ وَلِيٍّ وَضِيَاةَ سَلَامٍ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيْمٍ ۝

اللَّهُم صل وسلم على محمد النبي الامي العربي القرشي الهاشمي الابطحي التهامي المكي صاحب التاج والكرامة صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والغزوة والجهاد والمغنم والمقسم صاحب الآيات والمعجزات والعلامات الباهرات صاحب الحج والحلق والتلبية صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام والمقام والقبلة والمحراب والمنبر صاحب المقام بصيرته وجوامع اسرار سريرته ورحيم رحماته ونعيم نعمائه ۞

اللَّهُم صل وسلم على جامع الاكمل والقطب الرباني الافضل طراز حلة الايمان ومعدن الجود والاحسان صاحب الهمم السماوية والعلوم اللدنية ۞

اللَّهُم صل وسلم على من خلقت الوجود لاجله ورخصت الاشياء بسببه محمد المحمود صاحب المكارم والجود وعلى اله واصحابه الاقطاب السابقين الى جناب ذلك الجناب ۞

اللَّهُم صل وسلم على سيدنا محمد النور البهي والبيان الجلي وللسان العربي والدين الحنفي رحمة للعالمين المويد بالروح الامين وبالكتاب المبين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين والخلائق اجمعين ۞

اللَّهُم صل وسلم على من خلقت من نورك وجعلت كلامه من كلامك وفضلته على انبيائك واوليائك وجعلت السعاية منك اليه ومنه اليهم كمال كل ولي لك وهاذي كل مضل عنك هادي الخلق الى الحق تارك الاشياء لاجلك ومعدن الخيرات بفضلك وخاطبتة على بساط قربك وكان فضل الله عليك عظيما القائم لك في ليلك والصائم لك في نهارك والهائم بك في جلالك ۞

اللَّهُم صل وسلم على نبيك الخليفة في خلقك المشتغل بذكرك المتفكر في خلقك والامين لسرك والبرهان لرسلك الحاضر في سرائر قدسك والمشاهد لجمال جلالك سيدنا ومولانا محمد المفسر لاياتك والظاهر في ملكك والغائب في ملكوتك والمتخلق بصفاتك والداعي الى جبروتك الحضرة الرحمانية والبردة الجلالية والسراويل الجمالية العرش السقي والحبيب النبوي والنور البهي والدر النقي والمصباح القوي ۞

اللَّهُم صل وسلم عليه وعلى اله كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ۞
اللَّهُم صل وسلم على سيدنا محمد ونبينا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك وروح ارواح عبادك الدرّة الفاخرة والعبقة النافحة بوء بوء الموجودات وحاء الرحمات وجيم الدرجات وسين السعادات ونون العنايةات وكمال الكلبيات ومنشا الازليات وختم الابديات المشغول

بك عن الاشياء الدنيويات الطاعم من ثمرات المشاهدات المسقى من اسرار القديسيات العالم
بالماضى والمستقبلات سيدنا ومولانا محمد وعلى اله الاخيار واصحابه الابرار ○
اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد فى الارواح وعلى جسده فى الاجساد وعلى قبره فى
القبور وعلى اسمه فى الاسماء وعلى منظره فى المناظر وعلى سمعه فى المسامع وعلى حركته
فى الحركات وعلى سكونه فى السكنات وعلى قعوده فى القعودات وعلى قيامه فى القيامات
وعلى لسانه البشاش الازلى والرحم الابدى صل اللهم وسلم عليه وعلى آله واصحابه عدد ما
علمت ومل ما علمت ○

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذى اعطيته وكرمه وفضلته ونصرته واعنته وقربته
وادنيتة وسقيته ومكنته وملاته بعلمك الانفس وبسطته بحبك الاطوس وزينته بقولك الاقبس
فخر الافلاك وعذب الاخلاق ونورك المبين وعبدك القديم وحبلك المتين وحصنك الحصين
وجلالك الحكيم وجمالك الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه مصابيح الهدى
وقناديل الوجود وكمال السعود المطهرين من العيوب ○

اللهم صل وسلم عليه صلوة تحل بها العقد وريحاً تفك بها الكرب وترحماً تزيل به العطب
وتكريماً تقضى به الارب يا رب يا الله يا حى يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك ذلك من
فضائل لطفك وغرائب فضلك يا كريم يا رحيم ○

اللهم صل وسلم على عبدك ونيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد النبى الامى والرسول العربى
وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته صلوة تكون لك ذخائر سرائر فلا تعلم نفس ما
اخفى لهم من قرآءة اعين جزاء بما كانوا يعملون فى منصة محاسن خواتم دعواهم فيها سبحانك
اللهم وتحيتهم فيها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ○

ایک ضروری وضاحت

اس کتاب میں موضوع کے اعتبار سے چونکہ صرف احادیث کو ہی بیان کیا جانا چاہئے تھا کیونکہ کتاب کا نام ”شانِ خدا بزبانِ مصطفیٰ“ ہے لیکن جیسا کہ ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ جب تک کسی بات کا مالہ و ما علیہ یا اس کے لوازمات و مناسبات کا ذکر نہ کیا جائے ایک طرح کی تشنگی موجود رہتی ہے اس لئے ہر مسئلہ کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کئی ضمنی موضوعات بھی زیر بحث آگئے اب آخر میں موضوع کے عین مطابق بڑے اختصار کے ساتھ صرف لفظ ان الله يا اللهم والى احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے چونکہ اللہ اور اللہم ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہم کا استعمال دعا کے لئے ہوتا ہے اور ان اللہ کے استعمال میں دعا کا معنی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک شان بہر حال اس میں پائی جاتی ہے اور وہ بھی بزبانِ مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم لہذا اس موضوع کو پڑھنے کے لئے بھی تیاری فرمائیں لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری گزارش یہ ہے کہ آنے والی تمام احادیث مبارکہ امام عبدالرؤف بن علی بن زین العابدین المناوی الحدادی الشافعی المتوفی ۱۰۳۱ھ کی مشہور کتاب کنوز الحقائق من حدیث خیر الخلاق سے لی گئی ہیں اور امام نے حدیث کے حوالے کے طور پر کتاب کا پورا نام لکھنے کی بجائے رموز کے الفاظ لکھے ہیں۔ اس لئے پہلے ان رموز کا ذکر کرتے ہیں پھر احادیث کو بیان کیا جائے گا۔

ان شاء الله وما توفیقی الا بالله عليه تو کلت والیہ انیب۔

اس سے پہلے جو کچھ عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے بیان ہوا وہ اس لیے تھا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خالق و مالک کی ایسی تعریف فرمائی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نذرانہ محبت پیش کریں کیونکہ

محمد کی ہر اک ادا معجزہ ہے
مگر مصطفیٰ سر تا پا معجزہ ہے
نبی کا تو ہر ایک گدا معجزہ ہے
رُخ والضحیٰ کی ضیاء معجزہ ہے
میرے آقا کی وہ ردا معجزہ ہے
ان کا تو بس دیکھنا معجزہ ہے

سنا معجزہ ہے عطا معجزہ ہے
سبھی انبیاء معجزے لے کے آئے
نبی معجزہ ہے یہ مت بحث چھیڑو
سوریا جہاں میں ہے پھیلایا جس نے
وہ جس میں چھپایا تھا آل نبی کو
تکلم تو حاکم ہے پھر بھی تکلم

احمد علی حاکم

رموز حوالہ جات

مصنف	نام کتاب	رمز
امام محمد بن اسماعیل بخاری	صحیح البخاری	(۱) "خ"
امام مسلم بن حجاج القشیری نیشاپوری	صحیح مسلم	(۲) "م"
امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث البجستانی	بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں سنن ابی داؤد	(۳) "لہما"
امام ترمذی علیہ الرحمہ	جامع الترمذی	(۴) "ز"
امام نسائی علیہ الرحمہ	سنن الصغریٰ / سنن نسائی	(۵) "ت"
امام عبداللہ بن ماجہ القزوی علیہ الرحمہ	سنن ابن ماجہ	(۶) "ن"
	اس عدد سے مراد یہ اخیر کی چاروں سنن اربعہ ہیں	(۷) "ہ"
	سنن ابن ماجہ کے علاوہ باقی تینوں سنن۔	(۸) "س"
		(۹) "س"

امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ	مسند احمد	(۱۰) "حم"
امام مالک بن انس امام دارالحدیث	موطا امام مالک	(۱۱) "ما"
امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ	زوائد مسند احمد	(۱۲) "عم"
امام ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ علیہ	مستدرک حاکم	(۱۳) "ک"
امام محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ	الادب المفرد	(۱۴) "خد"
امام محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ	التاریخ الکبیر	(۱۵) "حج"
امام ابن حبان علیہ الرحمہ	صحیح ابن حبان	(۱۶) "حب"
امام ضیاء الدین المقدسی علیہ الرحمہ	المختارہ	(۱۷) "ضا"
امام طبرانی علیہ الرحمہ	طبرانی کبیر، صغیر، اوسط	(۱۸) "ط"
امام بزار علیہ الرحمہ	مسند البزار	(۱۹) "بز"
امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی علیہ الرحمہ	مصنف عبدالرزاق	(۲۰) "عب"
امام ابو بکر بن ابی شیبہ علیہ الرحمہ	مصنف ابن ابی شیبہ	(۲۱) "ش"
امام ابو یعلیٰ الموصلی علیہ الرحمہ	مسند ابو یعلیٰ	(۲۲) "ع"
امام دارقطنی علیہ الرحمہ	سنن دارقطنی	(۲۳) "قط"
امام دیلمی علیہ الرحمہ	مسند الفردوسی	(۲۴) "قر"
امام ابو نعیم اصبہانی علیہ الرحمہ	حلیۃ الاولیاء	(۲۵) "حل"
امام بیہقی علیہ الرحمہ	سنن الکبریٰ، صغریٰ شعب الایمان وغیرہ	(۲۶) "حق"
امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ	الکامل	(۲۷) "عد"
امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ	الکامل فی الضعفاء	(۲۸) "عق"
علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ	تاریخ بغداد	(۲۹) "خط"
امام ابوالقاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ	تاریخ ابن عساکر	(۳۰) "کر"
امام ابن قانع رحمۃ اللہ علیہ	تاریخ ابن قانع	(۳۱) "قا"
امام ابوالشیخ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ	العظمت - الثواب - الاذان وغیرہ	(۳۲) "ابو"
امام شہاب الدین القضاہ رحمۃ اللہ علیہ	مسند الشہاب	(۳۳) "ض"
امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ	الطبقات الکبریٰ	(۳۴) "سعد"
امام الخرائطی رحمۃ اللہ علیہ	مکارم الاخلاق وغیرہ	(۳۵) "خر"

امام ابوداؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ	مسند ابوداؤد	(۳۶) ”طیا“
حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ	نوادرا الاصول	(۳۷) ”حک“
محدث ابن النجار رحمۃ اللہ علیہ	تاریخ ابن نجار	(۳۸) ”نجا“
امام حارث رحمۃ اللہ علیہ	مسند الحارث	(۳۹) ”صا“
امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ	مسند عبد بن حمید	(۴۰) ”عبد“
امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ	کتب ابن ابی الدنیا	(۴۱) ”یا“
امام ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ	عمل الیوم واللیلہ	(۴۲) ”سن“
امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ	اللقاب	(۴۳) ”شیر“
امام احمد بن منیع رحمۃ اللہ علیہ	مسند ابن منیع	(۴۴) ”منیع“
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	احیاء العلوم	(۴۵) ”غز“
امام ابن ضریس رحمۃ اللہ علیہ	فضائل القرآن وغیرہ	(۴۶) ”ضر“

بے شک اللہ تعالیٰ ”بزبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم“

- (۱) ان الله ابى لى ان أتزوج أو أزوج الامن اهل الجنة (مکر)
اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اہل جنت خواتین کے علاوہ نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔
- (۲) ان الله أخرجنى من نكاح، ولم يخرجنى من سفاح . (حق)
اللہ نے مجھے نکاح کرنے والوں سے پیدا کیا ہے زنا کرنے والوں سے نہیں۔
- (۳) ان الله اذا أحب عبداً ابتلاه لیسمع صوته (حق)
اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو بتلا کرتا ہے تاکہ اس کی (مناجات اور فریاد کی) آواز سنے۔
- (۴) ان الله اذا أحب عبداً جعل رزقه كفافاً (ابو)
اللہ جب کسی کو پیار کرتا ہے تو اس کا رزق بقدر ضرورت کر دیتا ہے۔
- (۵) ان الله اذا اراد بقوم خيراً ابتلاهم (ض)
اللہ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔
- (۶) ان الله أعطانى صلاة صفوف، والتحية، والتأمين . (ابن خزيمه)
اللہ نے مجھ کو صف، سلام اور آمین والی نماز عطا فرمائی ہے۔
- (۷) ان الله أكرم امتى بالولاية (فر)
اللہ نے میری امت کو ولایت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے۔

- (۸) ان الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي . (ط)
اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔
- (۹) ان الله أنزل بركات ثلاثا: الشاة، والنخلة، والنار (ط)
اللہ نے تین برکتیں نازل کی ہیں بکری، کھجور، آگ۔
- (۱۰) ان الله بعثني رحمة مهاداة، بعثت برفع قوم، وخفض آخرين (کر)
اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے ایک قوم کو بلند کرنے اور دوسری کو نیچے کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔
- (۱۱) ان الله تجاوز لأمتي عن النسيان، وما أكرهوا عليه (ط)
اللہ نے میری امت سے بھول اور جبر کو درگزر کیا ہے۔
- (۱۲) ان الله جعل الحق في قلب عمرو علي لسانه . (ك)
خدا نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کیا ہوا ہے۔
- (۱۳) ان الله جعل لي الأرض مسجداً وطهوراً (ط)
خدا نے زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی ہے۔
- (۱۴) ان الله جعلني عبداً كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً (د)
خدا نے مجھے عبد کریم بنایا ہے ظالم بندہ نہیں بنایا۔
- (۱۵) ان الله جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل . (حل)
خدا نے اس امت کا عذاب دنیا میں قتل بنایا ہے۔
- (۱۶) ان الله جميل يحب الجمال . (ك)
خدا خوب صورت ہے اور خوبی کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۷) ان الله حرم الجنة علي جسد غدي بحرام . (عبد)
خدا نے اس جسم پر جنت حرام کی ہے جو حرام غذا سے پلا ہو۔
- (۱۸) أمتع الصفوف من الشيطان الصف الأول . (أبو)
(نماز کی صفوں میں سے) شیطان سے زیادہ بچی ہوئی صف اول ہے۔
- (۱۹) أمسك عليك بعض مالك . فهو خير لك . (خ)
کچھ مال اپنے لئے روک لے یہ تیرے لئے بہتر ہے۔
- (۲۰) ان الله احتجز لتوبة عن كل صاحب بدعة . (ط)
اللہ نے ہر بدعتی کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرمایا ہے۔

- (۲۱) ان الله اذا استودع شيئا حفظه . (حب)
 اللہ جب کسی چیز کو امانت رکھتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔
- (۲۲) ان الله اذا ذكر شيئا تعظم ذكره . (ق)
 اللہ جب کسی چیز کا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر بڑا ہو جاتا ہے۔
- (۲۳) ان الله اعتقه حين ملكه، يعني أخاه (قط)
 جب کوئی اپنے غلام بھائی کا مالک ہو تو اللہ نے اس کو آزاد کر دیا۔
- (۲۴) ان الله امرني ان اسمي المدينة طيبة . (ط)
 اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کا نام طیبہ رکھوں۔
- (۲۵) ان الله امرني أن أمحق المزامير . (حم)
 اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں باجوں (مزامیر) کو مٹا دوں۔
- (۲۶) ان الله أوحى الي ان تواضعوا، حتى لا يبغى بعضكم على بعض (خ)
 اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ باہمی تواضع کیا کرو ظلم نہ کیا کرو۔
- (۲۷) ان الله بنى جنات عدن بيده . (حل)
 اللہ نے جنات عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔
- (۲۸) ان الله تصدق بفطر رمضان على مريض امتي ومسافرها . (سع)
 اللہ نے میری امت کے مریض اور مسافر کے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے (بعد میں رکھ سکتا ہے)
- (۲۹) ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه . (حم)
 اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھا ہوا ہے۔
- (۳۰) ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب . (ن)
 اللہ نے وہی رشتے رضاعت سے حرام کئے ہیں جو نسب سے حرام کئے ہیں۔
- (۳۱) ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء (حم)
 اللہ نے شراب، جو، شطرنج اور غیر احرام کی ہے۔ (غمیر اشراب کی ایک قسم ہے)
- (۳۲) ان الله حرم على الصدقة، وعلى اهل بيتي . (سع)
 اللہ نے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر زکوٰۃ صدقات کو حرام کیا ہے۔
- (۳۳) ان الله خلق الجنة بيضاء (حم)
 اللہ نے جنت کو سفید پیدا کیا ہے۔

(۳۴) ان الله خلق الشعير من الحنطة . (فر)

اللہ نے جوگندم سے پیدا کئے ہیں۔

(۳۵) ان الله رفيق يحب الرفق . (حم)

اللہ نرمی پسند کرتا ہے اور نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔

(۳۶) ان الله رضى لهذه الأمة باليسر، وكره لها العسر . (حا)

اللہ نے اس امت کے لئے آسانی پسند فرمائی اور تنگی کو ناپسند کیا ہے۔

(۳۷) ان الله زادكم صلاة، فحافظوا عليها، وهي الوتر . (حم)

اللہ نے تمہارے لئے ایک نماز زیادہ کی ہے اس کی حفاظت کرو اور وہ وتر کی نماز ہے۔

(۳۸) ان الله سمى المدينة طابة . (حم)

اللہ نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا ہے۔

(۳۹) ان الله صانع كل صانع وصنعه (خ)

اللہ ہر ایک کاریگر اور اس کی کاریگری کا خالق ہے۔

(۴۰) ان الله غافر الالمن ابي . (فر)

اللہ سب کو بخشنے والا ہے مگر بخشش کے منکر کو نہیں۔

(۴۱) ان الله فضل المرسلين على المقربين . (فر)

اللہ نے رسولوں کو مقرب فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔

(۴۲) ان الله قبض ارواحكم حين شاء، ورددھا حين شاء . (حم)

اللہ جب چاہے تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے اور جب چاہتا ہے انہیں لوٹا دیتا ہے۔

(۴۳) ان الله لما ذر الجهنم، كان ولد الزنا مما ذر الھما . (م)

اللہ نے جب دوزخ کے لئے مخلوق پیدا کی تو ولد الزنا ان میں سے ہے جو جہنم کے لئے پیدا کئے۔ (جبکہ وہ حرامیوں والے کام

بھی کرے)

(۴۴) ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . (ق)

اللہ نے تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں رکھی۔

(۴۵) ان الله لم يجعلني لحانا . (فر)

اللہ نے مجھ کو گانے والا نہیں بنایا۔

(۴۶) ان الله ليغض الجعظري الجواظ . (ك)

اللہ بدخوخت دل کو برا جانتا ہے۔

(۳۷) ان الله ليدرأ بالصدقة سبعين مئة من سوء . (أبو)

اللہ صدقہ کی وجہ سے ستر ہزار ایوں کی مرداری دفع کرتا ہے۔

(۳۸) ان الله لعذب الميت بنياح أهله عليه (ط)

اللہ تعالیٰ مردے کو میت کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کرنے سے میت کو عذاب دیتا ہے۔ (اگر وہ میت اس پر راضی تھی یا نوحہ کرنے کی وصیت کی تھی)

(۳۹) ان الله لعجب من الصلاة في الجمع . (حم)

اللہ جماعت کی نماز سے تعجب کرتا ہے (مراد کمال پسندیدگی ہے)

(۵۰) ان الله حيث خلق الداء خلق الدواء، فتداواوا . (حم)

اللہ نے جہاں بیماری پیدا کی وہاں اس کی دوا بھی پیدا کی ہے لہذا علاج کرو۔

(۵۱) ان الله خلق الورد من بهانه . (فر)

اللہ نے گلاب کو اپنی حسن تخلیق سے پیدا کیا ہے۔

(۵۲) ان الله زكى لكم الصيد . (هق)

اللہ نے تمہارے لئے شکار طلال کیا ہے۔

(۵۳) ان الله رحيم يحب الرحيم، يضع رحمته على كل رحيم . (طبری)

اللہ رحیم ہے رحیم کو پسند کرتا ہے اپنی رحمت ہر رحیم پر رکھتا ہے۔

(۵۴) ان الله زوجني في الجنة مريم . (ط)

اللہ نے جنت میں حضرت مریم سے میرا نکاح کیا ہے۔

(۵۵) ان الله فرض عليكم الجمعة في يومى هذا . (ه)

اللہ نے تم پر اس روز سے جمعہ کو فرض کر دیا ہے۔

(۵۶) ان الله كنس عرصة الفردوس بيده . (فر)

اللہ نے جنت فردوس کو اپنے دست قدرت سے صاف کیا ہے۔

(۵۷) ان الله قد اجار امتي ان تجتمع على ضلالة . (ض)

اللہ نے میری امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ کیا ہے۔

(۵۸) ان الله كتب عليكم السعي، فاسعوا (ط)

اللہ نے تم پر (صفا اور مروہ کے درمیان) سعی کرنا لازم کیا ہے پس (عمرہ اور حج میں) سعی کیا کرو۔

- (۵۹) ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه (حم)
اللہ اس کے اپنے نفس کو اذیت دینے سے مستغنی ہے۔
- (۶۰) ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام . (ع)
اللہ نے تمہاری شفا حرام میں نہیں رکھی (اس لئے حرام چیزیں بطور دوا کے بھی استعمال نہ کرو)
- (۶۱) ان الله لو شاء ان لا يعصى ما خلق ابليس . (ط)
اگر اللہ چاہتا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے تو ابلیس کو نہ پیدا کرتا۔
- (۶۲) ان الله ليحيي قلب المؤمن بالدعاء . (فر)
اللہ مومن کے دل کو دعا سے زندہ کرتا ہے۔
- (۶۳) ان الله ليرحم عبده المؤمن برحمته العصفور . (حا)
اللہ نے اپنے مومن بندے پر اس کے چڑیا پر رحم کرنے کے سبب بھی رحم کرتا ہے۔
- (۶۴) ان الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة (حم)
اللہ تعالیٰ اس جوان کو پسند کرتا ہے جو عشق بازی نہ کرے۔
- (۶۵) ان الله ليزيد الكافر عذابا بیکاء أهله عليه . (خ)
اللہ کافر پر عذاب اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے سے اور زیادہ کرتا ہے۔
- (۶۷) ان الله ليضاعف الحسنة الى ألف حسنة . (طبری)
اللہ نیکی کو ہزار گنا بڑھا دیتا ہے۔
- (۶۸) ان الله ليغار للمسلم فليغر (ط)
اللہ مسلمان کے لئے غیرت کرتا ہے اس کو بھی چاہئے کہ غیرت مند بنے۔
- (۶۹) ان الله ليغضب اذا مدح الفاسق . (ع)
جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
- (۷۰) ان الله ليقبل توبة العبد ما لم يفرغ . (ه)
اللہ اپنے بندے کی توبہ غرغره (موت کے وقت) سے پہلے تک قبول کر لیتا ہے۔
- (۱۷) ان الله لينفع العبد بالذنب يذنبه (حل)
اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو اس کے گناہ کے سبب بھی نفع پہنچاتا ہے۔
- (۲۷) ان الله هو المسعر القابض الباسط . (حم)
اللہ نرغ کرنے والا فراخ کرنے والا اور تنگی کرنے والا ہے۔

(۷۳) ان الله لينصت للقرآن، ويسمعه من أهله . (فر)

اللہ اہل قرآن سے قرآن سننے کے لئے چپ ہو جاتا ہے۔

(۷۴) ان الله وتر يحب الوتر . (ق)

اللہ طاق ہے طاق کو پسند کرتا ہے۔

(۷۵) ان الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة (ط)

اللہ نے مسافر کا روزہ رکھنا اور آدھی نماز معاف کی ہے۔

(۷۶) ان الله وضع عن أمتي الخطاء والنسيان (ش)

اللہ نے میری امت کی خطا اور بھول معاف کی ہے۔

(۷۷) ان الله وعدني بأن يدخل من أمتي ثلاث مائة ألف الجنة (ط)

اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے تین لاکھ (بلا حساب) جنت میں داخل کرے گا۔

(۷۸) ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين . (حب)

اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔

(۷۹) ان الله لا يحب العقوق . (حم)

اللہ نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔

(۸۰) ان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات . (ط)

اللہ زیادہ نکاح کر کے مزہ اٹھانے والے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔

(۸۱) ان الله لا يرحم من عباده الا الرحماء . (ض)

اللہ اپنے بندوں میں سے صرف مہربانوں پر رحم کرتا ہے۔

(۸۲) ان الله لا يعذب من خلقه الا المارد المتمرد . (ه)

اللہ اپنی مخلوق سے کسی کو سوائے سرکش کے عذاب نہیں دیتا۔

(۸۳) ان الله لا يعذب بقطع الرزق . (فر)

اللہ رزق کا سلسلہ قطع کر کے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔

(۸۴) ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره . (ق)

اللہ تہہ بند لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔

(۸۵) ان الله لا يقبل لصاحب بدعة عملا حتى يدع بدعته . (فر)

اللہ بدعتی کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک بدعت نہ چھوڑے۔

(۸۶) ان الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض (ط)
اللہ (کامل طور پر) اس کی نماز قبول نہیں کرتا جو ناک (سجدہ میں) زمین تک نہ پہنچائے۔

(۸۷) ان الله لا يقبل صلاة مسبل ازاره (د)
اللہ تہبند (مٹھنوں سے نیچے) لٹکانے والے کی نماز قبول نہیں کرتا۔

(۸۸) ان الله لا ينظر الى من يعجر ازاره بطرا . (م)
اللہ تکبر سے تہبند لٹکانے والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔

(۸۹) ان الله لا ينظر الى المسبل يوم القيامة . (حم)
اللہ ازار لٹکانے والے کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔

(۹۰) ان الله لا يهتك ستر عبد فيه ذرة من خير (فر)
اللہ اس شخص کا پردہ چاک نہیں کرتا جس میں ایک ذرہ بھی خیر کا ہو۔

(۹۱) ان الله ليعز الدين بالرجل الفاجر (ط)
اللہ دین کو فاجر شخص کی بدولت بھی عزت دیتا ہے۔

(۹۲) ان الله ليستحي ان يعذب الشيخ الكبير . (شیرازی)
اللہ کو حیا آتی ہے کہ بہت بوڑھے آدمی کو عذاب دے۔

(۹۳) ان الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب . (حم)
اللہ اپنے بندے کو تہ تک بخشتا ہے جب تک حجاب موت واقع نہ ہو۔

(۹۴) ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته (م)
اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں۔

(۹۵) ان الله مع القاضى ما لم يحف عمدا (ط)
اللہ قاضی کے ساتھ ہے جب تک وہ عمداً ظلم نہ کرے۔

(۹۶) ان الله لينزل لأهل الجنة يوم الجمعة فى رمال من كافور (فر)
اللہ اہل جنت کو جمعہ کے روز کافور کے ٹیلوں پر زیارت کرائے گا۔

(۹۷) ان الله هو الحكيم، واليه الحكم . (د)
اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اسی کی طرف فیصلہ کا انجام ہے۔

(۹۸) ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة . (حم)
اللہ نے مسافر سے آدمی نماز معاف کی ہے۔

- (۹۹) ان الله وعدني باسلام أبي الدرداء . (د)
اللہ نے مجھ سے ابي الدرداء کے اسلام کا وعدہ کیا ہے۔
- (۱۰۰) ان الله وملائكته يصلون على الصوف المقدمة . (ن)
اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صوفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔
- (۱۰۱) ان الله وهب لأمتي ليلة القدر . (فر)
اللہ نے میری امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ دیا ہے۔
- (۱۰۲) ان الله لا يحب الفاحش المتفحش، ولا الصياح في الأسواق . (خ)
اللہ فحش گو آدمی سے پیار نہیں کرتا اور نہ بازاروں میں چیخنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۰۳) ان الله لا يحب كل فاحش متفحش (حم)
اللہ ہر فحش گو اور فحش گوئی کے عادی کو پسند نہیں کرتا۔
- (۱۰۴) ان الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في ادبارهن . (دارمی)
اللہ حق بیان کرنے سے نہیں رکتا، عورتوں سے دبر میں جماع مت کرو۔
- (۱۰۵) ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة . (حم)
اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔
- (۱۰۶) ان الله لا يقبل عمل عبد، حتى يرضى قوله . (ض)
اللہ کسی کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک اس کا قول قبول نہ کرے۔
- (۱۰۷) ان الله لا يقبل من العمل الا ما خالص له . (ط)
اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا مگر جو خالص اسی کے لئے کیا جائے۔
- (۱۰۸) ان الله لا يعمل حتى تملوا . (بز)
اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا تم خود لیتے لیتے تھک جاتے ہو۔
- (۱۰۹) ان الله لا ينظر الي من يخضب بالسواد يوم القيامة . (سع)
اللہ قیامت کے دن سیاہ رنگ سے رنگنے والے کو نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔
- (۱۱۰) ان الله لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه . (فر)
اللہ درست مزاح کرنے والے کو اس کے مزاح کی وجہ سے نہیں پکڑتا۔
- (۱۱۱) ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (خ)
اللہ اس دین کو فاجر شخص سے (بھی) مدد دیتا ہے۔

- (۱۱۲) ان الله يباهي بالشباب العابد الملائكة . (فر)
اللہ فرشتوں پر بسبب جوان عابد کے فخر کرتا ہے۔
- (۱۱۳) ان الله يتلى عبده بالسقم، حتى يكفر عنه كل ذنب . (ط)
اللہ اپنے بندے کو بیماری کے ساتھ آزماتا ہے تاکہ اس کے گناہ دور کرے۔
- (۱۱۴) ان الله يبغض الطلاق، ويحب العتاق . (فر)
اللہ طلاق کو برا جانتا ہے اور عتاق (غلام آزاد کرنے) کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۱۵) ان الله يبغض الوسخ والشعث (فر)
اللہ میل اور بکھرے ہوئے بالوں کو برا جانتا ہے۔
- (۱۱۶) ان الله يبغض الشاب الفارغ . (نع)
اللہ جوان فارغ (بیکار) کو برا جانتا ہے۔
- (۱۱۷) ان الله يبغض الاكل فوق شعبه . (فر)
اللہ بھوک سے زیادہ کھانے والے کو برا جانتا ہے۔
- (۱۱۸) ان الله يبغض الشيخ الغريب . (فر)
اللہ بوڑھے سیاہ (خضاب کرنے والے) کو برا جانتا ہے۔
- (۱۱۹) ان الله يبغض الرجل يدخل عليه الرجل في بيته فلا يقاتله . (فر)
اللہ اس آدمی کو برا جانتا ہے جس کے گھر میں کوئی نامحرم جائے اور وہ اس سے نہ لڑے۔
- (۱۲۰) ان الله يبغض كل عفریت نفریت . (فر)
اللہ ہر ایک سرکش خبیث کو برا جانتا ہے۔
- (۱۲۱) ان الله يحب كل طيب الريح، جيد الثياب . (فر)
اللہ ہر خوشبودار عمدہ لباس والے کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۲۲) ان الله يحب أبناء الثمانين . (کر)
اللہ اسی (۸۰) سال کی عمر والوں کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۲۳) ان الله يحب ان يحمد . (ط)
اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔
- (۱۲۴) ان الله يحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها . (حب)
اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور رذیل اخلاق کو مکروہ جانتا ہے۔

- (۱۲۵) ان الله يحب الملحين في الدعاء . (عد)
اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو دعا میں عاجزی کرتے ہیں۔
- (۱۲۶) ان الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم . (ط)
اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد میں مساوات برتو۔
- (۱۲۷) ان الله يحب العبد المؤمن المحترف (عد)
اللہ کمانے والے (صاحبِ حُرفت) بندے کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۲۸) ان الله يحب الرقيق الصوت . (فر)
اللہ نرم آواز والے کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۲۹) ان الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب . (ق)
اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو مکروہ جانتا ہے۔
- (۱۳۰) ان الله يحب المتخللين والمتخللات . (فر)
اللہ خلال کرنے والے مردوں اور عورتوں کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۳۱) ان الله يحب كل قلب حزين . (ط)
اللہ ہر غمگین دل کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۳۲) ان الله يباهى بالطائفين . (نع)
اللہ طواف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔
- (۱۳۳) ان الله يبعث الركن الأسود، وله عينان . (حم)
اللہ حجرِ اسود کو روزِ قیامت لائے گا اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی۔
- (۱۳۴) ان الله يبغض الفاحش البذي . (فر)
اللہ فحش گالیاں بکنے والے کو برا جانتا ہے۔
- (۱۳۵) ان الله يبغض القارئ السمين . (أبو الليث)
اللہ اس قاری کو ناپسند کرتا ہے جو موٹا ہو (حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والا ہو)
- (۱۳۶) ان الله يبغض السائل الملحف . (فر)
اللہ تعالیٰ لپٹ کر مانگنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔
- (۱۳۷) ان الله ليبغض البخيل في حياته، السخي عند موته . (خط)
اللہ اسے ناپسند کرتا ہے جو زندگی میں بخیل اور مرتے وقت سخی ہو۔

- (۱۳۸) ان الله يبغض صوت الخلخال . (فر)
اللہ پازیب کی آواز کو برا جانتا ہے۔
- (۱۳۹) ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة . (فر)
اللہ ہر ایسے شخص کو برا جانتا ہے جو دنیا کا عالم ہو اور آخرت سے جاہل ہو۔
- (۱۴۰) ان الله يتعاهد عبده بالبلاء (أبو)
اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے۔
- (۱۴۱) ان الله يحب الرفق في الأمر كله . (خ)
اللہ ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔
- (۱۴۲) ان الله يحب العبد التقى الغنى الحفى الضعيف . (حم)
اللہ پرہیزگار بے پرواہ مہربان ضعیف بندے کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۴۳) ان الله يحب اغائة اللهفان . (ط)
اللہ مغموم کی فریاد رسی کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۴۴) ان الله يحب من يحب التمر . (ط)
اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو کھجور کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۴۵) ان الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب . (حم)
اللہ ہر مومن فتنہ رسیدہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۴۶) ان الله يحب القلب الحزين . (کر)
اللہ غمگین دل کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۴۷) ان الله يحب الحيى المتعفف . (هق)
اللہ حیا دار پاک دامن کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۴۸) ان الله يحب الأمراء اذا خالطوا العلماء . (فر)
اللہ ان حکمرانوں کو پسند کرتا ہے جو علماء سے میل جول رکھیں
- (۱۴۹) ان الله يحب المداومة على الاخاء القديم . (فر)
اللہ پرانی اخوت پر مداومت کرنے کو پسند کرتا ہے۔
- (۱۵۰) ان الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يحب أن يؤخذ بفرائضه (ش)
اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رعایت پر عمل کیا جائے جیسا کہ اس کے فرائض پر کیا جاتا ہے۔

(۱۵۱) ان الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء . (ت)
اللہ آسانی سے بیچ آسانی سے فروخت آسانی سے ادا کرنے اور آسانی سے وصولی چاہنے کو پسند کرتا ہے۔

(۱۵۲) ان الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل . (السجزي)

اللہ پسند کرتا ہے کہ قرآن ایسے پڑھا جائے جیسا کہ اتارا گیا۔

(۱۵۳) ان الله يحب أبا البنات الصابر المحتسب (أبو)

اللہ بیٹیوں کے صابر طالبِ ثواب باپ کو پسند کرتا ہے۔

(۱۵۴) ان الله يحب المرأة الملقاة البرغة مع زوجها . (فر)

اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ چاہلپوشی اور ملاحظت کرنے والی ہو۔

(۱۵۵) ان الله يحب علي الكيس، ويلوم علي العجز . (حم)

اللہ زیرکی ہوشیاری پر تعریف کرتا اور نادانی پر ملامت کرتا ہے۔

(۱۵۶) ان الله يسمع الي قراءة (لم يكن الذين كفروا) (نع)

اللہ لم يكن الذين كفروا کی قرأت کو سنتا ہے۔

(۱۵۷) ان الله يعافى الاميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء . (حل)

اللہ قیامت کے دن علماء سے زیادہ ناخواندوں کو معاف کرے گا۔

(۱۵۹) ان الله يعذب الذين يعذبون الناس . (حم)

اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔

(۱۶۰) ان الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة الف الف حسنة . (حم)

اللہ مومن بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں دس لاکھ نیکیاں بھی دیتا ہے۔

(۱۷۱) ان الله يغار، والمؤمن يغار . (ق)

اللہ غیرت والا ہے اور مومن بھی غیرت والا ہے۔

(۱۷۲) ان الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك، قاله لعلی . (ع)

(اے علی) اللہ تیرے غصہ سے غصہ ہوتا ہے اور خوشی سے خوش۔

(۱۷۳) ان الله يقبض أرواح شهداء البحر بيده . (فر)

اللہ سمندر کے شہداء کی ارواح کو اپنے ہاتھ سے قبض کرتا ہے۔

(۱۷۴) ان الله يكره اذى المؤمن . (ابن المبارك)

اللہ مومن کو اذیت دینا پسند نہیں کرتا۔

(۱۷۵) ان الله يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الارض (الحارث)

اللہ آسمان پر یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر زمین میں خطا کرے۔

(۱۷۶) ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . (حم)

اللہ تم کو اپنے باپوں کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے۔

(۱۷۷) ان الله ينزل الرزق على قدر المؤنة . (ل)

اللہ مشقت کے بقدر رزق نازل کرتا ہے۔

(۱۷۸) ان الله يوصيكم بالاقرب فالأقرب . (ق)

اللہ تم کو زیادہ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔

(۱۷۹) ان الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه . (حب)

اللہ پسند کرتا ہے کہ تو اس کی رخصت پر عمل کرے جیسا اس کے فرائض کی ادائیگی کو پسند کرتا ہے۔

(۱۸۰) ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . (ت)

اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اور اظہار اپنے بندے پر دیکھے۔

(۱۸۱) ان الله يحب المؤمن اذا كان فقيراً متعففا (ط)

اللہ مومن کو جو فقیر اور نہ مانگنے والا ہو پسند کرتا ہے۔

(۱۸۲) ان الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس . (هق)

اللہ پرانی پوشاک پہننے والے کو جو کسی لباس سے نفرت نہ کرے پسند کرتا ہے۔

(۱۸۳) ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، ويضع آخرين . (حم)

اللہ اس کتاب (قرآن) کی وجہ سے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری کو ذلیل۔

(۱۸۴) ان الله يسأل العبد عن فضل عمله . (ط)

اللہ بندے سے اس کی محنت سے زائد کا حساب لے گا۔

(۱۸۵) ان الله يستجيب للمظلومين . (فر)

اللہ مظلوموں کی فریاد سنتا ہے۔

(۱۸۶) ان الله يعذب المصورين بما صوروا . (خط)

اللہ مصوروں کو تصویر کشی کے سبب عذاب دے گا۔

(۱۸۷) ان الله يعطي بالحسنة الف الف حسنة . (ش)

اللہ ایک نیکی کے عوض بیس لاکھ نیکیاں بھی دیتا ہے۔

- (۱۸۸) ان الله يقبل على العبد ما لم يلتفت . (ن)
اللہ بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔
- (۱۸۹) ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . (حم)
اللہ بندے کی توبہ موت کے غرغره سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔
- (۱۹۰) ان الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس . (سن . فر)
اللہ چھینک اور جمائی کے وقت بلند آواز کو مکروہ جانتا ہے۔
- (۱۹۱) ان الله ينهاكم ان تأتوا النساء في ادبارهن (ط)
اللہ تمہیں عورتوں کے دبر میں جماع کرنے سے منع کرتا ہے۔
- (۱۹۲) ان الله ينزل الصبر على قدر البلاء . (ل)
اللہ صبر بقدر مصیبت کے نازل کرتا ہے۔

(۱۹۳) ان الله ينظر الى عباده يوم عرفة (فر)

اللہ اپنے بندوں کی طرف نوزوالحجہ کو دیکھتا ہے۔

(۱۹۴) ان الله يوصيكم بالنساء خيراً . (حم)

اللہ تم کو عورتوں سے نیکی کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ (یعنی حسن سلوک کا)

سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا میرا مولا
رازق داتا پالن ہارا میرا مولا میرا مولا
خوبی والا سب سے نیارا میرا مولا میرا مولا
عالم دانا واقف کل کا میرا مولا میرا مولا
میرا پیارا، میرا آقا میرا مولا میرا مولا
اللہ اللہ اللہ اللہ میرا مولا میرا مولا

سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا میرا مولا
سب کو وہی دیتا ہے روزی نعمت اس کی دولت اس کی
ہم سب اس کے عاجز بندے وہ ہی پالے وہ ہی مارے
اول و آخر غائب حاضر اس پر روشن اس پر ظاہر
عزت والا حکمت والا، نعمت والا، رحمت والا
طاعت سجدہ اس کا حق ہے اس کو پوجو وہ ہی رب ہے

(سید محمد نعیم الدین مراد آبادی)

اللھم (اے میرے اللہ) بزبان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء

(۱) اللھم انت الاول فلاشیء قلبك (ط)

یا اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔

(۲) اللھم انت عضدی ونصیری وبك اقاتل، (حم)

یا اللہ تو میرا بازو اور مددگار ہے میں تیری امداد سے جہاد کرتا ہوں۔

- (۳) اللّٰهُمَّ احيينى مسكينا وامتنى مسكينا . (ت)
يا اللّٰهُ مجھے مسکینی میں زندہ رکھ اور مسکینی میں موت دے۔
- (۴) اللّٰهُمَّ اجعله حجالا رياء فيه ولا سمعة . (فر)
يا اللّٰهُ اس کو ایسا حج بنا دے جس میں ریا اور غیر کو سنوارنا نہ ہو۔
- (۵) اللّٰهُمَّ اجعل اوسع رزقك عند كبر سنى (ط)
يا اللّٰهُ میرے بڑھاپے کے وقت میرا رزق کشادہ کر دے۔
- (۶) اللّٰهُمَّ اجعل رزق آل محمد قوتا . (ق)
يا اللّٰهُ تو آل محمد کو گزارے کی روزی دے۔
- (۷) اللّٰهُمَّ استرنى بالعافية فى الدنيا والآخرة . (فر)
يا اللّٰهُ دنیا اور آخرت میں میری عافیت سے پردہ داری فرما۔
- (۸) اللّٰهُمَّ استر العباس وولده من النار . (فر)
يا اللّٰهُ عباس اور اس کی اولاد کو آگ سے بچا۔
- (۹) اللّٰهُمَّ أعنى على سكرات الموت . (حم)
يا اللّٰهُ سكرات موت پر میری مدد فرما۔
- (۱۰) اللّٰهُمَّ اغفر لى، وارحمنى، واهدنى الطريق الاقوم . (حم)
يا اللّٰهُ مجھ کو بخش اور رحم فرما اور سیدھے راستے کی ہدایت کر۔
- (۱۱) اللّٰهُمَّ اغفر لقومى، فانهم لا يعلمون . (بز)
يا اللّٰهُ تو میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔
- (۱۲) اللّٰهُمَّ البسنى العافية فى الدنيا، واليقين فى الآخرة . (فر)
يا اللّٰهُ دنیا میں عافیت عطاء فرما اور آخرت میں یقین۔
- (۱۳) اللّٰهُمَّ ارزقنى طيبا، واستعملنى صالحا . (حك)
يا اللّٰهُ مجھے پاکیزہ رزق دے اور مجھ سے صالح عمل کرا۔
- (۱۴) اللّٰهُمَّ أنت العدل فى قضائك . (فر)
يا اللّٰهُ تو اپنی قضاء میں عادل ہے۔
- (۱۵) اللّٰهُمَّ آت نفسى تقواها، وزكها أنت خير من زكاها . (ك)
يا اللّٰهُ میرے نفس کو تقویٰ دے اور اس کو پاک کر تو اسے اچھا پاک کرنے والا ہے۔

- (۱۶) اللّٰهُمَّ احسن خلقى، فحسن خلقى . (حم)
- يا اللّٰهُ تو نے میرا ظاہر عمدہ بنایا ہے پس میرے اخلاق بھی عمدہ بنا دے (آئینہ دیکھنے وقت کی دعا)
- (۱۷) اللّٰهُمَّ انتنى باحب خلقك يا كل من سدا الطير، فدخّل على . (ت)
- يا اللّٰهُ تو اپنا پیارا بندہ لا کہ میرے ساتھ مل کر یہ پرندہ کھائے اتنے میں علی رضی اللّٰهُ عنہ آگئے۔
- (۱۸) اللّٰهُمَّ اجرنا من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة . (حم)
- يا اللّٰهُ مجھے دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچا۔
- (۱۹) اللّٰهُمَّ اجعلنا مفلحين . (فر)
- يا اللّٰهُ ہم کو فلاح پانے والوں میں سے کر دے۔
- (۲۰) اللّٰهُمَّ ارزقنى شهادة فى يسر منك وعافية . (فر)
- يا اللّٰهُ مجھے اپنی طرف سے آسانی و عافیت کے ساتھ شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔
- (۲۱) اللّٰهُمَّ ارزق آل محمد كفافا . (م)
- يا اللّٰهُ آل محمد کو ضرورت کا رزق عطا فرما۔
- (۲۲) اللّٰهُمَّ اجعل فناء امتى بالطعن والطاعون . (الماوردى)
- يا اللّٰهُ میری امت کی (اکثر) موت جہاد اور طاعون میں کر دے۔
- (۲۳) اللّٰهُمَّ اصلح الراعى والرعية . (غر)
- يا اللّٰهُ تو حاکم اور رعایا کی اصلاح فرما۔
- (۲۴) اللّٰهُمَّ انصر العباس وولد العباس ثلاثا . (کر)
- يا اللّٰهُ تو عباس اور اولاد عباس کی امداد کر (تین دفعہ یہ دعا کی)
- (۲۵) اللّٰهُمَّ اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . (حم)
- يا اللّٰهُ اپنا ذکر و شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔
- (۲۶) اللّٰهُمَّ اغفر لى، وارحمنى، والحقنى بالرفيق الأعلى . (ق)
- يا اللّٰهُ مجھے بخش دے اور رحم کر اور رفیقِ اعلیٰ سے ملا دے۔
- (۲۷) اللّٰهُمَّ اغفر لحذيفة ولأم حذيفة (فر)
- يا اللّٰهُ حذیفہ اور اس کی والدہ کو بخش دے۔
- (۲۸) اللّٰهُمَّ اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج . (ط)
- يا اللّٰهُ حاجیوں کو بخش دے اور جس کے لئے حاجی بخشش کی دعا کرے۔

- (۲۹) اللّٰهُمَّ القِ طَلْحَةَ يَضْحَكُ اليك، وتَضْحَكُ اليه . (ط)
یا اللہ تو طلحہ سے ایسے ملاقات کر کہ وہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اس کو دیکھ کر ہنسے۔
- (۳۰) اللّٰهُمَّ انصر من ينصر عليا . (ط)
یا اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔
- (۳۱) اللّٰهُمَّ اخذل من خذل عليا . (ط)
یا اللہ تو اس کو ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرے۔
- (۳۲) اللّٰهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام . (هق)
یا اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے سو ہم کو اے رب سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔
- (۳۳) اللّٰهُمَّ انى اسألك غناى وغنى موالى . (حم)
یا اللہ میں تجھ سے اپنی اور اپنے غلاموں کی غنا چاہتا ہوں۔
- (۳۴) اللّٰهُمَّ انى اعوذبك من شر الأعين . (ط)
یا اللہ تیری پناہ لیتا ہوں نگاہوں کی بد نظری سے۔
- (۳۵) اللّٰهُمَّ انى اعوذبك من البؤس والتبؤس . (ط)
یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں خوف سے اور باہم خوف دلانے سے۔
- (۳۶) اللّٰهُمَّ انى اعوذبك من الخبث والخبثا . (فر)
یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں زرا اور مادہ شیطانی سے۔
- (۳۷) اللّٰهُمَّ ان عثمان يريد رضى، فارض عنه (فر)
یا اللہ عثمان میری رضا چاہتا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
- (۳۸) اللّٰهُمَّ اهد دوساء، وأت بهم مسلمين . (حم)
یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت کر اور ان کو میرے پاس مسلمان کر کے لا۔
- (۳۹) اللّٰهُمَّ اقبل بقلبي الى دينك، واحفظنى برحمتك . (ع)
یا اللہ میرا دل اپنے دین کی طرف متوجہ کر اور اپنی رحمت سے میری حفاظت کر۔
- (۴۰) اللّٰهُمَّ اقبل بقلوبهم، وبارك لنا فى صاعنا ومدنا . (حم)
یا اللہ ان کے دل متوجہ کر اور ہمارے (پیمانوں) مد و صاع میں برکت دے۔
- (۴۱) اللّٰهُمَّ اعز الدين بعمر بن الخطاب . (سع)
یا اللہ دین کو عمر بن خطاب سے عزت دیدے۔

- (۴۲) اللّٰهُمَّ اعز الاسلام بعمر خاصة . (ه)
یا اللہ تو دین کو خاص عمر سے عزت دے۔
- (۴۳) اللّٰهُمَّ اعز الاسلام بأبی جہل أو بعمر . (بغوی)
یا اللہ تو اسلام کو ابو جہل یا عمر سے عزت دے۔
- (۴۴) اللّٰهُمَّ اكفنی ما أهمنی (فر)
یا اللہ تو میرے ضروری کاموں میں کفایت فرما۔
- (۴۵) اللّٰهُمَّ اشدد وطأتك علی مضر . (ق)
یا اللہ تو اپنی پائمالی قوم مضر پر سخت کر دے۔
- (۴۶) اللّٰهُمَّ انی أحبه فأحبه یعنی : الحسین . (ك)
یا اللہ میں اس (حسین) سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ۔
- (۴۷) اللّٰهُمَّ انی أحبهما فأحبهما یعنی : الحسن والحسین . (ت)
یا اللہ میں ان دونوں (حسین) سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ۔
- (۴۸) اللّٰهُمَّ انی استودعکھما وصالح المؤمنین . (ط)
یا اللہ میں ان دونوں کو تیرے اور صالح مومنوں کے پاس امانت چھوڑتا ہوں۔
- (۴۹) اللّٰهُمَّ اخلف جعفر ا فی اہله ثلاثا . (ط)
یا اللہ تو جعفر کے اہل میں اس کی شہادت کے بعد ذمہ دار ہو جا۔
- (۵۰) اللّٰهُمَّ اطوله البعید، وھون علیہ السفر . (ت)
یا اللہ تو سفر کی مسافت اس کے لئے سمیٹ دے اور سفر اس پر آسان کر دے۔
- (۵۱) اللّٰهُمَّ اغفر للصحابۃ، ولمن رأى من رآنی . (ط)
یا اللہ تو میرے اصحاب کو بخش اور جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کو بھی۔
- (۵۲) اللّٰهُمَّ انی اعودبک من عذاب القبر . (فر)
یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔
- (۵۳) اللّٰهُمَّ اکرم من اکرم علیا . (ط)
یا اللہ تو اس کی عزت کر جو علی کی عزت کرے۔
- (۵۴) اللّٰهُمَّ انی اعودبک من نفخۃ الکبریاء . (غز)
یا اللہ میں تکبر کی آڑوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

(۵۵) اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَدْلُ فِي قَضَائِكَ . (فر)

یا اللہ تو اپنی قضا میں عادل ہے۔

(۵۶) اللّٰهُمَّ اِنْ تَشَاءُ لَا تَعْبُدْ فِي الْاَرْضِ . قَالَهُ يَوْمَ اُحُدٍ . (حم)

یا اللہ اگر تو چاہے (کہ یہ مسلمان شہید ہو جائیں تو) تیری عبادت زمین پر نہیں کی جائے گی (یہ جنگ احد میں فرمایا)

(۵۷) اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْاَعْمِيْنِ . (فر)

یا اللہ میں اندھوں کی شرارت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

(۵۸) اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ . (حم)

یا اللہ جو خالد (بن ولید) نے کیا میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔

(۵۹) اللّٰهُمَّ اِنْ عَثْمَانَ يَتْرُضَاكَ فَارْضُ عَنْهُ . (کر)

یا اللہ عثمان تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا۔

(۶۰) اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْاَبْنَاءِهَا، وَاَبْنَاءِ اَبْنَائِهَا . (ط)

یا اللہ تو انصار اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو بخش دے۔

(۶۱) اللّٰهُمَّ اِرْزُقْنِيْ، اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ . (ض)

یا اللہ تو مجھے رزق دے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔

(۶۲) اللّٰهُمَّ اعْزِزْ الْاِسْلَامَ بِاَحْبَبِ الرَّجُلِيْنَ اِلَيْكَ . (ت)

اے اللہ ان دو مردوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسلام کو اس کے ذریعے عزت دے۔

(۶۳) اللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقْتِيْ وَرَجَائِيْ . (فر)

یا اللہ تو میری امید کی جگہ اور بھروسے کی جگہ ہے۔

(۶۴) اللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَهُ وَهَدَيْتَهُ، وَقَبَضْتَ رُوْحَهُ . (حم)

یا اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور ہدایت کی اور تو نے اس کی روح قبض کی ہے۔

(۶۵) اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ : (م)

یا اللہ تو میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

(۶۶) اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّ حَسِيْنًا فَاُحِبُّهُ، وَاُحِبُّ مِنْ يَحِبُّهُ . (حم)

یا اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس کے ساتھ محبت رکھ اور اس کے محبت سے بھی محبت رکھ۔

(۶۷) اللّٰهُمَّ اَهْلَ بَيْتِيْ، وَاَنَا مَسْتُودٌ عَنْهُمْ كُلِّ مُؤْمِنٍ . (کر)

یا اللہ میں اپنے اہل بیت کو ہر ایک مومن کے پاس امانت رکھتا ہوں۔

- (۶۸) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتَ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ . (م)
یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے جو جانتا ہو اور جو نہیں جانتا۔
- (۶۹) اللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِى اِذَا دَعَاكَ . (ت)
یا اللہ تو سعد کی دعا قبول کیا کر جب وہ تجھ سے دعا کرے۔
- (۷۰) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ . (خر)
یا اللہ میں عورت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔
- (۷۱) اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ ثَلَاثًا . (ط)
یا اللہ تو عبد القیس کو بخش دے۔ تین دفعہ فرمایا۔
- (۷۲) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى . (ط)
یا اللہ میں اپنی سماعت کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔
- (۷۳) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَاَسْرَافِهَا وَوَسْوَسِهَا . (فر)
یا اللہ میں اپنے شر نفس اور اس کے اسراف و وسوسا سے تیری پناہ لیتا ہوں۔
- (۷۴) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا . (ط)
یا اللہ میں تجھ سے علم نافع اور عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں۔
- (۷۵) اللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِى وَخَطَايَاى وَجَهْلِى . (حم)
یا اللہ تو میرے گناہ اور خطا اور جہالت کو معاف کر دے۔
- (۷۶) اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحْبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِى وَاَهْلِى . (نع)
اے اللہ! اپنی محبت کو میرے نزدیک میرے نفس اور گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔
- (۷۷) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ . (خر)
یا اللہ میں اہل نار کے حال سے تیری پناہ لیتا ہوں۔
- (۷۸) اللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا . (حم)
یا اللہ تو ثقیف کو ہدایت کر دے۔
- (۷۹) اللّٰهُمَّ احْفَظْ اَبِى قَتَادَةَ كَمَا حَفَظْتَنِى مِنْذُ اللَّيْلِ . (ط)
یا اللہ تو ابا قتادہ کی حفاظت کر جیسی رات بھر اس نے میری حفاظت کی ہے۔
- (۸۰) اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمَتَسْرُوْلَاتِ . (محاملی)
یا اللہ شلواری پہننے والیوں پر رحم فرما۔

- (۸۱) اللّٰهُمَّ اليك لا الى النار انا واهل بيتي . (ط)
يا اللّٰهُمَّ مجھ کو اور میرے اہل بیت کو اپنی طرف کھینچ نہ کہ دوزخ کی طرف۔
- (۸۲) اللّٰهُمَّ انت البر الجواد الکریم . (فر)
يا اللّٰهُمَّ تو نیک اور بخشنے والا اور کریم ہے۔
- (۸۳) اللّٰهُمَّ انک رب عظیم، لا یسعک شیء مما خلقت . (فر)
يا اللّٰهُمَّ تو عظیم رب ہے تجھ کو تیری مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں سما سکتی۔
- (۸۴) اللّٰهُمَّ انی أسألك باسمک الأعظم ورضوانک الأكبر . (فر)
يا اللّٰهُمَّ میں تجھ سے تیرے اسمِ اعظم کے اور تیری بڑی رضامندی کے وسیلہ سے مانگتا ہوں۔
- (۸۵) اللّٰهُمَّ انی أسألك فواتح الخیر و خواتمه و جوامعه . (ط)
يا اللّٰهُمَّ میں تجھ سے خیر کے اوائل اور اواخر اور تمام تر خیر کو طلب کرتا ہوں۔
- (۸۶) اللّٰهُمَّ انی أسألك نفسابک مطمئنة . (ط)
يا اللّٰهُمَّ میں تجھ سے ایسا نفس طلب کرتا ہوں جو تجھ سے ہی فرار پکڑے۔
- (۸۷) اللّٰهُمَّ انی أسألك الصّحة والعفة . (ط)
يا اللّٰهُمَّ میں تجھ سے صحت اور پاک دامنی طلب کرتا ہوں۔
- (۸۸) اللّٰهُمَّ انی أعوذ بک من الضیقة فی السفر، والکابة فی المنقلب . (م)
يا اللّٰهُمَّ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سفر میں تنگی اور واپسی میں غم سے۔
- (۸۹) اللّٰهُمَّ انی أعوذ بک من امرأة شیتنی قبل المشیب . (ط)
يا اللّٰهُمَّ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔
- (۹۰) اللّٰهُمَّ انی أعوذ بک من فتنة الأعور الکذاب . (ط)
يا اللّٰهُمَّ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھینگے کذاب (مرزا قادیانی) کی شرارت سے۔
- (۹۱) اللّٰهُمَّ انی أعوذ بک من سوء القضاء و جهد البلاء . (ق)
يا اللّٰهُمَّ میں تیری پناہ لیتا ہوں بری قضا اور سخت بلا سے۔
- (۹۲) اللّٰهُمَّ انی أعوذ بک من الشقاق والنفاق و ساء الأخلاق . (ق)
يا اللّٰهُمَّ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اختلاف اور نفاق اور برے اخلاق سے۔
- (۹۳) اللّٰهُمَّ انی أعوذ بک من سوء الأخلاق . (د)
يا اللّٰهُمَّ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے۔

(۹۴) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصْرِىْ . (حم)

یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنی سماعت اور بصارت کے شر سے۔

(۹۵) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ . (ك)

یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر اور فقر سے۔

(۹۶) اللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ ، وَعَلَّمَنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ (ط)

یا اللہ اس علم سے جو تجھ نے مجھے دیا ہے نفع دے اور وہ علم مجھے سکھا جو نافع ہو۔

(۹۷) اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَبَا بَكْرٍ مَعِىْ فِىْ دَرَجَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (نع)

یا اللہ ابو بکر کو قیامت میں میرے ساتھ ایک درجہ میں شامل کر۔

(۹۸) اللّٰهُمَّ اَمِّنْ رَوْعَتِىْ ، وَاَحْفَظْ اَمَانَتِىْ ، وَاَقْضِ دِيْنِىْ . (ك)

یا اللہ مجھے خوف سے امن دے۔ میری امانت کی حفاظت کر اور میرا قرض ادا کر دے۔

(۹۹) اللّٰهُمَّ اَصْحِ لِىْ سَمْعِىْ وَبَصْرِىْ . (خ)

یا اللہ تو میرے کان اور میری آنکھ تندرست رکھ۔

(۱۰۰) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتَّقٰى وَالعِفَافَ وَالْغِنٰى . (ش)

یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاکی اور غنا طلب کرتا ہوں۔

(۱۰۱) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ عَفْوً تَحِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّىْ . (ه)

یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا معافی پسند ہے مجھے معاف کر دے۔

(۱۰۲) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ الَّتِىْ ظَلَّهَا عَرْشُكَ . (فر)

یا اللہ میں وہ جنت تجھ سے مانگتا ہوں جس کا سایہ تیرا عرش ہے۔

(۱۰۳) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ ، وَتَضَعْ وَزْرِىْ . (ط)

یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا ذکر بلند اور گناہ دور کر دے۔

(۱۰۴) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ . (ت)

یا اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیاں ترک کرنے کا سوال کرتا ہوں۔

(۱۰۵) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ السَّدَادَ وَالْهُدٰى . (م)

یا اللہ میں تجھ سے راستی اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔

(۱۰۶) اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ النِّعَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ . (فر)

یا اللہ میں تجھ سے قیامت کی نعمت اور خوف والے روز میں امن کا سوال کرتا ہوں۔

(۱۰۷) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا، وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . (د)

یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تنگی دنیا اور تنگی روز قیامت سے۔

(۱۰۸) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ وَالْوَعْيِ . (ط)

یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شر اور جنگ سے۔

(۱۰۹) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . (ط)

یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔

(۱۱۰) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ . (طیا)

یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہونے سے۔

(۱۱۱) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ صَفْقَةِ خَاسِرَةٍ . (م)

یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نقصان والے عقد بیع سے۔

(۱۱۲) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ سَاعَةِ السُّوْءِ . (ط)

یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن اور برے وقت سے۔

(۱۱۳) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ . (ق)

یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے۔

(۱۱۴) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . (حم)

یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر فقیری اور عذاب قبر سے۔

(۱۱۵) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَيْدَمِ وَالتَّرْدِي وَالْفِرْقِ . (د)

یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دب کر مرنے اور ہلاکی اور غرق ہو جانے سے۔

(۱۱۶) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ . (طیا)

یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

(۱۱۷) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَجْعَلُكَ فِىْ نَحْوِ رَهِمٍ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ . (حم)

یا اللہ میں تجھ کو ان کے سینہ (مقابلہ) میں کرتا ہوں اور ان کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

(۱۱۸) اللّٰهُمَّ اِنِىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَيْشِ عَيْشِ الْاٰخِرَةِ . (ق)

یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

(۱۱۹) اللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ . (حم)

یا اللہ تو اپنے حلال کے ساتھ حرام سے بے پرواہ کر دے۔

- (۱۲۰) اللّٰهُمَّ الطّف بی فی تیسیر کل عسیر . (ط)
یا اللہ تو ہر ایک مشکل کے آسان کرنے میں مجھ پر مہربانی کر۔
- (۱۲۱) اللّٰهُمَّ اجعل أبابکر معی یوم القيامة فی درجتی . (حل)
یا اللہ ابوبکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں کر دے۔
- (۱۲۲) اللّٰهُمَّ اجعل حبك زیادة لی فی کل خیر . (م)
یا اللہ اپنی محبت کو میرے لئے ہر خیر میں اضافہ کا سبب بنا دے۔
- (۱۲۳) اللّٰهُمَّ اجعل سریرتی خیراً من علانیتی . (ت)
یا اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔
- (۱۲۴) اللّٰهُمَّ احفظ العلماء . (فر)
یا اللہ علماء کی حفاظت کر۔
- (۱۲۵) اللّٰهُمَّ ارحم عظمی الدقیق و جلدی الرقیق . (أبو)
یا اللہ میری باریک ہڈیوں اور نازک چمڑے پر رحم کرے۔
- (۱۲۶) اللّٰهُمَّ استرنی بالعافیة فی الدنیا والآخرة . (فر)
یا اللہ عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں میرا پردہ کر۔
- (۱۲۷) اللّٰهُمَّ اغفر ذنبی، ووسع لی فی خلقی . (حم)
یا اللہ میرا گناہ بخش دے اور میری خصلت میں فراخی کر۔
- (۱۲۸) اللّٰهُمَّ اغفر لأمتی ثلاثاً . (فر)
یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ دعائیں دفعہ فرمائی۔
- (۱۲۹) اللّٰهُمَّ اغفر لی وارحمنی، و ارحمنی بالرفیق الأعلى . (ق)
یا اللہ مجھ کو بخش دے مجھ پر رحم کر اور مجھ کو رفیقِ اعلیٰ سے ملا دے۔
- (۱۳۰) اللّٰهُمَّ بارک لأمتی فی بکورها یوم الخمیس . (ه)
یا اللہ تو میری امت میں جمعرات کی صبح سویرے میں برکت دے۔
- (۱۳۱) اللّٰهُمَّ بارک لأهل المدينة فی مدینتہم . (حم)
یا اللہ تو اہل مدینہ کے شہر میں برکت دے۔
- (۱۳۲) اللّٰهُمَّ بارک فی الجذامی . (ط)
یا اللہ تو جذامی میں برکت دے (جذامی سرخ رنگ کی کھجور یا ماہ میں ہوتی ہے)

(۱۳۳) اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي سَحُورِهَا . (قط)

یا اللہ میری امت کی سحری میں برکت دے۔

(۱۳۴) اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (فر)

یا اللہ جو تو نے ہم کو رزق دیا ہے اس میں برکت کر اور ہم کو آتش دوزخ سے بچا۔

(۱۳۵) اللّٰهُمَّ انِيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَيْلِ لَّاهِلِ النَّارِ . (ق)

یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ سے، جہنمیوں کے لئے ہلاکی سے۔

(۱۳۶) اللّٰهُمَّ انِيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ . (ط)

یا اللہ تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ جان بوجھ کر شرک کروں۔

(۱۳۷) اللّٰهُمَّ انِيْ ضَعِيفٌ، فَقُوْا بِرَجَائِكَ ضَعْفِيْ . (ط)

یا اللہ میں ضعیف ہوں اپنے متعلق میری امید سے میری ضعیفی قوی کر دے۔

(۱۳۸) اللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عَصْمَةٌ أَمْرِيْ . (م)

یا اللہ تو میرے دین کو صالح کر جس میں میرے تمام امر کی درستی ہے۔

(۱۳۹) اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْذِنِيْنَ . (سع)

یا اللہ تو مؤذِنوں کو بخش دے۔

(۱۴۰) اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيْحًا، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً (ه)

یا اللہ اس کو ہوا کر دے یا اللہ اس پر رحم کر دے۔

(۱۴۱) اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ، وَتَجَاوَزْ عَنِّيْ . (فر)

یا اللہ تو مجھ پر رحم کر اور مجھ سے درگزر کر۔

(۱۴۲) اللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِيْ، وَأَخْسِنِيْ شَيْطَانِيْ . (د)

یا اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو ذلیل کر دے۔

(۱۴۳) اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلْمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ . (د)

یا اللہ تو ابی سلمہ کو بخش اور اس کا درجہ بلند کر دے۔

(۱۴۴) اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغُرَقَدِ . (ع)

یا اللہ اہل مقبرہ بقیع الغرقد (جنت البقیع والوں) کو بخش دے۔

(۱۴۵) اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بَكُورِهَا . (حم)

یا اللہ میری امت کے صبح سویرے میں برکت کر دے۔

- (۱۴۶) اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي صَاعِهِمْ وَمَذْمِهِمْ . (حم)
یا اللہ تو ایلر...ینہ کے صاع اور مد (پیمانوں) میں برکت کر دے۔
- (۱۴۷) اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی آلِ فَاتِكْ كَمَا أُوُوا هَذَا الْمَصَابِ . (کر)
یا اللہ آل فاتک میں برکت کر جیسے کہ انہوں نے اس مصیبت زدہ کو جگہ دی ہے۔
- (۱۴۸) اللّٰهُمَّ حَبِيبِ الْمَوْتِ الِیْ مِنْ یَعْلَمُ اُنِّیْ رَسُوْلُکَ . (ت)
یا اللہ جو مجھے رسول جانے اس کے لئے موت کو پسندیدہ کر دے۔
- (۱۴۹) اللّٰهُمَّ خِذْ بِنُوْا صِیْ هَذِهِ الْاُمَّةِ الِیْ طَاعَتِکَ . (ط)
یا اللہ اس امت کی پیشانیاں (رخ) اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔
- (۱۵۰) اللّٰهُمَّ عَافِنِّیْ فِیْ بَصْرٰی . (د)
یا اللہ تو میری آنکھوں میں ماقیت رکھ۔
- (۱۵۱) اللّٰهُمَّ سِیْ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْیَا، وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ . (حم)
یا اللہ تو مجھے بلاء دنیا اور عذاب آخرت سے بچانا۔
- (۱۵۲) اللّٰهُمَّ عَلِّمْ مَعَاوِیَةَ الْکِتَابِ وَالْحِسَابِ، وَفِی الْعَذَابِ . (حم)
یا اللہ تو معاویہ کو لکھنا اور حساب سکھانا اور اس کو عذاب سے بچانا۔
- (۱۵۳) اللّٰهُمَّ قَدْ رَضِیْتُ عَنْ عَثْمَانَ ، فَارْضَ عَنْهُ ثَلَاثًا . (کر)
یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ (تین دفعہ فرمایا)
- (۱۵۴) اللّٰهُمَّ قِنِّیْ بِمَا رَزَقْتَنِّیْ ، وَبَارِکْ لِّیْ فِیْهِ . (م)
یا اللہ تو نے جو رزق مجھے دیا ہے اس پر قناعت عطا کر اور اس میں مجھے برکت دے۔
- (۱۵۵) اللّٰهُمَّ قِنِّیْ عَذَابِکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ . (د)
یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس روز بچا کہ جب اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔
- (۱۵۶) اللّٰهُمَّ مَقْلِبِ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِکَ . (حم)
یا اللہ لوگوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔
- (۱۵۷) اللّٰهُمَّ لَا تَخْزِنِّیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ . (حم)
یا اللہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہ کرنا۔
- (۱۵۸) اللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا . (فر)
یا اللہ کوئی امر آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرے۔

(۱۵۹) اللّٰهُمَّ بنعمتك تتم الصالحات . (فر)
یا اللہ تیری نعمت سے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔

(۱۶۰) اللّٰهُمَّ جوزہ علی الصراط . (ک)
یا اللہ تو اس کو پل صراط پر سے گزار دے۔

(۱۶۱) اللّٰهُمَّ صل علی المحلقین . ثلاثا . (نع)

یا اللہ (حج میں) سر منڈانے والوں پر رحم کر (یہ کلمہ تین دفعہ فرمایا)

(۱۶۲) اللّٰهُمَّ عافنی فی بدنی ، اللّٰهُمَّ عافنی فی سمعی . (س)
یا اللہ مجھ کو بدن کی سلامتی دے یا اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھ۔

(۱۶۳) اللّٰهُمَّ عثمان رضیت عنہ . فارض عنہ . (کر)
یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔

(۱۶۴) اللّٰهُمَّ فنی شر نفسی ، واعنی علی رشد امری . (ط)
یا اللہ مجھے شر نفس سے بچا اور میری نفس کی ہدایت پر امداد کر۔

(۱۶۵) اللّٰهُمَّ لك صمت ، وعلی رزقك افطرت . (ط)
یا اللہ تیرے لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔

(۱۶۶) اللّٰهُمَّ لا تجعلنی مع الأشرار . (فر)
یا اللہ تو مجھ کو شریروں کے ساتھ مت رکھنا۔

یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا هو

ولا موجود فی الکلونین لا مقصود الا هو
بجواز غیر حق یاری کہ لا فلاح الا هو
نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا مطلوب الا هو
بدات خود ہویدا حق کہ لا فی الکلون الا هو
ہو الواحد ہو المقصود لا موجود الا هو
ہو الہو ہو ہو الحق ہو نحو انم غیر الا ہو
ہموں یکرا بیک پویم نہ پویم غیر الا ہو
بی خوانم بی دانم ندانم غیر الا ہو

یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا هو
چوتیج لا بدست آری بیا تنہاچہ غمداری
بلا لا لاہمہ لاکن بگو اللہ واللہ جو
ہو الاول ہو الاخر ظہور آمد تجلے او
الا اے یار شوفانی مگو ثالث مگو ثانی
ہو الہو ہو ہو الحق ہو ندانم غیر لا ہو
کی گویم کی جویم دردل چوگل رویم
بگرد عالم چوگر دیدم ہو پسندیدم

منم غمخوار خود ہستم بجز یا ہو نہ درد ستم دل و جاں را بہ ہو بنستم نہ بستم غیر الا ہو

(حضرت سلطان باہو علیہ الرحمۃ)

الحمد لله اوله والحمد لله اخره

قرآن کی ابتداء الحمد سے کیوں فرمائی۔ اس کی چند توجیہات ہیں۔

1- حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو آپ نے فرمایا: الحمد لله رب العالمین تو معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا تو اسی مناسبت سے رب تعالیٰ نے اپنا کلام اس سے شروع فرمایا۔

2- اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اے مسلمانوں اپنے ہر کام کو اللہ کی حمد سے شروع کرو کیوں کہ رب نے اپنے کلام کو اس سے شروع فرمایا ہے۔

3- خصوصاً جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہو اس سے مدد مانگنی ہو تو اس سے پہلے اللہ کی حمد ضرور کرنی چاہئے کہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ کل کلام لا یبدؤ فیہ بالحمد لله فهو اجزم۔ (ابوداؤد و الترمذی و نسائی و ابن ماجہ)

کہ ہر کام جس کی ابتدا الحمد سے نہ کی جائے وہ نامکمل ہے

اسی طرح حدیث پاک میں ہے ”کل امر ذی بال لا یبدؤ فیہ بسم الله الرحمن الرحیم اقطع“ (نبراس)

”ہر وہ اہم کام جس کی ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم سے نہ ہونا مکمل ہے۔ کل کلام لا یبدؤ فیہ بالصلوة علی

فهو اقطع۔ (نبراس)

ہر وہ کلام جس کی ابتدا مجھ پر درود پڑھ کر نہ ہونا مکمل ہے تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ ہر کام کو بسم الله سے الحمد سے اور آپ

صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر شروع کرنا چاہئے خواہ دفتر کا کام ہو، گھر کا ہے، دینی ہو، دنیاوی ہو، اذان ہو، دعا ہو، اقامت ہو۔

بعض کہتے ہیں کہ ”الحمد لله“ پر الف لام عہدی ہے یعنی مخصوص حمد مراد اس سے وہ حمد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی

حمد کی اس لئے کہ بندہ اس پاک ذات کی کامل حمد کرنے سے عاجز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

”لا احصى ثناء عليك انت کم اثنت علی نفسك“

”مولا میں تیری ویسی حمد نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی حمد کی ہے۔“ بعض کہتے ہیں الف لام جنس کا ہے یعنی مطلق جنس حمد اللہ

کے لئے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ الف لام استغراق کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمام تعریفیں تمام کرنے والوں کی تمام اوقات اللہ کے لئے

خاص ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الف لام خواہ جنسی ہو یا استغراقی ہو دونوں کا مال یعنی نتیجہ ایک ہے۔

المختصر جب الف لام استغراق کا لیں گے تو مراد حمد کے تمام افراد ہوں گے کہ حمد اللہ کی کی جاتی ہے یا مخلوق خدا کی اگر اللہ کی حمد

ہوگی تو یہ بلا واسطہ اللہ کی حمد ہوئی اور اگر مخلوق کی حمد ہوگی تو یہ بھی بالواسطہ حقیقت میں اللہ کی حمد ہوئی کہ مصنوع کی حمد صانع کی حمد ہے

کہ اگر کوئی کسی کاریگر کے ہاتھ کی بنی ہوئی کرسی کی تعریف کر لے تو حقیقت میں اس کاریگر کی تعریف ہے۔

جب حمد میں عموم پایا گیا تو حمد کرنے والوں میں بھی عموم آ گیا اسی لئے ہم نے کہا کہ تمام حادثین کی تمام تعریفیں اور یہ الف لام

اسم پر داخل ہوتا ہے اسی وجہ سے الحمد للہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ دوام استمرار پر دلالت کرتا ہے تو اس لئے ہم نے معنی کئے تمام اوقات میں اللہ کے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اسی لئے قرآن میں ہے: **وان من شیء الا یسبح بحمدہ ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔** تو یہ تمام فائدے اعلیٰ جو ہر صرف ایک کلمہ الف لام سے حاصل ہو رہے ہیں۔

تسبیح کبھی فعل سے ہوتی ہے کبھی اعتقاد سے کبھی قول سے کبھی اعضاء کے ذریعے، اشاروں سے کبھی دلالت حال سے تسبیح بدلاتہ الحال تسبیح قہری واضطراری یعنی بغیر اختیار کے تسبیح کو بھی شامل ہے یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ یا تو اپنی زبان سے اس کی پاکی بیان کرتا ہے یا اپنے اعتقاد سے کہ اس ذات واجب الوجود کو تمام عیوب سے پاک سمجھتا ہے یا اپنے اعضاء سے اس کی پاکی بیان کرتا ہے بلکہ ہر شیء کا نفس وجود ہی اس ذات کی کمال حمد و پاکی پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے ہر شیء کو کس قدر اس طریقے سے پیدا کیا تو وہ پیدا کرنے والی ذات کتنی بے عیب ہوئی۔

لہذا فرمایا: **وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقہون تسبیحہم۔** گویا کہ یوں کیا جا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری پاکی بیان کرتا ہے یہاں تک کہ اے غافل انسان تیرا وجود بھی میری پاکی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے مگر تم ہر ایک کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔

یہاں ایک اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کرتی درخت اور حیوانات بھی اور جو حیوان اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے اور جو درخت ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ جانور مرنے اور درخت کٹنے کے بعد کیسے تسبیح کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہر شیء میری تسبیح کرتی ہے تو جواب یہ ہوا کہ مرنے اور کٹنے سے ان کی تسبیح اختیاری جاتی رہی مگر تسبیح قہری واضطراری جو دلالت حال سے ہوتی ہے وہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ واللہ اعلم بالحق۔ پھر یاد رہے کہ حمد سے پانچ اسماء وجود میں آتے ہیں

- 1- حامد حمد کرنے والا
- 2- محمود۔ جس کی حمد کی جائے
- 3- احمد۔ سب سے زیادہ حمد کرنے والا
- 4- حمید۔ بہت زیادہ حمد کرنے والا
- 5- محمد جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو

آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ محمد کے معنی میں مبالغہ ہے محمود میں نہیں؟ حالانکہ محمد حضور علیہ السلام کا نام ہے اور محمود اللہ تعالیٰ کا۔ عقل تو کہتی ہے اس کا الٹ ہو۔

اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد سرکار نے کی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اللہ نے اور اللہ کی حمد سرکار کی حمد سے زیادہ ہے اس لئے محمد کے معنی ہیں جس کی بار بار حمد کیا جائے۔

جمعہ کے خطبہ میں حمد پڑھنا واجب ہے دیگر جائز مقامات یہ حمد کرنا مستحب ہے چھینک آنے کے بعد الحمد للہ کہنا سنت ہے اور اس کے جواب میں ہر حکم اللہ سے جواب دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے دے کہ چھینک والے کو آواز آجائے۔

آج لب پر تو تیری حمد و ثناء آئی ہے
تری رحمت کا عطیہ مری گویائی ہے

کون ہے جس کی تمنا نہیں بر آئی ہے
ما سوا تیرے کسے دعویٰ یکتائی ہے
لاکھ پردوں سے ظاہر تری رعنائی ہے
نہ پذیرائی کسی کی نہ شکیبائی ہے
چادرِ نور سے سمٹی ہوئی تنہائی ہے
ورنہ محشر میں مری کس سے شناسائی ہے

شریف امر دہوی

تری سرکار میں ہر ایک کی شنوائی ہے
آئینہ آئینہ ہے جلوہ پنہاں کا جواب
تو حجابوں میں نہاں ہو کے بھی ہر سو ہے عیاں
شاملِ حال نہ ہو تیری عنایت جب تک
باعثِ روشنیِ دل ہے تجلی تیری
تری رحمت کا سہارا لئے آیا ہے شریف

لفظ اللہ کی تفسیر

لفظ ”اللہ“ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے بعض کہتے ہیں کہ لفظ اللہ علم ہے اور بعض کہتے ہیں
اسم ہے علم مفہوف جزئی کے لئے ہوتا ہے اور اسم مفہوم کلی کے لئے ہوتا ہے اور جمع یہ ہے کہ یہ علم ہے۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ کے تین ہزار نام ہیں جن میں سے ایک ہزار ملائکہ کو ایک ہزار انبیاء علیہم السلام کو معلوم ہیں تین سو نام
تورات میں تین سو نام انجیل میں ہیں اور تین سو زبور میں ننانوے نام قرآن پاک میں ہیں اور ایک نام کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے
لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو تین نام آئے ہیں ان میں تین ہزار کے معنی پائے جاتے ہیں لہذا جس نے ان تین ناموں سے حق
تعالیٰ کو یاد کر لیا گویا کہ اس کے تمام ناموں سے یاد کر لیا ان ناموں میں سے صرف اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے باقی اسما صفاتیہ ہیں۔

جس طرح لوگ اس ذات کو سمجھنے میں حیران ہیں اسی طرح اس کے نام کی حقیقت کو سمجھنے میں بھی حیران ہیں۔ بعض علماء کہتے
ہیں کہ یہ مشتق ہے یعنی کسی دوسرے لفظ سے بنایا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ مشتق نہیں۔ پھر مشتق کہنے والوں میں سے بعض کہتے
ہیں کہ لفظ اللہ الہ سے بنا ہے جس کے معنی سکون اور چین اور قرار کے ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے سب کو چین اور قرار آتا ہے اسی لئے
اس کا نام اللہ ہے یا اس لئے کہ ممکن چیز واجب پر ختم ہوتی اور قرار پکڑتی ہے تو تمام عالم کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا
لیکن اللہ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ وَلَّہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حیرانی
چونکہ تمام مخلوق اس کی ذات و صفات میں حیران ہے محرومین تو جہالت کی تاریکیوں میں پھنسے ہیں (اور واصلین الی اللہ بجز تجلیات)
نورانی کچھ نہ پاسکے اور اس کی حقیقت کو نہ پہنچ سکے۔

بعض کہتے ہیں کہ لآء سے مشتق ہے جس کے معنی میں بلندی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند و بالاتر ہے اس
لئے اس کو اللہ کہتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ لآء میں حجاب کا معنی پایا جاتا ہے چونکہ اللہ کی ذات نظر، گمان، وہم و خیال و عقل سب سے وراء ہے اس
لئے اس کو اللہ کہتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ بمعنی عاجزی و زاری کرنا سے بنا ہے چونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کرتے ہیں

لہذا سے اللہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لفظ اللہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں (گھبر کر آنا) چونکہ تمام مخلوق ہر مصیبت میں آخر کار رب کی طرف پناہ پکڑتی ہے اس لئے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ (تفسیر نعیمی دہلوی)

یاد رکھیں کہ بعض اسماء جو اللہ عزوجل کے لئے مخصوص ہیں جیسے اللہ، قدوس، رحمن، قیوم وغیرہ ان کا اطلاق غیر پر کفر ہے۔ دیگر اسماء جو اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ان کا اطلاق غیر پر کفر نہیں جیسے عزیز، رحیم، کریم، عظیم، علیم وغیرہ کیونکہ ان کا اطلاق غیر پر بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤف ورحیم کہا گیا ہے مگر پھر بھی ادباً غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور بعض اسماء کے متعلق اختلاف ہے جیسے قدیر، مقتدر وغیرہ۔

مطلب یہ کہ عبد اللہ کو اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ ہی کہیں گے عبد الرحمن کو رحمن نہیں بلکہ عبد الرحمن ہی کہیں گے اسی طرح عبد الوحید، عبد الرؤف وغیرہ قیاس کر لیں۔ جیسا کہ یہ بحث مجمع الملائم میں ہے۔

علی المخلوق من الاسماء المختصه نحو القدوس والقیوم والرحمن وغیرہ

اللہ توں رحمن رحیم ملک قدوس نیارا	توئیں سلام مہین مومن جبارا ستارا
توں غفار قہار تے باری توں وہاب مصور	توں عزیز علیم تے فتاح خالق بھی متکبر
خافض قابض رافع باسط توں اول توں آخر	توئیں معز نذل مقدم واسع حق مؤخر
ولی حلیم تے عدل حکم توں واجد ماجد والی	علی حکیم عظیم صد اس احد سمیع متعالی
برلطیف خبیر تے باعث رب تواب تے قادر	غنی حمید تے محسی مبدی توں باطن توں ظاہر
پاک کبیر حفیظ تے جامع نور رقیب الہی	مقیمت حسیب جلیل تے مالک ہتھ تیرے بادشاہی
معنی اتے وودود توی توں حی قیوم تے ہادی	وارث کل کریم تے باقی ہر جاہ تہ منادی
توں رزاق غفور تے مانع توں شہید تے پیارا	توئیں شکور مجیب تے واحد بدیع رشید پیارا
نافع ضار صبور متین اے بے حد نہ تیری	صفت مجید رؤف تیری ہے حل کر مشکل میری
توئیں وکیل معید خدایا نام ہے مقسط تیرا	مھی اتے ممیت الہی بے پرواہ رب میرا
مقتدر تے منتقم بھی صفت تیری ہر جائیں	فضل کرم تھیں یوسف تا کیں سدھے راہ چلائیں

اے برتر از خیال وقیاس وگمان وہم
وزہرچہ گفتہ ایم شنیدیم وخواندہ ایم
دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر
ما بچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

(حضرت سعدی شیرازی)

عقائد اہلسنت (توحید باری تعالیٰ)

صانع عالم جل مجدہ واجب الوجود ازلی وابدی ہے۔ اس کا کوئی مثال نہ ذات میں ہے نہ صفات میں۔ تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل وپرتو ہیں۔

وجوب وجود استحقاق عبادت خالقیت باختیار خود تدبیر کائنات کلی وجزوی اس کی ذات مقدس سے مختص ہیں۔ حیوۃ، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ صفات ذاتیہ حق سبحانہ کی ہیں۔ ان سب سے ازلہ متصف ہے۔ باقی صفات فعلیہ نفسیہ سلبیہ اضافیہ ہیں۔

کائنات کو خلعت وجود بخشنے سے پیشتر ویسا ہی کامل تھا جیسا بعد میں۔ (الان کما کان) شفاء مریض، عطاء رزق، ازالہ تکالیف و مصائب بطور استقلال وخلق اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ طبیب بادشاہ و دیگر اسباب ظاہری و باطنی مثل دعا و ہمت انبیاء و اولیاء بہ عطاء الہی بطور تسبب امور مذکورہ کے منسوب الیہ ہوتے ہیں۔

حکیم علی الاطلاق کی صفت حکمت کا تقاضہ ہے کہ یہ صفات و افعال الہیہ در پردہ اسباب ظہور فرماتے ہیں جیسا کہ بدلیہ معلوم ہے کہ بے شمار معاش و تدابیر مہمات و مدافعت مظاہر رزاقیت و غیرہ صفات قدیمہ کے ہیں ایسا ہی شرعاً و کشفاً ثابت ہے کہ مقربان درگاہ حق کی دعا و ہمت و برکت و جودات مبارکہ مظہر فیضان عنایت الہی ہے۔ صرف اسباب کو مد نظر رکھنا اور مسبب جل شانہ کی قدرت کاملہ کا نہ ماننا یا قدرت کاملہ کو بعض اسباب میں ہی منحصر و محدود کرنا کفر ہے اور اسباب کی کلیہ نفی کرنا ابطال حکمت قدیمہ کے علاوہ سعادت دین و دنیا سے محروم رہنا ہے اور اسباب ظاہری و باطنی (اولیاء مقربین) کو جلوہ گاہ صفات الہیہ مان کر ان سے مستفید اور مستفیض ہونا بصیرت اور کمال ایمان کا نشان ہے۔

جو ہر عرض، جسم، مکان، زمان، جہت، انتقال، تبدیل ذاتی و صفاتی، جہل، کذب، ممکنات سے مختص ہیں۔ ذات حق پر یہ سب مجال بالذات ہیں۔

استواء علی العرش، صُحک، وجہ ید و غیرہ صفات منصوصہ کذائی مثل صفات ثمانیہ سمع، بصر، علم، ارادہ، کلام، قدرت، حیوۃ، تکوین، بے چون و بے چگون ہیں۔

ادراک حقیقۃ الہیہ میں انبیاء و اولیاء عاجز ہیں۔ تجلیات ذاتی و صفاتی و اسمائی، نصیب انبیاء و اولیاء حسب مراتب دنیا میں ہوتی ہیں۔ رویت ذات حق آخرت میں اہل جنت کے لئے ثابت ہے لیکن بلا کیف و بلا جہت۔

اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال و اعمال کا خالق اور مرید ہے۔ (یعنی ارادہ فرمانے والا) لیکن راضی بالکفر و المعصیت نہیں ہے۔ تمام خیر و شر خالق کل جل شانہ کے ارادہ و خلق و تقدیر سے ہے جو ازل میں مقرر ہو چکا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے لیکن راضی صرف

خیر پر ہے۔

تقدیر سے بندہ مجبور نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیکی اور بدی کا راستہ بتا کر اپنے اپنے افعال میں گو نہ اختیار دیا ہے۔ جس کے سبب انسان اور حجر و شجر میں فرق بدیہی ہے جسے اصطلاحاً کسب کہتے ہیں۔ اسی کسب کے سبب وہ جزا اور سزا کا مورد ہے۔ جبر جو منافی جزا ہو اور قدر جو شرکت شے کی خالقیت میں قادر مطلق پیدا کرے باطل ہے۔ زیادہ خویش و بخت اس مسئلے میں ممنوع ہے۔ امور مذکور پر ایمان لانا باعث نجات ہے اور ان کا انکار ہلاکت پس عقلمندی و سعادت یہ ہے کہ حصول نجات کی فکر ہو۔ بے نیاز ہے کسی کا اس پر حق نہیں ہے مگر جو اپنے فضل سے وعدہ فرمائے وہ ضرور وفا فرماتا ہے۔

اس کے تمام افعال حکمت و مصلحت پر مشتمل ہے۔ لیکن اس سے کوئی غرض یا نفع عائد بذات مقدس نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے فتح و ظلم و سفہ و عبث سے اس کے افعال منزہ ہیں۔

افعال کا باعث ثواب و عقاب اخروی ہونا صرف اسی کے حکم سے ہے۔ اس میں عقل کو دخل نہیں ہے، بعض کی حکمت کو عقل ادراک کر سکتی ہے اور اکثر میں اخبار انبیاء علیہم السلام کی محتاج ہے۔

مومن کو دین پر انشراح عطا فرمانا اور اسے قبول کرنا اور اس کے موافق اعمال و احسان کی توفیق عطا فرمانا اس کا فضل ہے اور کافر کو صرف عقل و حواس عطا فرمانا کر تبلیغ انبیاء کا اس کے ذہن پر واضح فرمانا اور توفیق سے محروم رکھنا جناب رب العزت کا عدل ہے۔ صفت عدل و فضل کی چھ صورتیں ہیں۔ جن کا اعتقاد کرنا مومن پر فرض ہے۔

- 1- حق سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔
- 2- کسی کے اعمال حسنہ سے ذرہ بھر نقصان نہیں فرماتا۔
- 3- کسی کو بغیر گناہ عذاب نہیں فرماتا۔
- 4- اس کا فضل ہے کہ اپنے مسلمان بندوں پر جو مصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے لئے اجر رکھتا ہے۔
- 5- کسی کو طاقت یا معصیت پر جبر نہیں فرماتا۔
- 6- فوق الطاق کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

ہر ایک صفت الہی بالذات واحد ہے اور بحسب التعلق غیر متناہی متعلقات حادث ہیں اور اس کی صفات قدیمہ ہیں۔ حق سبحانہ کے بہت سے نام ہیں جن کی خبر اس نے اپنے کلام پاک میں دی ہے۔ اہلسنت کے نزدیک دعاؤذ کر الہی انہیں اسماء سے ہونا چاہیے جو شرع مطہرہ میں وارد ہیں یہ سب اسماء کلام الہی کی مانند قدیم ازلی وابدی ہیں اور عباد کا اپنی زبان پر لانا یا لکھنا حادث ہے۔

اہلسنت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کفر ہے۔ وحدت وجود حسب تقریر محققین حق ہے۔ شریعت حقہ کے کسی اصل کے منافی نہیں ہے فرق مراتب و حفظ احکام ضروری ہیں جو صفات مستلزم مرتبہ الوہیت کے ہیں اور ان کا مراتب سافلہ پر اطلاق کرنا اور بالعکس کفر ہے۔ جس طور پر یہ مسئلہ اکابر پر مکشوف ہوا ہے اور اولیاء متشرعین نے حتی الامکان بیان فرمایا ہے۔ بحفظ حدود شرعی اس پر اعتقاد رکھنا باعث تکمیل ایمان اور اس کا انکار خسران و حرمان ہے۔

شُرک اور اس کی حقیقت:

شُرک و کفر بلحاظ نتیجہ متحد ہیں۔ دونوں کا مرتکب ابدی عذاب کا مستحق ہے۔

حقیقت شُرک یہ ہے کہ غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت مانا جائے اور اس کے امارات سے یہ ہے کہ بندگان حق تعالیٰ اور محبوبانِ الہی کی ان قابلِ عظمت و صفات کو جو عام بنی نوع میں مفقود ہیں۔ (مثلاً کشف بلا و شدت، استجاب دعا، تاثیر، تسخیر وغیرہ) صفات جناب باری تعالیٰ (سبحنہ، سبحنہ، سبحنہ) کے برابر خیال کیا جائے (نعوذ باللہ تعالیٰ) اور بنا بریں نہایت عجز و نیاز کے افعال ان کے سامنے اسی نیت سے ادا کئے جائیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ وہ معبود ہیں۔

اللہ تعالیٰ جو کسی مخلوق کو کوئی کمال عطا فرماتا ہے تو اس کے متعلق صرف یہ اعتقاد مومن ہونے کے لئے کافی نہیں کہ یہ کمال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اتنی بات تو مشرکین بھی اپنے معبودوں کے حق میں تسلیم کرتے تھے بلکہ مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ عطاءے خداوندی کا عقیدہ رکھتے ہوئے یہ اعتقاد بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمال کسی مخلوق کو عطا فرمایا ہے وہ عطا کے بعد حکم خداوندی ارادہ اور مشیت ایزدی کے ماتحت ہے۔ ہر آن خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ معلق ہے اور اس بندے کا ایک آن کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز اور مستغنی ہونا قطعاً محال اور ممتنع بالذات ہے۔

شریعت حقہ شُرک کو رفع فرماتی ہے اور صفات عباد و صفات ربوبیت میں ماہ الامتیاظ ظاہر فرمانا بعثت رسل کا مہتمم بالشان مقصد ہے۔ خواص عباد کی صفات مذکورہ کو باطل نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ ان کی حقیقت واقعہ کا اظہار ہے جس سے کہ صفات ربوبیت کی برتری و تقدس ظاہر ہوتا ہے۔

عبادت کے معنی حد درجہ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ مفسرین کرام اس کی مثال سجدہ سے دیتے ہیں حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت التیحات میں دوزانوں بیٹھنا، سلام دائیں بائیں منہ پھیرنا یہ سب عبادت ہے۔ اگر عبادت صرف عاجزی و انکساری کے آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا اپنے باپ کی عبادت کی یا ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ حاشا و کلا پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہے اور یوں کھڑے ہونے کو (ہاتھ باندھے ہوئے یا کھولے ہوئے) اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تدلل و انکساری کے آخری مرتبہ تک پہنچا دیتی ہے اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایت خضوع ہے اور نہ ہی عبادت سے متصور ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جس ذات کے لئے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں غایت تدلل خضوع پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں نہ خدا نہ خدا کا بیٹا نہ اس کی بیوی نہ اس کا اوتا تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں آپ ان کو احترام اور اجلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں۔ البتہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں غیر خدا کے لئے سجدہ تعظیسی بھی حرام ہے۔

نبوت و ولایت:

محبوبیت و شفاعت جو کہ تمام ادیان و شرائع میں خواص بشر کے لئے ثابت کی گئی ہے اس کو ایسا منصب خیال کرنا جس سے عبد خود مختار ہو کر تصرفاتِ البیہ کو (معاذ اللہ) مزاحمت سے روک سکے شرک ہے اور رضائے الہی اور اس کی اجازت پر موقوف سمجھنا ہے اور اس میں درحقیقت عنایتِ البیہ کا ظہور جاننا عین ایمان و توحید ہے۔

ایسا ہی خوارق و کرامات اولیاء و اشراقِ باطنی سے ان کو مغیبات پر بلا ذریعہ عطیہ الہی تسلیم کرنا شرک ہے اور بذریعہ قوائے روحانی..... جو انبیاء و اولیاء کو عطا ہوتی ہیں ان امور کا بتعلیم اللہ تعالیٰ و بعطا اللہ تعالیٰ مظہر تسلیم کرنا عین ایمان ہے۔

صفات عبودیت کو صفات ربوبیت میں شریک کرنے والا شرک ہے اور ان کا مطلقاً منکر گمراہ اور مبتدع ہے اور ہر ایک کے حقوق پر نگاہ رکھنے والا صراطِ مستقیم پر ہے۔

اسلام و ایمان کا رکن اعظم جس کے بعد کسی حالت میں بندہ مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات ثابتہ بالنص الصریح کی تصدیق قلبی و اقرار لسانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ظاہری و باطنی سے ہر حالت میں متصف رہنا تمام اعمال و عبادات کی قبولیت کا اصل اصول ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیائے کرام سے افضل اور سب کے سردار ہیں۔

میشاق توحید الہی و ربوبیت ذات حق جیسا تمام بنی آدم سے لیا گیا ویسا ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تعظیم کا انبیاء سے مؤکد طور پر عہد لینا باخبر الہی منصوص ہے۔

(الف) آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاتم النبیین کے یہی معنی ضروریاتِ دینیہ سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں۔ اس معنی کو نا سمجھ لوگوں کا خیال بتانا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت ملنی واقع یا جائز کہنا کفر ہے۔

(ب) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اقدس تمام مخلوقات کے علم سے اوسع ہے کسی مخلوق کے علم کو علم اقدس سے زیادہ وسیع کہنا کفر ہے۔

(ج) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض علم غیب ان کے رب کریم جل جلالہ نے عطا فرمایا انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین علیہم الصلوٰۃ والسلام و جملہ آلین و آخرین کے جمیع علوم کا مجموعہ اور لوح محفوظ میں قلم قدرت کا لکھا ہوا سارا علم ماکان و ما یكون اس کا جزو ہے۔ اس کو یوں کہنے والا کہ اس میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ ہر جانور ہر چار پائے کو بھی حاصل ہے قطعاً کافر ہے۔

تمام انبیاء بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جسے ظاہر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نیابتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کے عہدے پر ممتاز ہوئے ویسے ہی انبیاء کرام باوجود

خلعت نبوت و افضلیت مادون الانبیاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی شریعت کے نافذ فرمانے والے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع اور محبت فرض ہے اس کے ترک پر عذاب الیم کی وعید منصوص ہے۔

1- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع سنت اقوال و افعال میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی تعمیل۔

2- زبان اور دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔

3- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پاک کا مشتاق ہونا۔

4- دل، زبان اور بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔

5- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا اور ان سے بغض رکھنے والے سے بغض رکھنا۔

6- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تارک کو برا سمجھنا..... علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم

جیسا کہ ہر ایک مومن پر ظاہری زیارت کے وقت فرض تھی ویسا ہی اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فضائل اور نام

مبارک سنتے وقت لازم اور ضروری ہے۔ ان کا بوقت ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجالانا تقاضائے ایمان ہے اور چونکہ مجالس

میلا د میں قیام کرنا عشاق درگاہ کا معمول ہو گیا ہے پس ان کا انکار روش سلف کا انکار ہے اور بے بنیاد تعصب ہے۔

جو ممکنات و مخلوقات احاطہ ربوبیت الہیہ میں داخل ہیں۔ سب کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں، پس کوئی حصہ مخلوقات آپ

کی دعوت سے خارج نہیں ہو سکتا۔

جیسا کہ واحد عددی کا بحیثیت اولیت ثانی یا ثالث ہونا محال ہے۔ ویسا ہی بحیثیت عموم دعوت مذکورہ و اولیت خلق و ختم نبوت

و افضلیت مطلقہ و خلافت کبریٰ و اولیت فی الشفاعۃ و فی دخول الجہنم و اصلت فی کل فضل و وساطت فی کل نعمۃ و غیر ہا صفات کثیرہ

ناممکن الاشتراک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال اور ممتنع ہے۔

حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدسہ بلحاظ جسمیت معروض بعض عوارض بشریہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت

اوصاف بشری سے برتر اور تغیر آفات و عیوب و نقائص بشری سے منزہ اور ضعف انسانی سے مبرا اور اعلیٰ صفات ملکیہ سے متصف

تھی۔ پس آپ کا علم باللہ و صفاتہ قبل بعثت و بعد بعثت تمام عیوب و نقائص، شک و جہل و غیرہ سے مبرا و منزہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیتیں ہیں اول ظاہر باعتبار صورت بشری دوم ملکی سوم وہ مرتبہ جس کو خدا ہی جانتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت نور سے ہے اور بشریت ایک لباس ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب چاہے اپنی حکمت کے

مطابق بشری احوال کو نورانیت پر غالب کر دے اور جب چاہے نورانیت کو احوال بشری پر غلبہ دے۔

جو بشریت عیوب و نقائص بشریت سے پاک ہو اس کا ہونا نورانیت کے منافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

نور سے مخلوق فرما کر مقدس اور پاکیزہ بشریت کے لباس میں مبعوث فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک یعنی ذات مقدسہ کو اپنے نور یعنی اپنی ذات مقدسہ سے پیدا فرمایا ہے۔

اس کا معنی یہ نہیں کہ ”معاذ اللہ“ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مادہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ہے؟ جس ناواقف شخص کا یہ اعتقاد ہو تو اسے تو بہ کرنا فرض ہے۔ اس لئے کہ ایسا ناپاک عقیدہ خالص کفر و شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذاتی تجلی فرمائی جو حسن الوہیت کا ظہور اول تھی بغیر اس کے ذاتِ خداوندی نور محمدی کا مادہ یا حصہ اور جز قرار پائے یہ کیفیت متشابہات میں سے ہے۔ جس کا سمجھنا ہمارے لئے ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر متشابہات کا سمجھنا۔

آثار شریفہ و آثار سلف الصالحین کی تعظیم ضروری ہے اور ان کو ذریعہ اجابت دعا خیال کرنا صدق ایمان کی نشانی ہے۔ یہ نسبت علوم اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اعلیٰ و اکمل ہے اور آخر عمر شریف تک ملکوت سماوی وارضی و تمام مخلوقات و جملہ اسمائے حسنہ و آیات کبریٰ و امور آخرت و اشراط ساعت و احوال سعداء شقیاء و علم ما کان و یکون پر آپ کا علم محیط ہو چکا ہے۔ تمام علوم بشریہ و ملکیہ سے آپ کا علم اشمل و اکمل ہے۔

علم خالق و علم مخلوق:

علم الہی اور آپ کے علم میں امور ذیل فارق ہیں۔

- 1- علم الہی غیر متناہی بالفعل اور محیط ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی بالفعل و غیر متناہی بالقوة اور محاط ہے۔
- 2- علم الہی بنا ذرائع و وسائل ازلی وابدی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بذریعہ وحی الہام، کشف، منام و وسط حواس و بصیرت مقدسہ حادث ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ ہم جمیع غیوب غیر متناہیہ کا علم ثابت کرتے ہیں نہ جملہ معلومات الہیہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، مماثلت و مساوات کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ علم الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل ہے۔ علم خلق عطائی، علم الہی ذاتی، جب خالق و مخلوق، مالک و مملوک، حادث و قدیم، واجب و ممکن، متناہی و غیر متناہی، مساوی نہیں تو علم عطائی و ذاتی میں مساوات کیونکر ہو سکتی ہے؟

اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق لفظ ”کل“ دیکھیں تو اس سے کل غیر متناہی نہ سمجھیں بلکہ کل مخلوقات (جو متناہی ہے) اور اس کے علاوہ معرفت ذات و صفات کا علم کہ وہ بھی بالفعل متناہی ہے جو ہماری مراد ہے ورنہ علم الہی کی بہ نسبت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ”کل“ نہیں کہتے۔ کیونکہ علم الہی محیط الكل اور غیر متناہی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخبار و اقوال متعلق دین و دنیا صادق اور حق ہیں۔ شک و وہم و جہل نقائص و مداخلت شیطانی سے منزہ و مبرا ہیں۔

ملک و اختیار:

ملک و اختیار بالاستقلال تو خاصہ خداوندی ہے اور ملک و اختیار ذاتی کسی فرد کے لئے ثابت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار

اور اس کی عطا کی ہوئی ملک عام انسانوں کے لئے دلائل شرعیہ سے ثابت ہے اور یہ ایسی روشن اور بدیہی بات ہے کہ جس کے تسلیم کرنے میں کوئی محبوط الحواس بھی تامل نہیں کر سکتا چہ جائیکہ سمجھ دار آدمی اس کا انکار کرے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں علی الاطلاق یہ کہہ دینا کہ وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، شانِ اقدس میں صریح توہین ہے اور تمام نصوص شرعیہ اور اولیٰ قطعہ کے خلاف ہے جن سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ملک اور اختیار ثابت ہوتا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے قاسم خزائن الہیہ ماننا ان مسائل مہمہ سے ہے کہ جن کا تعلق عظمت نبوت و رسالت سے ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو ان مسائل کو شریک قرار دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک نعماء الہیہ ہونا ثابت ہے۔

اس عقیدہ کو شرک کہنے والے اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ اذن الہی اور عطا خداوندی کے ساتھ شرک کا تصور جمع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خزائن نعمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے اور ان میں اپنی حکمتوں کے مطابق تصرف کا اذن دینے پر قادر ہے اور ہر مقدور ممکن ہے اور امر ممکن کا اعتقاد کسی حال میں شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک جب ہی ہوگا کہ ان امور میں مجال ذاتی کا اعتقاد ہو۔ جیسا کہ عطاء الوہیت متمنع عقلی اور مجال بالذات ہے۔ لیکن اپنی نعمتوں کے تقسیم کرنے کا اذن دینا تو مجال نہیں بلکہ امر واقعی بلکہ شاہد ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اختیار کی نفی دلائل سے لوگ ثابت کرنے کی سعی مذموم کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب کا مفاد صرف یہ ہے کہ حکم خداوندی کے خلاف اور مشیت الہیہ کے منافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قعطا کوئی حکم یا اختیار نہیں ہے اور عطاء الہی سے کل اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاصل و ثابت ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت و بعد نبوت کبار صغائر سے معصوم اور تمام قبائح بشری سے مبرا ہیں۔

بعض افعال بلاغیہ و احکام شرعیہ میں نسیان و سہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغرض تشریح و افادہ علم بارادہ الہیہ واقع ہوا ہے اور صدور نسیان منافی شان نبوت نہیں۔ بلکہ نسیان اور ذہول ازل ناسوت بوجہ استغراق اور لاہوت از قسم کمال ہے جیسا کہ ارباب بصیرت پر ظاہر ہے۔ البتہ ان کے نسیان و سہو کو اپنے سہو نسیان پر قیاس کرنا اور نقصد تحقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔

تمام عوارض بشری یعنی مرض تکلیف بدنی وغیرہ جو انبیاء کو لاحق ہوتے ہیں۔ ظاہر صورت میں مشابہ عوارض عامہ افراد انسانی ہیں اور بلحاظ نتائج و آثار باطنی و حکمت خفیہ الہیہ تمام افراد بشر کے عوارض سے برتر اور اعلیٰ ہیں۔ مثلاً تکالیف امراض انبیاء علیہم السلام سے نتیجہ اظہار احوال عالیہ مثل صبر، رضا، شکر، تسلیم، توکل، تفویض، دعا، تضرع اور مواعظ امت بوقت لحوق عوارض کذا یہ بہ تحصیل امور مذکورہ ہے۔ پس اپنے عوارض پر عوارض انبیاء کو خیال کرنا سخت بے ادبی اور بعض حالات میں جبکہ تحقیر لازم آئے کفر ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مغیبات پر مطلع ہونا آیات و احادیث سے بالتواتر ثابت ہے مگر اس کا منکر قطعیات ہے۔

عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ منورہ میں مثل دیگر انبیاء علیہم السلام زندہ بحیات حقیقہ دنیاویہ جسمانیہ ہیں۔ خاکساران امت کے

حالات پر مطلع اور عاشقانِ درگاہ پر ہر لحظہ متوجہ ہیں اور احوال امت پر حاضر و ناظر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں جسمانی اور بشریت کے ساتھ نہیں بلکہ بایں طور کہ عالم کا ذرہ ذرہ روحانیت و نورانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ ہے اور روحانیت و نورانیت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ و التحیۃ کے لئے قرب اور بعد مکان یکساں ہے۔ کیونکہ عالم خلق زمان و مکان کی قید سے مقید ہوتا ہے۔ لیکن عالم امران قیود سے پاک ہے۔ لہذا بیک وقت متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا اور ایک ہی وقت میں دور دراز مقامات کثیرہ اور امکانہ متعددہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل اللہ کا دیکھنا اور اور کھلم کھلا بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا دلائل کی روشنی میں ایسا امر ہے جس کا انکار مسلمان نہیں کر سکتا۔

معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم:

حق سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا محبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو معجزات ذیل وغیرہ سے مخصوص فرمایا۔

1- معراج جسمانی بحالت بیداری حرم شریف سے بیت المقدس کی طرف اور امامت انبیاء کرام اور سیرساوات و آیات کبریٰ و جنت و نار وغیرہ۔

2- اپنا جمال پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشتم ظاہر دکھایا۔

3- شق القمر۔

4- ستون مسجد شریف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں گریہ وزاری کرنا۔

5- احجار و اشجار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنا اور تصدیق نبوت کرنا۔

6- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے شریفہ سے پانی جاری ہونا اور ایک پیالہ پانی سے لشکر کا سیراب ہونا۔

7- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قلیل طعام کا اس قدر بڑھنا کہ ہزار ہا آدمی سیر ہو جائیں۔

8- بکری مذبحہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا۔

9- مذکورہ معجزات و دیگر خوارق مثل احیائے اموات جو احادیث سے ثابت ہیں بلا تاویل حق و نفس الامری ہیں۔

تمام معجزات سے اعلیٰ و اقویٰ و دوام قرآن شریف ہے جس کے مقابلے سے تمام مخلوقات عاجز ہیں قرآن مجید کی ترکیب لفظی و محاسن معنوی و اخبار غیبیہ تمام معجز ہیں۔

حضور مظہر اللہ الاتم سر اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کئی قسم کی ہوئی ہے علاوہ وحی ملکی کے دو قسم اور بھی ہیں جن میں فرشتے کو دخل نہیں اور توسط نہیں ہوتا۔

قرآن شریف کلام نفسی قدیم ازلی وابدی ہے جو بلہاس اصوات و حروف جلوہ گر ہے اور بذریعہ ملک مقرب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور محبوب حق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

احادیث شریفہ قدسیہ ثابتہ باسناد صحیح وہ وحی ہے جو کبھی بتوسط کذائی اور کبھی بلا توسط کذائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئی۔

ہر دو وحی سے جو معنی قطعاً ثابت ہیں حق ہیں، کوئی شبہ نہیں اس میں سے بعد علم و ثبوت قطعی کسی بات کا انکار اگرچہ در پردہ تاویل باطل ہو کفر ہے اور ظنی الثبوت یا ظنی الدلائل کا بلا وجہ انکار بدعت یا فسق ہے۔
امور ذیل کو حق ماننا ضروری ہے

ایمان بالغیب:

- 1- حشر اجساد و اعادہ روح انہیں اجساد میں جو دنیا میں تھے۔
- 2- جزائے اعمال خیر و سزائے شر
- 3- صراط دوزخ پر ممتد ہے جس پر سب کو چلنا ہوگا۔ اہل نارکت کر دوزخ میں گر پڑیں گے اور اہل جنت اس پر گزر کر جنت میں پہنچیں گے۔
- 4- حساب اعمال، میزان، جنت، نار اور یہ دونوں آخر الذکر اس وقت موجود ہیں جن کی جگہ اللہ جل شانہ جانتا ہے۔
- 5- شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق اہل کبار حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے جہاں آیات شریفہ میں نفی شفاعت واقع ہے وہ مقید بعدم رضا و اجازت ہے۔
- 6- عذاب القبر کافر کو اور نعمت و راحت مومن کو قبر میں حق ہے اور عصات مومنین مشیت الہی پر ہیں جسے چاہے عذاب فرمائے جسے چاہے نعمت بخشے۔
- 7- سوال منکر نکیر جس سے خدا چاہے ضرور ہونے والا ہے۔
- 8- تمام رسل و انبیاء من جانب اللہ حق ہیں۔
- 9- ملائکہ اجسام نوری ہیں عوارض ظلماتی سے منزہ ہیں اور ان کے مقامات آسمان پر مقرر ہیں پوری کائنات سماوی و ارضی پر مقرر ہیں اور بعض کتابت اعمال بنی آدم پر اور بعض عباد کے دل پر خطرات صالحہ القا کرنے پر اور بعض حفاظت بنی آدم پر ان کے مقابلے میں مخلوقات الہی میں سے شیاطین ہیں جو خیالات فاسد کا القاء کرتے ہیں۔
- 10- قرب قیامت میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور قتل و جال و قتل خناریر کرنا اور پھر دین واحد کا ہو جانا سب حق ہے۔
- 11- کل الانبیاء علیہم السلام اور جو صحیفے ان پر نازل ہوئے سب حق ہیں۔

صحابہ کرام و اہل بیت عظام:

بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولیاء و الخلفاء امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل الامت ہیں۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ و مولیٰ المؤمنین حضرت علی الرضی رضی اللہ عنہ بترتیب خلافت افضل ہیں۔

عشرہ مبشرہ خاتون جنت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ و ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و حضرت امام حسن و

حضرت امام حسین اصحاب بدر و بیعت الرضوان رضی اللہ عنہم طاہر مطہر قطعی جنتی بلکہ گنہگار ان امت کے تکیہ گاہ ہیں۔
(الف) تمام صحابہ خصوصاً اہل بدر و اہل بیعت الرضوان نجوم ہدایت ہیں۔ ان میں سے کسی پر طعن کرنا رفض و استتقاق دخول نار ہے۔ ان سب کی تعظیم و توقیر امت پر فرض اہم ہے۔ یہ سب اولیائے امت کے سردار اور باعث شرف صحبت ولایت خاصہ پر ممتاز ہیں۔ ان سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں اور ہر ایک ولی سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔

(ب) فتح مکہ کے بعد جو صحابہ رضی اللہ عنہم مشرف باسلام ہوئے ان سے وہ صحابہ کرام افضل ہیں جو فتح مکہ سے قبل مشرف باسلام ہوئے لیکن ان دونوں قسم کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے حسنی یعنی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا رفض و گمراہی ہے۔

حقیقت ولایت یہ ہے کہ علاوہ ایمان و اعمال صالحہ کے یقین و عرفان اسماء و صفات ذات حق بطور وجدان برکت ذکر و تلاوت صوم صلوٰۃ و وہی طور پر جب عبد صالح کو عطا ہوتا ہے تو مقامات ذیل اس کے سینہ پاک میں پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاق تواضع توبہ زہد صبر شکر خوف رجا توکل رضا فقر محبت پس وہ ماسوائے حق سے معرض ہوتا ہے اور خوف و رجائے الہی سے مستغرق۔ ان حالات میں ان مقامات کے آثار افراد بشر پر دو طور سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خوارق و تربیت مریدین پس ان کو وحی و عصمت کے بجائے (جو کہ خواص انبیاء میں سے ہے) کشف صادق اور گناہوں سے محفوظیت عطا ہوتی ہے۔ جس کے باعث وارث انبیاء و خلیفہ برحق قرار پاتا ہے اور لفظ ولی کا مصداق ہوتا ہے۔

عبادات بدنی (نوافل) و مالی کا ثواب ہدیہ ارواح مقدسہ انبیاء و اولیاء و دیگر اہل ایمان کو کرنا ثابت ہے اور اس کا مطلق انکار بدعت ہے۔

بالخصوص بروز وفات اولیاء کرام ثواب طعام و کلام سے فاتحہ رسائی باعث نزول برکات اور تازگی ایمان ہے۔ تاریخ معین پر مزارات اولیاء پر مسلمانوں کی حاضری و بزرگوں کی روحانیت سے فیض حاصل کرنا جائز بلکہ مستحسن ہے۔ بشرطیکہ وہاں فسق و فجور اور معصیت نہ ہو۔

تیجہ چالیسواں، گیارہویں شریف کے کھانے یا شیرینی وغیرہ پر فاتحہ پڑھنا سب جائز اور باعث اجر و ثواب ہے ان کاموں کو بدعت قرار دینا اور ان کاموں کے کرنے والے سنی مسلمان کو بدعتی قرار دینا سخت گناہ او بدعت و ضلالت ہے۔

(عقائد اہلسنت (بتغیر قلیل) از حضرت مولانا حشمت علی خاں علیہ الرحمۃ (المتوفی 3 جولائی 1960)

یاد رہے! تیجہ دسواں چالیسواں جو بھی میت کے لئے ایصال ثواب کریں جائز ہے۔ ہاں ایک بات ضرور پیش نظر رہے کہ میت کے ورثاء سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت بھی ہو اگر کچھ ورثاء بالغ ہوں اور بخوشی اجازت بھی دیں تو بھی ان کے حصے سے صدقات و خیرات کرنا جائز ہے۔ قل خوانی یا چہلم جو بھی خیرات کریں ورثاء بالغ ہی کریں اور اپنے حصے سے کریں۔ نابالغوں کا حصہ شامل نہ کریں۔

ذات و صفات میں یکتا ذات

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنی ذات میں صفات میں تنہا ہے بے مثال ہے لا جواب ہے اسی کے لئے ہر کمال ہے اسی کی ذات مقدس کو ہر خوبی شایان ہے وہ رب قدیر ہر کمال و خوبی کا جامع ہے وہی پروردگار عالم ہے وہی خالق و مالک کائنات ہے تمام اشیاء اسی کے کرم سے موجود ہوئیں وہی سب کا بنانے والا ہے اس کے ارادے سے ہی ہر شئی نے وجود پایا جب تک وہ چاہے گا زندگی کی رونقیں اشیاء کائنات میں جلوہ گر رہیں گی۔ جب وہ چاہے گا اشیاء عالم کو موت کی آغوش سے ہم دوش کر دے گا انہیں وجود کی دنیا سے نکال کر دوبار ”پردہ عدم“ میں ڈال دے گا۔

اسی کے زیر قدرت کائنات کا نظام بغیر کسی فساد کے رواں دواں ہے وہی احکم الحاکمین ہے وہ ذات پاک ہے وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے وہ اکیلا ہے۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے نہ ہی کوئی اس کا ہمسر و برابر ہے وہی ذات لائق حمد و ثناء ہے۔ تمام جہانوں میں وہی اس بات کا سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اسی کو معبود مانا جائے اسی کو مسجود مانا جائے اسی کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکا یا جائے اسی سے امداد و استعانت طلب کی جائے اسی سے اپنے دکھ درد کا اظہار کر کے اپنے غموں کا مداوا کیا جائے۔ کیونکہ بس! وہی ہے جو اپنے مظلوم بندوں کی صداؤں کو سنتا ہے۔ پھر اپنے فضل و کرم سے مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے رہائی دیتا ہے اس کی بارگاہ سے کوئی بندہ نامراد و ناکام نہیں لوٹتا جو بھی اس کا بندہ اسے پکارے تو یہ مالک و مولیٰ اپنی شان کے موافق اسے جواب عنایت فرماتا ہے۔ یعنی کسی کی آہ و بکا فریاد و گریہ و زاری اس کی بارگاہ سے ناشاد و نامقبول نہیں ہوتی۔

وہ سب کی سنتا ہے جانتا ہے اور پھر اپنے خزانہ غیب سے سائلوں کو نوازتا ہے نامرادوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے حسرت زدوں کی حسرتوں کو پورا کرتا ہے ہر ایک سائل کو عطا فرماتا ہے کوئی سائل محرم بارگاہ نہیں رہتا ہر کوئی اس بارگاہ عالی کی حاضری کے بعد شاد و آباد رہتا ہے۔ وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے لیکن ”مظلوم کی صدا“ و ”دعا“ کو تمام دعاؤں و صداؤں سے قبل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے یعنی مظلوم کی دعا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کے مابین کوئی شئی حائل نہیں ہوتی۔ یہ شکتہ دل دنیا کی نظروں میں اگر چہ وقعت نہیں رکھتے مگر اس رب کریم کی بارگاہ میں یہ بہت عظمت والے ہیں۔

تو بچا بچا کہ نہ رکھ اے تیرا آئینہ وہ ہے آئینہ جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

(اقبال)

اور ان مظلوموں شکتہ دلوں کی صداؤں اور دعاؤں کے مابین کوئی شئی حائل ہو بھی تو کیسے ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے: ”انا عند المنكسرة القلوب“ یعنی میں ان ٹوٹے ہوئے شکتہ دلوں کے قریب ہی جلوہ فرما ہوں۔
تو اب حجاب ہو تو کیسا ہو دوری ہو تو کیسی ہو یہاں دعا نکلی وہاں اس رب کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جا پہنچی کیوں کہ:
جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

الانواع في علم التوحيد وهذا البحث خاص الاهل العلم

قال العلامة عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المتوفى 660هـ) اعلم ان حقوق الله تعالى على القلوب منقسمة الى المقاصد والوسائل، فاما المقاصد فكمعرفة ذات الله وصفاته، واما الوسائل فكمعرفة احكامه تعالى، فانما ليست مقصودة لعينها وانما هي مقصود للعلمل بها. وكذلك الاحوال قسمان:

احدهما: مقصود لنفسه، كالمهابة والاجلال والثاني، وسيلة الى غيره، كالخوف والرجاء فان الخوف وازع عن لمخالفات لما رتب عليها من العقوبات، والرجاء حاث على تكثير الطاعات لما رتب عليها من المثوبات. والحقوق المتعلقة بالقلوب انواع:

النوع الاول:

معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وما يحب لها من الازلية والابدية والاحدية وانتفاء الجوهرية والعرضية والجسمية والاستغناء عن للموجب، والموجد والتوحيد بذلك عن سائر الذوات.

النوع الثاني:

معرفة حياته سبحانه وتعالى بالازلية والابدية والاحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتوحيد بذلك عن غيرها من الحياة.

النوع الثالث:

معرفة علمه سبحانه وتعالى بالازلية والابدية والاحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل، والتوحيد بذلك عن سائر العلوم.

النوع الرابع:

معرفة ارادته سبحانه وتعالى بالازلية والاحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتعلق بما تتعلق به القدرة، والتوحيد بذلك عن سائر الارادات.

النوع الخامس:

معرفة قدرة على الممكنات بالازلية والابدية والاحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتوحيد بذلك عن سائر القدر.

النوع السادس:

معرفة سمعه سبحانه وتعالى بالازلية والابدية والاحدية والاستغناء عن للموجب وللوجد والتعلق بكل مسموع قديم او حادث والتوحيد بذلك عن سائر الاسماع .

النوع السابع:

معرفة بصره سبحانه وتعالى بالازلية والابدية والاحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتعلق بكل موجود قديم او حادث والتوحيد بذلك عن سائر الابصار .

النوع الثامن:

معرفة كلامه سبحانه وتعالى بالازلية والابدية والاحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتعلق بجميع ما يتعلق به العلم والتوحيد بذلك عن سائر انواع الكلام .

فهذه الصفات كلها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى وهي منقسمة الى ما يتعلق بغيره كشفا كالعلم والسمع والبصر والى ما يتعلق بغيره تائيرا كالقدرة والى ما يتعلق بغيره من غير كشف ولا تائير كالكلام واعمها تعلقا العلم والكلام واخصها السمع ومتوسطها البصر .

النوع التاسع:

معرفة ما يجب سلبه عن ذاته سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص ومن كل صفة لا كمال فيها ولا نقصان .

النوع العاشر:

معرفة تفرد بالالهية والاختراع

النوع الحادى عشر:

معرفة صفاته الفعلية الصادرة عن قدرته الخارجة عن ذاته وهي منقسمة الى الجواهر والاعراض والاعراض انواع كالخفض والرفع والعطاء والمنع والاعزاز والاذلال والاعناء والافتار والاماتة والاحياء والاعادة والافناء .

النوع الثانى عشر:

معرفة سبحانه وتعالى ماله ان يفعله وان لا يفعله كار سال الرسل وانزل الكتب والكتليف والجزاء بالثواب والعقاب .

النوع الثالث عشر:

معرفة حسن افعاله كلها خيرا وشرها نفعيا وضرها قليلها وكثيرها وانه لاحق لاحد عليه ولا ملجا منه الا اليه له حق وليس عليه حق ومهما فال فهو الحسن الجميل وكذلك لو عذب اهل السموات والارض واقصاهم لكان عادلا فى ذلك كله ولو اثابهم وادناهم لكان منعمنا مفضلا بذلك كله .

النوع الرابع عشر:

اعتقاد جميع ما ذكرناه في حق العامة' وهو قائم مقام العلم في حق الخاصة لما في تعرف ذلك من المشقة الظاهرة للعامة فان الله تعالى كلف الخاصة ان يعرفوه بالازلية والابدية' والتفرد بالالهية' وانه حي عالم' قادر' مرید' سمیع' بصیر' متكلم صادق في اخباره و كلف العامة ان يعتقدوا ذلك بغير وقوفهم على ادلة معرفته امنهم باعتقاد ذلك .

النوع الخامس عشر:

من الحقوق المتعلقة بالقلوب

تصديق القلب بجميع ما ذكرناه من الاعتقاد والعرفان .

النوع السادس عشر:

النظر في تعرف ذلك او اعتقاده وهو واجب وجوب الوسائل تمت العقيدة بحمد الله وحسن توفيقه

(الانواع في علم التوحيد)

واني لا استطيع كنه صفاته:

اللهم مالك الملك' رب الارواح والملائكة' بديع السموات والارض' علم الغيب والشهادة غافر الذنب وقابل التوب' شديد القوة والحوول' واسع المغفرة وباسط الرزق عظيم الفضل ذا طول' لا اله غيرك' ولا غير الاخيرك' الا لك متواليه خارجه عن حد البيان' ونعمانك متكاثرة زائدة من عد الانسان' انوار حكمتك الباهرة زاهرة من المصنوعات' واثار سلطنتك القاهرة ظاهرة من المقدورات' تخشع من خشيتك قلوب الانبياء والمرسلين' وتقشعر من رهبتك جلود الاصفياء والمخلصين' يخضع دون سرادقات عزتك جباه العظماء ولا يحوم حول خيام' عظمتك اذهان الفضلاء' العالم كله ناطق بايات وجوبك والخلق باسره مستغرق في بحار جودك' ظهر كمال صفاتك فوق ظهور الاشياء' وبطن كنه ذاتك عن معرفة الاولياء' تقدست ذاتك العظمى عن الاشباه والامثال' وتنزهت صفاتك العلياء عن الحدوث والزوال' طمس نورك ابصار العارفين' وازاح كبرياتك افكار العالمين' عقد قدرتك لا تنحل بانامل الانظار' وعجائب صنعتك لا تصل الى كنهها الافكار' خلقتنا فكيف يجد المخلوق الى اکتناه الخالق سبيلا وجعلتنا فاني يكون المجعول على ادراك الجاعل دليلا' قصرت الفهوم عن وصف كمالك' وارتعدت العقول بملاحظة جلالك' تعالى شانك العظيم' وارتفع سلطانك القديم' ربنا انك فانض الجود وغاية المقصود' والموجود قبل كل موجود' والباقي بعد كل محدود' لك الحقيقة حقا وما سواك المجاز' ومنك البداية يقينا واليك المجاز' لا احصى ثناء ذاتك وصفاتك' ولنعم قال عبد من عبادك .

واني لا استطيع كنه صفاته ولوان اعضای جميعا تکلم

الاسئلة البهية في حياة المسلم

- ۱ من أين ياخذ المسلم عقيدته؟ يأخذها من كتاب الله ﷻ وصحيح سنة نبيه ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، وذلك وفق فهم الصحابة والسلف الصالح ﷺ.
- ۲ إذا اختلفنا فإلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى الشرع الحنيف، والحكم في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، حيث قال الله ﷻ: ﴿فَإِنْ لَنْتَزِعْنَهُ مِنْ شَيْءٍ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وقال النبي ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ».
- ۳ من هي الفرقة الناجية يوم القيامة؟ قال ﷺ: «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِثْلَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِثْلَةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ﷺ».
- ۴ ما شروط قبول العمل الصالح؟ شروطه: (۱) الإيمان بالله وتوحيده: فلا يقبل العمل من مشرك (۲) الإخلاص: بأن يُبتغى به وجه الله (۳) متابعة النبي ﷺ فيه: بأن يكون وفق ما جاء به فلا يعبد الله إلا بما شرع، فإن فقد أحدها فالعمل مردود، قال ﷺ: ﴿وَقَدِمْنَا أَنْ مَاعْمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبْكَ مَنشُورًا﴾.
- ۵ ماهي مراتب الدين؟ مراتبه ثلاثة: الإسلام، والإيمان، والإحسان.
- ۶ ما الإسلام، وكم أركانه؟ الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأركانه: خمسة ذكرها النبي ﷺ في قوله: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِينَ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.
- ۷ ما الإيمان، وكم أركانه؟ الإيمان: هو اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال ﷺ: ﴿لِيَزِدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾، وقال ﷺ: «الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ» مسلم.
- ويؤكد ما يلحظه المسلم في نفسه من نشاط في الطاعة عند مواسم الخيرات، وفتور فيها عند فعل المعاصي، قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتِ﴾. وأركانه: ستة، ذكرها النبي ﷺ في قوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ» البخاري.
- ۸ ما معنى (لا إله إلا الله)؟ نفي استحقاق العبادة لغير الله، وإثباتها لله وحده ﷻ.
- ۹ هل الله معنا؟ نعم، الله ﷻ معنا بعلمه وسمعته وبصره وحفظه وإحاطته وقدرته ومشيتته، وأما ذاته فلا تخالط ذرات المخلوقين، ولا يحيط به شيء من المخلوقات.
- ۱۰ هل يمكن أن يرى الله ﷻ بالعين؟ اتفق المسلمون على أن الله لا يرى في الدنيا، وأن المؤمنين يرون الله في الآخرة في المحشر وفي الجنة، قال ﷻ: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ نَاصِرَةٌ ﴿١٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾.
- ۱۱ ما فائدة معرفة أسماء الله وصفاته؟ إن أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته ﷻ، فإذا عرفه الناس عبده حق عبادته، قال ﷻ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾، فذكر الله بسعة الرحمة موجب للرجاء، وبشدة النعمة موجب للخوف، وبالتفرد بالإنعام موجب للشكر والمقصود بالتعبد بأسماء الله وصفاته: تحقيق العلم بها وفقه معانيها والعمل بها؛ فمن أسماء الله وصفاته ما يُحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والعدل، ومنها ما يُذم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتعجب والتكبر، وللعبد صفات يُحمد عليها ويؤمر بها كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك، ولكن يمتنع اتصاف الرب ﷻ بها، وأحب الخلق إلى الله من اتصف بالصفات التي

یحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرها.

۱۲ ما هي أسماء الله الحسنى؟ يقول الله ﷻ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» من عباده واحصاؤها يتضمن ثلاثة أمور: (۱) إحصاء ألفاظها وعددها. (۲) فهم معانيها ومدلولها والإيمان به، فإذا قال: (الحَكِيمُ) سَلَّمَ جميع أوامره لله، لأن جميعها على مقتضى حكمته. (۳) دعاء الله بها؛ فيقول مثلًا: يَا سَيِّئِرَ اسْتُرْنِي، يَا كَرِيمُ أَكْرِمْ نِي قَالَ ﷻ: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ومن تتبع آيات القرآن والسنة الصحيحة استطاع جمعها؛ وهي:

الاسم	الوصف
الذَّالِمُ	هو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو المألوه المعبود الذي يُذَلُّ له ويخضع، ويُركع ويُسجد، وله تُصْرَفُ جميع أنواع العبادة.
الرَّحْمَنُ	اسم دال على سعة رحمته وشمولها لجميع المخلوقات وهو اسم يختص بالله تعالى، ولا يجوز إطلاقه على غيره.
الرَّحِيمُ	الراحم الغافر للمؤمنين في الدنيا والآخرة فقد هداهم لعبادته، وهو يكرمهم في الآخرة بجنته.
العَفْوُ	هو الذي يسحو الذنب ويتجاوز عنه ولا يعاقب عليه مع استحقاق العبد للعقاب.
العَفُورُ	هو الذي يستر الذنب على صاحبه ولا يفضحه ولا يعاقبه عليه.
العَفَّارُ	اسم دال على كثرة مغفرة الله لعبده المذنب المستغفر.
الرَّؤُوفُ	من الرأفة وهي أبلغ الرحمة وأشدّها. وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا؛ ولبعضهم في الآخرة؛ وهم أولياؤه المؤمنون.
العَلِيمُ	هو الذي لا يُعْجَلُ العقوبة على عباده مع قدرته على عقابهم، بل يصفح عنهم ويغفر لهم إذا استغفروا.
القَوَّابُ	هو الذي يوفق من يشاء من عباده للتوبة، ويقبلها منهم.
السَّتِيرُ	هو الذي يستر على عبده، فلا يفضحه بين خلقه، وهو المحب من عبده أن يستر على نفسه وعلى غيره وأن يستر عورته كذلك.
القَنِيُّ	هو الذي لا يحتاج أبدًا إلى أحد من خلقه لكماله المطلق وكمال صفاته، والخلق كلهم محتاجون إليه وفقراء لإنعامه وإعانتة.
الكَرِيمُ	كثير الخير عظيم المن والعطاء، يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال، ويعفو عن الذنوب ويستر العيوب.
الْأَكْرَمُ	البالغ في الكرم غايته، فلا مثل له في ذلك أبدًا، فالخير كله منه؛ يجازي المؤمنين بفضله، ويمهل المعرضين ويحاسبهم بعدله.
الْوَهَّابُ	كثير المواهب يعطي بلا عوض، ويهب بلا غرض، وينعم بغير سؤال.
الجَوَادُ	كثير العطايا والتفضل على خلقه، وللمؤمنين به من جوده وفضله النصيب الأكبر.
الْوَدُودُ	يحب أولياءه ويتودد إليهم بالمغفرة والتَّعْمُّقِ فيرضى عنهم ويتقبل أعمالهم، ويجعل لهم القبول في الأرض.
المُعْطِي	يعطي من شاء من خلقه ما شاء من خزائنه، ولأولياؤه النصيب الأوفر من عطائه، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه وصورته.
الْوَاسِعُ	واسع الصفات فلا يحصي أحد الثناء عليه، واسع العظمة والسلطان، واسع المغفرة والرحمة، واسع الفضل والإحسان.
العَظِيمُ	هو الذي له كمال الحسن في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وأحسن كل شيء خلقه، وأحسن إلى خلقه.
الرَّزَاقُ	هو الذي يرزق الخلائق أجمعين، وقد أرزاقهم قبل خلق العالمين، وتكفل باستكمالها ولو بعد حين.
الرِّزَاقُ	اسم دال على كثرة رزقه لخلق، فهو سبحانه يرزقهم قبل أن يسألوه، بل ويرزقهم حتى مع معصيتهم له.
اللطيف	هو العالم بدقائق الأمور، فلا تخفى عليه خافية، يوصل الخير والنفع إلى عباده من وجوه خفية من حيث لم يحتسبوا.
الخبير	هو الذي أحاط علمه ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها.
الفتاح	هو الذي يفتح من خزائنه ملكه ورحمته ورزقه ما يشاء على ما اقتضته حكمته وعلمه.
العليم	هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، والماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء.
البر	هو الواسع في إحسانه لخلق، يعطي فلا يستطيع أحدٌ عدُّ نعمته أو إحصاءها، وهو الصادق في وعده؛ الذي يتجاوز عن عبده وينصره ويحميه، ويقبل القليل منه وينميه.
الحكيم	هو الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل.
العَظِيمُ	هو الذي يحكم بين خلقه بالعدل، فلا يظلم أحدًا منهم، وهو الذي أنزل كتابه العزيز ليكون حكمًا بين الناس.
الشَّاكِرُ	يسدح من أطاعه ويثني عليه، ويجازي على العمل وإن قل، ويقابل شكر النعم بزيادتها في الدنيا، والأجر في الآخرة.
الشُّكُورُ	يزكو عنده القليل من أعمال العباد ويضاعف لهم الجزاء، فشكر الله للعبد إجابته على الشكر وقبول الطاعة منه.
الجَمِيلُ	هو الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جمالًا مطلقًا، وكل جمال في خلقه فهو منه سبحانه وتعالى.
المَجِيدُ	هو الذي له الفخر والكرم والعز والرفعة في السماوات والأرض.
الوَلِيُّ	هو القائم على أمور خلقه وتدبير ملكه وهو النصير والظهير لأوليائه.

۳۳	هو المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو الذي يُحمد في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وهو المستحق للحمد والثناء على الإطلاق لأنه الموصوف بكل كمال.
۳۴	هو الرب والملك والسيد والناصر والمعين لأوليائه.
۳۵	هو الذي يؤيد بنصره من يشاء، فلا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله.
۳۶	هو الذي أحاط سمعه بكل سرٍّ ونجوى، وكل جهر وإعلان، بل بكل الأصوات مهما دقت أو عظمت، وهو المجيب لمن دعاه.
۳۷	هو الذي أحاط بصره بجميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة، مهما خفيت أو ظهرت، ومهما دقت أو عظمت.
۳۸	هو الرقيب على خلقه، شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط، وشهد بصدق المؤمنين إذا وحدوه، وشهد لرسله وملائكته.
۳۹	هو المُطلع على خلقه، والمحصي عليهم أعمالهم، فلا تفوته لفظة ناظر، ولا فلتة خاطر.
۴۰	هو كثير الرفق في أفعاله، فهو سبحانه يتأنى ويتدرج في خلقه وأمره، ويعامل عباده بالرفق واللين فلا يكلفهم مالا يطيقون، وهو سبحانه يحب عبده الرفيق.
۴۱	قريب بعلمه وقدرته لعامة خلقه، ويلطفه ونصرته لعباده المؤمنين، وهو مع ذلك فوق عرشه لا تغالط ذاته المخلوقات.
۴۲	هو الذي يجيب دعوة الداعين وسؤال السائلين على ما يقتضيه علمه وحكمته.
۴۳	هو الذي خلق الأقوات والأرزاق وتكفل بإيصالها إلى الخلق، وهو حفيظ عليها وعلى أعمال العباد بلا نقصان.
۴۴	هو الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وللمؤمنين به النصيب الأكبر من كفايته. وهو سبحانه المحاسب لهم على ما عملوه في الدنيا.
۴۵	المصدق للرسول وأتباعهم بشهادته لهم بالصدق، وبما يقبضه من البراهين على صدقهم، وكل أمن في الدنيا والآخرة فهو واهبه، وهو المؤمن للمؤمنين به من أن يظلمهم أو يعدبهم أو يصيبهم بفرع يوم القيامة.
۴۶	كثير العطاء، عظيم الإنعام، وافر الإحسان على خلقه.
۴۷	هو الطاهر والسالم من كل عيب ونقص، وهو الذي له الحسن والكمال المطلق، وهو كثير الخير على خلقه ولا يقبل سبحانه من الأعمال والصدقات إلا ما كان طيباً حلالاً خالصاً له.
۴۸	الذي يشفي القلوب والأبدان من أمراضها، وليس في يد العباد إلا ما يسره الله لهم من السراء، أما الشفاء فبيده وحده.
۴۹	هو الذي يحفظ ويصون عباده المؤمنين وأعمالهم بفضله، ويرعى ويحفظ المخلوقات كلها بقدرته.
۵۰	هو الذي توكل بالعالمين وتولاهم خلقاً وتدبيراً، فهو المتوكل بخلقهم إيجاباً وأمداداً، وهو وكيل المؤمنين الذين فوضوا إليه الأمر قبل سعيهم، واستعانوا به حال كسبهم، وحمدوه بالشكر بعد توفيقهم، ورضوا بالمقسوم بعد ابتلائهم.
۵۱	اسم يدل على كثرة ما يخلق الله تعالى، فهو سبحانه لم يزل يخلق ولا يزال على هذا الوصف العظيم.
۵۲	هو المبدع لجميع الخلق على غير مثال سابق.
۵۳	هو الذي أوجد ما قدره وقرر من المخلوقات وأخرجها إلى الوجود.
۵۴	هو الذي جعل خلقه على الصورة التي اختارها لهم بمقتضى حكمته وعلمه ورحمته.
۵۵	هو الذي يربي خلقه بنعمه وينشئهم شيئاً فشيئاً، وهو الذي يربي أوليائه بما يرضيهم، وهو الخالق المالك السيد الرب العظيم.
۵۶	هو الذي له العظمة المطلقة في ذاته وأسمائه وصفاته، ولذلك وجب على الخلق أن يعظموه ويحلموه، وأن يعظموه وأمره ونهيه.
۵۷	هو المذل عباده، والمستعبد خلقه، العالي عليهم، وهو الغالب الذي خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه، والقهار مبالغة من القاهر.
۵۸	القائم على الشيء والحافظ له والشاهد عليه والمحيط به.
۵۹	له جميع معاني العزة، عزة القوة فلا غالب له، وعزة الامتناع فلا يحتاج إلى أحد، وعزة القهر والغلبة فلا يتحرك شيء إلا بإذنه.
۶۰	الذي له المشيئة النافذة، وكل المخلوقات مقهورة له، خاضعة لعظمته، منقادة لحكمه، وهو يجبر الكبير، ويفي الفقير، ويبسر العسير، ويجبر المريض والمصاب.
۶۱	هو العظيم، المتعظم عن كل سوء ونقص، والمتعالي عن ظلم عباده، القاهر لعنائه خلقه، وهو المتصف بالكبرياء، ومن نازعه في ذلك قصه وعذبه.
۶۲	هو العظيم في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله، وليس شيء أكبر منه، بل كل ما سواه صغير أمام جلاله وعظمته.
۶۳	هو الذي له الحياة الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فحياه الله حياه كرم وبر وجود وجلال.
۶۴	هو الذي له الحياة الدائمة الكاملة، والبقاء الذي لا أول له ولا آخر، وكل حياة في الوجود فإنما هي منه.
۶۵	هو القائم بنفسه. المستغني عن خلقه، وهو المقيم لكل من في السموات والأرض فهم المفتقرون إليه.
۶۶	هو الباقي بعد فناء الخلق، وجميع الأشياء ترجع إليه بعد فناء أهلها، وكل ما في أيدينا هو أمانة ستعود يوماً إلى مالكها.
۶۷	هو الذي أنقاد الخلق له وخضعوا، المجازي عباده على ما فعلوه، فإن كان محرراً ضاعفه، وإن كان شراً عاقب عليه أو عفا عنه.

۶۹	الملك	الذي له الأمر والنهي والغلبة، وهو المتصرف في خلقه بأمره وفعله؛ فليس لأحد عليه فضل في قيام ملكه أو رعايته.
۷۰	المالك	مُلكُهُ عن أصالة واستحقاق، فالمُلك له عند إنشاء الخلق فلم يكن لأحد سواه، والمالك له في المنتهى عند زوال الخلق.
۷۱	المليك	اسم يدل على صفة الملك المطلق؛ فهو أبلغ من الملك.
۷۲	العيب	هو المنزه عن كل عيب ونقص، لأنه الذي له أوصاف الكمال والجمال المطلق.
۷۳	القلوس	المنزه والمطهر عن كل نقص وعيب بأي وجه من الوجوه، وذلك لأنه المنفرد بأوصاف الكمال المطلق فلا تضرب له الأمثال.
۷۴	السلام	السالم من كل نقص وعيب، في ذاته، أو في صفاته وأسمائه وأفعاله. وكل سلام في الدنيا والآخرة فهو منه ﷻ .
۷۵	الحق	هو الذي لا شك فيه ولا ريب، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في ألوهيته؛ فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه.
۷۶	المبين	هو البين أمره في وحدانيته وحكمته ورحمته، وهو الموضع لعباده سبيل الرشاد ليتبعوه، وسبيل الفرواية ليحذروها.
۷۷	القوي	هو الذي له القدرة المطلقة مع كمال المشيئة.
۷۸	المتين	هو الشديد في قوته وقدرته. ولا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب.
۷۹	القادر	هو القادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو المقدر لكل شيء.
۸۰	القدير	هو بمعنى القادر إلا أن القدير أبلغ في المدح لله تعالى.
۸۱	المقتدر	اسم يدل على المبالغة في قدرة الله تعالى في تنفيذ المقادير وخلقها على ما جاء في سابق علم الله.
۸۲	العلي	هو الذي له علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. وكل شيء تحت قهره وسلطانه، ولا شيء فوقه أبداً.
۸۳	الأعلى	هو الذي ذل أمام علوه كل شيء، وليس فوقه شيء على الإطلاق، بل كل شيء تحته، وتحت قهره وسلطانه.
۸۴	المتعال	هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها وفق مشيئته وحكمته، ويقدم بعض خلقه على بعضه وفق علمه وفضله.
۸۵	المقدم	هو الذي ينزل الأشياء منازلها يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء بحكمته، ويؤخر العذاب عن عباده لعلهم يتوبوا ويرجعوا إليه.
۸۶	المؤخر	هو الذي يزيد من قيمة الأشياء ومكانتها وتأثيرها أو ينقصها فتغفل الأشياء أو ترخص على ما تقتضيه حكمته وعلمه.
۸۷	المصغر	هو الذي يقبض الأرواح، وهو الذي يسك الأرزاق عن من شاء من خلقه بحكمته وقدرته ابتلاء لهم.
۸۸	القابض	هو الذي يوسع الرزق لعباده بجلوده ورحمته، فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه حكمته، ويبسط يديه بالتوبة لمن أساء.
۸۹	الباسط	هو الذي لم يكن شيء قبله، بل كل المخلوقات إنما حدثت بخلقها لها، وأما هو سبحانه فلا ابتداء لوجوده.
۹۰	الأول	هو الذي ليس بعده شيء، فهو الباقي، وكل من على الأرض قائم، ثم مرجعهم إليه، ولا انتهاء لوجوده عز وجل.
۹۱	الآخر	هو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه، وهو القاهر لكل شيء والمحيط به.
۹۲	الظاهر	هو الذي ليس دونه شيء؛ فهو القريب المحيط المحتجب عن أبصار الخلق في الدنيا.
۹۳	الباطن	هو الواحد الذي لا شريك له، والفرد الذي لا نظير له.
۹۴	الوثر	هو الذي له السيادة المطلقة على خلقه فهو مالكهم وربهم، وهم خلقه وعبده.
۹۵	السيد	هو السيد الذي كمل في سؤده، وهو الذي تقصده الخلائق في حوائجها كلها لعظيم افتقارهم إليه، فهو الذي يطعم ولا يطعم.
۹۶	الصمد	هو الذي توحد وتفرد بجميع الكمالات المطلقة لا يشاركه فيها مشارك، وليس كمثل شيء. وهذا يستوجب إفراد
۹۷	الواحد	وحده بالعبادة فلا شريك له.
۹۸	الأحد	هو المعبود بحق، المستحق للعبادة وحده دون غيره.
۹۹	الإله	

۱۳ ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ أسماء الله وصفاته تشترك في جواز (الاستعاذة) و(الحلف) بها. لكن بينهما فروق أهمها: الأول: جواز (التعبيد) و(الدعاء) بأسماء الله دون صفاته. فالتعبيد مثل التسمي بـ (عبد الكريم) أما اسم (عبد الكرم) فلا يجوز. والدعاء مثل: (يا كريم)، ولا يجوز (يا كرم الله). الثاني: أن أسماء الله يشتق منها صفات: كـ (الرحمن) يشتق منه صفة (الرحمة)، أما صفاته فلا يشتق منها أسماء لم ترد: فصفة (الاستواء) لا يشتق منها اسم (المستوي). الثالث: أن أفعال الله لا يشتق منها أسماء لم ترد: فمن أفعال الله (الغضب) فلا يقال: من أسماء الله (الغاضب)، أما صفاته فاشتق من أفعاله: فصفة (الغضب) نسبتها لله لأن الغضب من أفعاله.

شهادة: أن لا إله إلا الله

هذه الكلمة مشتملة على ركنين: الأول: (لا إله)، وهو نفي الألوهية الحقيقية عن غير الله. الثاني: (إلا الله)، وهو إثبات الألوهية الحقيقية له ﷻ وحده. قال ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأبيه وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿١٥﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾. فلا يكفي عبادة الله بل لا بد أن تكون له وحده، ولا يصح التوحيد إلا بالجمع بين إفراد الله بالتوحيد وبين البراءة من الشرك وأهله. ورؤي في الأثر أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فهل كل من قالها استحق أن تفتح له الجنة؟ قيل لوهب بن منبه رضي الله عنه: أليس (لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتحت لك، وإلا لم يفتح لك. وجاء عن نبينا رضي الله عنه أحاديث كثيرة تبين بمجموعها أسنان هذا المفتاح؛ كقوله رضي الله عنه: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً...»، «مستيقناً بها قلبه...»، «يقولها حقاً من قلبه...» وغيرها، حيث علقت هذه الأحاديث وغيرها دخول الجنة على العلم بمعناها، والشبات عليها حتى الممات، والخضوع لدلوها، وغير ذلك. ومن مجموع الأدلة استنبط العلماء شروطاً لا بد من توافرها، مع انتفاء الموانع، حتى تكون كلمة (لا إله إلا الله) مفتاحاً للجنة وتنفع صاحبها، وهذه الشروط هي أسنان المفتاح، وهي:

العلم	اليقين	القبول	الانقياد	الصبر	المحبة	الافتقار
حيث أن لكل كلمة معنى، فيجب أن تعلم معنى (لا إله إلا الله) علماً منافياً للجهل، فهي: تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها له ﷻ، أي: لا معبود بحق إلا الله، قال ﷻ: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ وقال <small>رضي الله عنه</small> : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» مسلم	وهو أن تستيقن جازماً بمدلولها، لأنها لا تقبل شكاً، ولا ظناً، ولا تردداً، ولا ارتياباً بل يجب أن تقوم على اليقين القاطم الجازم، فقد قال ﷻ يصف المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ﴾، فلا يكفي مجرد التلفظ بها، بل لا بد من يقين القلب، فإن لم يحصل فهو النفاق المحض، قال <small>رضي الله عنه</small> : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بهما عبداً غير شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة» مسلم.	فإذا علمت وتيقنت، فينبغي أن يكون لهذا العلم اليقيني أثره، وذلك بقبول ما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان، فمن رد دعوة التوحيد ولم يقبلها كان كافراً، سواء كان الرد بسبب الكبر أو العناد أو الحسد، وقد قال الله ﷻ عن الكفار الذين ردوها استكباراً: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾	للتوحيد انقياداً تاماً، وهذا هو المحك الحقيقي، والمظهر العملي للإيمان، ويتحقق هذا بالعمل بما شرعه الله ﷻ وترك ما نهى عنه، كما قال ﷻ: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ وهذا هو تمام الانقياد.	في قولها صدقاً منافياً للكذب فإن من قالها بلسانه فقط وقلبه مكذب لها فهو منافق، والدليل قوله ﷻ في ذمه للمنافقين: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾.	فيحب المؤمن هذه الكلمة، ويجب العمل بمقتضاها، ويجب أهلها العاملين بها، وعلامة حسبه العبد ربّه هو تقديم محاب الله وإن خالفت هواه، وموالاته من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله <small>رضي الله عنه</small> ، واقتفاء أثره، وقبول هداه.	بأن لا يريد بقولها إلا وجه الله تعالى قال ﷻ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً﴾ وقال <small>رضي الله عنه</small> : «فإن الله قد حرم على الثائر من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» البخاري.

شہادۃ: اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ

الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ يُبْتَلَى وَيُسْأَلُ عَنْ ثَلَاثِ أَسْئَلَةٍ، إِنْ أَجَابَ عَنْهَا نَجَا، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ عَنْهَا هَلَكَ، وَمِنْ تِلْكَ الْأَسْئَلَةِ: مَنْ نَبِيِّكَ؟ لَا يُجِيبُ عَنْهُ إِلَّا مَنْ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي دُنْيَاهُ لِتَحْقِيقِ شُرُوطِهَا، وَثَبَّتَهُ وَأَهْمَهُ فِي قَبْرِهِ، فَفَنَعْتَهُ فِي آخِرَاهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:

طاعة النبي محمد ﷺ فيما أمر	حيث أمرنا الله بطاعته فقال ﷺ: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ومطلق دخول الجنة متعلق بمطلق طاعته، فقد قال ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَنْ يَأْتِي؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، الْبَخَارِيُّ، وَمَنْ كَانَ مَحِبًّا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَدُّ أَنْ يَطِيعَهُ، لِأَنَّ الطَّاعَةَ ثَمَرَةُ الْمَحَبَّةِ، وَهِيَ الدَّلِيلُ الْعَمَلِيُّ لِلْمَحَبَّةِ.
تصديقه فيما أخبر	فمن كذَّبَ شيئاً قد صح عن النبي ﷺ لشهوة أو لهوى، فقد كذَّبَ الله ورسوله، لأن النبي ﷺ معصوم عن الخطأ والكذب، قال ﷺ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾.
اجتناب انهي عنه	بدءاً بأعظم الذنوب وهو الشرك، ومروراً بالكبائر والموبقات، وانتهاءً بالصغائر والمكروهات، وعلى قدر محبة المسلم لنبيه ﷺ يزيد إيمانه، وإذا زاد إيمانه حَبَّبَ اللهُ إِلَيْهِ الصَّالِحَاتِ، وَكَرَّهَ إِلَيْهِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ.
الْأَيْعَبِدُ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ	فالأصل في العبادة الحُظْرُ، فلا يجوز أن يُعبد الله إلا بما جاء عن الرسول. قال ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَرَدٌ»، مسلم، أي: مردود عليه.

فائدة: اعلم أن محبة النبي ﷺ ومحبة ما جاء به واجبة فمن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به كفر، ولا يكفي مجرد المحبة بل لا بد أن يكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك، فإنه من أحب شيئاً أثره وأثر موافقته، فالصادق في حب النبي ﷺ من تظهر عليه علامة ذلك بالافتداء به واتباع سنته قولاً وفعلاً وطاعة أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بأدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، فإن الطاعة والاتباع هي ثمرة المحبة وبدونهما لا تصدق المحبة. ولمحبة النبي ﷺ علامات كثيرة منها: كثرة ذكره والصلاة عليه فمن أحب شيئاً أكثر ذكره، ومنها: الشوق إلى لقائه فكل حبيب يشاق للقاء حبيبه، ومنها: تعظيمه وتوقيره عند ذكره، قال إسحاق بن إبراهيم: كان أصحاب النبي ﷺ بعده لا يذكرونه إلا خَشَعُوا واقشعرت جلودهم وبكوا، ومنها: بغض من أبغضه ﷺ ومعاداة من عاداه ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه من أصحاب البدع والمنافقين، ومنها: محبة من أحبَّه النبي ﷺ من آل بيته وزوجاته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم أو سبهم، ومنها: الإقتداء بأخلاقه الكريمة حيث كان أكرم الناس خلقاً حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله ﷺ القرآن. أي أنه ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن.

أما صفات النبي ﷺ: فقد كان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وكان أكرم الناس وأجودهم وأجود ما يكون في رمضان، وكان أنصح الخلق للخلق، وأحلم الناس، فلم ينتقم لنفسه قط، وكان أشد الناس بأساً في أمر الله، وكان أشد الناس تواضعاً في وقاره، وأشد حياءً من العذراء في خدرها، وخير الناس لأهله، وأرحم الخلق بالخلق.... وغيرها كثير.

اللهم صل صلوة كاملة وسلم سلاماتاً ما على سيدنا ومولانا محمد ن الذي تنحل به العقد وتنفرح به الكرب وتقضى به الوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل لمحمة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله.

نغماتِ توحید و رسالت

اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

دل مرا گدگداتی رہی آرزو . آنکھیں پھر پھر کے کرتی رہیں جستجو
عرشِ فرشِ ڈھونڈ آیا میں تجھ کو تو نکلا اقربِ جبلِ وریدِ گلو
اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

طائرانِ چمن کی چمکِ وحدہ نغمہٴ بلبل کا ہے لا شریک لہ
قمریوں کا ترانہ ہے لا غیرہ زمزمہٴ طوطی کا ھوۃ ھوۃ
اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

شاہدانِ چمن نے لبِ آبِ جو آبِ گل سے نہا کر کے تازہ وضو
حلقہٴ ذکرِ گل کے کیا رُو برو اور لگانے لگے دمبدم ضربِ ہو
اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

مجھ کو ڈر ڈر پھراتی رہی آرزو ٹوٹے پائے طلب، تھک رہی جستجو
ڈھونڈتا میں پھرا کو کبکو چار سو تھارگِ جاں سے نزدیکِ تر دل میں تو
اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

یا الہی! دکھا ہم کو وہ دن بھی تو آبِ زمزم سے کر کے حرم میں وضو
باادب شوق سے پیٹھ کر قبلہ رُو مل کے ہم سب کہیں یک زباں ہو بہو
اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

کون تھا جس نے سبحانی فرما دیا اور ما اعظمِ شانی کس نے کہا
بایزید اور بسطام میں کون تھا کب انا الحق تھی منصور کی گفتگو
اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

میں نے مانا کہ حامدِ گنہگار ہے معصیتِ کیش ہے اور خطا کار ہے
میرے مولا مگر تو تو غفار ہے کہتی رحمت ہے مجرم سے لا تقنطوا
اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

(حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی)

پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ

اے گل خوش ادا تجھ میں ہے کس کی بو کس نے بخشا ترے حسن کو یہ نمو
جلوہ گر تجھ میں ہے کون سا خوب رو ہنس کے بولا مجھے اس نے دی آبرو

اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

سوزِ آفت ہے، پروانے کے دل میں تو جلوہ دربا۔ شمع محفل میں تو
غنیہ و گل میں؛ بلبل کے نغمے میں تو تو ہے پردے میں۔ جلوہ ترا چار سو

اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

جذبہ عاشق نیم بسمل میں تو شوخی حسن لیلیٰ ہے محمل میں تو
مہر انور میں تو، ماہِ کامل میں تو تو ہے پردے میں جلوہ ترا چار سو

اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

بارشیں رحمتوں کی برسنے لگیں دل کی مرجھائی کلیاں مہکنے لگیں
لغزشیں وجدِ مستانہ کرنے لگیں سن لیا جب ترا حکم لا تقنطوا

اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

چشمِ دل کھول کر اے خطیبِ حزیں دیکھ دل میں ترے ہے وہی جاگزیں
جس سے رہتی ہے تسکینِ قلبِ حزیں پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ

اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ

(مولانا قاری غلام محی الدین قادری پہلی بھیتی)

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ
جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

سارے عالم کو ہے تری ہی جستجو جن و انس ملک کو تری آرزو
یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو
علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

عرش و فرش، زمان و جہت اے خدا
ذرہ ذرہ کی آنکھوں میں تو ہی ضیا
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

نغمہ سنجان گلشن میں چرچا تیرا
اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

طائرانِ جنان میں تری گفتگو
کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

بلبل خوش نوا طوطی خوش گلو
قمری خوش لقابولی حق سرہ
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

صبح دم کر کے شبنم سے غسل وضو
ورد کرتے ہیں تسبیح سبحانہ
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

ہر نہال چمن ذکر سے ہے نہال
ذکر سے چوک کر ہوتا ہے وہ نڈھال
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

وہ بھی تسبیح سے رکھتا ہے اشتعال
پھر بھی گویائے تسبیح ہے اس کا حال
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

ہے زبان جہاں حمد باری میں لال
تابہ امکان ہم رکھتے ہیں قیل وقال
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

تو منزہ مکاں سے مبرا سو
تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے عفو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ ترا
قطرہ قطرہ کی تو ہی تو ہے آبرو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

چپچپے ذکر حق کے ہیں صبح و مسا
سب کا مطلب ہے واحد کہ واحد ہے تو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو
اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

زمزمہ خواں ہیں گاتے ہیں نعمات ہو
فاختہ خوش ادا نے کہا دوست تو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

شاہدانِ چمن بستہ صف روبرو
ہو ولا غیرہ ہو ولا غیرہ
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

ذکر حق ہی اسے کرتا ہے مالا مال
ذکر ہی ہے ترا اس کی وجہ نمو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

جو نہیں رکھتا منہ اور لسانِ مقال
اس کی حالی زباں کہتی ہے تو ہی تو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

دم کوئی حمد کا مارے کس کی مجال
اس کو مقبول فرما لے رحمت سے تو
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

اس کی غفلت سے اس پر وبال نکال
ہم ہوں ذاکر ترے اور مذکور تو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

دل میں تو آنکھوں میں تو ہو، لب پہ ہو تو
اور گایا کریں پے بہ پے سو بسو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

عادتِ بد بدل اور کرنیک خو
جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

رخت اعمال ہے چاک فرما رفو
یہ ہے ارشادِ قرآن لا تقنطوا

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

ہم ہوں اور حور و غلاماں لب آب جو
دیکھیں اعداء تو رہ جائیں پی کر لہو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

فتنوں کی دھول سے پاک ہو اب عرب
تیری رحمت کے بادل گھریں چار سو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو
اور گر بجلیاں قہر کی برعدو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

دیکھے نوری تو کیوں کر نہ یاد آئے تو
من رآنی رأی الحق ہے حق سو بہ سو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدہ
نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو

اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

جو ہے غافل ترے ذکر سے ذالجلال
قعر غفلت سے ہم کو خدایا نکال

بھر دے اُلفت کی نئے سے ہمارا سبو
کیف میں وجد کرتے پھریں کو بکو

شوق و توفیق نیکی کی دے ہم کو تو
عفو فرما خطائیں مری اے عفو

بدہوں مولا مرے مجھ کو کر دے نکو
تری رحمت کی امید ہے اے عفو

داخلِ خلد ہم کو جو فرمائے تو
اور جامِ طہور اور مینا سبو

ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلیں میرے رب
ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب

رحم فرما خدایا حرم پاک ہو
دفع فرما وہاں پر ہے بے باک جو

نور کی تیرے ہیں اک جھلک خوب رو
ان کا سرور ہے مظہر ترا ہو بہو

خوابِ نوری میں آئیں جو نورِ خدا
جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیاء

الا للہ، الا للہ

طیبہ ہی سے ملتی ہے سب کو، وہ راہِ صوابِ الا للہ پائے گا وہی کل روزِ جزاء، دراصل ثوابِ الا للہ ہر تارِ نفس سے سنتا ہوں، سن سن کے میں سر کو دھنتا ہوں جو محوِ جمالِ حق کر دے، مستی سے مرے دل کو بھر دے بے ہوش ہوئے موسیٰ جس سے، ایمن کے جلائے پر جس نے اپنی ہی نہیں ہے مجھ کو خبر، کیسی خیر اور کیسا شر جب چشمِ حقیقت سے دیکھا، کچھ غور ذرا جب دل میں کیا اس مرشدِ برحق کے قرباں، یہ جان و دل، دین و ایماں کیوں عمرِ حبیب یہ کھوتا ہے بربادِ عبث تو ہوتا ہے

جو سیدھی گئی ہے بے کھٹکے تاباں جنابِ الا للہ پڑھتا ہے زبانِ دل سے جو ہر لمحہ کتابِ الا للہ اک درد بھری دکھش لے میں، آوازِ ربابِ الا للہ مجھ کو بھی پلا دے اے ساقی، وہ جامِ شرابِ الا للہ مجھ کو بھی دکھا دے وہ جلوہ سر کا کے ربابِ الا للہ ہوں روزِ ازل سے میں ایسا، مدہوش شرابِ الا للہ آیا یہ نظر مجھ کو گویا، میں خود ہوں حجابِ الا للہ جس نے کہ مجھے تلقین کیا، یہ نُپ لبابِ الا للہ آکٹب حسن و عشق میں چل پڑھ درسِ کتابِ الا للہ

(سید حبیب احمد)

لا الہ الا للہ

دیکھتے کیا ہو اہل صفا	آ پہنچے محبوب خدا	یعنی ہو چکے جلوہ نما	شاہِ حق شاہِ بطحا
لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	امنا برسول اللہ
خلق کے رہبر آ پہنچے	حق کے پیبر آ پہنچے	شافعِ محشر آ پہنچے	ساقی کوثر آ پہنچے
لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	امنا برسول اللہ
ساقی کوثر بہر خدا	آج تو ایسا جامِ پلا	اٹھ جائے پردہ غفلت کا	رند کہیں میخانے میں آ
لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	امنا برسول اللہ
جسم سے ہو جب جان جدا	ہم کو ملے فردوس میں جا	لوٹیں ہم قربت کا مزا	تیری اے محبوبِ خدا
لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	امنا برسول اللہ
جنت کی جب سیر کریں	ہم بھی سب ہمراہ چلیں	حوضِ کوثر پر آئیں	ہاتھ سے آپ کے جامِ پئیں
لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	امنا برسول اللہ
جو اس بزم میں شامل ہو	اس پر رحمت نازل ہو	جس گھر میں یہ محفل ہو	برکت ایزد داخل ہو
لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	لا الہ الا للہ	امنا برسول اللہ

بخش میرے ماں باپ کو بھی اور مرے احباب کو بھی اہل کرم اصحاب کو بھی اہل وفا ارباب کو بھی
 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
 داویر کل اے ربّ علا صدقہ ذاتِ محمد کا جاری رہے تارویزِ جزا
 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
 امنّا برسول اللہ امنّا برسول اللہ

لا موجود الا اللہ

لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لیس کمثلہ شیء
 لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ اس سے بن ہے وہ نہیں بن
 لا الہ الا اللہ امنّا برسول اللہ لیس الہادی الا ہو
 ہے موجود حقیقی وہ ہے مشہود حقیقی وہ ہے مقصود حقیقی وہ
 لا الہ الا اللہ امنّا برسول اللہ ہو اللہ ہو اللہ
 ہو ہو ہو ہو ہو تیرا جلوہ ہے ہر سو
 لا الہ الا اللہ حق ہو حق ہو حق ہو حق
 غیر نہیں تیرا مطلق لا الہ الا اللہ
 انت الہادی انت الحق قلب مبطل سن کر شق
 لا الہ الا اللہ امنّا برسول اللہ
 ربی حبیبی جل جلالہ ما فی قلبی الا اللہ
 حق حق حق اللہ اللہ رب رب سبحان اللہ
 لا الہ الا اللہ امنّا برسول اللہ
 حکم وعدل علی و عظیم دیان و رحمن و رحیم
 قدوس و حنان و حلیم فلاح و منان و کریم
 لیس لہ کفوا احد البصر، اسمع دیکھ اور سن
 امنّا برسول اللہ کہتا ہے یہ بن ہو
 لیس سواک یا من ہو امنّا برسول اللہ
 بن کو بنایا ہے اس نے بن کو اگایا ہے اس نے
 لا الہ الا اللہ اللہ الہ و رب واحد
 جس کا والد ہے نہ ولد لا الہ الا اللہ
 ایک حقیقی وہ احد پاک ہے وہ از صورت وحد
 لا الہ الا اللہ امنّا برسول اللہ
 منعم و حق و وسیع صیر جامع مانع ضار کبیر
 لا الہ الا اللہ امنّا برسول اللہ
 مبدی میل و حفیظ و مجید و رب لطیف، وود و وحید
 اور شہید و حمید و رشید

لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
والی ولی متعالی حکیم	وہاب ورزاق وعلیم	وہ ہے جواد و عفو عطف	ازلی ابدی ہے معروف	ملک ملک خلد و نعیم	یصرف عنہا جمیع صروف
ملک یوم دین و جمیم	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
وہ ہے عزیز و مجیب و شکور	وہ ہے بدیع و قریب و صبور	وہ ہے محیط انس و جاں	وہ ہے محیط جسم و جاں	وہ ہے معین و رقیب ضرور	وہ ہے محیط کل ازماں
وہ ہے متین و حسیب و غفور	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
وہ ہے مقدم اور غفار	وہ ہے مہمکن اور جبار	وہ ہے مقیت و معز و منزل	وہ ہے حفیظ و نصیر اے دل	وہ ہے باسط اور ستار	وہ ہے محیط کون و مکاں
وہ ہے مؤخر اور قہار	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
نور۔ مصور اور ظاہر	باطن اول اور آخر	مادے اس نے پیدا کئے	اس کے امر کن سے بنے	مومن، متکبر، قاہر	امر حق سے قطع ہوئے
واجد ماجد اور قادر	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
تو اب و معنی و ہادی	مقط۔ محی و میت غنی	قابض و باعث خالق ہے	حافظ و وارث و رازق ہے	مقتدر و واسع، محیی	غیر از نطق بھی ناطق ہے
مغتنم و قیوم و قوی	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
ساجھی نہ اس کا کوئی شریک	وہی ملک ہے وہی ملیک	ایک نہ ہوتا گر اللہ	کیسے رہتے ارض و سما	دیکھے سنے پست و باریک	کس لئے یہ اس سے ملتا
پاک مکاں سے اور نزدیک	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
وہ ہے منزہ شرکت سے	پاک سکون و حرکت سے	سوتا پیتا کھاتا نہیں	اس کا رشتہ نانا نہیں	کرتا ہے سب کو قدرت سے	اس کے جو رو جاتا نہیں
کام ہیں اسکے حکمت سے	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
ایک وجود حقیقی تھا	غیر سراسر فانی تھا	جہل و ظلم و کذب و زنا	خواری میخواری سرقہ	بر ملا کہہ اٹھے عقلا	لا ریب اس نے کفر بکا
حق ہیں نظر سے جب دیکھا	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
باقی وجود حقیقت تھا	باقی یکسر منفی ہوا	روح نہیں وہ اور نہ جسیم	مقسم ہے نہ قسم و تقسیم		

کہہ اٹھے بعضے عرفاء	مافی جیتی الا اللہ	اس کے صفات و اسما قدیم	یہ ہے اپنا دین تویم
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
ہر ہر ذرہ ہر قطرہ	شاہد ہے ہر ہر لمحہ	ہے وہ زمان و جہات سے پاک	ہے وہ ذمیم صفات سے پاک
اس کی قدرت و صنعت کا	یکتائی و وحدت کا	وہ سارے محالات سے پاک	وہ ہے سب حالات سے پاک
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
اللہ واحد و یکتا ہے	ایک خدا بس تنہا ہے	پاک ہے عیبوں سے مولیٰ	عیب کو اس سے علاقہ کیا
کوئی نہ اس کا ہمتا ہے	ایک ہی سب کی سنتا ہے	عیب کا یہ حصہ نہ ہوا	ہو متعلق قدرت کا
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
روشن ہے یہ جیسے دن	اس کا تلوٹ ناممکن	آنکھ میں وہ ہے سر میں وہ	دل میں وہ ہے جگر میں وہ
واقع کہتا ہے مومن	اور پھر بنتا ہے مومن	سمع میں وہ ہے بصر میں وہ	طبع میں وہ ہے فکر میں وہ
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
من اصدق منہ قیلا	من اصدق منہ حدیثا	نور میں وہ ہے نظر میں وہ	شمس میں وہ ہے قمر میں وہ
کیسا کیسا رب نے کہا	منکر ایک نہیں سنتا	ابر میں وہ ہے کہر میں وہ	کوہ میں وہ ہے حجر میں وہ
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
صدق رب جب واجب ہے	کذب محال اے غائب ہے	پروانہ میں پر میں وہ	شمع میں وہ ہے شرر میں وہ
جمع و وضد کب صائب ہے	عقل کہاں تری غائب ہے	داء و دواء و اثر میں وہ	نفع میں وہ ہے ضرر میں وہ
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
اس کا کھائے اور منکر	اور غرائے او کافر	تخم میں وہ ہے شجر میں وہ	شاخ میں وہ ہے ثمر میں وہ
کون ہے دیتا او غادر	اس کے سوا ہاں او فاجر	ماء میں وہ ہے، مدر میں وہ	بحر میں وہ ہے بر میں وہ
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
میں ہوں بندہ وہ مولیٰ	کون ہے اپنا اس کے سوا	سوز میں وہ ہے ساز میں وہ	ناز میں وہ انداز میں وہ
میں ہوں اس کا وہ میرا	جس نے بنایا اور پالا	حسن بت طناز میں وہ	عشق کے راز و نیاز میں وہ
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
چار عناصر پیدا کئے	جو سب آپس میں ضد تھے	تو میں وہ ہے میں میں وہ	جان میں وہ ہے تن میں وہ
ایک گرہ میں کیسے بندھے	یکجا کیسے جمع ہوئے	آبادی میں بن میں وہ	سر میں وہ ہے عین میں وہ
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ

جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ
افغانِ بلبل میں وہ نعماتِ قلقل میں وہ
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
قرب و بقا و وصل میں وہ بعد و فراق و فصل میں وہ
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
فرض میں وہ ہے نفل میں وہ اصل میں وہ ہے نفل میں وہ
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
فتح و ضم و جر میں وہ پیش وزیر و زبر میں وہ
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
این و آن و گر میں وہ اس میں اس میں ہر میں وہ
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
بلبل طوطی پروانہ ہر اک اس کا دیوانہ
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا نہ
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
شمع و گل، سرور و مرآت ہیں مرآت لحاظِ ذات
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
ورنہ ہیہات و ہیہات پوچھتا کون ان کی بات
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ
خود گل کوزہ و کوزہ گر خود کوزہ و خود کوزہ بر
لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

(مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری)

امنا برسول اللہ

خالق کل اے رب العالی شکر ترا کیوں کر ہو ادا
ہم کو وہ محبوب دیا رتبہ جس کا سب سے سوا
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امنا برسول اللہ
کیوں خاموش ہو اہل صفا ہے یہ وقت مسرت کا
یعنی آج ہوئے پیدا شاہِ ہدیٰ محبوبِ خدا
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امنا برسول اللہ

قاسمِ نعمتِ آ پہنچے مالکِ جنتِ آ پہنچے
 والے اُمتِ آ پہنچے رب کی رحمتِ آ پہنچے
 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امنا برسول اللہ
 جن کی خلیلِ دعا مانگیں جن کی مسیحِ بشارت دیں
 جن کی گواہی پتھر دیں جن سے سب دکھ درد کہیں
 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امنا برسول اللہ
 آمنہ بی کو مبارک ہو اور حلیمہ دانی کو
 ہم کو مبارک اور تم کو شاہ کی ساری اُمت کو
 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امنا برسول اللہ
 سالکِ خستہ کی آقا پوری ہو ہر ایک دُعا
 جو اس محفل میں آیا ہو اس پر بھی فضلِ خدا
 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امنا برسول اللہ

(مفتی احمد یار خاں سائیک)

امنا برسول اللہ

اپنے کرم سے رب کریم	ہم پر کیا احسانِ عظیم	موجِ اول بحرِ قدم	موجِ آخر بحرِ کرم
بھیجا ہم میں بفضلِ عمیم	بحرِ کرم کا درِ یتیم	سب سے اعلیٰ اور اعظم	سب سے اولیٰ اور اکرم
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
اپنے مظہرِ اول کو	اپنے حبیبِ اجمل کو	جن کو بنایا اپنے لئے	سب کو بنایا جن کے لئے
پہلے نبیِ افضل کو	پچھلے مرسلِ اکمل کو	کب نہیں دے کے ان سے لئے	پر سب چھوڑے تیرے لئے
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
وہ جنہیں انفس فرمایا	بہتر برترِ اعلیٰ کیا	نور سے اپنے پیدا کیا	نورِ حبیبِ ربِ علا
وہ رتبہ ان کو بخشا	کوئی نہیں جو پا سکتا	پھر اس نور کو حصے کیا	ان سے بنایا ہے جو بنا
لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ	لا الہ الا اللہ	امنا برسول اللہ
ایسی فضیلتیں ان کو دیں	جن کا مثل امکاں میں نہیں	ذات کا اپنی آئینہ	بے مثل و نظیر و بے ہمتا
روحِ روانِ خلد بریں	نخلِ جہاں کے اصل متیں	خلق کیا قبل از اشیاء	اور نبوت کر دی عطا

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

نائب حضرت حق متین شاہنشاہ چرخ وز میں جب حق کو ہوا یہ منظور ہو خود معروف و مذکور جب حق کو ہوا یہ منظور ہو خود معروف و مذکور

والی تخت عرش بریں راحت جان و قلب حزیں امنا برسول اللہ امنا برسول اللہ امنا برسول اللہ امنا برسول اللہ

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

قالب آدم خلق کیا روح در آئی جب دیکھا روح در آئے حکم ہوا پتلے میں ہے نورِ خدا واسطہ یہ اس نور کا تھا سارے فرشتوں نے سجدہ

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

آدم و عالم پیدا ہوئے جو جو اس پر شیدا ہوئے نور سے سارے ہو پیدا ہوئے رب کے وہی گردیدہ ہوئے پاک گروہِ مقدس کا قوم جن سے تھا پیدا

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

لوحِ جبین - ماہِ دئی جب طالع ہوا تو ان کا آدم میں وہ نورِ خدا طالع قسمت اور چمکا جب سجدے کا حکم ہوا اور متکبر نے یہ بکا

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

نورِ خدا کی برکت تھی ندرتِ دولت علم ملی رہنے کو جنت پائی اور آدم ہوئے حق کے نبی اس کو آب و گل سوچھا جس کے سبب وہ حکم ہوا

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

حق نے علمِ اسماء کا دیا وہ ملکہ فرمایا عطا امنا برسول اللہ امنا برسول اللہ امنا برسول اللہ امنا برسول اللہ

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

آدم کو اوج ایسا ملا ان کو خلیفہ حق نے کہا ان پر ان کو دیا غلبہ آدمی اشرف خلق ہوا نام حبیب و نامِ خدا مولیٰ دل کا زنگ چھڑا

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

تاجِ کرامت سر پہ رکھا امنا برسول اللہ دل کو کر دے آئینہ امنا برسول اللہ قلب نوری پائے جلا جس میں چمکے یہ کلمہ

لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ امنا برسول اللہ

کہولا الہ الا اللہ

پڑھ کلمہ پاک شریعتِ دا پھڑ کامل میر طریقے دا جہڑا دے راہِ حقیقت دا
کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ

پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں
 مارے رحمت ربدی جوش میاں
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 کچھ کر لے وقت وہاںدا اے
 ہن بہت تھوڑا دن رہندا اے
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 ایس دم دا کی بھروسہ اے
 جیویں پانی وچ پتاسہ اے
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 تینوں کلیاں گھر تھیں کڈن گے
 وچ جنگل دے جا چھڈن گے
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 اتھے جو آیا مڑ جائے گا
 سب دولت مال لٹائے گا
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 کئی یار پیاریاں یاراں دے
 دلدار اپنے دلداراں دے
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 ایہہ پنجرہ بہت پرانا ایں
 ایس پنچھی نے اڈ جانا ایں
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 ایہہ کلمہ نور و نور میاں
 کرے عیب کفر سب دور میاں
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 ایہو افضل ذکر پہچان دلا
 آیا وچ حدیث بیان دلا
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 ایس کلمے دے راز نیارے نے
 ایس ڈبے بیڑے تارے نے
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 جو شان ہے احمد پیارے دا
 نہیں شان اوہ عالم سارے دا
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 اوہدی دوجک دے وچ شاہی اے
 اوہدی حکم ہمیشہ جاری اے
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 سر صدقے کلمے والے توں
 اُس اُمت دے رکھوالے توں
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 کیوں بیٹھے او خاموش میاں
 جدوں ڈھلدا فوراً لہندا اے
 ایہہ دنیا اک تماشہ اے
 اتے وچ قبر دے دین گے
 پھر مڑ کے کدی نہ آئے گا
 جا لینے وچ مزاراں دے
 جا جنگل ڈیرا لانا ایں
 سوہناں دیا ورد ظہور میاں
 ایہو مطلب خاص قرآن دلا
 سانوں دیا نبی پیارے نے
 نہیں کوئی مثل اوس راج ڈلارے دا
 اوہدی ملک ایہہ خلقت ساری اے
 بنی نوری تاجاں والے توں

سوہنا گنبد سبز سہاوے نی پیا دوروں نظری آوے نی ویکھ عاشق صدقے جاوے نی
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 کی صفت کراں چوہاں یاراں دی اونہاں ربدے فرمان برداراندی جہڑا منکر لائق تاراں دی
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ
 جہڑا چونہہ یاراں دا یار نہیں اوہدا پنچتین نال پیار نہیں اوہدے کلمے دا اعتبار نہیں
 کہولا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ

اللہ اللہ اللہ ہولا الہ الا ہو

اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

بارہ ربیع الاول کو وہ آیا دریتیم ماہ نبوت، مہر رسالت صاحب خلق عظیم
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا، راج دلارا، رحمت کی سرکار
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

بیسین و طہ کملی والا قرآن کی تفسیر حاضر و ناظر، شاہد وقاسم آیا سراج منیر
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

اڈل و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

درد مندوں کی سننے والا بے کس کا غمخوار دکھیا دلوں کا ہے وہ سہارا حامی روز شمار
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

دور بلائیں کرنے والا امت کا غم خوار حافظ و حامی، شافع و نافع رحمت کی سرکار
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

پیاری صورت ہنتا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول نور کا پتلا، چاند سا نکڑا حق کا پیارا رسول
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور
 نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو

بارہ ربیع الاول آیا کیتا کرم کریم

نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
 آمنہ بی بی دی وچہ گودی آیا در یتیم
 اوہ آیا ہر اک دی ویکھو ہتھ ہے جس دے لاج
 نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
 شافع محشر ساقی کوثر ساڈا پاک رسول
 حوراں رل مل آئیاں عرشوں لے جنت دے ہار
 نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
 چڑھدے لہندے وچ دنیا دے ہو یا نور و نور
 بیوہ آتے یتیمیاں تائیں چڑھیاں خوشیاں آن
 نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
 باراں ربیع الاول آیا کیتا کرم کریم
 نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
 مشرق مغرب تے راج ہے جس دانبیاں داسرتاج
 آیا والی دو جگ دا تے اللہ دا مقبول
 نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
 پایا گل وچہ آکھن پیاں تیرے اسیں نثار
 کفر دیاں تاریکیاں جو سن ہو گیاں سب دور
 نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
 آیا بن کے رحمت سوہنا دو جگ دا سلطان

ہردم از ما صد درود و صد سلام

بعد ازیں گویم نعت مصطفیٰ آنکہ عالم یافت از نورش صفا
 استھیں بعد بیان کراں میں صفت نبی دی بھائی
 جس دے نور مبارک پاروں پائی جگ صفائی
 سید الکونین ختم المرسلین آخر آمد بود فخر الاولین
 دو جگ دے سردار بلا شک خاتم کل رسولاں
 آخر آئے فخر اول دے ہادی سب جہولاں
 آں کہ آمد نہ فلک معراج او انبیاؤ و اولیاء محتاج او
 زینہ پاک نبی سرور دا نو آسمان گرامی
 نبی ولی محتاج انہاندے ادبوں کرن غلامی
 شد وجودش رحمتہ للعالمین مسجد او شد ہمہ روئے زمین
 رحمت سب جہانیاں کا رن پاک وجود نبی دا
 ہو گئی مسجد حضرت کا رن سارا طبق زمی دا
 صد ہزاران رحمت جاں آفرین بروی و بر آل پاک طاہرین

لکھ ہزاراں رحمت ربی اوپر نبی ربانے
 آل اصحاباں پاکاں اوپر عالی شان گھرانے
 آن کہ شد یارش ابوبکر و عمر از سر انگشت اوشق شد قمر
 دیکھو عالی شان نبی ﷺ دے جس دم حکم سنایا
 ہو دو ٹکڑے چن آسمانوں جھولی دیوچہ آیا
 آن یکے اورا رفیق غار بود وان دگر لشکر کش ابرار بود
 یار نبی ﷺ دا غار وچالے سی صدیق سہارا
 دو جاشاہ لشکر اسلامی عادل عمر پیارا
 صاحبش بودند عثمان و علی بہرآں گشتند در عالم ولی
 تیجا یار غنی متوالا چوتھا شیر خدائی
 حضرت دے طفیلوں انہاں دو جگ عزت پائی
 آن یکے کان حیا و حلم بود واں دگر باب مدینہ علم بود
 کان حیا و حلم دی آہی شاہ عثمان نورانی
 شہر علم داسی دروازہ صفر شیر حقانی
 آن رسول حق کہ خیر الناس بود عم پاکش حمزہ و عباس بود
 سب جگ نالوں افضل اکرم ہیں نبی ﷺ تہامی
 حمزہ تے عباس انہاندے چاچے پاک گرامی
 ہر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام
 دم دم سو صلوة سلاماں بھیجاں اسیں گناہیں
 حضرت آل صحاباں اوپر ادبوں شام صباہیں

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى الْكَمَانِ وَالْتِمَامِ وَاجْعَلْهُ لِي ذَخْرًا نَافِعًا وَخَيْرًا بَاقِيًا مَا دَامَ اخْتِلَافُ اللَّيَالِي
 وَالْأَيَّامِ . اللّٰهُمَّ احْرَسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَبِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يَرَامُ وَعَافِنِي عَنْ جَمِيعِ الْآلَامِ
 وَالْإِسْقَامِ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ صَلَحَ قَلْبُهُ وَحَسُنَ حَالُهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَرَمَةِ سَيِّدِ الْإِنَامِ ،
 صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْعِظَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ
 الْاَكْرَمِينَ آمِينَ .

دعائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

امام غزالی علیہ الرحمہ کے ایک تلمیذ نے آپ علیہ الرحمہ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے صحیح احادیث سے ماخوذ ایک دعا کی تلقین فرمائی اور اس دعا کو اپنے قیمتی اوقات میں بالخصوص ہر نماز کے بعد کرنے کا حکم دیا۔ بمعہ ترجمہ لکھی جا رہی ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النِّعْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعِصْمَةِ دَوَامِهَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُولِهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُولِهَا وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدَهُ وَمِنَ الْعُمْرِ أَسْعَدَهُ وَمِنَ الْإِحْسَانِ أَتَمَّهُ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَعَمَّهُ وَمِنَ الْفَضْلِ أَعْدَبَهُ وَمِنَ اللَّطْفِ أَقْرَبَهُ . اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ أَحْتِمِ بِالسَّعَادَةِ آجَالَنَا وَحَقِّقِ بِالزِّيَادَةِ آمَالَنا وَأَقِرْ بِالْعَافِيَةِ غُدُونَنَا وَآصِلْنَا وَاجْعَلْ إِلَيَّ رَحْمَتِكَ مَصِيرَنَا وَمَالَنا وَاصْبُ بِسَجَالِ عَفْوِكَ عَلَيَّ ذُنُوبَنَا وَمَنْ عَلَيْنَا بِاصْلَاحِ عُيُوبِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوَى زَادَنَا وَفِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاعْتَمَدْنَا . اللَّهُمَّ تَبَتَّنَا عَلَيَّ نَهْجِ الْإِسْتِقَامَةِ وَأَعِدْنَا فِي الدُّنْيَا مِنْ مُوجِبَاتِ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَفِّفْ عَنَّا ثِقَلَ الْأَوْزَارِ وَارْزُقْنَا عَيْشَةَ الْأَبْرَارِ وَانْكِفْنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْأَشْرَارِ وَاعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَخْوَانِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَمَشَائِخِنَا مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ يَا حَلِيمُ يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينِ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

ترجمہ: اے عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامل نعمت..... دائمی عصمت (یعنی ہمیشہ کی پاکدامنی)..... اور ایسی رحمت کا جو میرے تمام امور و معاملات کو شامل ہو..... اور تجھ سے دائمی خیر و عافیت..... خوشحال زندگی..... سعادتوں سے بھرپور لمبی طویل عمر..... کامل و مکمل احسان..... ہر حال میں انعام و اکرام..... فضل و کرم..... اور ایسا لطف و عطا مانگتا ہوں جو مجھے تیری بارگاہ کے مزید قریب کر دے۔

☆..... اے اللہ عزوجل! ہماری مدد فرما..... ہر نقصان سے محفوظ و مامون فرما..... ہمیں سعادت و عافیت کی موت عطا ہو..... ہماری امیدیں پوری فرما بلکہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دہماری صبح و شام کو عافیت سے ہم کنار فرما..... ہمارا انجام و اختتام اپنی رحمت کی جانب فرما..... ہمارے گناہوں کی سیاہی پر اپنی مغفرت کی بارش برسا دے..... ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما..... تقویٰ و پرہیزگاری ہمارا زادِ راہ بنا دے..... اپنے دین کی سر بلندی کے لئے ہماری ہر کوشش قبول فرما..... تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے..... اور تو ہی ہمارا سہارا ہے۔

☆..... اے اللہ عزوجل! ہمیں راہِ استقامت پر ثابت قدم رکھنا..... روزِ حشر شرمندگی کا باعث بننے والے اعمال سے بچا..... گناہوں کا بوجھ ہلکا فرما..... نیک لوگوں جیسی زندگی عطا فرما..... اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا..... برے لوگوں کے شر سے بچا۔

☆..... اے اللہ عزوجل! ہمیں ہمارے آباؤ اجداد ہماری ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور ہمارے مشائخ عظام و اساتذہ کرام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما..... یا عزیز یا غفار..... یا کریم یا ستار..... یا علیم یا جبار..... یا اللہ یا اللہ یا اللہ!..... برحمتک یا ارحم الراحمین۔

☆..... اے ہر اول سے پہلے!..... اے ہر آخر کے بعد موجود رہنے والے!..... اے طاقت و قوت والے!..... اے مسکینوں پر عنایتیں کرنے والے!..... اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے!..... لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.....

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔

فریاد ہے تجھ سے اے میرے پروردگار: اختتامی دعا

فریاد ہے تجھ سے اے میرے پروردگار! ہمیں جہنم کی آگ سے خلاصی دے دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اے مہربان، اے نہایت رحم کرنے والے، اے صاحب کرم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے صاحب عظمت، اے ازل سے موجود، اے علیم و دانا، اے حلیم و بردباد، اے صاحب حکمت، پاک ہے تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فریاد ہے تجھ سے، اے میرے پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے خلاصی دے دے۔ اے آقاؤں کے آقا، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے درجات کو بلند کرنے والے، اے نیکیوں کے مالک، اے خطاؤں کے بخشنے والے، اے طلب سے بڑھ مطابق عطا کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے آوازوں کے سننے والے، اے پوشیدہ امور کے جاننے والے، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے بہترین بخشنے والے، اے بہترین مدد کرنے والے، اے بہترین فیصلہ کرنے والے، اے بہترین رزق دینے والے، اے بہترین ذمہ دار، اے بہترین توصیف کرنے والے، اے بہترین یاد رکھنے والے، اے بہترین میزبان، اے بہترین احسان کرنے والے، اے وہ جو صاحب عزت و جمال، اے وہ جو صاحب قدرت و کمال، اے وہ جو صاحب حکومت و جلال، اے وہ جو بڑی شان والا اور بلند و بالا، اے وہ جو بوجھل بادلوں کو پیدا کرنے والا ہے، اے وہ جو شدید طاقتوں والا ہے، اے وہ جس کے پاس بہترین ثواب ہے، اے وہ جس کے پاس اُم الکتاب ہے۔

اے اللہ میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے دعا کر رہا ہوں!! اے انتہائی مہربان، اے صاحب احسان، اے جزا دینے والے، اے حاکم مطلق، اے راضی ہو جانے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے پاکیزہ صفات والے، اے معین و مددگار، اے صاحب احسان و بیان، اے وہ جس کی عظمت کے حضور ہر شے سرنگوں ہے، اے وہ جس کی قدرت کے سامنے ہر شے سراپا تسلیم ہے، اے وہ جس کی عزت کے مقابل میں ہر شے مطیع و منقاد ہے، اے وہ جس کی ہیبت کے سبب ہر شے سر جھکائے ہوئے ہے، اے وہ جس کے خوف سے ہر شے اس کی اطاعت و بندگی میں محو ہے، اے وہ جس کے ڈر سے پہاڑ شگافتہ ہو جاتے ہیں، اے وہ جس کے حکم سے آسمان قائم ہیں، اے وہ اس کی اذن سے

زمین برقرار ہے اے وہ کہ وعد اس کی حمد کی تسبیح کر رہی ہے، اے وہ جو اپنی حکومت میں رہنے والوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں ڈھاتا، اے غلطیوں کے درگزر کرنے والے، اے بلاؤں کے دور کرنے والے، اے امیدوں کی آخری منزل، اے عطیات میں فیاضی کرنے والے، اے ہدیہ اور تحائف کے عطا کرنے والے، اے مخلوقات کے روزی رماں، اے تقدیر کا فیصلہ کرنے والے، اے شکوہ و شکایت سننے والے، اے مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنے والے، اے قیدیوں کو آزادی بخشنے والے، اے لائق حمد و ثناء، اے صاحب شان و شوکت، اے بزرگ و عالی مرتبت، اے صاحب عہد و وفا، اے صاحب عفو و رضا، اے صاحب احسان و عطا، اے صاحب فضل و قضا، اے صاحب عزت و بقا، اے صاحب جو و سخا، اے عنایتوں اور نعمتوں کے مالک۔

اے اللہ میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے دعا مانگ رہا ہوں!! اے آفتوں کو روکنے والے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے، اے رفعت عطا کرنے والے، اے ایجاد کرنے والے، اے منفعت بخشش، اے دعاؤں کو سننے والے، اے جمع کرنے والے، اے شفاعت قبول کرنے والے، اے سب کو گھیرے ہوئے، اے غنی اور تو نگر، اے ہر مصنوع کے صانع، اے ہر مخلوق کے خالق، اے ہر ایک کو رزق دینے والے رازق، اے ہر غلام کے مالک، اے ہر مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کرنے والے، اے ہر غمگین کے غم کو زائل کرنے والے، اے قابل رحم پر رحم کرنے والے، اے بے سہارہ کی مدد کرنے والے، اے ہر عیب دار کی پردہ پوشی کرنے والے، اے ہر ٹھکرائے ہوئے کی پناہ گاہ، اے سختیوں کے وقت میرا سہارا، اے مصیبت کے وقت میری امید، اے وحشت کے عالم میں میرے مونس، اے تنہائی کے ہنگامہ میں میرے ہمد، اے نعمتوں کے وقت میرے مالک، اے کرب و اضطراب میں میرے فریاد رس، اے حیرت و استعجاب کے وقت میرے رہنما، فقر و احتیاج کے موقع پر میرے حاجت روا، اے مجبوری کے وقت میری پناہ گاہ، اے خوف کے عالم میں میرے مددگار، اے غیب کے جاننے والے، اے گناہوں کی مغفرت کرنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے ہر مصیبت کے دور کرنے والے، اے دلوں کو منقلب کرنے والے، اے دلوں کا مداوا کرنے والے، اے دلوں کو منور کرنے والے، اے دلوں کے مونس و ہمد، اے دکھ و غم کے دور کرنے والے، اے رنج و الم سے رہائی دینے والے۔

اے اللہ میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں!! اے بزرگ و برتر، اے صاحب جمال، اے ذمہ دار، اے کفالت کرنے والے، اے راہنما، اے ضمانت دینے والے، اے زمانے کو پلٹانے والے، اے لغزشوں سے بچانے والے، اے طاقت دینے والے، اے متحیر افراد کے راہنما، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے نالہ و شیون کرنے والوں کو انصاف دینے والے، اے پناہ چاہنے والوں کو پناہ دینے والے، اے خوف زدہ کو امان دینے والے، اے مومنین کے معین و مددگار، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے عاصیوں کے ملجا و ماویٰ، اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے مضطرب و پریشان حال کی دعا کو قبول کرنے والے، اے سخاوت اور احسان کرنے والے، اے فضل و کرم کرنے

والے، اے امن و امان دینے والے، اے بابرکت اور پاکیزگی کے مالک، اے علم اور بیان کے مالک، اے رحمت اور خوشنودی کے مالک، اے دلیل و برہان کے مالک، اے عظمت اور سلطنت کے مالک، اے مہربانی اور معاونت کرنے والے، اے غفور و درگزر کرنے والے، اے وہ جو ہر شے کا پالنے والا ہے، اے وہ جو ہر شے کا معبود ہے، اے وہ جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اے وہ جو ہر شے کا بنانے والا ہے، اے وہ جو ہر شے سے پہلے موجود تھے، اے وہ جو ہر شے کے بعد باقی رہیں گے، اے وہ جو ہر شے سے بلند و بالا ہیں، اے وہ جو ہر شے کا جاننے والا ہے، اے وہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے وہ جس کے لئے بقا ہے اور ہر شے کے لئے فنا ہے۔

اے اللہ میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے دعا کر رہا ہوں!! اے سلامتی والے اے حفاظت کرنے والے، اے بنانے والے، اے سمجھانے والے، اے واضح کرنے والے، اے آسان کر دینے والے، اے طاقت عطا کرنے والے، اے زینت دینے والے، اے اعلان کرنے والے، اے تقسیم کرنے والے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے ناصر، اے ہمارے محافظ، اے ہمارے رہنما، اے ہمارے مددگار، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے حکیم: تو پاک ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تجھی سے فریاد ہے، ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما اور عذابِ قبر و دوزخ سے نجات دلا۔

اے صاحبِ احسان و عطا، اے صاحبِ الطاف و کرم

اے صاحبِ قوت و جزاء، اے صاحبِ احسان و کرم

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

(دعا گو طالب دعا)

غلامِ حسن قادری

☆☆☆☆☆

Marfat.com